

جدید نظر چابی شدہ کمپیوٹرائزیشن

مَا آتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول خدا جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ

جَامِعِ تَرْمِذِي

مترجم مع مختصر شرح

جلد دوم

از تالیف
امام محمد بن عیسیٰ ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: مولانا فضل احمد صاحب مدظلہم

اڈوکارا، ایم ایس جیل روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دَارُ الْإِشَاعَةِ

کمپیوٹر کتابت و ترجمہ کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

یاہتمام : ذلیل اشرف عثمانی
طباعت : جنوری ۲۰۰۷ء علمی گرافکس
ضخامت : ۶۳۵ صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے اداہہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناہر روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بک اینڈ کتب خانہ خیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
بیت اکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جنگی۔ پشاور

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

ISLAMIC BOOKS CENTRE
119-121, HALLIWELL ROAD
BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68 LITTLE HILFORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 5QA

امریکہ میں ملنے کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFE, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ادارے کے ذریعہ دین اسلام کی نہایت اہم اور مفید کتب کو شائع کرنے کا موقع عطا فرمایا اور تبلیغ و اشاعت کا یہ کام الحمد للہ مسلسل جاری ہے۔

اس ادارے کو اب تک تفسیر، فقہ، سیرت نبوی ﷺ، تصوف، تاریخ جیسے موضوعات پر کتب شائع کرنے کے علاوہ حدیث کی کئی بڑی مستند و مشہور کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جن میں اب تک اس کتاب سے قبل درج ذیل کتب شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔

۱۔ تفہیم البخاری ترجمہ و شرح صحیح بخاری شریف، ۳ جلد کامل۔

۲۔ تجرید بخاری شریف عربی مع اردو ترجمہ۔

۳۔ تقریر بخاری اردو۔

۴۔ ریاض الصالحین عربی مع اردو ترجمہ۔

۵۔ مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف، ۵ جلد۔

۶۔ تنظیم الاشارات اردو شرح مشکوٰۃ، ۲ حصے کامل۔

۳۔ معارف الحدیث ترجمہ و شرح، ۷ حصے کامل۔

زیر نظر کتاب جامع ترمذی مع ترجمہ و حواشی پیش خدمت ہے۔ پہلے بھی اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ فی زمانہ ترجمہ قدیم ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سمجھ میں آنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لئے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی مستند صاحب علم اس کا اردو ترجمہ دور حاضر کے لئے آسان زبان میں کر دے اور جا بجا مشکل مقامات پر تشریحی نوٹ کا بھی اضافہ کر کے اس کی افادیت عام آدمی تک بخوبی پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لئے کافی انتظار و جستجو کے بعد کئی صاحب علم حضرات کے مشورے سے جناب مولانا افضل احمد صاحب (تعارف علیحدہ تحریر ہے) سے درخواست کی گئی۔ کافی پس و پیش اور ادارے کی طرف سے مسلسل

اصرار کے بعد احقر کی فرمائش پر انہوں نے اس کام کا بیڑہ اٹھالیا اور تقریباً ۲ سال کے عرصہ میں یہ کام مکمل ہو سکا ہے۔ اس نسخہ میں ایک تبدیلی یہ بھی کر دی ہے کہ پوری کتاب میں باب نمبر اور حدیث نمبر ڈال دیئے ہیں تاکہ حوالہ دینا اور اسے تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے کتاب کی افادیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے سے طبع شدہ نسخوں میں نہیں ہے۔

حدیث کے کام کی اہمیت اور احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ و حواشی کا مسودہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب محمود اشرف صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے اس کے مختلف مقامات دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور ایک مضمون تحریر فرمایا جو سند کے طور پر کتاب کا حصہ ہے۔

اس کے علاوہ ہمیں کتاب میں شامل کرنے کے لئے ”امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ“ کے مستند و مفصل حالات کی تلاش تھی جو ہمیں جامع ترندی کی مشہور اردو شرح درس ترندی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے تحریر کئے ہوئے مل گئے، وہ بھی بھدشکر یہ یہاں شامل کئے جا رہے ہیں۔

تصحیح کے لئے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاء اللہ توقع یہی ہے کہ اس میں قارئین کو شکایت نہ ہوگی۔ لیکن پھر بھی کوئی غلطی یا خامی محسوس ہو تو ادارے کو مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ فوری دور کیا جائے گا۔

احقر کے والد ماجد محمد رضی عثمانی صاحب مرحوم کی یہ بڑی خواہش تھی کہ صحاح ستہ کی کتب کو جدید ترجمہ و حواشی کے ساتھ شائع کیا جائے اور یہ کام انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شروع کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی خاکہ اور اس کام کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اسی کے مطابق یہ کام اب بحسن و خوبی تیار ہو کر ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ والد صاحب مرحوم کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کر درجات عالیہ پر فائز فرمائے۔ آمین۔

آخر میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

والسلام

ناکارہ خلیل اشرف عثمانی

فہرست عنوانات ترمذی شریف جلد دوم

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۵ | بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے | | ابواب الزہد |
| ۲۵ | زہد کی تفسیر | ۱۳ | نیک اعمال میں جلدی کرنا |
| ۲۷ | گزارے کے لائق روزی پر صبر کرنا | ۱۵ | موت کو یاد کرنا |
| ۲۸ | فقر کی فضیلت | ۱۶ | اللہ سے ملاقات کے خواہشمند کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ |
| ۲۹ | فقراء مہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے | ۱۶ | آنحضرت ﷺ کا امت کو خوف دلانا |
| ۳۰ | آنحضرت ﷺ اور گھر والوں کا رہن سہن | ۱۶ | خوف خدا سے رونے کی فضیلت |
| ۳۲ | صحابہ کا رہن سہن | ۱۷ | آنحضرت ﷺ کا فرمانا جو کچھ میں جانتا ہوں |
| ۳۶ | غناء درحقیقت دل سے ہوتا ہے | ۱۷ | لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کرنا |
| ۳۶ | مال لینے کے متعلق | ۱۸ | کم گوئی کی فضیلت |
| ۳۸ | زیادہ کھانے کی ممانعت | ۱۹ | اللہ کے نزدیک دنیا کی ذلت |
| ۳۸ | ریا کاری اور شہرت کے متعلق | ۲۰ | دنیا مومن کے لئے جیل اور کافر کے لئے جنت ہے |
| ۴۱ | آدمی اس کے ساتھ ہوگا جسے محبوب رکھے گا | ۲۰ | دنیا کی مثال چار شخصوں کی سی ہے |
| ۴۲ | اللہ تعالیٰ سے حسن ظن | ۲۱ | دنیا کی محبت اور اس کے لئے غمگین ہونا |
| ۴۲ | نیکی اور بدی کے متعلق | ۲۲ | مؤمن کے لئے عمر طویل |
| ۴۳ | اللہ کے لئے محبت کرنا | ۲۳ | امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ ستر سال ہوگی |
| ۴۳ | اگر کسی سے محبت کی جائے تو اسے بتا دیا جائے | ۲۳ | اوقات کا چھوٹا ہونا اور کم امیدی |
| ۴۳ | مدح اور مدح کرنے والوں کے لئے متعلق | ۲۳ | قصر اہل کا بیان |
| ۴۵ | مؤمن کے لئے محبت | ۲۴ | اس امت کا فتنہ مال و دولت ہے |
| ۴۵ | مصیبت پر صبر کرنا | ۲۴ | کسی شخص کے پاس مال سے بھری ہوئی دوادیاں ہوں تو اسے تیسری کی حرص ہوگی |

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| ۱۰۰ | جنت کے بازار | ۴۶ | پینائی زائل ہو جانے کے متعلق |
| ۱۰۱ | رویت باری تعالیٰ | ۴۸ | زبان کی حفاظت |
| ۱۰۳ | رضائے الہی کے متعلق | | |
| ۱۰۳ | اہل جنت ایک دوسرے کا نظارہ کریں گے | ۵۱ | ابواب صفة القيامة |
| ۱۰۴ | جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے | ۵۲ | حساب و قصاص کے متعلق |
| ۱۰۶ | جنت شدائد سے پر ہے جبکہ دوزخ خواہشات سے | ۵۵ | حشر کے میدان کے متعلق |
| ۱۰۷ | ادنیٰ درجہ کے جنتی کے انعامات | ۵۷ | آخرت میں لوگوں کا پیش کیا جانا |
| ۱۰۸ | حوروں کی آپس میں گفتگو | ۵۷ | صور کے متعلق |
| ۱۰۸ | جنت کی نہریں | ۵۷ | پل صراط کے متعلق |
| | | ۵۸ | شفاعت کے متعلق |
| | ابواب صفة جہنم | ۶۲ | حوض کوثر کے متعلق |
| ۱۱۰ | جہنم کے متعلق | ۶۲ | حوض کوثر کے برتن |
| ۱۱۱ | جہنم کی گہرائی کے متعلق | | |
| ۱۱۲ | دوزخیوں کی جسامت | ۹۱ | ابواب صفة الجنة |
| ۱۱۳ | دوزخیوں کے مشروبات | ۹۱ | جنت کے درختوں کی صفات |
| ۱۱۵ | دوزخیوں کے کھانے | ۹۲ | جنت کی نعمتیں |
| ۱۱۷ | دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا ۷۰ واں حصہ ہے | ۹۳ | جنت کے کمرے |
| ۱۱۸ | دوزخ کے لئے دو سانس | ۹۳ | جنت کے درجات |
| ۱۲۱ | دوزخ میں عورتوں کی اکثریت | ۹۴ | اہل جنت کی عورتیں |
| | | ۹۵ | اہل جنت کو جماع کی قدرت |
| | ابواب الایمان | ۹۵ | اہل جنت کی صفت |
| ۱۲۳ | مجھے لوگوں سے قال کا حکم دیا گیا ہے | ۹۶ | اہل جنت کے کپڑے |
| ۱۲۳ | مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک کلمہ اور نماز نہ پڑھیں لوگوں | ۹۷ | جنت کے پھل |
| | | ۹۷ | جنت کے پرندے |
| ۱۲۳ | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے | ۹۸ | جنت کے گھوڑے |
| ۱۲۵ | ایمان کی صفات | ۹۸ | جنتیوں کی عمر |
| ۱۲۶ | فرائض ایمان میں داخل ہیں | ۹۹ | اہل جنت کی کتنی صفات ہوں گی |
| ۱۲۷ | ایمان میں کمی زیادتی اور اس کا مکمل ہونا | ۹۹ | جنت کے دروازے |

| صفحہ | ابواب ومضامین | صفحہ | ابواب ومضامین |
|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| ۱۴۷ | جس نے ہدایت کے لئے بلایا اس کی تابعداری کی گئی | ۱۲۸ | جیاء ایمان سے ہے |
| ۱۴۹ | سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے بچنا | ۱۲۸ | نماز کی عظمت |
| ۱۵۰ | آنحضرت ﷺ نے جن چیزوں کو منع فرمایا | ۱۳۰ | نماز ترک کرنے کی وعید |
| ۱۵۰ | مدینے کے عالم کی فضیلت | ۱۳۱ | حلاوت ایمان کا بیان |
| ۱۵۱ | علم عبادت سے افضل ہے | ۱۳۱ | زنا کرتے ہوئے کوئی حامل ایمان نہیں رہتا |
| | ابواب الاستیذان والآداب | ۱۳۲ | مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں |
| ۱۵۳ | سلام کو رواج دینا | ۱۳۳ | اسلام کی ابتداء غربت سے ہوئی |
| ۱۵۳ | سلام کی فضیلت | ۱۳۳ | منافق کی علامت |
| ۱۵۴ | گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینا | ۱۳۴ | مسلمان کو گالی دینا |
| ۱۵۵ | سلام کا کس طرح جواب دیا جائے | ۱۳۴ | مسلمان بھائی کی تکفیر کرنا |
| ۱۵۵ | کسی کو سلام بھیجنا | ۱۳۵ | جس کا خاتمہ تو حید پر ہو |
| ۱۵۵ | سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت | ۱۳۶ | امت میں افتراق کے متعلق |
| ۱۵۶ | سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہیت | | ابواب العلم |
| ۱۵۶ | بچوں کو سلام کرنا | ۱۳۸ | اللہ تعالیٰ کا بندے کو دین کی سمجھ عطا فرمانا |
| ۱۵۶ | عورتوں کو سلام کرنا | ۱۳۸ | طلب علم کی فضیلت |
| ۱۵۷ | اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا | ۱۳۹ | علم کو چھپانا |
| ۱۵۷ | کلام سے پہلے سلام کرنا | ۱۳۹ | طالب علم کے ساتھ خیر خواہی |
| ۱۵۷ | کافر کو سلام کرنا مکروہ ہے | ۱۴۰ | دنیا سے علم کا اٹھ جانا |
| ۱۵۸ | جس مجلس میں مسلمان و کافر ہوں وہاں سلام کرنا | ۱۴۱ | اپنے علم سے دنیا کا طلب کرنا |
| ۱۵۸ | سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے | ۱۴۲ | احادیث بیان کرنے کی فضیلت |
| ۱۵۹ | مجلس میں بیٹھتے اٹھتے سلام کرنا | ۱۴۳ | آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنا سخت گناہ ہے |
| ۱۵۹ | گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنا | ۱۴۳ | موضوع احادیث |
| ۱۵۹ | بغیر اجازت کسی گھر میں جھانکنا | ۱۴۴ | حدیث سنتے وقت جو بات کہنے سے منع کیا گیا |
| ۱۶۰ | اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا | ۱۴۴ | کتابت علم کی کراہیت |
| ۱۶۱ | سفر سے واپسی میں رات کو گھر میں داخلہ مکروہ ہے | ۱۴۶ | بنواسرائیل سے روایت کرنا |
| ۱۶۱ | مکتوب کو خاک آلود کرنا | ۱۴۶ | خیر کا راستہ بتانے والا |

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۶ | موچھیں کترنے اور ناخن تراشنے کی مدت | ۱۶۲ | سربانی زبان کی تعلیم |
| ۱۷۶ | موچھیں کترنا | ۱۶۲ | مشرکین سے خط و کتابت کے متعلق |
| ۱۷۷ | داڑھی میں سے کچھ بال کا کاٹنا | ۱۶۲ | مشرکین کو کس طرح خط تحریر کیا جائے |
| ۱۷۷ | داڑھی بڑھانا | ۱۶۳ | خط پر مہر لگانا |
| ۱۷۷ | ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنا | ۱۶۳ | سلام کی کیفیت |
| ۱۷۸ | اس کی کراہت کے متعلق | ۱۶۳ | پیشاب کرتے ہوئے کو سلام کرنا مکروہ ہے |
| ۱۷۸ | پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہت | ۱۶۳ | ابتداء میں علیک السلام کہنا مکروہ ہے |
| ۱۷۸ | ستر کی حفاظت | ۱۶۵ | راستے میں مجلس کرنے والوں پر کیا واجب ہے |
| ۱۷۹ | تکلیہ لگانا | ۱۶۷ | مصافحہ کے متعلق |
| ۱۷۹ | سواری کا مالک اس پر آگے بیٹھنے کا مستحق ہے | ۱۶۷ | بو سے اور معاف کے متعلق |
| ۱۷۹ | انماط کے استعمال کی اجازت | ۱۶۷ | ہاتھ اور پیر کو بوس دینا |
| ۱۸۰ | ایک جانور پر تین آدمیوں کا سوار ہونا | ۱۶۸ | مرحبا کے متعلق |
| ۱۸۰ | اچانک نظر پڑ جانے سے متعلق | ۱۶۹ | چھینک کا جواب دینا |
| ۱۸۰ | عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنا | ۱۷۰ | جب چھینک آئے تو کیا کہے |
| ۱۸۱ | شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس جانے کی ممانعت | ۱۷۰ | چھینکنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے |
| ۱۸۱ | عورتوں کے لئے فتنے سے تحذیر | ۱۷۱ | چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو جواب دینا واجب ہے |
| ۱۸۲ | بالوں کا گھسا بنانے کی ممانعت | ۱۷۱ | کتنی مرتبہ جواب دینا چاہئے |
| ۱۸۲ | گودنے و گدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے و جڑوانے | ۱۷۲ | چھینکنے وقت آواز پست رکھنا اور چہرہ چھپانا |
| ۱۸۳ | والیوں کا بیان | ۱۷۲ | اللہ کو چھینک پسند اور جمائی ناپسند ہے |
| ۱۸۳ | عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا | ۱۷۳ | نماز میں چھینک آنا شیطان کی طرف سے ہے |
| ۱۸۳ | عورتوں کا خوشبو لگا کر نکلنا منع ہے | ۱۷۳ | کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے |
| ۱۸۳ | خوشبو سے انکار کرنا مکروہ ہے | ۱۷۴ | جو مجلس سے اٹھ کر جائے پھر واپس آئے تو اپنی جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے |
| ۱۸۳ | مباشرت ممنوعہ کے متعلق | ۱۷۴ | دو شخصوں کے درمیان بلا اجازت بیٹھنا مکروہ ہے |
| ۱۸۵ | ستر کی حفاظت | ۱۷۴ | حلقے کے درمیان بیٹھنے کی کراہت |
| ۱۸۵ | ران ستر میں داخل ہے | ۱۷۴ | کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت |
| ۱۸۶ | پاکیزگی کے متعلق | ۱۷۵ | ناخن تراشنا |

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| ۱۹۹ | شعروں کے متعلق | ۱۸۷ | جماع کے وقت پردہ کرنا |
| ۲۰۰ | شعر پڑھنے کے متعلق | ۱۸۷ | حمام میں جانے کے متعلق |
| ۲۰۱ | کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا شعر بھری لینے سے بہتر ہے | ۱۸۸ | فرشتے، تصویر یا کتے والے گھر میں داخل نہیں ہوتے |
| ۲۰۲ | وضاحت و بیان کے متعلق | ۱۸۹ | کسم کے رنگے کپڑوں کی مڑوں کو ممانعت |
| ۲۰۲ | برتنوں کو ڈھکانا | ۱۹۰ | سفید کپڑے پہننا |
| | ابواب الامثال | ۱۹۰ | مردوں کے لئے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت |
| ۲۰۳ | اللہ کی اپنے بندوں کے لئے مشل | ۱۹۱ | سبز کپڑے پہننے کے متعلق |
| ۲۰۶ | آنحضرت ﷺ اور انبیاء کی مثال | ۱۹۱ | کالے کپڑے پہننا |
| ۲۰۷ | نماز، روزے اور صدقہ کی مثال | ۱۹۱ | زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق |
| ۲۰۸ | قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی مثال | ۱۹۲ | مردوں کے لئے زعفران یا خلوک بطور خوشبو کی ممانعت |
| ۲۰۹ | پوشگانہ نماز کی مثال | ۱۹۲ | ریشم اور دیباچ کی کراہت |
| ۲۱۰ | انسان اس کی موت اور امید کی مثال | ۱۹۳ | اللہ کو بندے پر نعمت کا اظہار پسند ہے |
| | ابواب فضائل قرآن | ۱۹۳ | سیاہ موزوں کے متعلق |
| ۲۱۱ | سورۃ فاتحہ کی فضیلت | ۱۹۳ | سفید بال نکالنا |
| ۲۱۲ | سورۃ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت | ۱۹۳ | مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے |
| ۲۱۳ | سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت | ۱۹۴ | نجومت کے متعلق |
| ۲۱۵ | سورۃ آل عمران کی فضیلت | ۱۹۵ | تیسرے کی موجودگی میں دو اشخاص سرگوشی نہ کریں |
| ۲۱۵ | سورۃ کہف کی فضیلت | ۱۹۵ | وعدے کے متعلق |
| ۲۱۶ | سورۃ یس کی فضیلت | ۱۹۵ | میرے ماں باپ آپ پر قربان کے الفاظ کہنا |
| ۲۱۶ | سورۃ دخان کی فضیلت | ۱۹۶ | کسی کو بیٹا کہہ کر پکارنا |
| ۲۱۷ | سورۃ ملک کی فضیلت | ۱۹۶ | نومولود کا نام جلدی رکھنا |
| ۲۱۸ | سورۃ زلزال کی فضیلت | ۱۹۶ | مستحب ناموں کے متعلق |
| ۲۱۹ | سورۃ اخلاص و سورۃ زلزال کی فضیلت | ۱۹۷ | مکروہ ناموں کے متعلق |
| ۲۲۰ | سورۃ اخلاص کی فضیلت | ۱۹۷ | نام بدلنے کے متعلق |
| ۲۲۱ | معوذتین کی فضیلت | ۱۹۸ | نبی کریم ﷺ کے اسمائے گرامی |
| | | ۱۹۸ | کسی کے لئے آنحضرت ﷺ کا نام اور کنیت جمع کرنے کی ممانعت |

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|----------------|------|---------------------------------------|
| ۳۳۲ | سورہ طہ | ۲۲۱ | قاری کی فضیلت |
| ۳۳۲ | سورہ انبیاء | ۲۲۳ | قرآن کی تعلیم کی فضیلت |
| ۳۳۳ | سورہ حج | ۲۲۴ | قرآن میں سے ایک حرف پڑھنے کا اجر |
| ۳۳۷ | سورہ مؤمنین | ۲۲۸ | آنحضرت ﷺ کی قرأت کی کیفیت |
| ۳۳۸ | سورہ نور | | ابواب القراءت |
| ۳۳۵ | سورہ فرقان | ۲۳۳ | قرآن کریم سات قرأتوں پر نازل ہوا |
| ۳۳۶ | سورہ شعراء | ۲۳۶ | جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے |
| ۳۳۸ | سورہ نمل | ۲۳۷ | سورہ فاتحہ کی تفسیر |
| ۳۳۸ | سورہ قصص | ۲۴۰ | سورہ بقرہ |
| ۳۳۸ | سورہ عنکبوت | ۲۵۵ | سورہ آل عمران |
| ۳۳۹ | سورہ روم | ۲۶۳ | سورہ نساء |
| ۳۵۱ | سورہ لقمان | ۲۷۷ | سورہ مائدہ |
| ۳۵۲ | سورہ بقرہ | ۲۸۶ | سورہ انعام |
| ۳۵۳ | سورہ احزاب | ۲۹۰ | سورہ اعراف |
| ۳۶۳ | سورہ سبا | ۲۹۲ | سورہ انفال |
| ۳۶۵ | سورہ فاطر | ۲۹۵ | سورہ توبہ |
| ۳۶۶ | سورہ یس | ۳۰۷ | سورہ یونس |
| ۳۶۷ | سورہ صافات | ۳۰۸ | سورہ ہود |
| ۳۶۸ | سورہ ص | ۳۱۱ | سورہ یوسف |
| ۳۷۰ | سورہ زمر | ۳۱۲ | سورہ زمر |
| ۳۷۳ | سورہ مؤمن | ۳۱۳ | سورہ ابراہیم |
| ۳۷۳ | سورہ سجدہ | ۳۱۴ | سورہ حجر |
| ۳۷۳ | سورہ شورئ | ۳۱۶ | سورہ نحل |
| ۳۷۶ | سورہ زخرف | ۳۱۶ | سورہ بنی اسرائیل |
| ۳۷۶ | سورہ دخان | ۳۲۲ | سورہ کہف |
| ۳۷۷ | سورہ احقاف | ۳۳۹ | سورہ مریم |
| ۳۷۹ | سورہ محمد | | |

| صفحہ | ابواب ومضامین | صفحہ | ابواب ومضامین |
|------|-------------------------------------------|------|---------------------|
| ۴۱۶ | سورۃ اذا السماء انشقت | ۳۰۰ | سورۃ فتح |
| ۴۱۷ | سورۃ مہر ورج | ۳۸۲ | سورۃ حجرات |
| ۴۲۰ | سورۃ غاشیہ | ۳۸۳ | سورۃ ق |
| ۴۲۰ | سورۃ فجر | ۳۸۳ | سورۃ ذاریات |
| ۴۲۱ | سورۃ والقصص وضحیٰ | ۳۸۵ | سورۃ طور |
| ۴۲۱ | سورۃ واللیل | ۳۸۶ | سورۃ نجم |
| ۴۲۲ | سورۃ ضحیٰ | ۳۸۹ | سورۃ قمر |
| ۴۲۳ | سورۃ الم نشرح | ۳۹۱ | سورۃ رحمن |
| ۴۲۳ | سورۃ والہین | ۳۹۱ | سورۃ واقعہ |
| ۴۲۴ | سورۃ اقرأ باسم ربک | ۳۹۳ | سورۃ مدید |
| ۴۲۴ | سورۃ قدر | ۳۹۳ | سورۃ مجادلہ |
| ۴۲۴ | سورۃ لم یکن | | سورۃ حشر |
| ۴۲۵ | سورۃ اذا زلزلت | | سورۃ ممتحنہ |
| ۴۲۵ | سورۃ العلم الکاکثر | | سورۃ صف |
| ۴۲۵ | سورۃ کوثر | | سورۃ جمعہ |
| ۴۲۷ | سورۃ فتح | | سورۃ منافقین |
| ۴۲۸ | سورۃ لہب | | سورۃ تغابن |
| ۴۲۸ | سورۃ اخلاص | | سورۃ تحریم |
| ۴۲۹ | سورۃ سعوذین | | سورۃ نون والقلم |
| | ابواب الدعوات | | سورۃ حاقہ |
| ۴۳۱ | ذکر کی فضیلت | | سورۃ سأل سأل |
| ۴۳۲ | مجلس ذکر کی فضیلت | ۴۱۲ | سورۃ جن |
| ۴۳۳ | جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کے متعلق | ۴۱۳ | سورۃ مدثر |
| ۴۳۵ | مسلمان کی دعا کی قبولیت | ۴۱۵ | سورۃ قیامہ |
| ۴۳۶ | دعا کرنے والا پہلے اپنے لئے دعا کرے | | سورۃ بئیس |
| ۴۳۶ | دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا | | سورۃ اذا الشمس کورت |
| | | | سورۃ مطلقین |

| صفحہ | ابواب ومضامین | صفحہ | ابواب ومضامین |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ۴۶۳ | کھانے سے فراغت پر پڑھنے کی دعا | ۴۳۶ | دعا میں جلدی کرنے والے کے متعلق |
| ۴۶۴ | گدھے کی آواز سننے تو یہ دعا پڑھے | ۴۳۶ | صبح اور شام کی دعائیں |
| ۴۶۴ | تسبیح بکبیر، تہلیل اور الحمد للہ کہنے کی فضیلت | ۴۳۹ | سوتے وقت پڑھنے والی دعائیں |
| ۴۶۹ | مترقب دعاؤں کے متعلق | ۴۴۲ | سوتے وقت سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر |
| ۴۷۳ | انگیوں پر تسبیح گننے کے متعلق | ۴۴۵ | رات کو آنکھ کھل جانے پر پڑھی جانے والی دعا |
| ۴۹۷ | توبہ واستغفار کی فضیلت اور بندوں پر رحمت | ۴۴۶ | تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں |
| | دعاؤں کے متعلق مختلف احادیث | ۴۴۸ | تہجد کی نماز شروع کرتے وقت کی دعائیں |
| | ابواب المناقب | ۴۵۲ | سجدہ تلاوت کی دعائیں |
| ۵۱۵ | آنحضرت ﷺ کی فضیلت | ۴۵۳ | گھر سے نکلنے وقت پڑھنے کی دعائیں |
| ۵۲۰ | آنحضرت ﷺ کی پیدائش | ۴۵۴ | بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا |
| ۵۲۱ | نبوت کی ابتداء کے متعلق | ۴۵۴ | اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو تو یہ دعا پڑھے |
| ۵۲۲ | آپ ﷺ کتنی عمر کے تھے جب مبعوث ہوئے | ۴۵۴ | اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو کیا پڑھے |
| ۵۲۳ | آنحضرت ﷺ کے معجزات اور خصائص | ۴۵۵ | مجلس سے اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا |
| ۵۲۷ | نزول وحی کی کیفیت | ۴۵۶ | کرب کے وقت پڑھنے کی دعا |
| ۵۲۷ | آنحضرت ﷺ کی صفات | ۴۵۷ | کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا |
| | مہر نبوت | ۴۵۷ | سفر کے لئے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا |
| | مناقب ابو بکر صدیقؓ | ۴۵۸ | سفر سے لوٹنے پر پڑھنے کی دعائیں |
| | مناقب ابی حفص عمر بن الخطابؓ | ۴۵۸ | کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعائیہ کلمات |
| | مناقب عثمان بن عفانؓ | ۴۵۹ | مسافر کی دعا کی قبولیت |
| | مناقب علی بن ابی طالبؓ | ۴۶۰ | سواری پر سوار ہونے کی دعا |
| | ابو محمد طلحہ بن عبید اللہؓ کے مناقب | ۴۶۱ | آندھی کے وقت پڑھنے کی دعا |
| ۵۶۳ | زبیر بن عامرؓ کے عمدہ خصائل و مناقب | ۴۶۱ | بادل کی گرج سننے پر پڑھنے کی دعا |
| ۵۶۶ | حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ زہری کے عمدہ خصائل | ۴۶۱ | چاند دیکھنے کی دعا |
| ۵۶۷ | ابو اسحاق سعد بن ابی وقاصؓ کے عمدہ خصائل | ۴۶۲ | غصہ کے وقت پڑھنے کی دعا |
| ۵۶۹ | ابو اعراب کے عمدہ خصائل و مناقب | ۴۶۲ | برا خواب دیکھنے پر پڑھنے کی دعا |
| | | ۴۶۲ | پہلا پھل دیکھنے پر پڑھنے کی دعا |
| | | ۴۶۳ | کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا |

| صفحہ | ابواب و مضامین | صفحہ | ابواب و مضامین |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| ۵۹۶ | قیس بن سعد بن عبادہ کے عمدہ خصائل و مناقب | ۵۶۹ | ابو عبیدہ بن عامر بن جراح کے عمدہ خصائل |
| ۵۹۷ | جابر بن عبد اللہ کے عمدہ خصائل و مناقب | ۵۷۰ | ابو فضل عباس بن عبد المطلب کے عمدہ خصائل |
| ۵۹۷ | مصعب بن عمیر کے عمدہ خصائل | ۵۷۱ | جعفر بن ابی طالب کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۵۹۸ | براء بن مالک کے عمدہ خصائل | ۵۷۳ | ابو محمد حسن بن علی ابن ابی طالب اور حسین بن علی ابن ابی |
| ۵۹۸ | ابوموسیٰ اشعری کے عمدہ خصائل | ۵۷۸ | طالب کے عمدہ خصائل |
| ۵۹۸ | سہیل بن سعد کے عمدہ خصائل | ۵۷۸ | آنحضرت ﷺ کے اہل بیت کے عمدہ خصائل |
| ۵۹۹ | صحابی ہونے کی فضیلت | ۵۷۹ | معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور ابو عبیدہ |
| ۵۹۹ | بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت | | بن جراح کے عمدہ خصائل |
| ۵۹۹ | جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہے | ۵۸۱ | سلمان فارسی کے عمدہ خصائل |
| ۶۰۱ | حضرت فاطمہ کی فضیلت | ۵۸۱ | عمار بن یاسر کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۰۳ | حضرت عائشہ کی فضیلت | ۵۸۲ | ابو ذر غفاری کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۰۶ | حضرت خدیجہ کی فضیلت | ۵۸۳ | عبداللہ بن سلام کے عمدہ خصائل |
| ۶۰۷ | ازواج مطہرات کی فضیلت | ۵۸۴ | حضرت عبداللہ بن مسعود کے عمدہ خصائل |
| ۶۱۰ | ابی بن کعب کی فضیلت | ۵۸۶ | حذیفہ بن الیمان کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۱۰ | انصار اور قریش کی فضیلت | ۵۸۶ | زید بن حارثہ کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۱۳ | انصار کے گھروں کی فضیلت | ۵۸۸ | اسامہ بن زید کے عمدہ خصائل |
| ۶۱۴ | مدینہ منورہ کی فضیلت | ۵۸۹ | جریر بن عبداللہ بجلي کے عمدہ خصائل |
| ۶۱۷ | مکہ کی فضیلت | ۵۸۹ | عبداللہ بن عباس کے عمدہ خصائل |
| ۶۱۷ | عرب کی فضیلت | ۵۹۰ | عبداللہ بن زبیر کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۱۹ | عجم کی فضیلت | ۵۹۰ | انس بن مالک کے عمدہ خصائل |
| ۶۱۹ | اہل یمن کی فضیلت | ۵۹۲ | ابو ہریرہ کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۲۱ | بنو عقیل، اسلم، جبینہ اور مزینہ کی فضیلت | ۵۹۴ | مخاویہ بن ابی سفیان کے عمدہ خصائل |
| ۶۲۱ | بنو ثقیف اور بنو حنیفہ کے متعلق | ۵۹۵ | عمرو بن عاص کے عمدہ خصائل و مناقب |
| ۶۲۶ | کتاب العلل | ۵۹۵ | خالد بن ولید کے عمدہ خصائل و مناقب |
| | | ۵۹۶ | سعد بن معاذ کے عمدہ خصائل و مناقب |

سے پہلے۔ (۳) ایسے مرض سے پہلے جو اعضاء کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ (۴) بڑھاپے سے پہلے جس میں انسان عقل کھودیتا ہے۔ (۵) جلد آنے والی موت سے پہلے۔ (۶) دجال کے آنے سے پہلے جو ان چیزوں میں جو اب تک غائب ہیں سب سے برا ہے۔ (۷) قیامت سے پہلے اس لئے کہ قیامت بہت سخت اور کڑوی ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الَّتِي فَفَرِ مُنْسٍ أَوْ غَنَى مُطْعٍ أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ أَوْ هَرَمٍ مُفْنِدٍ أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ أَوْ الدَّجَالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اعرج کی ابو ہریرہ سے روایت کے طور پر پہچانتے ہیں۔ صرف محرز بن ہارون کی سند سے جانتے ہیں۔ معریبی حدیث ایک ایسے شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے سعید مقبری سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنی ہے۔

باب ۱۲۵۴۔ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ

باب ۱۲۵۴۔ موت کو یاد کرنا۔

(۲۱۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَالَفِضْلَ بْنَ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَذَا مِنَ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ

۲۱۲۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ابوسعید سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۲۵۵۔ بلا عنوان۔

باب ۱۲۵۵۔

۲۱۲۶۔ عبد اللہ بن بحیر، حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہانی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتاروتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو بعد کے مرحلے اس کے لئے آسان ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس میں نجات نہیں پالی تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے قبر کے منظر سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والا منظر نہیں دیکھا۔

(۲۱۲۶) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ نَاهِشَامُ بْنُ أَبِي يُونُسَ نَاعْبُدُ اللَّهَ بْنَ بَحِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لِحَيْتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنْزِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ، أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرَ أَفْطَعُ مِنْهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ہشام بن یوسف کی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۵۶۔ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

باب ۱۲۵۶۔ جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔

(۲۱۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَابُودَاؤُدَ نَاشِعَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

۲۱۲۷۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ آنحضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتے ہیں اور جو شخص اس کی خواہش نہ رکھتا ہو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰؓ اور انسؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۵۷۔ مَا جَاءَ فِي أَنْذَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۲۵۷۔ آنحضرت ﷺ کا امت کو خوف دلانا۔

(۲۱۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ مَقْدَامٍ نَامِحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّغَاوِيُّ نَاهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا بِنْتِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.

۲۱۲۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”وَأَنْذِرْ..... الْآيَةَ“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے صفیہ بنت عبدالمطلب، اے فاطمہ بنت محمد اور اے بنو عبدالمطلب میں تم لوگوں کے لئے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے مال سے جو تم چاہو طلب کر لو۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض راوی اسے ہشام بن عروہ سے ان کے والد کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۵۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ

باب ۱۲۵۸۔ خوف خدا سے رونے کی فضیلت۔

(۲۱۲۹) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي

۲۱۲۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رو یا وہ اس وقت تک دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک دودھ پستان میں واپس نہ چلا جائے۔ نیز اللہ کی راہ میں جہاد کا

● آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور (اے محمد ﷺ) آپ اپنے اقرباء کو ڈرائیے۔

● جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اپنے عزیز و اقارب کو نام لے لے کر پکارا اور فرمایا: میں آخرت میں بغیر ایمان و اعمال کے تم لوگوں کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لہذا تم بغیر ایمان و عمل میرے سہارے پر مت رہنا۔ بلکہ آخرت کے لئے اعمال صالح کا ذخیرہ ساتھ لے کر جانا جو تمہارے کام آسکے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لئے وعید شدید ہے جو اولیاء اور بزرگ زادے ہونے کو آخرت کی نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

● یہ شرط محال ہے یعنی جس طرح دودھ پستان میں نہیں جاسکتا اسی طرح ایسا شخص بھی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ حدیث ایسے شخص کی فضیلت اور باری تعالیٰ کے اس پر بے انتہارحم و کرم پر دلالت کرتی ہے نیز یہ کہ اس کے خوف سے رونا اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی پسندیدہ فعل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عُقْبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

غبار اور جنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس باب میں ابوریحانہ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور محمد بن عبدالرحمن، آل طلحہ کے مولیٰ ہیں۔

یہ مدنی ہیں ان سے سفیان ثوری اور شعبہ احادیث نقل کرتے ہیں۔ اور یہ ثقہ ہیں۔

باب ۱۲۵۹۔ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا۔

باب ۱۲۵۹۔ آنحضرت ﷺ کا فرمان: کہ اگر تم لوگ وہ کچھ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم کر دو۔

(۲۱۳۰)۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ نَاسِرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَأْطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكَ وَأَضْعُجُ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدًا وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَّيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَدُّ دُثْمٌ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَحَارُونَ إِلَى اللَّهِ لَوْ دِدْتُ إِنِّي كُنْتُ شَجْرَةً تُعَضَّدُ۔

۱۲۳۰۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہوں جو تم لوگ نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ سن سکتے ہو۔ (وہ یہ کہ) آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچراتا بھی چاہئے۔ اس لئے کہ اس میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ کچھ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم اور رونا زیادہ کر دو، عورتوں سے بستروں پر لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔

اس باب میں عائشہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور انسؓ سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ذرؓ کی یہی تمنا منقول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور لوگ مجھے کاٹ ڈالتے۔

(۲۱۳۱)۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَاعِدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَّيْتُمْ كَثِيرًا۔

۲۱۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگ وہ کچھ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم لوگوں کی ہنسی کم ہو جائے اور رونے میں کثرت پیدا ہو جائے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۶۰۔ مَا جَاءَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ النَّاسَ۔

باب ۱۲۶۰۔ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کرے۔

(۲۱۳۲)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ

۲۱۳۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ

ایسے بھی ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جس میں ان کے نزدیک کوئی مضائقہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں ستر سال کی مسافت تک دوزخ میں پھینک دیتے ہیں۔

محمد بن اسحاق ثنی محمد بن ابراہیم عن عیسیٰ بن طلحہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالكلمۃ لا یرى بہا بائسا یهدی اللہ بہا سبعین خریفا فی النار۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۲۱۳۳۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے جسے سن کر لوگ ہنستے ہیں۔ اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے ہلاکت ہے۔

(۲۱۳۳) حدثنا بندارنا یحییٰ بن سعید ثنا بہز بن حکیم ثنی ابی عن جدی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحديث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حدیث بہز ”حسن“ ہے۔

باب ۱۲۶۱۔ بلا عنوان۔

باب ۱۲۶۱۔

۲۱۳۴۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کی وفات ہوئی تو ایک شخص نے اسے جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیا معلوم کہ شاید اس نے کوئی فضول بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا ہو جسے خرچ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔

(۲۱۳۴) حدثنا سلیمان بن عبد الجبار البغدادی ناعم بن حفص بن غیاث ثنی ابی عن الأعمش عن انس بن مالک قال توفی رجل من أصحابہ فقال یعنی رجلا أبشر بالجنة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولآ تدری فلعلہ تکلم فیمالا یعنیه اویبخل بما لا ینقصہ۔

۲۱۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑ دے۔

(۲۱۳۵) حدثنا احمد بن نصر النسابوری وغير واحد قالوا ابو مسهر عن اسمعيل بن عبد الله بن سماعة عن الاوزاعي عن ابی سلمة عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرأ ترکہ ما لا یعنیه۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابو سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں وہ اسے ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ تمبیہ مالک سے وہ زہری سے اور وہ علی بن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: بہترین مسلمان ہونے کے لئے کسی شخص کا لایعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے۔ زہری کے کئی ساتھی بھی علی بن حسین سے اسی طرح کی حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

باب ۲۱۶۲۔ کم گوئی کی فضیلت۔

باب ۱۲۶۲۔ ما جاء فی قلة الکلام

۲۱۳۶۔ حضرت بلال بن حارث مرفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص (ایسا بھی ہے) جو کوئی ایسی بات کرتا ہے جس

(۲۱۳۶) حدثنا هناد ناعبدة عن محمد بن عمرو ثنی ابی عن جدی قال سمعت بلال بن الحارث

سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور وہ ایسے مرتبے پر پہنچتی ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس دن تک کے لئے رضا مندی لکھ دیتے ہیں جس دن وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ جب کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس بات کا وبال کتنا زیادہ ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا لہذا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ ❶

اس باب میں ام حبیبہ بھی حدیث نقل کرتی ہیں۔ مذکورہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی راوی محمد بن عمرو سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے اس طرح سند بیان کرتے ہیں ”عن محمد بن عمرو عن ابیہ عن جدہ بلال بن الحارث۔“ جب کہ مالک اس سند میں ”داوا“ کا لفظ بیان نہیں کرتے۔

باب ۱۲۶۳۔ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ

(۲۱۳۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَسَطَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةٌ مَاءٍ۔

باب ۱۲۶۳۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ذلت۔

۲۱۳۷۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی چھڑکے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوتا۔

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

(۲۱۳۸) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُونَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا جِئِنَ الْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا الْقَوْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدُّنْيَا هَوَانٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا۔

۲۱۳۸۔ حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک بکری کے مردہ بچے کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا: تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح اس کے مالکوں نے اسے بے قیمت سمجھ کر کیسے پھینک دیا ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لئے کہ یہ ان کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہو گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! یہی وجہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔

اس سے اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی حدیثیں منقول کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

(۲۱۳۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ نَا عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ نَا ثُوْبَانَ قَالَ

۲۱۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں۔ ہاں البتہ ذکر الہی اور اس کی معاون چیزیں

❶ یہ حدیث فضول اور لایعنی باتوں سے بے انتہاء پرہیز کرنے پر دلالت کرتی ہے مزید یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرے تو ہمیشہ رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے کیونکہ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے اور روزخ میں جانے کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اور عالم یا معلم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ ❶

سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ضَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ
مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ
أَوْ مُتَعَلِّمٌ۔

۲۱۴۰۔ حضرت مستورؓ، آنحضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: دنیا
کی آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی حیثیت ہے کہ کوئی شخص سمندر میں
انگلی ڈال کر نکال لے۔ چنانچہ دیکھ لے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا
ہے۔ ❶

(۲۱۴۰) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد
ثنا اسمعيل بن ابى خالد اخبرنى قيس بن حازم قال
سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا الدُّنْيَا فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ
إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرَجَعُ۔

باب ۱۲۶۳۔ دنیا مؤمن کے لئے جیل اور کافر کے لئے جنت ہے۔

باب ۱۲۶۴۔ مَا جَاءَ آتَى الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ
وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

۲۱۴۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا مؤمن
کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ ❶

(۲۱۴۱) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن
الحلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن
المؤمن وجنة الكافر۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

باب ۱۲۶۵۔ دنیا کی مثال چار شخصوں کی سی ہے۔

باب ۱۲۶۵۔ مَا جَاءَ مِثْلُ الدُّنْيَا مِثْلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

۲۱۴۲۔ حضرت ابو کبیرہ انصاری رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ
فرمایا: میں تین چیزوں کے متعلق قسم کھاتا اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا
ہوں تم لوگ یاد رکھنا۔ پہلی یہ کہ کسی صدقہ یا خیرات کرنے والے کا مال
صدقہ یا خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ کوئی مظلوم ایسا نہیں

(۲۱۴۲) حدثنا محمد بن اسمعيل ابو نعيم
نا عيادة بن مسلم نا يونس بن خباب عن سعيد
الطائي ابى النخري انه قال ثنى ابو كبشة
الانمارى انه سمع رسول الله صلى الله عليه

❶ یعنی یہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سے پسند کرتے ہیں جب کہ اس کے علاوہ ملعون ہے۔ ان احادیث میں دنیا کی حقارت اور اس کی ذلت کی طرف
اشارہ ہے کہ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور لوگ اس میں اس قدر منہمک اور حاصل کرنے کے لئے
اتنی تک و دو کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اور اس کی دائمی نعمتوں کو بھول کر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مؤمن کو زہد کا راستہ اختیار کرتے
ہوئے دنیا و مافیہا کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہئے جو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ملعون ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) ❶ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت
اتنی ہی ہے کہ جتنا پانی اس انگلی کو لگ جائے چنانچہ دنیا کو انگلی کے ساتھ لگنے والے پانی اور آخرت کو باقی بچ جانے والے سمندر سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ اعلم
(مترجم) ❶ یعنی مؤمن کے لئے دنیا میں پابندیاں ہیں اور اسے واجبات و فرائض وغیرہ کا پابند کر دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے گویا کہ وہ جیل میں ہے جب کہ کافر
اس کے مقابلے میں آزاد ہے اور دنیا اس کے لئے جنت کی طرح ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال (بھیک مانگنے) کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا اسی طرح کچھ فرمایا: چوتھی بات یاد کر لو کہ دنیا چار اقسام کے لوگوں پر مشتمل ہے:

(۱) ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دولتوں سے نوازا ہو اور وہ اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہو، ❶ صلہ رحمی کرتا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو یہ سب سے افضل ہے۔ (۲) وہ شخص جسے علم تو عطا کیا گیا لیکن دولت سے نہیں نوازا گیا چنانچہ وہ صدق دل کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار کرے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی جس سے میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا۔ (مذکورہ بالا نیک شخص کی طرح) ان دونوں شخصوں کے لئے برابر اجر و ثواب ہے۔ (۳) ایسا مالدار جو علم کی دولت سے محروم ہو اور اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے نہ اس کے کمانے میں خدا کے خوف کو ملحوظ رکھے اور نہ اس سے صلہ رحمی کرے اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے۔ یہ شخص سب سے بدتر ہے۔ ❷۔ ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ علم لیکن اس کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا (مذکورہ نمبر ۳) یہ شخص بھی اپنی نیت کا مسؤل ہے اور ان دونوں کا گناہ بھی برابر ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۲۶۶۔ مَا جَاءَ فِي هَمِّ الدُّنْيَا وَ حُبِّهَا

(۲۱۴۳) حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن ابن مهدى نا سفين عن بشير ابى اسمعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقه فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقه فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو أجل.

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

❶ یعنی اس دولت کو حاصل کرنے میں جائز طریقے اختیار کرتا ہے اور اسی طرح اسے خرچ کرنے میں بھی دین کے احکام کا لحاظ رکھتا ہے۔ نیز اپنے رشتہ داروں وغیرہ پر بھی اسے خرچ کرنے کے ساتھ اس میں سے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات وغیرہ بھی ادا کرتا ہے۔

۲۱۴۴۔ حضرت ابوہریرؓ کہتے ہیں کہ معاویہؓ ابوہاشم بن عتبہ کے مرض میں ان کی عیادت کے لئے گئے تو عرض کیا: ماموں کیا وجہ ہے کہ آپ رورہے ہیں؟ کیا کوئی تکلیف ہے یا دنیا کی حرص اس کا سبب ہے؟ فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جسے میں پورا نہ کر سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مال میں سے تمہیں صرف ایک خادم اور جہاد کے لئے سواری کافی ہے جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ (اس وجہ سے رورہا ہوں)

(۲۱۴۴) حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق ناسفيان عن منصور الأعمش عن أبي وإيل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده؛ فقال يا خال ما يبكيك أوجع يشيزك أوجرص على الدنيا قال كل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى عهد لم أخذ به قال إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وأجدي اليوم قد جمعت۔

زائدہ اور عبیدہ بن جمید بھی یہ حدیث منور سے وہ ابوہریرؓ سے اور وہ سمرہ بن اسم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ نیز اس

باب میں بریدہ السلمی سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

۲۱۴۵۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جائیداد وغیرہ نہ بناؤ کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا سے رغبت ہو جائے گی۔ ①

(۲۱۴۵) حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع ناسفيان عن الاعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الاحزم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا۔

باب ۱۲۶۷۔ مومن کے لئے عمر طویل۔

باب ۱۲۶۷۔ ماجاء في طول العمر للمؤمن

۲۱۴۶۔ حضرت عبد اللہ بن قیسؓ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر طویل اور عمل نیک ہو۔

(۲۱۴۶) حدثنا ابو كريب نازيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن قيس ان اعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور جابرؓ سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۲۱۴۷۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا: جس کی عمر طویل اور عمل نیک ہو۔ پھر پوچھا گیا: بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا: جو طویل العمر ہونے کے ساتھ ساتھ بد عمل بھی ہو۔

(۲۱۴۷) حدثنا ابو حفص عمرو بن علي ناخالد بن الحارث ناشبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكره أن رجلا قال لرسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله؛ قال فأى الناس شر قال من طال عمره وساء عمله۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

① یہاں جائیداد سے مراد کھیت، باغات، بگاؤں اور جائیداد غیر منقولہ ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے انسان زندگی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ (مترجم)

باب ۱۲۶۸۔ مَا جَاءَ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى سَبْعِينَ۔

باب ۱۲۶۸۔ اس امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر برس کے درمیان ہوگی۔

(۲۱۴۸) حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ رِبِيعَةَ عَنْ كَامِلِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ۔

۲۱۴۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: میری امت کے لوگوں کی عمر عموماً ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی۔ ❶

یہ حدیث ابوصالح کی روایت سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ ہی سے منقول ہے۔

باب ۱۲۶۹۔ مَا جَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَنِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ (۲۱۴۹) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ۔

باب ۱۲۶۹۔ اوقات کا چھوٹا ہونا اور کم امیدی۔
۲۱۴۹۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ چھوٹا نہ ہو جائے۔ یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھڑی (گھنٹے) کے برابر اور گھنٹہ آگ کی چنگاری کے برابر نہ ہو جائے۔ ❷

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور سعد بن سعید، یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں۔

باب ۱۲۷۰۔ مَا جَاءَ فِي قَصْرِ الْأَمَلِ (۲۱۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو أَحْمَدَ نَا سَفِيَانَ عَنْ لَيْثِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي قَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَ عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا

باب ۱۲۷۰۔ قصر امل کے بیان میں۔
۲۱۵۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا: دنیا میں کسی مسافر یا راہ گیر کی طرح رہو اور خود کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا: اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھر و سہ نہ کرو اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل تم زندہ ہو گے یا مر جاؤ گے۔

❶ یہ پیشین گوئی اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

❷ اوقات کے چھوٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت میں برکت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ مشاہدہ گواہ ہے کہ جو کام اسلاف ایک دن میں کر لیتے تھے وہ آج کے لوگوں سے ہفتوں میں نہیں ہو پاتا۔ ہفتہ گزر جاتا ہے اور لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے، یہی وقت کی بے برکتی ہے اور یہی تقارب زمان کا مفہوم ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَتُحَدِّثُ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ
مَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي
يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا۔

احمد بن عبدہ بھی حماد بن زید سے وہیث سے وہ مجاہد سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر اسے اعمش بھی مجاہد سے ابن عمر کے حوالے سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

(۲۱۵۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَاعِبُ اللَّهِ عَنْ حَمَادِ بْنِ
سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
ابْنُ آدَمَ هَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا
فَقَالَ وَتَمَّ أَمَلُهُ وَتَمَّ أَمَلُهُ۔

۲۱۵۱۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گدی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ہاتھ سے دور اشارہ کر کے فرمایا: کہ اتنی لمبی اس کی امیدیں ہیں۔

اس باب میں ابوسعید سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۱۵۲) حَدَّثَنَا هِنَادُ نَابِوِ مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي سَفْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خِصَالَنَا
فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نُضَلِّحُهَا فَقَالَ
مَا أَرَى إِلَّا مَرًّا لَا أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ۔

۲۱۵۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم لوگ اپنے مکان کے لئے گارا بنا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: یہ گھرانہ ہو گیا ہے اس لئے ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں موت کو اس سے بھی جلدی دیکھ رہا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسفر کا نام سعید بن محمد ہے انہیں ابواحمد ثوری بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۲۷۱۔ مَا جَاءَ أَنْ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

(۲۱۵۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَالَ الْحَسَنُ بْنُ

سَوَارِنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ

كُعْبُ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف معاویہ بن صالح کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۷۲۔ مَا جَاءَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ

مَالٍ لَا يَبْغِي نَالَئًا۔

(۲۱۵۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادَانَ يَعْقُوبُ بْنُ

کُيُوكَ اس سے ہرم کی نیکی یا بدائی کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

۲۱۵۳۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

۲۱۵۴۔ اگر کسی شخص کے پاس دو وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تب بھی اسے تیسری کی حرص ہوگی۔

ابن آدم کی ملکیت میں سونے کی ایک وادی بھی ہو تو اسے دوسری کی چاہت ہوگی۔ اس کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ❶ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی تو بہ ضرور قبول کرتے ہیں۔

باب ۲۱۷۳۔ بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے۔

۲۱۵۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے طول عمر اور کثرت مال۔

ابراہیم بن سعد نا ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لآحب ان ینکون لہ ثانیاً ولایملاً فاه الا التراب ینتوب اللہ علی من تاب۔

باب ۱۲۷۳۔ ماجاء قلب الشیخ شاب علی حب انتین

(۲۱۵۵) حدثنا قتیبة نا اللیث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلب الشیخ شاب علی حب انتین طول الحیوة وکثرة المال۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

۲۱۵۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک عمر لمبی ہونے کی اور دوسری مال کی حرص۔

(۲۱۵۶) حدثنا قتیبة نا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یھرم ابن آدم ویشب منه اثنتان الحرص علی العمر والحرص علی المال۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۴۔ زہد کی تفسیر۔

۲۱۵۷۔ حضرت ابو ذرؓ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں زہد کرنے کے یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لے یا مال کو ضائع کرے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ان چیزوں پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں زیادہ وثوق اور اعتماد کرو بہ نسبت اپنے ہاتھ کی چیز پر بھروسہ کرنے کے۔ اور تمہیں کسی مصیبت پر ملنے والے اجر و ثواب کی اتنی زیادہ رغبت ہو جائے کہ تم یہ خواہش کرنے لگو کہ اسی میں گرفتار رہو اور اجر ملتا رہے۔

باب ۱۲۷۴۔ ماجاء فی الزہادۃ فی الدنیا

(۲۱۵۷) حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن نا محمد بن المبارک نا عمرو بن واقد نا یونس بن حلبس عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیسست بتحریم الحلال ولا اضعاف المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا ان لا تكون بما فی یدیک اوتق مما فی ید اللہ وان تكون فی ثواب المصیبة اذا

❶ یعنی انسان کی حرص اور لالچ کی کوئی حد نہیں چنانچہ صرف موت ہی اس کی یہ حرص ختم کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زہد و تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی انکار اور آخرت میں حساب و کتاب کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں چنانچہ وہ دنیا اور آخرت اور برزخ ہر جگہ راحت کے ساتھ رہتا ہے۔ (مترجم)

أَنْتِ أُضِيبَتْ بِهَا أَرْعَبَ فِيمَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابو اور لیس خولانی کا نام عائد اللہ بن عبد اللہ ہے اور عمرو بن واقد منکر الحدیث ہیں۔

(۲۱۵۸) حدثنا عبد بن حميدنا عبد الصمد بن عبد الوارث نا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حمران بن ابيان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن ادم حق في سوا هذه الخصال بيت يسكنه وتوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء۔

۲۱۵۸۔ حضرت عثمان بن عفان آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ابن آدم کا دنیا میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ رہنے کے لئے گھر، تین ڈھانپنے کے لئے مناسب کپڑا اور روٹی اور پانی کے برتن۔ ❶

یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد اور سلیمان بن مسلم طبری، نصر بن شمیل سے نقل کرتے ہیں کہ جلف الخبز بغیر سالن کی روٹی کو کہتے ہیں۔

(۲۱۵۹) حدثنا محمود بن غيلان ناوهب بن جرير نا شعبة عن قتادة عن مطرف عن ابيه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهكُم التكاثر قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت او اكلت فاقنيت اوليست فاقنيت۔

۲۱۵۹۔ حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میرے والد ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ ”الہکم التکاثر“ پڑھ رہے تھے۔ پھر فرمایا: ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے حالانکہ تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے صدقہ یا خیرات میں دے کر (خدمت خداوندی میں) روانہ کر دیا یا کھایا اور فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ ❷

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۱۶۰) حدثنا بندار نا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله قال سمعت ابا امامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك ان تبدل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى۔

۲۱۶۰۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابن آدم تم اگر اپنی ضرورت سے زائد مال کو محاسن میں خرچ کر دو گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لئے بدتر ہوگا۔ جب کہ حاجت کے بقدر اپنے اوپر خرچ کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ نیز صدقات و خیرات کی ادائیگی میں ابتداء اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو اور جان لو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ❸

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شداؤ بن عبد اللہ کی کنیت ابو عمار ہے۔

(۲۱۶۱) حدثنا علي بن سعيد الكندي نا ابن

۲۱۶۱۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم

- ❶ اس حدیث میں ان حاجتوں کی تفصیل ہے جن کے لئے اسے مال وغیرہ رکھنے کی اجازت ہے۔ (مترجم)
- ❷ یعنی جو کچھ تم استعمال کر لو گے وہ تو تمہارا ہی ہوگا لیکن جو چھوڑ جاؤ گے وہ داروں کا ہوگا اور خرچہ وہ کریں گے جب کہ حساب تمہیں دنیا پڑے گا۔ (مترجم)
- ❸ اس میں حاجت سے زائد مال کو خرچ کرنے کی تفصیل ہے کہ اسے محاسن میں خرچ کرو اور اپنے بھائیوں کو شفع ہونے دو۔ (مترجم)

لوگ اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس توکل کا حق ہے تو تم لوگوں کو اس طرح رزق عطا کیا جائے جس طرح پرندوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ❶

المبارک وعن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبدالله بن هبيرة عن ابي تميم الحيشاني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا.

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں اور ابو تمیم حیشانی کا نام عبداللہ بن مالک ہے۔

۲۱۶۲۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عہد نبوی ﷺ میں دو بھائی تھے ایک محنت مزدوری کرتا رہتا جب کہ دوسرا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ ایک مرتبہ مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی آپ ﷺ سے شکایت کی تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں بھی اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہو۔ ❷

(۲۱۶۲) حدثنا محمد بن بشار نا ابو داود نا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قال كان اخوان علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكا المحترف اخاه الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به.

۲۱۶۳۔ عبید اللہ بن مہسن خطمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ خوش حال تھا، بدن کے لحاظ سے تندرست تھا اور اس کے پاس اس دن کے لئے روزی موجود تھی تو گویا کہ اس کے لئے دنیا سمیٹ دی گئی۔

(۲۱۶۳) حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداح البغدادي قالا نا مروان بن معاوية نا عبدالرحمن بن ابي شميله الانصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الخطمي عن ابيه و كانت له صعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سر به معا في في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا.

باب ۱۲۷۵۔ گزارے کے لائق روزی پر صبر کرنا۔

۲۱۶۴۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک وہ شخص ہے جو کم مال والا، نماز میں زیادہ حصہ رکھے والا اور اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرنے والا نیز یہ کہ جو خلوت میں بھی اپنے رب کی اطاعت کرے، لوگوں میں چھپا رہے

باب ۱۲۷۵۔ ماجاء في الكفاف والصبر عليه (۲۱۶۴) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

❶ اس حدیث میں اس شایے کو ختم کیا گیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اگر خرچ کر دو گے توکل کیا کرو گے لہذا اگر پاس ہوگا توکل کام ہی آئے گا۔ چنانچہ فرمایا: اگر توکل کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ (مترجم)

❷ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ (مترجم)

❸ اس حدیث میں جمع مال کی حد متعین کر دی گئی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کئے جائیں۔ اس کا رزق بقدر کفایت ہو اور وہ اسی پر صبر کرتا ہو۔ پھر آنحضرت ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجائیں اور فرمایا، اس کی موت جلد آئے اور اس پر رونے والیاں کم ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی میراث بھی کم ہو اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے رب نے میرے لئے وادی بطحا کو سونا بنانے کی پیشکش کی میں نے عرض کیا نہیں اے میرے رب بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں یا فرمایا: تین دن تک یا اسی طرح کچھ فرمایا۔ اس لئے کہ جب میں بھوکا ہوں تو تجھ سے التجاء کروں اور عجز و انکساری بیان کرتے ہوئے تجھے یاد کروں اور جب سیر ہو جاؤں تو تیرا شکر اور تعریف و تحمید کروں۔

أَغْبَطَ أَوْلِيَاءِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِدُ وَحَظَّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاطَاعَتِهِ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُبْشِرُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مَنِيَّتَهُ، قُلْتُ بَوَاكِيهِ قُلْتُ تَرَأَاهُ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا قُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوُ هَذَا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ فَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمَدْتُكَ

اس باب میں فضالہ بن عبید سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور قاسم بن عبدالرحمن کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے اور وہ عبدالرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولیٰ ہیں۔ یہ شام سے تعلق رکھتے ہیں اور ثقہ ہیں جب کہ علی بن زید ضعیف ہیں ان کی کنیت عبدالملک ہے۔

۲۱۶۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام لایا اور اسے کفایت کے بقدر رزق عطا کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت دی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ①

(۲۱۶۵) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِي نَا سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرْحِبِيلَ بْنِ شَرِيكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَفَنَعَهُ اللَّهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۱۶۶۔ حضرت فضالہ بن عبید نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص کے لئے مبارک باد ہے جسے اسلام کی ہدایت ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی حاجت کے بقدر رزق عطا کیا گیا اور اس نے قناعت کا دامن نہ چھوڑا۔

(۲۱۶۶) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِي ثَنَا حَيُّوَةَ بْنُ شَرِيحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرٍو بَنِي مَالِكِ الْخَثَنِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هَدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَحَ

یہ حدیث صحیح ہے اور ابو ہانی خولانی کا نام حمید بن ہانی ہے۔

باب ۱۲۷۶ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفَقْرِ

باب ۱۲۷۶ فقر کی فضیلت۔

(۲۱۶۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ نِهَانَ بْنِ صَفْوَانَ
الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا رُوحَ بْنَ اسْلَمَ نَا شَدَادَ ابْنَ طَلْحَةَ
الرَّاسِيَّ عَنِ أَبِي الْوَارِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ
رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي
لَأُحِبُّكَ فَقَالَ انظُرْ مَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ نَجْفًا فَإِنَّ
الْفَقْرَ أَسْرَعَ إِلَيَّ مِنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّبِيلِ إِلَى مَنْتَهَاهُ

نضر بن علی بن اپنے والد سے اور وہ شداد بن ابی طلحہ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور

ابو اوزاع راہی: جابر بن عمرو بصری ہیں۔

باب ۱۲۷۷ مَا جَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ
الْحَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ

باب ۱۲۷۷ فقراء مہاجرین، اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

(۲۱۶۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ نَا زِيَادَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ
يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

۲۱۶۸۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقراء مہاجرین جنت میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

(۲۱۶۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ
نَا ثَابِتَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَابِدِ الْكُوفِيِّ نَا الْحَارِثَ بْنَ
نُعْمَانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْكِينًا وَأَمْتِنِي مُسْكِينًا
وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ
أَغْنِيَاءِهِمْ يَا رَبِّعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمُسْكِينِ
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرَبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۲۱۶۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور انہی میں موت دے اور پھر انہی میں سے دوبارہ زندہ کرنا۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا: اس لئے کہ یہ اغنیاء سے چالیس سال پیشتر جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ! کبھی کسی مسکین کو واپس نہ لو تاؤ اگر چہ اسے آدمی کھجور ہی کیوں نہ دو۔ اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں قریب کرے اس لئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازیں گے۔

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۱۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقراء جنت

(۲۱۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاقِيصَةَ نَا

میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے اور یہ قیامت کے دن کا آدھا حصہ ہے۔

سفیان عن محمد بن عمرو عن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخُمْسِ مِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۱۷۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے فقراء جنت میں اغنیاء سے چالیس برس پیشتر داخل ہوں گے۔

(۲۱۷۱) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي نَاسِعِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ هُمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۱۷۲۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقراء مسلمین جنت میں اغنیاء سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور وہ پانچ سو سال ہیں۔ ❶

(۲۱۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا الْمُجَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خُمْسُ مِائَةِ عَامٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۷۸۔ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے گھروالوں کا رہن سہن۔

باب ۱۲۷۸۔ مَا جَاءَ فِي مَعِيَشَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِهِ

۲۱۷۳۔ مسروق فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا اور فرمایا: میں اگر کوئی کھانا سیر ہو کر کھاتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور پھر میں روتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا: مجھے آنحضرت ﷺ کی دنیا سے رحلت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم آپ ﷺ کبھی ایک دن میں روئی اور گوشت سے دو

(۲۱۷۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَاعِبَادُ بْنُ عِبَادِ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ مَجَالِدِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ مَا شَبِعَ مِنْ طَعَامٍ فَاشَاءَ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بِكَيْتٍ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتْ أَذْكَرُ الْحَالِ الَّذِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ

یہ حدیث حسن ہے۔

❶ بعض روایات میں پانچ سو برس اور بعض میں چالیس برس کا ذکر ہے چنانچہ فقہروں کی دو قسمیں ہیں ایک قائل اور دوسرا غیر قائل لہذا پہلی قسم پانچ سو سال اور دوسری قسم چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۱۷۴۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی زندگی میں کبھی دو دن متواتر جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔

(۲۱۷۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَابُو دَاوُدَ نَابِئًا شَفِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعْبِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ۔

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۱۷۵۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اہل بیت کبھی آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں تین دن تک متواتر گیہوں کی روٹی سے سیر نہ ہوئے۔

(۲۱۷۵) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَالْمَحَارِبِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ النَّبْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۱۷۶۔ حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے گھر سے کبھی جو کی روٹی حاجت سے زائد نہ نکلتی تھی۔ (یعنی بقدر حاجت ہی ہوتی)

(۲۱۷۶) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ نَابِئًا بِحَيْبِي بْنِ أَبِي بَكْرِ نَابِئًا حَرِيْزُ بْنُ عَثْمَانَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ مَا كَانَ يُفَضَّلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعْبِيرِ۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۲۱۷۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے گھر والے کئی کئی راتیں خالی پیٹ سو جایا کرتے تھے۔ کیونکہ رات کو کچھ کھانے کے لئے نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان حضرات کی اکثر خوارک جو کی روٹی ہوا کرتی تھی۔

(۲۱۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ نَابِئًا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هَلَالِ بْنِ حَبَابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمَتَّابَةَ طَوِيلًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعْبِيرِ۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۱۷۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ! آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔

(۲۱۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ نَابِئًا وَكَبَيْعُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْنًا۔

یہ حدیث حسن ہے۔

(۲۱۷۹) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَعْفَرُ بِن سَلِيْمَانَ عَن نَّابِتٍ عَن اَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْجِرُ شَيْئًا لِيَغْدِي۔

۲۱۷۹۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کبھی کل کے لئے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔

یہ حدیث غریب ہے اور جعفر بن سلیمان کے علاوہ بھی مرسل منقول ہے۔

(۲۱۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا ابُو مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بِن عمرو نَا عبد الوارث عن سعيد بن ابی عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حيوان ولا أكل خبزاً مرققاً حتى مات۔

۲۱۸۰۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا۔ ۱۔ اسی طرح کبھی چپاتی نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ رحلت کر گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(۲۱۸۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفی نَا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار نَا ابُو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعنى الحواري فقال سهل ما راي رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله فقيل له هل كانت لكم مناخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخيل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفضه فيطير منه ما طار ثم نكويه فنعجنه۔

۲۱۸۱۔ حضرت سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ کیا آنحضرت ﷺ نے کبھی میدہ کھایا؟ فرمایا: آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں میدہ دیکھا تک نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا عہد نبوی ﷺ میں آپ لوگوں کے پاس چھدیاں ہوا کرتی تھیں؟ فرمایا: نہیں۔ عرض کیا گیا تو پھر جو کے آئے کو کس طرح چھانتے تھے؟ فرمایا: ہم لوگ چھونک مار لیا کرتے تھے جو اڑتا ہوتا اڑ جاتا باقی میں پانی ڈال کر گوندھ لیتے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے مالک بن انس نے بھی ابوحازم سے نقل کیا ہے۔

باب ۱۲۷۹۔ مَا جَاءَ فِي مَعِيْشَةِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب نمبر ۱۲۷۹ صحابہ کرام بن سہن۔

(۱۲۸۲) حَدَّثَنَا عمر بن اسمعيل بن محالد بن سعيدنا ابی عن بيان عن قيس قال سمعت سعد بن

۲۱۸۲۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے جہاد میں کفار کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اسی طرح جہاد میں پہلا تیر پھینکنے

۱۔ خوان چھوٹے میز کو کہتے ہیں جو کھانے ہی کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ میز سے چھوٹا ہے جب کہ زمین سے کچھ اونچا ہوتا ہے جس پر کھانا رکھا کر زمین پر بیٹھ کر آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ (مترجم)

والا بھی میں ہی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو ہم لوگ درختوں کے پتوں اور جملہ ❶ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بکریوں یا اونٹوں کی طرح بیگنیاں کرنے لگے۔ چنانچہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ مجھے دین میں طعن کرنے لگے (میں سوچنے لگا کہ) اگر میں ان کے طعن کے لائق ہوں تو میں خسارے میں رہ گیا اور میرے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔

أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَعْرُوفِي الْعَصَابَةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاكُلُ الْأَوْرَقِ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةَ حَتَّىٰ أَنْ أَحَدًا نَا لِيَضْعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحْتُ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَنْ وَضَلَّ عَمَلِي۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۱۸۳۔ حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے اس دوران ہم جملہ اور اس سر ❷ کو کھانے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ بکریوں کی طرح بیگنیاں کرتے۔ اس پر قبیلہ بنو اسد نے مجھے دین کی وجہ سے ملامت کرنی شروع کر دی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ایسا ہے تو میں تو برباد ہو گیا اور میری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ ❸

(۲۱۸۳) حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيدنا اسمعيل بن ابي خالدثني قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول اني اول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالنا طعاما الا الحبله وهذا السمر حتى ان احدنا ليضع كما تضع الشاة ثم اصبح بنو اسد يعزرونني في الدين لقد خبت اذا وصل عملي۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عقبہ بن غزو ان سے بھی روایت ہے۔

۲۱۸۴۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے پاس تھے ان کے پاس دوسرے رنگ کے کپڑے تھے انہوں نے اس میں سے ایک کپڑے سے ناک صاف کیا اور فرمایا: واہ واہ ابو ہریرہ آج اس کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے اور ایک زمانہ تھا کہ میں منبر رسول ﷺ اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان بھوک کی وجہ سے بڑھ چلا ہوا ہو کر گر گیا تو گزرنے والے یہ سمجھتے ہوئے میری گردن پر پاؤں رکھنے لگے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔

(۲۱۸۴) حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ابيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند ابي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في احدهما ثم قال بخ بخ يتمخط ابو هريرة في الكتان لقد رأيتني واني لا خير فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشياً علي فيحني الحائبي فيضع رجله علي عنقي يرى ان بي

❶ جملہ بول کے درخت کے پھل کو کہتے ہیں یہ یوپی کی طرح ہوتا ہے۔ (مترجم)

❷ سر یعنی بول کا درخت (مترجم)۔

❸ سعد بن مالک (ابو وقاص) قبیلہ بنو اسد کے امام تھے لوگوں نے انہیں نماز سکھانی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں۔ چنانچہ سعد سوچنے لگے اگر واقعی میری نماز صحیح نہیں تو میں اتنی مدت تک جو عمل کرتا رہا وہ تو بیکار ہو گیا اور میں گھانے میں رہ گیا لیکن ان لوگوں کا یہ الزام صحیح نہیں تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

الْحُنُونُ وَمَالِي جُنُونٌ وَمَاهُوَ إِلَّا الْجَوْعُ۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(۲۱۸۵) حدثنا العباس بن محمدنا عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة بن شريح ثني ابو هانئ الخولاني أن ابا علي عمر بن مالك الحنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يجر رجال من قامتهم في الصلوة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون مالكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة قال فضالة أنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۱۸۶) حدثنا محمد بن اسمعيل نا آدم بن ابی ایاس نا شيبان ابو معاوية نا عبد الملك بن عمر عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال وأنا قد وجدت بعض ذلك فأنطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلاً كثير النخل والشاء ولم يكن له خادم فلم يجدوه فقالوا لمرأته أين صاحبك فقالت انطلق

۲۱۸۵۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب نماز پڑھایا کرتے تو اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تو دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں چنانچہ جب رسول کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے اگر تم لوگ جان لو کہ اس فقر و فاقے پر اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر انعام و اکرام سے نوازیں گے تو تم لوگ اس سے بھی زیادہ فقر و فاقے کو پسند کرنے لگو۔ فضالہ کہتے ہیں میں اس دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا۔

۲۱۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ خلاف عادت (وقت میں) گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ ﷺ سے ملاقات کے لئے بھی کوئی نہیں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتنے میں ابو بکر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا: شرف ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ چہرہ انور ﷺ دیکھوں اور سلام عرض کروں اتنے میں عمر بھی آگئے آپ ﷺ نے ان سے بھی پوچھا کیسے آنا ہوا عمر؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! بھوک لئے آئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ چنانچہ تینوں حضرات ابو ہشیم بن تہیان انصاری کے گھر کی طرف چل دیئے ان کے پاس کھجوروں کے درخت اور بکریاں بکثرت تھیں۔ ان کے ہاں کوئی خادم نہیں تھا جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں نہ پا کر ان کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ عرض کیا: وہ ہمارے لئے بیٹھا پانی لینے گئے ہیں اتنے میں وہ ایک مشک اٹھائے ہوئے پہنچ گئے۔ پھر مشک رکھی اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ لپٹ گئے

اور کہنے لگے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنے باغ میں لے گئے اور چٹائی بچھا کر ان حضرات کو بٹھایا اور خود کھجور کے ایک درخت سے ایک گچھا توڑ کر لائے اور آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم کھجیاں چن کر کیوں نہیں لے آئے عرض کیا: میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات اپنی پسند سے کھائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے کھایا اور پانی پیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں، کھجیاں اور ٹھنڈا پانی ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے متعلق تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ پھر ابوہشیم ان حضرات کے لئے کھانے کا بندوبست کرنے کے لئے اٹھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی دودھ دینے والا جانور ذبح نہیں کرنا چنانچہ انہوں نے ایک اونٹ کا بچہ یا بکری کا بچہ ذبح کیا اور پکا کر پیش کیا۔ تو ان حضرات نے کھایا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں؟ عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو آنا (تھوڑے ہی دنوں میں) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دو قیدی پیش کئے گئے۔ تو ابوہشیم بھی حسب ارشاد حاضر خدمت ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے جسے چاہو لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ جو چاہیں دے دیں۔ فرمایا: جس سے مشورہ لیا جائے اس کے لئے صحیح مشورہ دینا ضروری ہے اور پھر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اس لئے کہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ابوہشیم اسے لے کر گھر آئے۔

آنحضرت ﷺ کی نصیحت اپنی بیوی کو بتائی۔ انہوں نے عرض کیا: تم آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی تعمیل اس صورت میں کر سکتے ہو کہ اسے آزاد کر دو۔ ابوہشیم کہنے لگے تو پھر یہی اسی وقت سے آزاد ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی یا خلیفہ کے ساتھ دو قسم کے رفقاء رکھتے ہیں ایک وہ جو اسے اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے خراب کرتے ہیں۔ لہذا جسے برے رفقاء سے نجات دے دی گئی وہ نجات پا گیا۔

يَسْتَعْدِبُ لَنَا الْمَاءَ وَلَمْ يَلْبِثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزُ عِبْهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَرِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْدِيهِ بِأَيِّهِ وَأَمِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيثِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطِئَهُمْ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْفٍ فَوَضَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا تَنْقِيتُ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ قَالَ تُخَيِّرُوا مِنْ رُطْبِهِ وَبُسْرِهِ فَأَكْلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذُبْحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَآتَا هُمْ بِهَا فَأَكَلُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا آتَانَا سَبِيٌّ فَاتِنَا فَاتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثُ فَاتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُمَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ اخْتَرْتُ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَاتِي رَأْيْتَهُ يُصَلِّيْ وَأَسْتَوْضِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِيَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ هُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَامِرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقِ بَطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے صالح بن عبداللہ بھی ابو عوانہ سے وہ عبدالملک بن عمیر سے اور وہ ابو سلمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے جب کہ یہ حدیث ابو عوانہ کی حدیث سے زیادہ طویل اور مکمل ہے۔ نیز شیبان ثقہ اور ذوالعلم ہیں۔

(۲۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا سِيَارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ إِسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجُوعِ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ۔

۲۱۸۷۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اپنی بھوک کی شدت بیان کی اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

(۲۱۸۸) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو الْآعُوْصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ ابْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَلَسْتُمْ فِيْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الذَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ۔

۲۱۸۸۔ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر نے فرمایا: تم لوگ جو چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو حالانکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو کبھی ادنیٰ قسم کی کھجور بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عوانہ اور کئی راوی اسے سماک بن حرب سے اس کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔ شعبہ یہی حدیث سماک سے وہ نعمان بن بشیر سے اور وہ حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۸۰۔ مَا جَاءَ أَلِ الْغِنَاغِنَى النَّفْسِ۔

(۲۱۸۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيْلِ بْنِ قَرِيْشٍ الْيَمَامِيُّ الْكُوفِيُّ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنَ عِيَاشٍ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَاغِنَى النَّفْسِ

۲۱۸۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: غنا سامارا اور اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو دل سے ہوتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۱۔ مَا جَاءَ فِيْ أَحْذِ الْمَالِ

(۲۱۹۰) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَعُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ هَذَا

۲۱۹۰۔ ابو ولید کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ بن عبدالمطلب کی بیوی خولہ بنت قیس سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ ہرا بھرا اور بیٹھا بیٹھا۔ جس نے اسے حق اور حلال طریقے سے حاصل کیا اس کے لئے اس میں برکت دے دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے

مال میں داخل ہونا چاہتے ہیں (یعنی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) ایسے شخص کے لئے قیامت کے دن صرف اور صرف دوزخ کی آگ ہے۔

الْمَالُ حَصْرَةٌ حُلُوءٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مَتَحَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو ولید کا نام عبید سطاء ہے۔

باب ۱۲۸۲۔

باب ۱۲۹۲۔ بلا عنوان۔

۲۱۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دینار اور درہم کے غلام کو طعون فرما دیا۔

(۲۱۹۱) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی ابو ہریرہؓ ہی سے مرفوعاً منقول ہے جو اس سے طویل ہے۔

باب ۱۲۸۳۔

باب ۱۲۸۳۔ بلا عنوان۔

۲۱۹۲۔ ابن کعب بن مالک انصاری اپنے والد سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیزے بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں تو بھی وہ اتنا فساد برپا نہ کریں جتنا مال و جاہ کی حرص انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔

(۲۱۹۲) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُنُوبَانِ جَاءَعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَلْهَا مِنْ حَرِصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

باب ۱۲۸۴۔

باب ۱۲۸۴۔ بلا عنوان۔

۲۱۹۳۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ (اپنے) بورے پر سے سوکراٹھے تو آپ ﷺ کے جسم مبارک پر اس کا نقش بن گیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے لئے ایک بچھونا بنا دیں فرمایا: مجھے دنیا سے کیا کام؟ میں تو دنیا میں اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا۔

(۲۱۹۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ نَازِيدُ بْنُ خَبَابٍ حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ نَاعِمُ بْنُ مَرَّةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ قَدْ أُرْفِيَ جَنْبُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ نَالَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبٍ اسْتِظَلَّ نَحْتِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۵۔

باب ۱۲۸۵۔ بلا عنوان۔

(۲۱۹۴) حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر
وابوداؤد قالانا زهير بن محمد بن موسى بن وردان
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر
أحدكم من يخاليل

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۲۸۶۔

باب ۱۲۸۶۔ بلا عنوان۔

(۲۱۹۵) حدثنا سويد نا عبدالله نا سفيان بن عيينة
عن عبدالله بن ابى بكر قال سمعت أنس بن مالك
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميتم ثلاث فيرجع
إثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله
فيرجع أهله وماله ويبقى عمله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۷۔ ماجاء فى كراهية كثرة الأكل

(۱۲۹۶) حدثنا سويدنا عبدالله بن المبارك نا
اسماعيل بن عياش ثنى ابو سلمة الحمصى وحبیب
بن صالح عن يحيى بن جابر الطائى عن مقدم بن
معدى كبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن
بحسب ابن آدم أكلا يقيم ضلته فان كان لا
محالة فقلت لطفامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

حسن بن عرفہ بھی اسماعیل بن عیاش سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۸۔ ماجاء فى الرياء والسمعة

باب ۱۲۸۸۔ ریا کاری اور شہرت کا متعلق۔

(۲۱۹۷) حدثنا ابو كريب نا معوية بن هشام عن

۲۱۹۷۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص

اس سے مراد یہ ہے کہ دوستی کرو تو کسی دیندار سے کرو کیونکہ محبت کا اثر لازماً ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۱۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی اپنے
دوست کے دین پر ہے لہذا اس سے چاہئے کہ دوستی کرتے وقت دیکھ لے کہ
کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ①

۲۱۹۵۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت
کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہیں رہ
جاتی ہے۔ واپس آنے والی چیزیں اس کا اہل اور مال ہے جب کہ اس
کے ساتھ رہ جانے والی چیز اس کا عمل ہے۔

باب ۱۲۸۷۔ زیادہ کھانے کی ممانعت۔

۲۱۹۶۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے
فرمایا: آدمی پیٹ سے بدر کوئی تھیلی نہیں بھرتا چنانچہ ابن آدم کے لئے کمر
سیدھی رکھنے کے لئے چند تھلے کافی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو
پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کے لئے دوسرا پانی کے لئے اور
تیسرا سانس لینے کے لئے۔

لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے پلے (نیک) اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت لوگوں کو دکھا اور سنا دیتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔

شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرأى يرأى الله به ومن يسمع يسمع الله به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

اس باب جندب اور عبد اللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۲۱۹۸- حضرت صفیاءؓ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے گرد جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا گیا: ابو ہریرہؓ۔ میں بھی ان کے قریب ہوتا ہوتا ان کے سامنے جا بیٹھا۔ وہ لوگوں سے احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور اچھی طرح سمجھا ہو۔ فرمایا: ضرور بیان کروں گا۔ پھر چیخ ماری اور بہوش ہو گئے۔ جب افاتہ ہوا تو فرمایا: میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ ﷺ نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کی تھی اس وقت میرے اور آپ ﷺ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو ہریرہؓ نے بہت زور سے چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا اور منہ کے بل نیچے کرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا اور کافی دیر تک سہارا دیئے کھڑا رہا۔ پھر انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے نزول فرمائیں گے۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی۔ چنانچہ جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ وہ تین شخص ہوں گے ایک حافظ قرآن، دوسرا شہید اور تیسرا دولت مند شخص۔ اللہ تعالیٰ قاری سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: تو نے اپنے حاصل کردہ علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اسے دن و رات پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو اسی طرح فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ

(۲۱۹۸) حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك نا حيوة بن شريح نا الوليد بن ابى الوليد ابو عثمان المدائني ان عقبه بن مسلم حدثه ان شفياء الاصمعي انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة فذنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وحلا قلت له اسالك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال ابو هريرة افعل لاحد نك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشع ابو هريرة نشعة فمكثنا قليلا ثم افاق فقال لاحد نك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وما معنا احد غيري وغيره ثم نشع نشعة شديدة ثم افاق ومسح وجهه وقال افعل لاحد نك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشع نشعة شديدة ثم مال خارا على وجهه فاستدته طويلا ثم افاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقيضي بينهم وكل امة جاثية فاول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير

فرمائیں گے کہ تم اس لئے ایسا کرتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے (یعنی شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے ایسے کیا کرتے تھے) چنانچہ وہ تو کہہ دیا گیا پھر مالدار آدمی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں بے انتہا مال نہیں دیا تا کہ تم کسی کے محتاج نہ ہو۔ عرض کرے گا: جی ہاں اے رب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: تو پھر تم نے اس کا کیا کیا؟ عرض کرے گا میں اس سے صلہ رحمی کرتا اور صدقہ خیرات دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو فرشتے بھی اسی طرح کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم چاہتے تھے کہ لوگ مجھے سخی کہیں چنانچہ وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر شہید پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم کس لئے قتل کئے گئے؟ وہ عرض کرے گا: یا اللہ آپ نے جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا اور اس دوران قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اور فرشتے کہیں گے نہیں بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں کتنا بہادر ہے اور وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے میرے گھسنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ابو ہریرہؓ یہ وہ تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے سلگائی جائے گی۔

الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِي أَلَمْ أَعْلَمَكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: بَلَى أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلَانَ قَارِي فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَوْسِعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدْعُكَ تَحْتَاجُ إِلَيَّ أَحَدٍ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتَكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ: الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلَى أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلَانَ جَوَادٌ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِيمَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أَمَرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ: الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلَى أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلَانَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ولید ابو عثمان مدائنی، عقبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شفیاء وہی ہیں جنہوں نے معاویہ کو یہ حدیث سنائی۔ ابو عثمان، معاویہ کے جلاذ علماء بن ابی حکیم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص معاویہ کے پاس آیا اور یہ حدیث سنائی تو انہوں نے فرمایا: کہ اگر ان تینوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ پھر معاویہ اتاروئے کہ ہم سوچنے لگے کہ وہ اب فوت ہو جائیں گے اور یہ شخص اپنے ساتھ شر لے کر آیا ہے۔ لیکن پھر معاویہ ہوش میں آئے اور اپنا منہ پونچھ کر فرمایا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ سچے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ من کان یوید..... الآية. (ترجمہ: جو شخص محض دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔) (چنانچہ) جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ناکارہ اور جو کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۲۸۹۔ بلا عنوان۔

باب ۱۲۸۹۔

۲۱۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم کے

(۲۱۹۹) حدثنا ابو کریب نا المحاربی عن عمار

ایک گڑھے سے اللہ کی پناہ مانگو جس سے جہنم بھی دن میں سو مرتبہ پناہ ماں
مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا: ریا
کار قاری۔

بن سیف الضبی عن ابی معان البصری عن ابن
سیرین عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی
تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ حُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
حُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَنَّمَ
كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ
الْقُرَاءُ وَالْمَرْءُ وَنَبَاغَمَالِهِمْ۔

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۲۹۰۔ بلا عنوان۔

باب ۱۲۹۰۔

۲۲۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو اپنے کسی نیک عمل
کو چھپاتا ہے۔ لیکن جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو بھی وہ اس کے ظاہر
ہو جانے کو پسند کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے لئے دواجر ہیں
ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر ہو جانے کا۔

۲۲۰۰۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ نا ابوداؤد نا
ابوسنان الشیبانی عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی
صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
الرجل یعمل العمل فیسیره فاذا اطلع علیہ اعجبه
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له اجران
اجر السیر واجر العلانیۃ

یہ حدیث غریب ہے۔ اعمش بھی حبیب بن ابی ثابت سے اور وہ ابوصالح سے یہ حدیث مرسل نقل کرتے ہیں بعض علماء اس
حدیث کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب اس کی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے
اور اسے آخرت میں بہتر معاملے کی امید ہوتی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اللہ کی زمین پر گواہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے اس
سے مطلع ہونے کو اس لئے پسند کرے کہ وہ اس کی تعظیم و تکریم کریں گے تو یہ ریا کاری ہے جب کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کے اس کی
بھلائی سے مطلع ہونے پر خوشی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی اس نیک کام میں اس کی اتباع کریں گے اور اسے بھی اجر ملے گا۔ تو یہ ایک مناسب
بات ہے۔

باب ۱۲۹۱۔ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبوب رکھے گا۔

باب ۱۲۹۱۔ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

۲۲۰۱۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی
اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ پسند کرے گا اور اسے اپنے کئے ہوئے عمل کا ہی
اجر ملے گا۔

(۲۲۰۱) حدثنا ابوہشام الرفاعی نا حفص بن
غیاث عن اشعث عن الحسن بن انس بن مالک
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع
من احب و له ما اكتسب

اس باب میں علیؑ، عبداللہ بن مسعودؓ، صفوان بن عسالؓ، ابو ہریرہؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث حسن بصری
کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۲۲۰۲۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت

(۲۲۰۲) حدثنا علی بن حجر نا اسمعیل بن جعفر

میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور جب فارغ ہوئے تو پوچھا: سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ! فرمایا: تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا: میں نے اس کی تیاری میں لمبی لمبی نمازیں اور بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اس بات سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہیں دیکھا۔

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَامِعُ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَمَا رَأَيْتَ فَرَحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ إِسْلَامٍ فَرَحَهُمْ بِهَا

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۰۳۔ حضرت صفوان بن عسالؓ کہتے ہیں کہ ایک بلند آواز والا دیہاتی آیا اور عرض کیا: اے محمد! اگر کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہو لیکن عمل میں ان کے برابر نہ ہو تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(۲۲۰۳) حدثنا محمود بن غيلان نا يحيى بن ادم نا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء اعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرامع من احب وانت مع من احببت فما رايت فرح المسلمين بعد اسلام فرحهم بها

یہ حدیث صحیح ہے۔ احمد بن عبدہ نفسی بھی اسے حماد بن زید سے وہ عاصم سے وہ زر سے وہ صفوان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۹۲۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا۔

باب ۱۲۹۲۔ فی حسن الظن باللہ تعالیٰ

۲۲۰۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا: کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

(۲۲۰۴) حدثنا ابو كريب ناوكيع من جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۳۔ نیکی اور بدی کے متعلق۔

باب ۱۲۹۳۔ ما جاء في البر والائتم

۲۲۰۵۔ حضرت نواس بن سحان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ سے نیکی اور بدی کے متعلق پوچھا تو فرمایا: نیکی عمدہ اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس سے مطلع ہونا پسند نہ

۲۲۰۵۔ حدثنا موسى بن عبدالرحمن الكندي الكوفي نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح ثني عبدالرحمن جبير بن نفيير الحضرمي عن ابيه عن

النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِيمَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِيمَانُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

بندار بھی عبدالرحمن بن مہدی سے وہ معاویہ بن صالح سے اور وہ عبدالرحمن سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سوال کرنے والے وہ خود ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۴۔ اللہ کے لئے محبت کرتا۔

باب ۱۲۹۴۔ مَا جَاءَ فِي الْحُبِّ فِي اللَّهِ

(۲۲۰۶) حدثنا احمد بن منيع نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقان نا حبيب بن ابى مرزوق عن عطاء بن ابى رباح عن ابى مسلم الخولانى نبي معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في حلالي لهم متاب من نور يعبطهم النبيون والشهداء

۲۲۰۶۔ حضرت معاذؓ آنحضرت ﷺ سے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میری (جلیل الشان) ذات کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کے لئے نور کے ایسے منبر ہوں گے کہ پیغمبر اور شہداء بھی ان پر شریک کریں گے۔

اس باب میں ابورداء، ابن مسعود، عبادہ بن صامت، ابوما لک اشعری اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن

صحیح ہے۔ اور ابو مسلم خولانی کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔

۲۲۰۷۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس روز اللہ تعالیٰ سات شخصوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ۱۔ عادل حاکم۔ ۲۔ وہ جوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نشوونما پائی ہو۔ ۳۔ وہ شخص جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپس مسجد جانے تک اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے۔ ۴۔ ایسے دو شخص جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں۔ ۵۔ وہ شخص جو تہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ۶۔ وہ شخص جسے حسین و جمیل اور حسب نسب والی عورت زنا کے لئے بلائے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ۷۔ ایسا شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

(۲۲۰۷) حدثنا الانصاري نا معن نا مالك عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة او عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل مكان قلبه معلقا بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعت امرأة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مالک بن انس سے بھی کئی سندوں سے اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں شک ہے کہ ابو ہریرہؓ راوی

ہیں یا ابوسعید۔ پھر عبداللہ بن عمر بھی اسے خبیث بن عبدالرحمن سے وہ حفص بن عاصم سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ سوار بن عبداللہ اور محمد بن شہابی سے یحییٰ بن سعید سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ طیب بن عبدالرحمن سے وہ حفص بن عاصم سے اور وہ ابو ہریرہ سے مرفوعاً مالک ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور ذات حسب کی جگہ ذات منصب کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۹۵۔ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اسے بتا دیا جائے۔

۲۲۰۸۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی کسی بھائی کو پسند کرے اور اس سے محبت کرے تو اسے چاہئے کہ اسے بتادے۔

باب ۱۲۹۵۔ مَا جَاءَ فِي إِعْلَامِ الْحَبِّ

(۲۲۰۸) حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا يَحْيَىٰ بِنِ سَعِيدِ الْقَطَانَ نَائِرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُعَلِّمُهُ آيَاهُ

اس میں ابو ذرؓ اور انسؓ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۲۰۹۔ حضرت یزید بن نعام ضعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی کسی سے بھائی چارگی قائم کر لے تو اس سے اس کا نام، اس کے والد کا نام اور یہ کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے پوچھ لے۔ اس لئے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔

(۲۲۰۹) حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَقَتِيْبَةُ قَالَا نَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَعِيلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَسْلَمِ الْقَصِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الضَّعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ یزید کا آنحضرت ﷺ سے سماع ہے یا نہیں۔ ابن عمرؓ سے بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث منقول ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

باب ۱۲۹۶۔ مدح اور مدح کرنے والوں کے متعلق۔

۲۲۱۰۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور امراء میں سے ایک امیر کی تعریف کرنے لگا۔ تو مقداد بن اسود نے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی اور فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالیں۔

باب ۱۲۹۶۔ كَرَاهِيَةِ الْمَدْحَةِ وَالْمَدَّاحِينَ

(۲۲۱۰) حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ سَفِيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاءِ فَجَعَلَ الْمُقَدَّادُ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَحْتَوِي فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْتَوِي وَوَجْوهُ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ زائدہ بھی یہ حدیث یزید بن ابی زیاد سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو معمر کا نام عبداللہ بن سخرہ ہے اور مقداد بن اسود: مقداد بن عمرو کندی ہیں ان کی کنیت ابو معبد ہے۔ یہ اسود بن عبد یغوث کی طرف منسوب ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں انہیں متنبی کیا تھا۔

۲۲۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مدح کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈالنے کا حکم دیا۔

(۲۲۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْكُوفِيُّ نَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَالِمِ الْخِطَائِطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ نَارِسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْتُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ
یہ حدیث ابو ہریرہؓ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۲۹۷۔ مؤمن کی صحبت

۲۲۱۲۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ صرف مؤمن ہی کی صحبت اختیار کرو اور متقی آدمی ہی کو کھانا کھاؤ۔

باب ۱۲۹۷۔ مَا جَاءَ فِي صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ
(۲۲۱۲) حَدَّثَنَا سُؤِيدُ بْنُ نَصْرَانَ عَبْدَ اللَّهِ الْمُبَارِكُ عَنْ حِيَوَةَ بْنِ شَرِيحٍ نَا سَالِمِ بْنِ غِيلَانَ ابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ التَّجِيبِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَلَّمَ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ
اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۹۸۔ مصیب پر صبر کرنا۔

۲۲۱۳۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے عذاب میں جلدی کر کے ہیں اور دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: زیادہ ثواب بڑی آزمائش یا مصیبت پر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں لہذا جو راضی ہو جائے اس کے لئے رضا اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔

باب ۱۲۹۸۔ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

(۲۲۱۳) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِدُنْيِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَظْمَ الْحَزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَا هُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۲۱۴۔ حضرت ابووائلؓ، حضرت عائشہؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے درد سے شدید کسی کا درد نہیں دیکھا۔

(۲۲۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۲۱۵- حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون لوگ زیادہ آزمائش میں مبتلا کئے جاتے ہیں؟ فرمایا: انبیاء پھر ان کے مثل اور پھر ان کے مثل (یعنی اطاعت الہی اور اتباع سنت میں) پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر دین پر سختی سے کاربند ہوتا ہے تو امتحان میں سخت ہوتا ہے اور اگر دین میں نرم ہوتا ہے تو آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر وہ آزمائش اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔

(۲۲۱۵) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَاشِرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعِبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ الْإِنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلَ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاءُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ، يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ حَاطِيَةٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۲۱۶- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن مرد و عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہے کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں اور کبھی مال میں۔ یہاں تک کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔

(۲۲۱۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَائِبُ زَيْدِ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ حَاطِيَةٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ اور حدیفہ بن یمانؓ کی بہن سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۲۹۹- بینائی زائل ہو جانے کے متعلق۔

۲۲۱۷- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی بندے سے دنیا میں اس کی آنکھیں سلب کر لیں تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔

باب ۱۲۹۹- ما جاء في ذهاب البصر

(۲۲۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو ظَلَّالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور زید بن ارقمؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ابو ظلال کا نام ہلال ہے۔

۲۲۱۸- حضرت ابو ہریرہؓ مرثیہ یہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے اگر کسی بندے کی بینائی زائل کر دی اور اس نے اس آزمائش پر صبر کیا اور مجھ سے ثواب کی امید رکھی تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ دینے پر کبھی راضی نہیں ہوں گا۔

(۲۲۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدِ الرَّزَاقِ نَاسِفِينَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيَّتَهُ فَصَبِرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ، تَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عرباض بن ساریہ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۲۲۱۹۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کتر دی جاتیں تاکہ انہیں بھی اسی طرح اجر ملتا۔

(۲۲۱۹) حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالانا عبد الرحمن بن معمر ابو زهير عن الاعمش عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرصت في الدنيا بالمقاريض

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اعمش سے بھی نقل کرتے ہیں وہ طلحہ بن مصرف سے اور وہ سروق سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔

۲۲۲۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں جو موت کے بعد نادم نہ ہو۔ عرض کیا گیا: کس چیز پر ندامت کرے گا؟ فرمایا: نیک شخص اس پر کہ میں نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کیں اور اگر بد ہو گا تو خود کو اس برائی سے نہ نکالنے پر ندامت کرے گا۔

(۲۲۲۰) حدثنا سويد بن نصر نا عبد الله بن المبارك نا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يموت الا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله قال ان كان محسنا ندم ان لا يكون اژداد وان كان مسينا ندم ان لا يكون نزع

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ شعبہ، یحییٰ بن عبد اللہ کو ضعیف کہتے ہیں۔

۲۲۲۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین سے حاصل کریں گے۔ وہ (لوگوں کو دکھانے اور اپنا معتقد بنانے کے لئے) دنیوں کی کھال کا لباس پہنیں گے۔ اور ان کی زبانیں چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی جب کہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم لوگ میرے سامنے غرور کرتے اور مجھ پر اتنی زأت رکھتے ہو۔ میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان میں ایک ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ ان کا ہر دہاڑا ترن شخص بھی حیران رہ جائے گا۔

(۲۲۲۱) حدثنا سويد نا ابن المبارك نا يحيى ابن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان رجال يحتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الدين السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الدياب يقول الله ابي يعترون ام على تجترءون و فبي حلفت لا بعثن على اوليك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۲۲۲۲۔ حضرت ابن عمرؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

(۲۲۲۲) حدثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا

• دنیوں کی کھال سے مراد خود کھال کا لباس بھی ہو سکتا ہے اور ایسے موٹے جھوٹے کپڑے جو ریاکارانہ درویشی جتانے کے لئے لوگ پہنتے ہیں تاکہ لوگ ان کے معتقد ہو جائیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

نے ارشاد فرمایا: میں نے ایسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں جن کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل ایلوے بھی زیادہ کڑوے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان میں سے عقل مند شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ کیا وہ لوگ میرے سامنے گھنڈ کرتے ہیں یا میرے سامنے اتنی جرات رکھتے ہیں۔

محمد بن عبادنا حاتم بن اسمعیل نا حمزة بن ابی محمد عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالیٰ قال لقد خلقت خلقا لیسنتھم اھلی من العسل وقلوبھم امر من الصیر فیہی خلقت لایتحنھم فتنۃ تدع الحلیم منھم حیرانا فیہی تغتروں ام علی تجترہ وک

یہ حدیث ابن عمر کی روایت سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۰۔ زبان کی حفاظت کرنا۔

باب ۱۳۰۰۔ ما جاء فی حفظ اللسان

۲۲۲۳۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر روتے رہو۔

(۲۲۲۳) حدثنا صالح بن عبد اللہ نا ابن المبارک ح وثنا سويد بن نصرنا عبد اللہ بن المبارک عن یحییٰ بن ایوب عن عبید بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ ما النجاة قال املكک علیک لسانک ولسعک ببتک وابلک علی خطیبتک

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۲۲۴۔ حضرت ابو سعید خدریؓ مروفاً نقل کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان سے النجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرہم بھی تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہو جائے تو ہم سب سیدھے ہو جائیں اور تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

(۲۲۲۴) حدثنا محمد بن موسی البصری نا حماد بن زید عن ابی الصہباء عن سعید بن جبیر عن ابی سعید بن الخدری رفعہ قال اذا اصبح بن ادم فان الاعضاء کلھا تکفر اللسان فتقول اتی اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمتم استقمنا وان اعوججت اعوججتنا

ہنا دیکھی ابواسامہ سے اور وہ حماد بن زید سے اسی حدیث کی طرح غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ مذکورہ

حدیث کو ہم صرف حماد کی روایت سے جانتے ہیں۔ کئی راوی اسے حماد بن زید سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۲۲۲۵۔ حضرت ہبل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

(۲۲۲۵) حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی نا عمر بن علی المقدمی عن ابی حازم عن سہل بن سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتوکل لی ما بین لحيیہ وما بین

رَجُلِيهِ اتَوَكَّلُ لَهُ بِالْحَنَّةِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

(۲۲۲۶) حدثنا ابو سعید الاشج (ابو خالد الاحمر) عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شراً بین لخبیبہ و شراً بین رجليہ دخل الجنة

۲۲۲۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زبان اور شرم گاہ کے شر سے محفوظ کر دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو حازم جو اہل بن سعد سے احادیث نقل کرتے ہیں وہ ابو حازم زاہد مدینی ہیں ان کا نام مسلم بن دینار ہے جب کہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرنے والے ابو حازم کا نام سلمان شجعی ہے اور وہ عمرہ اشجعیہ کے مولیٰ ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔

(۲۲۴۷) حدثنا سوید بن نصرنا عبد اللہ بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ حدیثی بأمر اعتصم به قال قل ربی اللہ ثم استقیم قال قلت یا رسول اللہ ما أخوف ما تخاف علی فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا

۲۲۴۷۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر مضبوطی سے عمل کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر قائم رہو۔ ۱۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا: اس سے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

(۲۲۲۸) حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن ابی ثلج البغدادی صاحب احمد بن حنبل ثنا علی بن حفص نا ابراهیم بن عبد اللہ بن حاطب عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثیر الکلام بغير ذکر اللہ فان کثرة الکلام بغير ذکر اللہ فسوة للقلب وان ابعث الناس من اللہ القلب القاسی

۲۲۲۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہوتا ہے۔

ابو بکر بن ابی نصر بھی ابو نصر سے وہ ابراہیم سے وہ عبد اللہ بن دینار سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن عبد اللہ بن حاطب کی روایت سے جانتے ہیں۔

(۲۲۲۹) حدثنا محمد بن بشار و غیر واحد قالوا نا محمد بن یزید بن خنیس المکی قال

۲۲۲۹۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ فرمایا: انسان اپنی تمام باتوں کا مسئول ہے۔ وہاں البتہ امر

۱ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا زبان سے اقرار کرنا اور اسی پر استقامت کے ساتھ کار بند رہنا۔ اس میں پوری دینداری شامل ہے۔ (مترجم)

بالمعروف ونہی عن المنکر اور ذکر الہی اس سے مستثنیٰ ہیں۔

سمعت سعید بن حسان المخزومی قال حدثني
ام صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا
أمر بمعروف أو نهى عن المنكر أو ذكر الله

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن یزید بن جنیس کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب۔ بلا عنوان۔

باب ۱۳۰۱۔

۲۲۳۰۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان
کو ابوورداء کا بھائی بنا لیا تو ایک مرتبہ سلمان ابوورداء سے ملنے کے لئے
آئے اور ام ورداء کو میلی کھیل حالت میں دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا
انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابوورداء کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ پھر
ابوورداء آگئے اور سلمان کے سامنے کھانا لگا دیا اور کہنے لگے کہ تم کھاؤ میں
روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا: میں ہرگز اس وقت تک نہیں کھاؤں گا
جب تک تم میرے ساتھ شریک نہیں ہو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر
ابوورداء نے کھانا شروع کر دیا۔ رات ہوئی تو ابوورداء نماز شب ادا کرنے
کے لئے جانے لگے لیکن سلمان نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ سو جاؤ۔
چنانچہ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ جانے لگے تو اس مرتبہ بھی سلمان
نے انہیں سلا دیا۔ پھر جب صبح قریب ہوئی تو سلمان نے انہیں کہا کہ اب
اٹھو۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور نماز پڑھی پھر سلمان نے فرمایا: تمہارے نفس
کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے مہمان کا
بھی تم پر حق ہے اور اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا ہر
صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سلمان
نے ٹھیک کہا۔

۲۲۳۰۔ حدثنا محمد بن بشار نا جعفر بن عون
نا ابو العمیس عن عون بن أبي جحيفة قال
اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان و
أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء
مبتدلة قال ما شانك مبتدلة قالت إن أخاك أبا
الدرداء ليس له حاجة في الدنيا قالت فلما جاء
أبو الدرداء فرب إليه طعام فقال كل فإني بصائم قال
ما أنا بأكل حتى تأكل قال فاكل فلما كان الليل
ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم
ذهب ليقوم قال له نم فنام فلما كان عند الصبح
فقال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن
لنفسك عليك حقا و لربك عليك حقا و لصيفك
عليك حقا و إن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي
حقوقه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
ذلك له فقال صدق سلمان

یہ حدیث صحیح ہے اور ابوعمیس کا نام عتبہ بن عبد اللہ ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عبد اللہ مسعودی کے بھائی ہیں۔

باب ۱۳۰۲۔ بلا عنوان۔

باب ۱۳۰۲۔

۲۲۳۱۔ حضرت عبد الوہاب بن دردمینہ کے ایک شخص سے نقل کرتے
ہیں کہ معاویہ نے حضرت عائشہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں

(۲۲۳۱) حدثنا سويد بن ابی نصرنا عبد الله بن
المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من

نصیحتیں ہوں۔ لیکن زیادہ نہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ عائشہؓ نے معاویہؓ کو لکھا سلام علیک اما بعد! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کے غصے میں تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دیں گے اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے انہی کے سپرد کر دیں گے۔ ❶ والسلام علیک۔

أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ اُكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ قَالَ فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَمَسَّ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَأَهُ اللَّهُ مُؤَنَةَ النَّاسِ وَمَنْ تَمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

محمد بن یحییٰ بھی محمد بن یوسف سے وہ سفیان سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کو اسی کے ہم معنی حدیث تحریر کی لیکن وہ اسے مرفوع نہیں کرتے۔

قیامت کے متعلق ابواب

أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

باب ۱۳۰۳۔ حساب و قصاص کے متعلق

باب ۱۳۰۳۔ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ

۲۲۳۲۔ حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہ کریں اور اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ بائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس طرف بھی اس کے کئے ہوئے اعمال ہی ہوں گے۔ پھر جب سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے دوزخ نظر آئے گی۔ لہذا اگر کسی میں اتنی بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر دوزخ کی آگ سے بچا سکے تو اسے چاہئے کہ ایسا ہی کرے۔

(۲۲۳۲) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيَكْلِمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَسَتَقْبِلُهُ النَّارُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْقَى وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔

۲۲۳۳۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے متعلق نہیں پوچھ لیا جائے گا۔ ۱۔ اس نے عمر کس چیز میں صرف کی۔ ۲۔ جوانی کہاں خرچ کی۔ ۳۔ مال کہاں سے کمایا۔ ۴۔ مال کہاں خرچ کیا۔ ۵۔ جو کچھ سیکھا اس

(۲۲۳۳) حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثنا حصين بن نمير ابو محسن نا حسين بن قيس الرحبي نا عطاء بن ابى رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدماء ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن

❶ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کا متلاشی ہوگا اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح اپنی رضا بھی عنایت کریں گے جب کہ اگر وہ لوگوں کی رضا مندی سے اسے ترک کر دے گا۔ اور خدا کی رضا عدم رضا کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ کبھی لوگوں کو اسے ایذا و تکلیف پہنچانے کے لئے مسلط کر دیں گے اور اپنی مدد سے محروم کر دیں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

حَمْسٍ عَنْ عُمَرُہِ فِیْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِہِ فِیْمَا أَبْلَاهُ
وَعَنْ مَالِہِ مِنْ أَيْنِ اِکْتَسَبَہُ وَفِیْمَا أَنْفَقَہُ وَمَا ذَا
عَمِلَ فِیْمَا عَلِمَ۔

پرکتنا عمل کیا۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حسین بن قیس کی سند سے پہچانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور اس باب میں ابو ہریرہ اور ابو سعید

سے بھی احادیث منقول ہیں۔

(۲۲۳۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بِنِ عِيَاشِ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
أَبِي بَرَزَةَ الْآسَلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ
عَنْ عُمُرِهِ فِیْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِہِ فِیْمَا فَعَلَ وَعَنْ
مَالِہِ مِنْ أَيْنِ اِکْتَسَبَہُ وَفِیْمَا أَنْفَقَہُ وَعَنْ جِسْمِہِ
فِیْمَا أَبْلَاهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور سعید بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، اسلمی کے مولیٰ ہیں ابو ہریرہ اسلمی کا نام خضلد بن عبید ہے۔

(۲۲۳۵) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ
مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مَنْ أَمْتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ
هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا
فَيَقْعُدُ فَيُقْتَصَّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ
الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ
فِي النَّارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۲۳۶) حَدَّثَنَا هِنَادٌ وَنَصْرٌ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

۲۲۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

۲۲۳۴۔ حضرت ابو ہریرہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے قدم بارگاہ خداوندی سے نہیں ہٹ سکیں گے تا آنکہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا، اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور اپنا جسم کس چیز میں مبتلا کیا۔

۲۲۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتباً آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا: ایسا شخص جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غضب کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ لہذا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا ظلم ابھی باقی ہوگا۔ چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لا دیا جائے گا اور پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

ایسے شخص پر رحم کریں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کیا ہو اور پھر وہ آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے اس کے پاس آ کر اپنے ظلم کو معاف کرائے۔ کیونکہ اس دن تو نہ درہم ہوگا اور نہ دینار۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس ظلم کے بدلے میں مظلوموں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔

الکوفی قالنا المحاربی عن ابی خالد یزید بن عبدالرحمن عن زید بن ابی انیسۃ عن سعید المقبری عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبداً کانت لایحیہ عنده مظلماً فی عرض او مال فحآءه فاستحلہ قبل ان یؤخذ ولیس ثم دینار ولا درهم فان کانت له حسنات أخذ من حسناتہ وان لم تکن له حسنات حملوا علیہ من سیئاتہم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس بھی اسے سعید مقبری سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۲۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل حقوق کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کرنا ہوں گے۔ یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔

(۲۲۳۷) حدثنا قتیبۃ نا عبدالعزیز بن محمد بن العلاء بن عبدالرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤن الحقوق إلى أهلها حتی تقاد الشاة الجلیجاء من الشاة القرناء

اس باب میں ابو ذر اور عبداللہ بن انیس بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۰۴۔ بلا عنوان۔

باب ۱۳۰۴۔

۲۲۳۸۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج بندوں سے صرف ایک یا دو میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ﷺ نے کون سے میل مراد لئے۔ زمین کی مسافت والے یا سرے کی سلائی۔ پھر فرمایا: کہ سورج لوگوں کو پگھلانا شروع کر دے گا چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: گویا کہ اسے لگام ڈال دی گئی ہو۔

(۲۲۳۸) حدثنا سوید بن نصرنا ابن المبارک نا عبدالرحمن بن یزید بن جابرثنی سلیم بن عامرنا المقداد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إذا کان یوم القیامۃ أد نبت الشمس من العباد حتی یكون فیئد میل او اثنتین قال سلیم بن عامر لا أدری ای المیلین عنی أمسافة الأرض أم المیل الذی یحل بہ العین قال فتصهرهم الشمس فکونون فی العرق بقدر أعمالہم فمنہم من یاخذہ إلى عقیبہ ومنہم من یاخذہ إلى رکتیہ ومنہم من یاخذہ إلى حقوتہ ومنہم من یلجمہ الجاما فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدئہ إلى فیہ ای یلجمہ الجاما

اس باب میں ابن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو زکریا بھی حماد بن زید سے وہ ایوب سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے یہی حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حماد کہتے ہیں۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے۔ ”یوم یقوم الناس لرب العالمین“ یعنی جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پسینہ ان کے آدھے کانوں تک ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہناد بھی عیسیٰ سے وہ ابن عون سے وہ نافع سے وہ ابن عمرؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۰۵۔ حشر کے میدان کے متعلق۔

باب ۱۳۲۰۔ مَا جَاءَ فِي شَانَ الْحَشْرِ

۲۲۳۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگ قیامت کے دن ننگے پیرو بدن اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کئے جائیں گے جس طرح کہ انہیں پیدا کیا گیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”کَمَا بَدَأْنَا..... الْآيَةَ.“ (یعنی جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے) پھر مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ۱۔ پھر میرے صحابہ میں سے بعض کو دائیں اور بعض کو بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے رب یہ میرے اصحاب ہیں۔ ۲۔ کہا جائے گا۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی تھیں۔ ۳۔ جس دن سے آپ نے انہیں چھوڑا یہ اسی دن سے اپنی ایڑیوں پر پیچھے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ چنانچہ میں عبد صالح کی طرح عرض کروں گا کہ اے رب اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو بھی آپ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔

(۲۲۳۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ نَا سَفِينُ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عَرَاءٍ غُرْلًا كَمَا خُلِقُوا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِي بِرِجَالِ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَارَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَنْدَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

محمد بن بشار اور محمد بن ثنی بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ مغیرہ سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

(۲۲۴۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَائِبُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا بَهْزُبْنُ حَكِيمٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْرَوْنَ عَلَى

۲۲۴۰۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میدان حشر میں تم لوگوں کو پیدل اور سواری پر جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔

۱۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی کے کپڑے تار کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔ (مترجم) ۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی شرط ایمان اور عمل صالح ہیں نہ کہ کسی دلی یا بیرونی کی محبت کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ رسول ﷺ کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے۔ (مترجم) ۳۔ یہاں بدعت پر عمل پیرا ہونے اور اسے پیدا کرنے کو گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ (مترجم)

وَجُوهِكُمْ

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

باب ۱۳۰۶۔ مَا جَاءَ فِي الْعَرَضِ

(۲۲۴۱) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَادِيرٌ وَأَمَّا الْعَرَضَةُ الثَّلَاثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطْيِيرُ الصُّحُفِ فِي الْأَيْدِي فَاحِذْ بِبَيْمِنِهِ وَاحِذْ بِشِمَالِهِ۔

باب ۱۳۰۶۔ آخرت میں لوگوں کا پیش کیا جانا۔

۲۲۴۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ تین مرتبہ پیش کئے جائیں گے پہلی دو مرتبہ تو گفت و شنید اور عفو و درگزر ہوگی جب کہ تیسری مرتبہ نامہ اعمال ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔ چنانچہ کوئی دائیں ہاتھ میں اور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا۔

یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس لئے کہ حسن کا ابو ہریرہؓ سے سماع ثابت نہیں۔ لہذا اس کی سند متصل نہیں۔ بعض اسے علی بن علی رفاعی سے وہ حسن سے وہ ابوموسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۰۷۔ مِنْهُ

(۲۲۴۲) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ يَقُولُ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِبَيْمِنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرَضُ۔

باب ۱۳۰۷۔ اسی کے متعلق۔

۲۲۴۲۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کا حساب کتاب سختی سے کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو فرمایا: وہ تو اعمال کا سامنے کرنا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایوب بھی اسے ابن ابی ملیکہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۰۸۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۳۰۸۔ مِنْهُ

۲۲۴۳۔ حضرت انسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بھڑیے کے بچے کی طرح حقارت کے ساتھ لایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں دولت۔ غلام و لونڈیاں اور بہت سے انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھایا اور جتنا تھا اس

(۲۲۴۳) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ مَسْلَمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِأَبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَدِخٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ أَعْطَيْتَكَ وَحَوْلَتِكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ جَمَعْتُهُ

سے زیادہ کر کے دنیا میں چھوڑ دیا۔ آپ مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ میں پورے کا پورا لے کر حاضر ہو سکوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے صدقہ و خیرات وغیرہ میں کیا دیا؟ وہ دوبارہ اسی طرح عرض کرے گا۔ چنانچہ جو شخص کسی نیک کام میں خرچ نہیں کرے گا اس کا یہی حال ہوگا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

امام ترندی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی راوی حسن سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔ اسماعیل بن مسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

۲۲۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ کیا میں نے تجھے آنکھ، کان، مال، اولاد وغیرہ نہیں دی تھی اور کیا تیرے لئے چوپایوں اور کھیتوں کو مسخر نہیں کر دیا تھا۔ پھر تجھے تیری قوم کا سردار بننے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ تو ان سے چوتھائی (مال وصول) کیا کرے۔ کیا تیرے گمان میں بھی تھا کہ ایک دن تجھے مجھ سے ملنا ہے اور وہ آج کا دن ہے۔ وہ عرض کرے گا: نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر میں بھی تجھے آج اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔

باب ۱۳۰۹۔ اسی سے متعلق۔

۲۲۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”یَوْمَ نُنذِرُ أَخْبَارَهَا“ (یعنی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی) کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا خبریں ہوں گی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن یہ ہر غلام و باندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے اس پر کیا کیا اعمال کئے ہیں چنانچہ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن مجھ پر یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز کا حکم دیا ہے۔

وَتَمَرْتُهُ، وَتَرَكَتُهُ، أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كَلِمَةً فَيَقُولُ لَهُ، أَرِنِي مَا قَدَّمْتُمْ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ، وَتَمَرْتُهُ، أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِهِ كَلِمَةً فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيَمُضِي بِهِ إِلَى النَّارِ

(۲۲۴۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ نَامَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ التَّمِيمِيُّ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ، أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَ سَحْرَتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكَتُكَ تَرَأْسَ وَ تَرْبَعُ فَكُنْتَ تَنْظُرُ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ يَوْمَكَ هَذَا فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي

باب ۱۳۰۹۔ مِنْهُ

(۲۲۴۵) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ عَبْدُ اللَّهِ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَنْذَرُونَ مَا أَخْبَارَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَعْلَمَ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمَلٌ كَذَّابٌ وَكَذَّابٌ فِي يَوْمٍ كَذَّابًا وَكَذَّابٌ قَالَ بِهَذَا أَمَرَهَا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۱۰۔ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ

باب ۱۳۱۰۔ صور کے متعلق۔

(۲۲۴۶) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا
سَلِيمَانَ التَّمِيمِيَّ عَنِ اسْمَعِيلِ الْعَجَلِيِّ عَنِ بَشْرِ بْنِ
شِغَاوٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
الصُّورُ قَالَ قُرْآنٌ يَنْفُخُ فِيهِ

۲۲۴۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں۔ کہ ایک دیہاتی
خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ صور کیا ہے؟ فرمایا: یہ ایک
سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی راوی اسے سلمانؓ تکلی سے نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف انہی کی سند سے پہچانتے ہیں۔

(۲۲۴۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدِ اللَّهِ نَا خَالِدٌ أَبُو الْعَلَاءِ
عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقُرْآنِ قَدْ
انْتَقَمَ الْقُرْآنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ
فَكَانَ ذَلِكَ ثَقْلًا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

۲۲۴۷۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں
کس طرح آرام کروں جب کہ اسرائیل نے صور میں منہ لگایا ہوا
ہے اور ان کے کان اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ کب پھونکنے کا حکم
دیں اور وہ پھونکیں۔ یہ بات صحابہؓ کے دلوں پر گراں ثابت ہوئی
چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اس طرح کہو۔ ”حسبنا
اللہ..... الحدیث“ یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین وکیل
ہے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے عطیہ سے بحوالہ ابوسعیدؓ مروا ہے اس کی طرح منقول ہے۔

باب ۱۳۱۱۔ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَاطِ

باب ۱۳۱۱۔ پل صراط کے متعلق۔

(۲۲۴۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ
مَسْعُورٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ النُّعْمَانَ
بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

۲۲۴۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مؤمنوں کا پل صراط پر یہ شعار ہوگا ”رب سلم سلم“ اے رب
سلامت رکھ، سلامت رکھ۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمن بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

(۲۲۴۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ
نَا بَدَلُ الْمَحِيرِ نَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ الْإِنصَارِيِّ
أَبُو الْخَطَّابِ نَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَإِنِ أَطْلَبُكَ قَالَ أَطْلَبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى

۲۲۴۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ
سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی تو فرمایا: میں کروں
گا۔ میں نے عرض کیا: میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: پہلے پل
صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا: اگر آپ وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا:
پھر میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو؟
فرمایا: پھر حوض کوثر پر دیکھ لینا میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں

الصِّرَاطِ قُلْتُ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ
فَأَطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُحْطِي هَذِهِ
الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۱۲۔ شفاعت کے متعلق۔

باب ۱۳۱۲۔ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

۲۲۵۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں دسی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے اسے کھایا چونکہ آپ ﷺ اسے پسند کرتے تھے۔ لہذا آپ ﷺ نے اسے دانوں سے نونچ نونچ کر کھایا۔ پھر فرمایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو کیوں؟ اس طرح کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں اس طرح اکٹھا کریں گے کہ انہیں ایک شخص اپنی آواز سنا سکے گا۔ اور وہ انہیں دیکھ سکے گا۔ سورج اس دن لوگوں سے قریب ہوگا لوگ اس قدر غم و کرب میں مبتلا ہوں گے کہ اس کے تحمل نہیں ہو سکیں گے چنانچہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم لوگ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیا تم لوگ کسی شفاعت کرنے والے کو نہیں تلاش کرتے؟ اس پر کچھ لوگ کہیں گے کہ آدمؑ کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ لہذا آج آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ ہماری مصیبت کا اندازہ نہیں کر رہے؟ آدمؑ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت آج شدید غصے میں ہیں ایسا غصہ کہ نہ آج سے پہلے کبھی آیا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے ان کی نافرمانی کی لہذا میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ (نفسی، نفسی، نفسی) تم لوگ کسی اور کو تلاش کرو۔ ہاں نوحؑ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ حضرت نوحؑ کے پاس

(۲۲۵۰) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحِمُ فَرَفِعَ إِلَيْهِ الزَّرَّاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَهَشَّ مِنْهُ نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفُذُ هُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَتَحَمَّلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَّغَكُمْ إِلَّا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ إِلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ أَدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ إِلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ إِلَّا تَرَى

آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح آپ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے کے خطاب سے نوازا ہے۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے کیا آپ ہماری حالت اور مصیبت کا اندازہ نہیں کر رہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں کہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول کرنے کے لئے کہا تھا کہ تم ایک دعا مانگ لو میں اسے قبول کروں گا۔ میں نے اپنی قوم کے لئے ہلاکت کی دعا مانگ کر اس موقع کو ضائع کر دیا۔ (نفسی.....) تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ ابراہیم کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا ابراہیم! آپ زمین والوں کے لئے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی اسی طرح جواب دیں گے کہ آج میرا رب شدید غصے میں ہے..... الخ جب کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے۔ ۱ میں تم لوگوں کی شفاعت نہیں کر سکتا (نفسی.....) تم لوگ کسی اور کو تلاش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور ہم کلام ہونے کے شرف سے نوازا۔ آج آپ ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس تکلیف و کرب میں مبتلا ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں جواب دیں گے کہ میرا رب آج شدید غصے میں ہے..... الخ میں نے ایک قطعی کو قتل کر دیا تھا لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ (نفسی.....) تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام تک پہنچایا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہیں پھر

مَا قَد بَلَّغْنَا فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ، مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَحَلِيلُهُ، مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَاسْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ، مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرْهُنَّ أَبُو حَيَّانٍ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ إِسْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ، مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوِّحَ مِنْهُ وَكَلِمَتِ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ إِسْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكَرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ

• ابو حیان نے اپنی حدیث میں ان تین جھوٹوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں۔ ۱۔ جب کفار نے انہیں بلایا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ ۲۔ جب کفار نے پوچھا کہ کیا ان بتوں کو آپ نے توڑا ہے تو فرمایا: یا اس بڑے کا کام ہے۔ ۳۔ جب ایک جابر بادشاہ پر سے گزر رہا تو اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا۔ (مترجم)

آپ نے گود میں ہونے کے باوجود لوگوں سے بات کی۔ ہماری مصیبت کا اندازہ کیجئے اور ہماری شفاعت کیجئے وہ بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح وہی جواب دیں گے اور کہیں گے (نفسی.....) تم لوگ محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ وہ لوگ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے محمد (ﷺ) آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے آپ اللہ رب العزت سے ہماری شفاعت کیجئے کیونکہ ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میری زبان اور دل سے اپنی حمد و ثناء اور تعظیم کے وہ الفاظ جاری کریں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے۔ پھر کہا جائے گا: اے محمد (ﷺ) سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے رب میں اپنی امت کی نجات اور فلاح کا طلب گار ہوں..... اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے محمد (ﷺ) آپ کی امت میں سے جن لوگوں پر حساب و کتاب نہیں انہیں جنت کے دائیں جانب کے دروازے سے داخل کر دیجئے اور وہ لوگ دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہونے کے مجاز ہوں گے۔ پھر آپ (ﷺ) نے فرمایا: قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت کے دروازوں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور بحر یا مکہ اور بصری کے درمیان کا فاصلہ۔

اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، انسؓ، عقبہ بن عامر اور ابوسعید بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۱۲۔ اسی کے متعلق۔

۲۲۵۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا میں اپنی امت میں اہل کبار کی شفاعت کروں گا۔ ①

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَأَتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَجْرُسُاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَاحِسَابٍ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَايَ ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبَصْرَى

باب ۱۳۱۴۔ منہ

(۲۲۵۱) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَارِ مِنْ أُمَّتِي

① شفاعت کی چھ قسمیں ہیں۔

۱۔ حساب و کتاب شروع کرنے کے لئے آپ (ﷺ) کی شفاعت جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے جس سے دوسرے انبیاء انکار کر دیں گے یہ آنحضرت (ﷺ) کے ساتھ مخصوص ہے۔ ۲۔ جنت میں داخل ہونے کے لئے۔ ۳۔ جن پر دوزخ واجب ہوگئی ہوگی ان کی شفاعت۔ ۴۔ گناہوں کی سزا جھٹکنے والے دوزخیوں کی وہاں سے نکالے جانے کے لئے شفاعت، اسی شفاعت میں ملائکہ، انبیاء اور مومنین بھی شریک ہوں گے۔ ۵۔ درجات کی بلندی کے لئے شفاعت۔ ۶۔ آنحضرت (ﷺ) کی اپنے چچا ابوطالب کے لئے شفاعت جس کی وجہ سے ان پر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں جا بڑے سے بھی حدیث منقول ہے۔ مذکورہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۲۵۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں اپنی امت میں سے اہل کبار کی شفاعت کروں گا محمد بن علی کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر نے فرمایا: اے محمد! جو لوگ اہل کبار کے زمرے میں نہیں آتے ان سے شفاعت کا کیا تعلق۔

(۲۲۵۲) حدثنا محمد بن بشار نا ابو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتى لأهل الكباير من أمتي قال محمد بن علي قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكباير فماله وللشفاعة

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۲۲۵۳۔ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب و عذاب جنت میں داخل کریں گے پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار۔ یہ میرے رب کے تین لپ کے برابر ہوں گے۔

(۲۲۵۳) حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاني قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً وتلك حثيات من حثيات ربي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۲۵۴۔ حضرت عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایلیاء کے مقام پر ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول بیان کیا: میری امت میں سے ایک شخص کی شفاعت سے قیدہ بنو تمیم کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! آپ کے علاوہ؟ فرمایا: ہاں۔ پھر جب حدیث بیان کرنے والے کھڑے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابن ابی الجذعاء ہیں۔

(۲۲۵۴) حدثنا ابو كريب ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بالبياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم قيل يا رسول الله سيواك قال سيواى فلما قام قلت من هذا قالوا هذا ابن أبي الجذعاء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن ابی جذعاء کا نام عبد اللہ ہے ان کی صرف یہی حدیث ہے۔

۲۲۵۵۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے کوئی کئی جماعتوں کی شفاعت کرے گا، کوئی ایک قبیلے کی، کوئی چھوٹی جماعت کی (دس سے چالیس تک) اور کوئی صرف ایک آدمی کی شفاعت کرے گا پھر وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔

(۲۲۵۵) حدثنا الحسين بن حرث نا الفضل بن موسى عن زكريا بن ابي زائدة عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفقام من الناس ومنهم من يشفع

لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ
لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۲۵۶۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے کوئی آیا اور مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے یا میں شفاعت کا حق لے لوں میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور وہ صرف اس کے لئے ہوگی جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو۔

(۲۲۵۶) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَبِي الْمَلِجِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ نَالِ اشْجَعِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِّنْ
عِنْدِ رَبِّي فَخَبَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ
وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ
لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

یہ حدیث ابویحییٰ سے بھی بحوالہ ایک صحابی مرفوعاً منقول ہے اس میں عوف بن مالک کا ذکر نہیں۔

باب ۱۳۱۵۔ حوض کوثر کے متعلق۔

باب ۱۳۱۵ (ما جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَوْضِ

۲۲۵۷۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میرے حوض میں آسمان کے ستاروں کے برابر صراحیاں ہیں۔

(۲۲۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَالِ بَشْرِ بْنِ شَعِيبٍ
بْنِ أَبِي حَمْرَةَ ثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ بِنُ
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي
حَوْضِي مِنَ الْآبَارِيقِ بَعْدَ نَجْمِ السَّمَاءِ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۲۵۸۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آجس میں ایک دوسرے پر اپنے حوض سے زیادہ پینے والوں (کی تعداد) پر فخر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ پینے والے ہوں گے۔

(۲۲۵۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ نَيْزِكِ الْبَغْدَادِيِّ
نَالِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ اللَّمْشَقِيِّ نَالِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ
أَيْهِمْ أَكْثَرَ وَارِدَةً وَأَبَى أَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً

یہ حدیث غریب ہے۔ اشعث بن عبد الملک بھی اسے حسن سے اور وہ آنحضرت سے مرسل نقل کرتے ہیں اس میں سمرہ کا ذکر نہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۳۱۶۔ حوض کوثر کے برتن۔

باب ۱۳۱۶۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ آوَانِي
الْحَوْضِ

۲۲۵۹۔ ابو سلام حبشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلوایا۔ چنانچہ میں خنجر پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا تو عرض کیا: اے امیر

(۲۲۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَالِ يَحْيَىٰ بِنِ
صَالِحِ نَالِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهَاجِرِ عَنِ الْعِيَّاسِ عَنِ أَبِي سَلَامٍ
الْحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَمَلْتُ

المؤمنین مجھ پر چجر کی سواری شاق گزری ہے۔ انہوں نے فرمایا: اسے ابوسلام میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ لیکن میں نے اس لئے تکلیف دی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ثوبانؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ خود آپ سے سنوں ابوسلام نے بیان کیا کہ ثوبانؓ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا کہ: میرا حوض عدن سے عمان تک (کی مسافت میں) ہے۔ ❶ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے گلاس آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ جس نے اس سے ایک مرتبہ پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس پر سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سر گرد سے اٹے ہوئے اور کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، جو لوگ ناز پروردہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے اور جن کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ❷ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سن کر فرمایا: لیکن میں نے تو ایسی عورت سے نکاح کیا ہے۔ میرے لئے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، چنانچہ میں نے فاطمہ بنت عبدالمکک سے نکاح کیا ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اپنا سراس وقت تک نہیں دھوتا۔ جب تک وہ چمکتا نہ جائے اور اسی طرح اپنے بدن پر لگے ہوئے کپڑے بھی میلے ہونے سے پہلے نہیں دھوتا۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور معدان بن ابی طلحہ سے بھی ثوبان کے حوالے سے مرفوعاً منقول ہے۔ ابوسلام حبشی کا نام مطور ہے۔

۲۲۶۰۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے اور ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے کہ جس میں بادل بالکل نہ ہوں پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہے۔ جس نے اس سے ایک مرتبہ پی لیا اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اس کی

عَلَى الْبَرِيدِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ مَرْكَبِي الْبَرِيدُ فَقَالَ يَا أَبَا سَلَامٍ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَّغْتَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثُوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ أَبُو سَلَامٍ حَدَّثَنِي ثُوبَانٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِي مِنْ عَدْنِ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ وَمَاءُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّيْنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلَ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثَ رَأَى وَسَا الدُّنْسِ يَتَابَا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ قَالَ عُمَرُ لِكَيْفِي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِمَاتِ وَفَتِحَتْ لِي السَّدَدُ نَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا جَرَمَ لِي لَا أَعْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشَعَّتْ وَلَا أَعْسِلُ ثُوبِي الَّذِي يَلْبِي جَسَدِي حَتَّى يَتَسَخَّ

(۲۲۶۰) حدثنا محمد بن بشارنا ابو عبد الصمد العمى عبد العزيز بن عبد الصمد نا ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصمامت عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله ما ائنة الحوض قال والذئ نفسي بيده لا ائنته اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصححة من ائنة الجنة من شرب منها لم يظما

❶ حوض کی بڑائی کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں اس کی وسعت آ جائے نہ کہ اس سے مراد مقدار کا تعین ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) ❷ یعنی اگر وہ لوگ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو انہیں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں انتہائی مجرور و عسکری کے ساتھ رہے ہیں۔ (مترجم)

چوڑائی بھی لمبائی ہی کی طرح ہوگی یعنی عمان سے ایلہ تک۔ نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔

اٰخِرَ مَا عَلِيْهِ غَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَانَ اِلَى اَيْلَةَ
مَاءٌ هَا اَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس باب میں حدیفہ بن یمان، عبداللہ بن عمرو، ابو ہریرہ سلمی، ابن عمر، حارث بن وہب اور مستور بن شداد سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عمر سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرا حوض کوفہ سے حجر اسود تک ہے۔

باب ۱۳۱۷۔ بلا عنوان۔

باب ۱۳۱۷۔

۲۲۶۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ معراج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کا ایسے نبی یا نبیوں پر گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک رہط تھا۔ ❶ پھر ایسے نبی یا انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ آپ سر کو بلند کیجئے اور دیکھئے۔ فرمایا: اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ایک جم غفیر ہے جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا یہ آپ ﷺ کی امت ہے اور اس کے علاوہ ستر ہزار آدمی اور ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ گھر چلے گئے، نہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ اور نہ ہی آپ ﷺ نے بتایا۔ چنانچہ بعض حضرات کہنے لگے کہ شاید وہ ہم لوگ ہوں۔ جب کہ بعض کا خیال تھا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ اتنے میں آنحضرت ﷺ دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا: وہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں ❷ اور نہ ہی بد فالی لیتے ہیں ❸ بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اس پر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا: میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں؟ فرمایا: عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

(۲۲۶۱) حَدَّثَنَا ابُو حَصِيْنٍ عَبْدِ اللّٰهِ اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَصِيْنٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيِّينَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ اَحَدٌ حَتَّى مَرَّ بِسُوَادٍ عَظِيْمٍ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَيَلَّ مُوسَى وَ قَوْمُهُ، وَلَكِنْ اَرْفَعُ رَأْسَكَ فَانظُرْ قَالَ فَاِذَا هُوَ سُوَادٌ عَظِيْمٌ قَدْ سَدَّ اَلْفَوْقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ فَقِيْلَ هُوَ لَآءِ اُمَّتِكَ وَ سِوَاى هُوَ لَآءِ مَنْ اُمَّتِكَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوْهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْنُ هُمْ وَقَالَ قَاتِلُوْا هُمْ اَبْنَاءُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا عَلٰى الْفِطْرَةِ وَاِلْسْلَامِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ الَّذِيْنَ لَا يَكْتُرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَحْكُمُوْنَ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مُحْسِنٍ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ جَاءَهُ اٰخِرٌ فَقَالَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ سَنَعَكَ بِهَا عَكَاشَةُ

اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریرہؓ بھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۲۶۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعِ الْبَصْرِيُّ ۲۲۶۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرمایا: کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی

❶ رہط ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کی تعداد دس سے کم ہو بعض چالیس تک کی تعداد کو بھی رہط ہی کے زمرے میں داخل کرتے ہیں۔ (مترجم) ❷ اس سے مراد وہ ستر اور جھاڑ پھونک ہے جس میں شرک کا احتمال ہوتا ہے۔ ❸ یعنی اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کرتے (مترجم)

جس پر عہد نبوی ﷺ میں عمل پیرا تھے۔ راوی نے عرض کیا: نماز ویسی ہی نہیں؟ فرمایا: کیا تم لوگوں نے نماز میں بھی ایسی چیز نہیں پیدا کر دی ہے جسے تم جانتے ہو۔

نا زیاد بن الربيع نا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أين الصلوة قال أولم تصنعوا في صلواتكم ما قد علمتم

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے انس سے منقول ہے۔

۲۲۶۳۔ حضرت اسماء بنت عمیس شعمیہ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کتنا برا ہے وہ بندہ جس نے خیال خام میں مبتلا ہو کر غرور کیا پھر خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا۔ پھر وہ شخص بھی کتنا بدتر ہے جس نے تکبر کیا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی پھر جبار کو بھول گیا اسی طرح وہ شخص بھی جو کھیل کود میں مشغول ہو کر قبروں اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو بھول گیا۔ نیز وہ بندہ بھی جس نے حد سے تجاوز کیا اور سرکشی کی اور اپنی ابتداء خلقت اور انتہاء کو بھول گیا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دیا۔ پھر وہ بندہ بھی کتنا برا ہے جو دین کو شہادت کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے اور وہ بندہ جسے لالچ کھینچنے پھرتی ہے اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی حرص ذلیل کر دیتی ہے۔

(۲۲۶۳) حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا هشام بن سعيد الكوفي ثنى زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تحيل واختال ونسي الكبير المتعال وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي جبار الأعلى بئس العبد عبد سهى ولهي ونسي المقابر والبلبي بئس العبد عبد عتا وطفى ونسي المبتدأ والمتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد طمع يفوده بئس العبد عبد هوى يضلّه بئس العبد عبد رغب يذله

ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند صحیح ہے۔

۲۲۶۴۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مؤمن کسی دوسرے مؤمن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائیں گے۔ اور جو مؤمن کسی پیاسے مؤمن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خالص سر بہر شراب پلائیں گے۔ اور اگر کوئی مؤمن کسی ضرورت مند مؤمن کو کپڑے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا سبز جوڑا پہنائیں گے۔

(۲۲۶۴) حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا عمار بن محمد بن اخت سفین الثوري نا ابو الجارود الاعمى واسمه زياد بن المنذر المهداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق المختوم وأيما مؤمن كسا مؤمناً على عرى كساه الله من خضر الجنة

یعنی اس میں بھی سستی اور کالی برتنے ہو۔ (مترجم)

یہ حدیث غریب ہے اور عطیہ سے بھی منقول ہے وہ اسے ابو سعید سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے۔

(۲۲۶۵) حدثنا ابو بکر بن ابی النضرنا ابو النضرنا ابو عقیل الثقفی نا ابو فروة یزید بن سنان التیمی ثنی بکیر بن فیروز قال سمعت اباهریره یقول قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اذْلَجَ وَمَنْ اذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اِلَّا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ اِلَّا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْحَنَّةُ

۲۲۶۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو ذرا وہ پوری رات چلا اور جو پوری رات چلا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ ❶ جان لو کہ اللہ کا سامان (تجارت) بہت مہنگا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ وہ سامان جنت ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو نضر کی روایت سے جانتے ہیں۔

(۲۲۶۶) حدثنا ابو بکر بن ابی النضرنا ابو النضر ثنی ابو عقیل عبد الله بن عقیل نا عبد الله بن یزید ثنی ربیعة بن یزید و عطیة بن قیس عن عطیة السعدی وکان من اصحاب النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَّعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدَرًا اِلْمَا بِهِ بَأْسٌ

۲۲۶۶۔ حضرت عطیہ سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک متقیوں کے درجے پر نہیں پہنچ سکے گا جب تک کسی مباح چیز کو اس چیز سے بچنے کے لئے نہ چھوڑ دے جو مشتبہات میں سے ہو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

(۲۲۶۷) حدثنا عباس العنبری نا ابو داود نا عمران القطان عن قتادة عن یزید بن عبد الله الشخیر عن حنظلة الأسیدی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ غِنْدِي لَا ظَلَمْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِاجْحَنِهَا

۲۲۶۷۔ حضرت حنظلہ اسیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کے دل اسی طرح رہیں جس طرح میرے پاس ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے تم پر سایہ کریں۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی نئی سندوں سے منقول ہے۔ اور اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث

نقل کی گئی ہے۔

(۲۲۶۸) حدثنا یوسف بن سلمان ابو عمر البصری نا حاتم بن اسمعیل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی هریره عن النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ

۲۲۶۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کی ابتداء میں ایک حرص اور چستی ہوتی ہے اور ہر حرص و چستی کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ متوسط چال چلے گا اور حق سے نزدیک ہوتا جائے گا تو اس کے متعلق اچھی امید رکھو۔ ❶ لیکن اگر اس کی طرف

❶ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور نیک اعمال کے لئے سعی کی اور اس طرح چلتا رہا وہ نجات پا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم) ❶ یعنی ہر چیز کی ابتداء میں ایک حرص اور چستی ہوتی ہے اور اسے ذوق و شوق ہوتا ہے چنانچہ اگر وہ افراط و تفریط سے بچا رہے گا تو امید ہے کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی شہرت ایسی ہوئی کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں اور لوگ اس کے بارے میں کہنے لگیں یہ بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے تو اس کا فتنے سے بچنا مشکل ہے۔ الایہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَإِنْ صَاحِبُهَا
سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ
فَلَا تَعُدُّوهُ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے مالک بن انس بھی آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آدمی کو اتنا شریک کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔ الا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

۲۲۶۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ہمارے لئے ایک لکیر کھینچی اور اس سے مربع بنایا پھر اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی اور اسے اس چوکور خانے سے باہر تک لے گئے۔ پھر درمیان والی لکیر کے ارد گرد کئی لکیریں کھینچیں پھر درمیان والی لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ابن آدم ہے اور یہ ارد گرد اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ درمیان میں انسان ہے اور اس کے ارد گرد کھینچے ہوئے خطوط اس کی آفات اور مصیبتیں ہیں۔ اگر وہ ان سے نجات پا جائے تو یہ خط اسے لے لیتا ہے اور یہ لمبی لکیر اس کی امید ہے یعنی جو مربع ہے باہر ہے۔ ①

(۲۲۶۹) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا سفين عن ابيه عن ابي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم تعاو خط في وسط الخط خطا وخط خارجا من الخط وحول الذي في الوسط خطوطا فقال لهذا ابن آدم وهذا أجله مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ الْإِنْسَانُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ عُرُوضُهُ إِنْ نَجَّاهُ يَنْهَشُهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۷۰۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب انسان بوزھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جو ان ہونے لگتی ہیں۔ مال اور طویل زندگی کی حرص۔

(۲۲۷۰) حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرم بن آدم وَ تَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۷۱۔ حضرت عبداللہ بن شہیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسان کی تخلیق اس صورت میں کی گئی کہ اس کے دونوں جانب ننانوے موتیں ہیں اگر وہ ان سے بچ نکلے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

(۲۲۷۱) حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصرى نا ابو قتيبة سلم بن قتيبة نا ابو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم و الى جنبه تسعة وتسعون منية ان اخطاته المنايا وقع في الهرم

۲۲۷۲۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب دو تہائی رات گزر

(۲۲۷۲) حدثنا هناد نا قبيصة عن سفيان عن

① اس کی توضیح یہ ہے: امید۔ موت۔ انسان۔ یہ تمام لکیریں آفات و مصائب ہیں۔

عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن الطقیل بن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال یا ایہا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الرجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال ابی قلیت یارسول اللہ انی اکر الصلوة علیک فکم اجعل لک من صلوتی قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک قلت فالیصف قال ما شئت وان زدت فهو خیر قلت فقلنی قال ما شئت فان زدت فهو خیر قلت اجعل لک صلوتی کلها قال اذا تکفی همک ویغفر ذنبک

یہ حدیث حسن ہے۔

(۲۷۷۳) حدیثنا یحیی بن موسیٰ نا محمد بن عبید عن ابان بن اسحاق عن الصباح بن محمد عن مرّة الهمدانی عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحيوا من اللہ حق الحیاء قلنا یا نبی اللہ انا نستحیی والحمد لله قال لیس ذاک ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعی وتحفظ البطن وما حوی وتتذکر الموت والبلی ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیی یعنی من اللہ حق الحیاء

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

(۲۷۷۴) حدیثنا سفین بن وکیع نا عیسیٰ بن یونس

۲۷۷۴- حضرت شداد بن اوسؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

۱ یعنی ہم محرمات اور کبائر سے بچتے ہیں۔ (مترجم) ۲ ”جو کچھ اس میں ہے“ سے مراد آنکھ، کان اور زبان وغیرہ ہیں اور ان کی حفاظت یہ ہے کہ انہیں ناجائز باتوں سے دور رکھے۔ (مترجم) ۳ یعنی حرام اور شبہات کی چیزوں سے پرہیز کرو اور زہد اختیار کرو اور جو کچھ اس میں ہے سے مراد شرم گاہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ ہیں کہ انہیں محرمات سے بچائے۔ (مترجم)

جاتی تو آنحضرت ﷺ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: اے لوگو! اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ صور (پھونکنے) کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا۔ پھر موت بھی اپنی تختیوں کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ ﷺ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں۔ لہذا اس کے لئے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا: جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا اپنی عبادت کے وقت کا چوتھا حصہ مقرر کر لوں؟ فرمایا: جتنا چاہو کر لو۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: آدھا وقت؟ فرمایا: جتنا چاہو لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: دو تہائی وقت؟ فرمایا: جتنا چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں اپنے وظیفے کے پورے وقت میں آپ ﷺ پر درود پڑھا کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر اس سے تمہاری تمام فکریں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۲۷۷۳- حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ کا شکر ہے کہ ہم اکتے حیا کرتے ہیں۔ ۱ فرمایا: ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ ۲ پھر بیٹ اور اس نے جو کچھ اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو۔ ۳ اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو۔ اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دیر کی زینت کو ترک کر دے گا چنانچہ جس نے یہ سب کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔

عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو عبادت میں لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے جب کہ بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ کی رحمت پر غرور کرے۔ ❶

عن ابی بکر بن ابی مریم حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن ناعمر بن عوف نا ابن المبارک عن ابی بکر بن ابی مریم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله

یہ حدیث حسن ہے۔ اور ”من ان نفسه“ کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کے حساب سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کرے۔ عمر بن خطابؓ سے منقول ہے کہ اپنے نفس کا قیامت کے دن کے حساب سے پہلے محاسبہ کرو اور آخرت کی پیشی کے لئے پہلے سے تیاری کرو۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ میمون بن مہران سے منقول ہے کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے اور وہ بھی اس طرح جیسے اپنے شریک کے ساتھ حساب کرتا ہے۔ پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھے کہ وہ حرام سے ہے یا حلال سے یا شبہات سے۔

۲۲۷۵۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ اپنے مصلیٰ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم لوگ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو بکثرت یاد کرو تو تم لوگوں کو اس حالت میں کبھی نہ دیکھوں جس میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ لہذا موت کو بکثرت یاد کیا کرو کوئی قبر ایسی نہیں جو روزانہ اس طرح نہ پکارتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں۔ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر جب اس میں کوئی مؤمن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو وہ اسے مرحبا و اہلا کہہ کر خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر جو لوگ چلتے ہیں تو مجھے ان سب میں محبوب تھا۔ اب تجھے میرے سپرد کر دیا گیا ہے تو اب تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ پھر وہ اس کے حدنگاہ تک وسیع ہو جائے گی اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فاجر یا کافر دفن ہوتا ہے تو اسے قبر خوش آمدید نہیں کہتی بلکہ ”لا مرحبا ولا اہلا“ کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم سب سے زیادہ مبغوض شخص تھے۔ آج جب تمہیں میرے سپرد کیا گیا ہے تو تم میری بدسلوکی بھی دیکھو گے۔ پھر وہ اسے اس زور سے

(۲۲۷۵) حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدوية نا القاسم الحكم العرتی نا عبید اللہ بن الولید الوصافی عن عطیة عن ابی سعید قال قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلاة فرأى ناسا كانوا یکتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکرها ذم اللذات لشغلکم عما اری فاكثروا من ذکرها ذم اللذات الموت فانه لم یات علی القبر یوم الا تکلم فیقول انا بیئ العزبة انا بیئ الوحدة وانا بیئ التراب وانا بیئ الدود فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا و اهلا اما ان كنت لاحب من یمشی علی ظهري الی فاذ ولیتک الیوم وصرت الی فستری صبیعی بک فیتسع له مدبصره ویفتح له باب الی الجنة واذ دفن العبد الفاجر او الکافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا اما ان كنت لا بغض من یمشی علی ظهري الی فاذا ولیتک الیوم وصرت الی فستری صبیعی بک قال فیلتأ م علیہ حتی یلتقی علیہ و تختلف اضلاعه قال

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدَخَلَ بَعْضُهَا فِي حَوْفٍ بَعْضُ قَالَ وَيَقِيضُ لَهُ سَبْعِينَ نَيْبًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتُ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشُنَهُ وَيَخْدِشُنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

(۲۲۷۶) حدثنا عبد بن حميد نا عبد الوارث عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس يقول اخبرني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمل حصير فرائت اثره في جنبه وفي الحديث قصة طويلة

یہ حدیث صحیح ہے۔

(۲۲۷۷) حدثنا سويد نا عبد الله عن معمر ويونس عن الزهري ان عروة ابن الزبير اخبره ان المسور بن مخرمة اخبره ان عمرو بن عوف وهو خليف بنى عامر بن لؤي وكان شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح فقدم بمال من البحرين فسمعت الانصار يقولون ابي عبيدة فوافوا صلوة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راها ثم قال اظنكم سمعتم

۱ مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی۔ (مترجم)

بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل کر کے دکھائیں (یعنی گلجھ بنا کر) پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس پر ستر اڑو ہے مقرر کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دے تو اس پر کبھی کوئی چیز نہ اگے۔ پھر وہ اسے کاٹتے اور نوپتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے حساب کتاب کے لئے اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

۲۲۷۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے فرمایا: میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ ﷺ ایک چٹائی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ آپ ﷺ کے جسم مبارک پر نقش ہو گیا تھا۔ ۱ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

۲۲۷۷۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر بن لوی کے حلیف عمرو بن عوف جنہوں نے جنگ بدر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ہے انہوں نے اس کو بتلایا کہ آنحضرت ﷺ نے ابو عبیدہؓ کو جراح کو بھیجا تو وہ بحرین سے کچھ مال لے کر لوٹے جب انصار نے از کی آمد کا سنا تو فجر کی نماز آنحضرت ﷺ کے ساتھ پڑھی۔ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دیکھا تو مسکرائے پھر فرمایا: یہ خیال ہے کہ ابو عبیدہ کی آمد کی خبر تم لوگوں تک پہنچ گئی ہے! عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر خوشخبری سن لو اور اس چ کی امید رکھو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی قسم میں تم پر فخر نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم لوگوں کے لئے بھی پیہ لوگوں کی طرح کشادہ کر دی جائے اور تم اس سے اسی طرح طمع و حرص

کرنے لگو جس طرح وہ لوگ کرتے تھے پھر وہ تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔

أَنَّ أَبَاعُبَيْدَةَ قَدِمَ بَشِيءُ قَالُوا حَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَأَبَشِرُوا وَ آمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَحْسَى
عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْسَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا
عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا
كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتَهُمْ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۷۸۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ مال مانگا تو آپ ﷺ نے دے دیا میں نے تین مرتبہ مانگا اور آپ ﷺ نے تینوں مرتبہ دیا پھر فرمایا: اے حکیم یہ مال ہراہر اور بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اسے سخاوت نفس سے لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن جو اسے اپنے نفس کو ذلیل کر کے حاصل کرتا ہے اس کے لئے برکت نہیں ڈالی جاتی ایسے شخص کی مثال اس کی سی ہے جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اور جان لو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ ﷺ کے بعد کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابو بکرؓ حکیم کو کچھ دینے کے لئے بلاتے تو وہ انکار کر دیتے پھر عمرؓ نے بھی بلوایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے مسلمانو گواہ رہنا کہ میں حکیم کو مال فی میں سے اس کا حق پیش کرتا ہوں تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت حکیم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وفات پا گئے۔

(۲۲۷۸) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ
الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ وَ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ حَكِيمَ
بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا
الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوهٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ
بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَقَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى
أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ
فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ أَنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ
مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى حَكِيمٍ إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي
أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوْفِيَ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۷۹۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ تنگدستی اور تکلیف کی آزمائش میں ڈالے گئے جس پر ہم نے صبر کیا۔ پھر ہمیں وسعت اور خوشی دے کر آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔

(۲۲۷۹) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابوصفوان عن يونس عن
الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عُوفٍ قَالَ أُتْبِلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا ثُمَّ أُتْبِلْنَا بَعْدَهُ بِالسَّرَاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۸۰۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۲۲۸۰) حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا دُو كَيْعٍ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ صَبِيحٍ

جس کا مقصود آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور اسے اس کے لئے جمع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے لیکن جس شخص کا مقصود ہی دنیا ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے مقدر کر دیتے ہیں اور اسے اس کے لئے پریشان کر دیتے ہیں چنانچہ اسے دنیا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ❶

۲۲۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور محتاجی کو دور کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ مشغول رہیں گے اور اس کے باوجود میں تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔

عن یزید بن ابان وهو الرقاشی عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له

(۲۲۸۱) حدثنا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن ابيه عن ابي خالد الوائلي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غني وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور ابو خالد والبی کا نام ہرز ہے۔

باب ۱۳۱۸۔

باب ۱۳۱۸۔

۲۲۸۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک باریک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے اپنے دروازے پر ڈال دیا۔ جب آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: اسے اتار دو کیونکہ یہ مجھے دنیا کی یاد دلاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پرانی روٹی دار چادر تھی اس پر ریشم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ ہم اسے اوڑھا کرتے تھے۔

(۲۲۸۲) حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن داود بن ابي هند عن عذرة عن حميد ابن عبدالرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزع عيه فانه يدكر في الدنيا قالت وكان لنا سمل قطيفة علمها حريز كنا نلبسها

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۲۸۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جس عیگے پر لیٹا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

(۲۲۸۳) حدثنا هناد نا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كانت سادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من آدم حشوها ليف

❶ یعنی لٹا ہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ نہ طلب دنیا سے کچھ بڑھتا ہے اور نہ ہی طلب آخرت سے کچھ کم ہوتا ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ طالب دنیا کو ذلت کے ساتھ اور طالب آخرت کو عزت کے ساتھ لٹتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۲۸۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ اس میں سے کیا باقی ہے۔ عرض کیا۔ صرف دستی باقی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر دستی کے علاوہ پورا گوشت باقی ہے۔ ❶

(۲۲۸۴) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سفیان عن ابی اسحق عن ابی ميسرة عن عائشة انهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى منها قالت ما بقى منها الا كتفها قال بقى كلها غير كتفها

یہ حدیث صحیح ہے اور میسرہ ہمدانی کا نام عمرو بن شریل ہے۔

۲۲۸۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد (ﷺ) ایک ایک مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے تھے۔ اس دوران ہماری خوراک پانی اور کھجور ہوتا تھا۔

(۲۲۸۵) حدثنا جبارون اسحق الهمدانی ناعبدہ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ان كنا ال محمد نمك شهورا ما نستوفدنا ران هو الا الماء والتمر

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۸۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو ہمارے پاس کچھ جو تھے۔ چنانچہ ہم اس میں سے اتنی مدت کھاتے رہے جتنی اللہ کی چاہت تھی۔ میں نے اپنی جاریہ سے کہا کہ اسے تولو۔ اس نے تولا تو وہ بہت جلد ختم ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ اگر ہم اسے اسی طرح چھوڑ دیتے اور تولتے نہیں تو اس سے زیادہ دن تک کھاتے۔

(۲۲۸۶) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير فاكلنا منه ماشاء الله ثم قلت للجارية كيليه فكالته فلم يلبث ان فنى قالت فلو كنا تركناه لا كلنا منه اكثر من ذلك

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۸۷۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ پھر مجھے اتنی ایذاء پہنچائی گئی کہ کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ ❶ نیز مجھ پر تیس دن ورات ایسے

(۲۲۸۷) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا روح بن اسلم ابو حاتم البصرى نا حماد بن سلمة نا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد

❶ وہ بکری ذبح کر کے خدا کی راہ میں دے دی گئی تھی صرف دستی کا گوشت باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی ہے وہی باقی ہے اور جو ہم نے اپنے لئے رکھی ہے وہ فانی ہے۔ (مترجم) ❶ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو کس طرح سب سے زیادہ اذیت دی گئی جب کہ آپ ﷺ کی عمر اکثر اعمیاء سے کم تھی چنانچہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اپنے زمانے کی بہ نسبت ہو۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یقیناً آپ ﷺ سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کے تبعین کی تعداد دوسرے انبیاء کے تبعین کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور ان سب نے خاص تکلیفیں و اذیتیں برداشت کیں گویا کہ وہ تمام اذیتیں بعد آنحضرت ﷺ ہی کو پہنچیں۔ اس لئے کہ مشفق حاکم اپنی رعایا کی تکلیف کو اپنی ذاتی تکلیف سے زیادہ تصور کرتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

أُحِفَّتْ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُودِيتْ فِي اللَّهِ
وَلَمْ يُوَدَّ أَحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلِيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَ لَيْلَالٍ طَعَامًا يَا كُلهُ ذُو كَيْدِ الْأَشْيَاءِ
بِوَارِيهِ ابْطُ بِلَالٍ

گزرے کہ میرے اور بلالؓ کے پاس کبھی والوں کے کھانے کے لئے
کچھ نہیں تھا۔ ہاں البتہ بلال کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا جو وہ بغل میں
دبائے ہوئے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سے مراد وہ دن ہیں جب آنحضرت ﷺ اہل مکہ سے بیزار ہو کر نکلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ
بلال تھے۔ اور انہوں نے اپنی بغل میں تھوڑا سا کھانا دبا یا ہوا تھا۔

(۲۲۸۸) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدَ بْنِ اسْحَقَ شَيْبَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ
كَعْبِ الْقُرْظِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ يَقُولُ خَرَجْتُ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا
مَعْطُوفًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ فِي عُنُقِي
وَشَدَّدْتُ وَسَطِي فَحَرَمْتُهُ بِخُوصِ النَّخْلِ وَالنَّيِّ
شَدِيدِ الْجُوعِ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعَمْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ
شَيْئًا فَمَرَرْتُ بِيَهُودِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي
بِبَكْرَةٍ لَهُ فَأَطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثَلْمَةٍ فِي الْحَائِطِ فَقَالَ
مَالِكُ يَا عَرَابِيُّ هَلْ لَكَ فِي ذَلْوِ بَتْمَرَةٍ فَقُلْتُ نَعَمْ
فَأَفْتَحَ الْبَابَ حَتَّى أَدْخَلَ فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَأَعْطَانِي
ذَلْوَهُ فَكُلَّمَا نَزَعْتُ ذَلْوًا أَعْطَانِي تَمْرَةً حَتَّى
إِذَا امْتَلَأْتُ كَفَيْتُ أَرْسَلْتُ ذَلْوَهُ وَقُلْتُ حَسْبِي فَأَكَلْتُهَا
ثُمَّ جَرَعْتُ بِالْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ
فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

۲۲۸۸۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سخت
سردی کے دنوں میں آنحضرت ﷺ کے گھر سے نکلا چنانچہ میں نے ایک
بدبودار چیز لیا اور اسے درمیان سے کاٹ کر اپنی گردن میں ڈال لیا اور
اپنی کمر کھجور کی ٹہنی سے باندھ لی۔ اس وقت مجھے بہت سخت بھوک لگ
رہی تھی۔ اگر آنحضرت ﷺ کے گھر میں کچھ ہوتا تو میں کھا لیتا۔ چنانچہ
میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ ایک یہودی کو دیکھا جو اپنے باغ میں تھا
میں نے دیوار کے سوراخ میں سے اسے جھانکا تو وہ اپنی چوٹی سے پانی
دے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا: کیا ہے دیہاتی؟ ایک کھجور کے بدلے
ایک ڈول پانی کھینچو گے؟ میں نے کہا: ہاں دروازہ کھولو۔ میں اندر گیا تو
اس نے مجھے ڈول دیا۔ میں نے پانی نکالنا شروع کیا۔ وہ مجھے ہر ڈول
نکلنے پر ایک کھجور دے دیتا۔ یہاں تک کہ میری مٹھی بھر گئی تو میں نے
کہا بس! پھر میں نے کھجوریں کھائیں پھر پانی پیا اور مسجد آیا تو
آنحضرت ﷺ کو وہیں پایا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۲۲۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدَ
بْنَ جَعْفَرِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْخَرِيرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
عِثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ

۲۲۸۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کو
بھوک لگی تو رسول کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایک کھجور دی۔

① یعنی اصحاب صفحہ کو۔ (مترجم)

جَوْعٌ فَأَعْطَا هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَمْرَةً تَمْرَةً

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۹۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں بھیجا۔ اس وقت ہمارے قافلے کی تعداد تین سو تھی۔ سب نے اپنا اپنا توشہ خود اٹھایا ہوا تھا۔ یعنی کم تھا۔ پھر وہ ختم ہونے لگا تو ہم میں سے ہر آدمی کے حصے میں ایک دن کے لئے ایک ہی کھجور آتی۔ ان سے کہا گیا کہ ایک کھجور سے ایک آدمی کا کیا بننا ہوگا فرمایا: جب وہ ایک ملنا بھی بند ہوگئی تو ہمیں اس کی قدر ہوئی۔ پھر ہم لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ سمندر نے ایک مچھلی کو پھینک دیا ہے یعنی وہ کنارے لگی ہوئی ہے چنانچہ ہم نے اس میں سے اٹھارہ دن تک خوب سیر ہو کر کھایا۔ ①

(۲۲۹۰) حدثنا هناد نا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاث مائة نحمل زادنا على رقابنا ففنى زادنا حتى كانت تكوّن للرجل منا كلّ يوم تمرّة فقيل له يا ابا عبد الله واين كانت تقع التمرّة من الرجل قال لقد وجدنا فقدناها حين فقدناها فاتينا البحر فاذا نحن بحوت قد قذفه البحر فاكلنا منه ثمانية عشر يوماً ما احيننا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۲۹۱۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر داخل ہوئے ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی جس پر پوسٹین کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھا تو رونے لگے کہ مصعب کل کس ناز و نعم میں تھے اور آج ان کا کیا حال ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ہم سے پوچھا کہ کل اگر تم لوگوں کو اتنی آسودگی میسر ہو جائے کہ صبح ایک جوڑا ہو اور شام کو ایک جوڑا۔ پھر انواع و اقسام کے کھانے کی پلیٹیں تمہارے آگے یکے بعد دیگرے لائی جاتی ہوں، نیز تم لوگ اپنے گھروں میں کعبہ کے غلاف کی طرح پردے ڈالنے لگو تو تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! اس دن ہم آج کے مقابلے میں بہت اچھے ہوں گے کیونکہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے لئے فارغ ہوں گے۔ فرمایا: نہیں بلکہ تم لوگ آج اس سے بہتر ہو۔

(۲۲۹۱) حدثنا هناد نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق ثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال ثنى من سمع علي بن ابي طالب يقول انا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه الا بردة له مرقرة بفرو فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذى هو فيه اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا غذا احدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت اخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفي المؤمنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انتم اليوم خير منكم يومئذ

① اس کے متعلق مسئلے کی تفصیل جداول، ابواب الطہارۃ، باب فی ماء البحرانہ طہور میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یزید بن زیاد مدعی ہیں۔ ان سے مالک اور کئی راوی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یزید بن زیاد دمشق سے زہری ان سے وکیع اور ان سے مروان بن معاویہ نقل کرتے ہیں۔ جب کہ یزید بن ابی زیاد کوئی سے شعبہ، ابن عیینہ اور کئی ائمہ حدیث احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۲۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے کیونکہ ان کا کوئی گھریا نہیں تھا۔ اس پر درد گار کی قسم جس کے سوا کوئی مجبور نہیں۔ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک دیا کرتا تھا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں راہ گزر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکرؓ وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے صرف اس لئے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر عمرؓ گزرے تو ان سے بھی اسی طرح سوال کیا وہ بھی چلے گئے اور مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابوقاسمؓ کا گزر ہوا۔ تو آپؓ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہؓ! میں نے عرض کیا: حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپؓ نے فرمایا: میرے ساتھ چلو۔ آپؓ مجھے لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی تو مجھے بھی داخل ہونے کی اجازت دی۔ آپؓ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا فلاں نے ہدیے میں بھیجا ہے۔ پھر آپؓ مجھ سے مخاطب ہوئے اور حکم دیا کہ اہل صفہ کو بلاؤ کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے مہمان ہیں اور ان کا کوئی گھریا نہیں۔ چنانچہ اگر آپؓ کے پاس کوئی صدقہ وغیرہ آتا تو اسے انہی کے پاس بھیج دیا کرتے اور اگر ہدیہ آتا تو انہیں بھی اپنے ساتھ شریک کرتے۔ ۱۰ مجھے یہ چیز ناگوار گزری کہ آپؓ ایک پیالہ دودھ کے لئے مجھے نہیں بلانے کا حکم دے رہے ہیں۔ ان کے لئے اس ایک پیالہ دودھ کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ پھر مجھے حکم دیں گے کہ اس پیالے کو لے کر باری باری سب کو پلاؤ۔ لہذا میرے لئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب کہ مجھے امید تھی کہ میں اس سے بقدر کفایت پی سکوں گا اور وہ تھا بھی اتنا ہی۔ لیکن چونکہ اطاعت ضروری تھی لہذا

(۲۲۹۲) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بَكْرَةَ عَمْرٍو
ذَرْنَا مُحَاهِدًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ
أَضْيَافَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ
وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْتَمِدُ بِكَفِيدِي
عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي
مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ فَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي
يَخْرُجُونَ فِيهِ فَمَرَّبِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ
مَرَّ عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا
لِيَسْتَبْعِنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَيْتِي وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ
لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلْتُ
مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي فَوَجَدَ قَدْحًا مِنَ اللَّبَنِ
قَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ قِيلَ أَهْدَاهُ لَنَا فَلَانَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ رَيْرَةَ قُلْتُ
لَبَيْكَ قَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ وَهُمْ
أَضْيَافُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَمَالٍ إِذَا
أَتَتْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا
وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ
فِيهَا فَسَاءَ نِيٌّ ذَلِكَ وَقُلْتُ مَا هَذَا الْقَدْحُ بَيْنَ أَهْلِ
الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ
فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ
أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي وَلَمْ يَكْ بُدْمَنْ طَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ

۱۰ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحصیل علم کے سامنے اہل و مال حقیر ہیں۔ اور مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ ایسے لوگوں کی حوائج کی خبر گیری کریں تاکہ انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واللہ اعلم (مترجم)

چارونا چار انہیں بلا کر لایا۔ پھر جب وہ لوگ آنحضرت ﷺ کے ہاں داخل ہو کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو آپ ﷺ نے مجھے پیالہ دیا اور فرمایا کہ انہیں پیالہ۔ میں نے باری باری سب کو پیالہ دیا۔ ہر شخص سیر ہونے کے بعد مجھے پیالہ لوٹا تا اور میں اگلے شخص کو دے دیتا۔ یہاں تک کہ سب پی کر سیر ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ باقی رہ گئے۔ پھر آپ ﷺ نے پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ پر رکھنے کے بعد سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہؓ پیو۔ میں نے پیا۔ پھر آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا پیو۔ یہاں تک کہ میں پیتا رہا اور آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ پیو۔ آخر میں نے عرض کیا: اس اللہ کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اب اسے پینے کی گنجائش نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پیالہ لیا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھی اور خود بھی پیا۔ ❶

رَسُولِهِ فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَآخَذُوا مَجَالِسَهُمْ قَالَ أَبَاهُ رِيْرَةَ خَذِ الْقَدْحَ فَأَعْطَاهُمْ فَآخَذْتُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَنَاؤُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوِي ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأَنَاؤُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَرَوِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ أَبَاهُ رِيْرَةَ إَشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ أَشْرَبْ فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبْ وَيَقُولُ أَشْرَبْ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَآخَذَ الْقَدْحَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمِي وَشَرِبَ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۹۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ڈکار لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو۔ ❶ کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن زیادہ دیر تک بھوکا رہے گا۔

(۲۲۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ ثَنِي يَجِي الْبِكَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفِّ عَنَّا جُشَاءَ لِكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبِيْعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے۔

۲۲۹۴۔ حضرت ابو موسیٰؓ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: بیٹے اگر تم ہمیں آنحضرت ﷺ کے عہد میں دیکھتے اور کبھی بارش ہو جاتی تو تم کہتے ہمارے جسم کی بو بھینڑ کی بو کی طرح ہے۔

(۲۲۹۴) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتُ أَنْ رِيْحَنَا رِيْحَ الضَّأْنِ

یہ حدیث صحیح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کے کپڑے چونکہ اونٹی ہوتے تھے۔ اس لئے جب بارش ہوتی تو ان سے بھینڑ کی سی بو آنے لگتی۔

۲۲۹۵۔ حضرت معاذ بن انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قدرت ہونے کے باوجود تواضع کی وجہ سے عمدہ لباس

(۲۲۹۵) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْمَدَوْرِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَقْرِيُّ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ أَبِي مَرْحُومٍ

❶ چونکہ آنحضرت ﷺ خود پلانے والے تھے اس لئے جب سے آخر میں پیا جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی منقول ہے پھر یہ حدیث ایک ہی برتن سے کئی اشخاص کے پینے کی سلیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) ❶ ڈکار کو روکنے سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کی ممانعت ہی مراد ہے۔ چنانچہ ہمیشہ خوب پیٹ بھر کر کھانا اور قراءت و مسالین کو بھول جانا مکروہ۔ (مترجم)

پہننا ترک کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام خلائق کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ اہل ایمان کے لباسوں میں سے جسے چاہے پہن لے۔

۲۲۹۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے ہاں البتہ جو عمارت وغیرہ پر خرچ کیا جاتا ہے اس میں خیر نہیں۔

عبدالرحیم بن میمون عن سہل بن معاذ بن انس الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک اللباس تواضعا لله وهو یقدر علیہ دعاه الله یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی ینسبہ من آتی حلل الایمان شاء ینسبہا

(۲۲۹۶) حدثنا محمد بن حید الرازی ناز افر بن سلیمان عن اسرائیل عن شیب بن بشیر عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقة کلها فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ

یہ حدیث غریب ہے۔ محمد بن حبیب بھی شیب بن بشیر سے یہی نقل کرتے ہیں۔

۲۲۹۷۔ حضرت حارث بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کے لئے گئے۔ انہوں نے سات داغ لگوائے تھے۔ چنانچہ فرمایا: کہ میرا مرض بہت طویل ہو گیا ہے اگر میں نے آنحضرت ﷺ کو موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو یقیناً میں اس کی آرزو کرتا۔ نیز فرمایا: ہر آدمی کو نطفے پر اجر دیا جاتا ہے الا یہ کہ وہ مٹی پر خرچ کرے۔ (اس پر کوئی اجر نہیں)

(۲۲۹۷) حدثنا علی بن حجرنا شریک عن ابی اسحاق عن حارث بن مضرب قال اتینا خبابا نعودہ وقد اکتوی سبع کباب فقال لقد تطاول مرضی ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنوا الموت لتمنیتہ وقال یوجر الرجل فی نفقته الا التراب اوقال فی التراب

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۲۹۸۔ حضرت ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ ہر تعمیر تمہارے لئے وبال کا باعث ہے۔ پوچھا گیا: جس کے بغیر گزارہ نہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: نہ گناہ اور نہ ہی ثواب۔

(۲۲۹۸) حدثنا الحارود نا الفضل بن موسی عن سفین الثوری عن ابی حمزہ عن ابراہیم قال کل بناء وبال علیک قلت ارایت مالا بدمنه قال لا اجر ولا وزر

۲۲۹۹۔ حضرت حسینؓ کہتے ہیں کہ ایک سائل نے ابن عباسؓ سے سوال کیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کی عبودیت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ پھر پوچھا اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا: ہاں۔ پھر پوچھا: رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ پھر فرمایا: کہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہیں کچھ نہ کچھ دوں۔ پھر اسے ایک کپڑا دیا اور آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سنایا کہ: اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو

(۲۲۹۹) حدثنا محمود نا ابو احمد الزبیری نا خالد بن طہمان ابو العلاء ثنی حنین قال جاء سائل فسأل ابن عباس فقال ابن عباس للسائل اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال وتصوم رمضان قال نعم قال سألت وللسائل حق انه لحق علينا ان نصلک فاعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کیڑے پہنائے گا تو وہ اس وقت تک اللہ کی امان میں رہے گا جب تک اس کے بدن پر اس کیڑے کا ایک چھیترا بھی رہے گا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

(۲۳۰۰) حدثنا محمد بن بشارنا عبد الوهاب النفقى ومحمد بن جعفر وابن ابى عدى ويحيى بن سعيد عن عوف بن ابى حميلة عن زرارة بن اوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى المدينة انجفل الناس اليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجت في الناس لانظر اليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب وكان اول شيء تكلم به ان قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نياما تدخلوا الجنة بسلام

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۰۰۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ❶ کہ جب نبی اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ ﷺ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ آگئے۔ میں بھی آپ ﷺ کو دیکھنے کے لئے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب میری نظر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے لوگو! سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نیز رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

۲۳۰۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں۔ ❷ ہم نے مال ہوتے ہوئے ان سے زیادہ خرچ کرنے والے اور قلت مال کے باوجود حسن مواساة کرنے والے کبھی نہیں دیکھے۔ اس لئے کہ ان لوگوں نے ہمیں محنت و مزدوری سے بچائے رکھا اور ہمیں اپنے عیش و آرام میں بھی شریک کیا یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا اجر یہی لوگ لے جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ان لوگوں کے لئے دعا کرتے اور ان کے لئے ثنائے خیر کرتے رہو گے۔

(۲۳۰۱) حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة نا ابن ابى عدى نا حميد عن انس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا فى المهناء حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مادعوتكم الله لهم وأنبتهم عليهم

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

❶ عبداللہ بن سلام ہلیل القدر صحابی ہیں جو یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ انہوں نے کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی تفصیل پڑھی ہوئی تھی لہذا آمد کے منتظر تھے چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ (مترجم) ❷ اس قوم سے مراد انصار ہیں۔ (مترجم)

۲۳۰۲- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھا کر شکر ادا کرنے والا ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔

(۲۳۰۲) حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ نَامِحْمَدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدِينِيُّ الْغَفَارِيُّ ثَنِي ابِي عَنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۳۰۳- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جو اقرباء کے لئے سہولت اور آسانی مہیا کرتا ہے۔

(۲۳۰۳) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ نَاعِبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقِبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۳۰۴- حضرت اسود بن یزیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ جب آنحضرت ﷺ گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا: گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز پڑھنے لگتے۔

(۲۳۰۴) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ نَوَاصٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قُلْتُ يَا عَائِشَةُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْمَةٍ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَصَلَّى

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۰۵- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک سامنے والا خود نہ کھینچتا۔ پھر اس وقت تک اس سے چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود ایسا نہ کرتا۔ نیز کبھی مجلس کے دوران آنحضرت ﷺ کو پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں پایا گیا۔

(۲۳۰۵) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ، لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يَرْمُقْ مَارَ كُتِبَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۳۰۶- حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی قوموں میں سے ایک شخص ایک جوڑا پہن کر اترتا ہو گا گھر سے

(۲۳۰۶) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ اِبِوَالْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ

نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے لہذا وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا رہے گا۔ راوی کو شک ہے۔ کہ ”یتجلجلج“ فرمایا، یا ”تجلج“۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حُلَّةٍ لَهُ، يَحْتَاحُ فِيهَا فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهَوَّ يَتَجَلَجَلُ أَوْ قَالَ يَتَلَجَلَجَجُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۰۷۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ جن کی شکلیں انسانوں کی سی ہوں گی۔ ذلت ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ پھر وہ لوگ جہنم کے ایک قید خانے کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ جس کا نام بولس ہے۔ وہ آگوں کی آگ میں نہیں ابالے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی جو سڑا ہوا بد بو دار کچڑ ہے۔

(۲۳۰۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَافِرُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسْمَى بُولَسَ تَغْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبِيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحِبَالِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۳۰۸۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین نیکیاں ایسی ہیں کہ جو انہیں اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ ضعیف پر زری کرنا، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور مملوک پر احسان کرنا۔

(۲۳۰۸) حَدَّثَنَا سُلَيْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغَفَّارِيِّ الْمَدِينِيِّ ثَنَى أَبِي عَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَفَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ رَفَقَ بِالضَّعِيفِ وَالشَّفِيقَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانَ إِلَى الْمَمْلُوكِ

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۳۰۹۔ حضرت ابو ذر، آنحضرت ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو الا یہ کہ میں کسی کو ہدایت دے دوں لہذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو تا کہ میں تمہیں دوں، تم سب فقیر ہو الا یہ کہ میں کسی کو غنی کر دوں لہذا تم لوگ مجھ سے رزق مانگا کرو تا کہ میں تمہیں عطا کروں اسی طرح تم سب گناہگار

(۲۳۰۹) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِيكُمْ وَكُلُّكُمْ فَاقٍ إِلَّا مَنْ أَعْنَيْتُ فَسَلُونِي

بعض حضرات کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جانے سے مراد ذلت و حقارت ہے۔ جب کہ بعض حضرات اسے حقیقت پر جمول کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی صورتیں مردوں کی سی اور چشم چیونٹیوں ہی کی طرح ہوگا۔ (مترجم) یہ قید خانہ متکبرین ہی کے لئے مخصوص ہوگا۔ (مترجم) اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عظیم ترین آگ ہوگی جس سے دوزخ کی دوسری آگ بھی پناہ مانگے گی۔ (مترجم)

أَرْزُقُكُمْ وَ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي غَفْرَتٌ لَهُ، وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمِيتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمِيتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْفَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَجَنَّتُمْ وَأَنَسْتُمْ وَحَيْكُمْ وَمِيتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بَاتِي جَوَادٌ وَاحِدٌ مَا جَدَّ أَفْعَلٌ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَدَائِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا رَدُّتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

ہو الا یہ کہ جسے میں محفوظ رکھوں۔ چنانچہ جو شخص جانتا ہے کہ مغفرت کی قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہارے اگلے، پچھلے زندہ، مردہ، خشک اور تازہ سب کے سب تقویٰ کی اعلیٰ ترین قدروں پر پہنچ جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں چھمکے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ تمام کے تمام شقی اور بد بخت ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت و بادشاہت میں چھمکے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ نیز اگر تمہارے اگلے، پچھلے، جن، انس، زندہ، مردہ تریا خشک سب کے سب ایک زمین پر جمع ہو جائیں اور پھر مجھ سے اپنی اپنی منہائے آرزو کے متعلق سوال کریں پھر میں ہر سائل کو عطا کر دوں تو بھی میری بادشاہت و سلطنت میں بالکل کمی نہیں آئے گی الا یہ کہ تم میں سے کوئی سمندر پر سے گزرے تو اس میں سوئی کو ڈبو کر نکال لے یعنی اتنی کمی آئے گی جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگ جائے گا۔ یہ سب اس لئے ہے کہ میں جواد ہوں (جو نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے اور بغیر مانگے عطا کرتا ہے) واجد (جو کبھی فقیر نہیں ہو سکتا) ہوں اور ماجد (جس کی شرف و عظمت کی کوئی انتہا نہیں) ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میری عطاء اور عذاب دونوں کلام ہیں اس لئے کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث حسن ہے یعنی اسے شہر بن حوشب سے وہ محدث کرب سے وہ ابو ذر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل

کرتے ہیں۔

۲۳۱۰۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو سات سے بھی زیادہ مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کا کفل نامی ایک شخص کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اسے ساٹھ دینار دیئے تاکہ وہ اس سے جماع کر سکے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس سے یہ فعل کرنے لگا تو وہ رونے اور کانپنے لگی۔ اس نے کہا تم کیوں روتی ہو کیا میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ میں نے آج تک یہ برائی نہیں کی اور آج ایسی ضرورت آپڑی ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا جو کام تم

(۲۳۱۰) حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی نا ابی نا الاعمش عن عبداللہ عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتین حتی سد سبع مرات ولکنی سمعته اکثر من ذلك سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حکان الکفیل من بنی اسرائیل لا یتورع من ذنب عملہ فاتته امرأة فاعطاها ستین دینارا علی ان یطأها فلما قعد منها

نے کبھی نہیں کیا آج کر رہی ہو۔ جاؤ وہ دینار تمہارے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں آج کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ اسی رات مر گیا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔

مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ اُرْعِدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ اَكَرَهُتْكَ قَالَتْ لَا وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلْنِي عَلَيْهِ اِلَّا الْحَاجَةُ فَقَالَ تَفْعَلَيْنِ اَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِي اِذْ هَبْتِي فَهِيَ لَكَ وَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا اَعْصِي اللّٰهَ بَعْدَهَا اَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَاَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلٰى بَابِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ الْكُفْلَ

یہ حدیث حسن ہے اور اسے شیخان اور کئی راوی اعمش سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض انہی سے مرفوعاً بھی نقل کرتے ہیں۔ ازہر عریاش یہی حدیث اعمش سے نقل کرتے ہوئے اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ ”عن عبد اللہ بن عبد اللہ عن سعید بن جبیر عن ابن عمر“ اور یہ غیر محفوظ ہے۔ عبد اللہ بن عبد اللہ رازی: کوئی ہیں۔ ان کی دادی حضرت علی کی سر یہ ہیں۔ عبد اللہ بن عبد اللہ رازی سے عبیدہ صبی، حجاج بن ارطاة اور کئی راوی احادیث نقل کرتے ہیں۔

۲۳۱۱۔ حارث بن سويد کہتے ہیں کہ عبد اللہ نے ہم سے دو حدیثیں بیان کیں ایک اپنی طرف سے اور دوسری آنحضرت ﷺ سے نقل کی چنانچہ انہوں نے فرمایا: کہ مؤمن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے پڑے۔ جب کہ فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا کہ اس کی ناک پر ایک کھٹی بیٹھی تھی اس نے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ (یہ انہی کا قول تھا) جب کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ایک جنگل میں جا رہا تھا جس میں نباتات کا نام و نشان نہ تھا جس کی وجہ سے وہاں ہلاکت کا ڈر تھا۔ اس کے ساتھ اس کی اونٹنی تھی جس پر اس نے اپنا کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں باندھ رکھی تھیں وہ گم ہو گئی۔ چنانچہ وہ اسے ڈھونڈنے کے لئے نکلا یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا چلو میں واپس اسی جگہ چلوں جہاں سے چلا تھا تاکہ وہیں مروں۔ وہاں پہنچتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کا تمام سامان اس پر موجود ہوتا ہے۔ ①

(۲۳۱۱) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن اعمارة بن عمير عن الحارث بن سويد ثنا عبد الله بحدیثین احدہما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى اصل جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه قال به هكذا فطار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله افرح بتوبة احدكم من رجل بارض فلاة دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده و طعامه و شرابه و ما يصلحه فاضلها فخرج فى طلبها حتى اذا ادركه الموت قال ارجع الى مكانى الذى اضللتها فيه فاموت فيه فرجع الى مكانه فعلمته عينه فاستيقظ فاذا راحلته عند راسه عليها طعامه و شرابه و ما يصلحه

① چنانچہ موت کا اتنے قریب دیکھ لینے کے بعد دوبارہ زندگی مل جانے پر اس کی خوشی کی انتہاء نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ (مترجم)

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ، نعمان بن بشیرؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

(۲۳۱۲) حدثنا احمد بن منيع نا زيد بن حباب نا
 على بن مسعدة الباهلي ناقتادة عن أنس عن النبي
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ
 الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ

۲۳۱۲۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں کہ علی بن مسعدہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۱۹۔

باب ۱۳۱۹۔

(۲۳۱۳) حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك عن
 معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن
 النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَبِيغَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

۲۳۱۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے نیز یہ کہ بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ چپ رہے۔

یہ حدیث صحیح ہے اس باب میں انسؓ، عائشہؓ اور ابو شریحؓ کعسی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ان کا نام خولید بن عمرو ہے۔

(۲۳۱۴) حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو
 عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال
 قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا

۲۳۱۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔

اس حدیث کو ہم صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۰۔

باب ۱۳۲۰۔

(۲۳۱۵) حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا
 ابواسامة ثنى بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي
 موسى قال سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
 لِسَانِهِ وَيَدِهِ

۲۳۱۵۔ حضرت ابو موسیٰؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

یہ حدیث ابوموسیٰؓ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔

(۲۳۱۶) حدثنا احمد بن منيع نا محمد بن
 الحسن بن ابي زيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن

۲۳۱۶۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ سے عار دلانے کا

عَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ قَالَ أَحْمَدُ قَالُوا مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ

تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ خالد معدان نے معاذ بن جبل کو نہیں پایا۔ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی۔

باب ۱۳۲۱۔

باب ۱۳۲۱۔

۲۳۱۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اسْمَعِيلَ بْنِ مَجَالِدِ بْنِ سَعِيدِ الهمداني نا حفص بن غياث ح وثنا سلمة بن شبيب نا امية بن القاسم قال نا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَظْهَرِ الشَّمَانَةَ لِأَحَبِّكَ فَيَرِحْمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ

حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر کے تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔

باب ۱۳۲۲۔

باب ۱۳۲۲۔

۲۳۱۸) حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أُنْثَى حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَاوَا كَذَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَانَا سَفِينٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ مَا يَسْرُرُنِي أُنْثَى حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنْ لِي كَذَا

حضرت عائشہ عمراتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا تو فرمایا: میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کا تذکرہ کروں اگرچہ مجھے اس پر مال کی پیش کش بھی کی جائے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صفیہ ایک ایسی عورت ہے جو پستہ قد ہے (حضرت عائشہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا) آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے اپنی باتوں

وَكَذَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةً وَقَالَتْ
بِيَدِهَا هَكَذَا كَانَتْهَا تَعْنِي فَصِيرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ مَزَجَتْ
بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجَ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمْزَجَ

باب ۱۳۲۳-

(۲۳۲۰) حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى نا ابن
ابى عدى عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى
بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم قال إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر
على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس
ولا يصبر على أذاهم

ابن عدی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ صحابی ابن عمر ہیں۔

میں ایسی بات ملائی ہے کہ اگر سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دی جائے تو
وہ بھی متغیر ہو جائے۔

باب ۱۳۲۴-

۲۳۲۰- یحییٰ بن وثاب ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا: جو مسلمان لوگوں سے ملے چلے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے
وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔

۲۳۲۱- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: آپس
کے بغض و عداوت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تباہ کن چیز ہے۔

(۲۳۲۱) حدثنا ابو يحيى محمد بن عبدالرحيم
البغدادي نا معلى بن منصور نا عبدالله بن جعفر
المخرمي هو من ولد المسور بن مخرمه عن عثمان
بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبري عن ابي
هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم
وسوء ذات البين فانها الحالقة

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

۲۳۲۲- حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے
فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے
انقض ہے؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں محبت
اور میل جول اس لئے کہ آپس کا بغض تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

(۲۳۲۲) حدثنا هنادنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمرو
بن مرة عن سالم بن ابى الجعد عن أم الدرداء عن ابي
الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبر
كم بأفضل من درجة الصيام والصلوة والصدقة قالوا بلى
صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة

یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے منقول ہے کہ فرمایا: آپس کی پھوٹ موٹہ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو موٹہ دیتی ہے بلکہ یہ تو
دین کو موٹہ دیتی ہے۔ (یعنی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔)

۲۳۲۳- حضرت زبیر بن عوامؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم
لوگوں میں پہلی امتوں والامرض گھس آیا ہے اور وہ حد اور بغض ہے جو
تباہی کی طرف لے جاتا ہے (موٹہ دیتا ہے) میرا یہ مطلب نہیں کہ

(۲۳۲۳) حدثنا سفین بن وكيع نا عبد الرحمن بن
مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ابى كثير
عن يعيش بن الوليد ان مولی الزبير حدثه ان الزبير بن

بالوں کو موٹا دیتا ہے بلکہ وہ دین کو موٹا دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ۔ اور اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت سے نہ رہو گے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم لوگوں میں محبت کو دوام بخشنے؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔

باب ۱۳۲۳۔

۲۳۲۳۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی گناہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان سے زیادہ عذاب کے لائق نہیں۔

الْعَوَامِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَنْبَأْتُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

باب ۱۳۲۴۔

(۲۳۲۴) حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن ابراهيم عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۲۵۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ دیں گے اور جس میں نہیں ہوں گی اسے صابر اور شاکر نہیں لکھیں گے۔ ایک یہ کہ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے دوسرے یہ کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس پر فضیلت دی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شاکر اور صابر لکھ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص دینی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑے لوگوں کی طرف دیکھے اور جو کچھ اسے نہیں ملا اس پر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر لوگوں میں نہیں لکھتے۔

(۲۳۲۵) حدثنا سويد نا عبدالله عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جدّه عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه الى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتب الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه الى من هو دونه ونظر في دنياه الى من هو فوقه فاسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا

موسیٰ بن حزام بھی علی بن اسحاق سے وہ عبداللہ سے وہ ثنی بن صباح سے وہ عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے اسی کی طرح مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ لیکن سويد نے اپنی روایت میں عمرو بن شعیب کے بعد ان کے والد کا ذکر نہیں کیا۔

۲۳۲۶- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کرو اپنے سے برتر لوگوں کی طرف نہیں اس لئے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے جو تمہارے پاس ہیں۔

باب ۱۳۲۵-

۲۳۲۷- حضرت ابو عثمان، رسول اللہ ﷺ کے کاتب حنظلہ اسیدیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ابو بکرؓ کے پاس سے گزرے تو رو رہے تھے۔ ابو بکرؓ نے پوچھا: حنظلہ کیا ہوا؟ عرض کیا: ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا! اس لئے کہ جب ہم آنحضرت ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور آنحضرت ﷺ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ہم اس طرح ہوتے ہیں گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ لیکن جب ہم آپ ﷺ کی مجلس سے لوٹتے، بیویوں اور سامان دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو ان نصحاً میں سے اکثر کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے چلو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ نے حنظلہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا: میں منافق ہو گیا یا رسول اللہ! کیونکہ جب ہم آپ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ﷺ جنت دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر بار اور بیویوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان نصیحتوں کا اکثر حصہ بھول جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم لوگ اس حال پر باقی رہو جس پر میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو تو فرشتے تمہاری مجالس، تمہارے بستروں اور تمہاری راہوں میں تم لوگوں سے مصلحتی کرنے لگیں۔ لیکن حنظلہ کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور کوئی کیسی۔

(۲۳۲۶) حدثنا ابو کریب نا ابو معاویة وو کعب عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الي من هو اسفل منكم ولا تنظروا الي من هو فوقكم فانه اجدر ان لا تزدر و انعمة الله عليكم

باب ۱۳۲۵-

(۲۳۲۷) حدثنا بشر بن هلال البصري نا جعفر بن سليمان عن الجريري ح و ثنا هارون بن عبد الله البزازنا سيارنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري والمعنى واحد عن ابي عثمان عن حنظلة الاسدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر بابي بكر وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا ابا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدكرنا بالنار والجنة كانوا رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فوالله انا كذلك انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تدكرنا بالنار والجنة حتى كنا رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۲۸- حضرت انسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(۲۳۲۸) حدثنا سويدنا عبدالرحمن عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاجبيه ما يحب لنفسه

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۲۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ فرمایا: اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا اور تم اسے اپنے آگے پاؤ گے۔ ❶ اگر مانگو تو ہمیشہ اسی سے اور اگر مدد طلب کرو تو بھی صرف اسی سے۔ اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں تو بھی وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو بھی اس سے زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لئے کہ قلم اٹھانے کے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ ❷

(۲۳۲۹) حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن المبارك نا ليث بن سعد وابن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال و ثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا ابو الوليد نا الليث بن سعد ثنى قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام اني اعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تحمده تحمدهك اذا سالت فاستل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۳۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: باندھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ❶

(۲۳۳۰) حدثنا ابو حفص عمرو بن علي ثنى يحيى بن سعيد القطان نا المغيرة بن ابى قره السدوسي قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها واتوكل

عمرو بن علی اور یحییٰ کے نزدیک یہ حدیث مگر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث انس کی روایت سے صرف اسی سند سے معروف ہے۔ پھر عمرو بن امیہ ضمری سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

۲۳۳۱۔ حضرت ابو حور سعدي کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علیؓ سے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت ﷺ کی کون سی حدیث یاد کی ہے؟ فرمایا: میں نے آنحضرت ﷺ کا یہ قول یاد کر رکھا ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو، جو شک میں نہ ڈالے اس لئے کہ سچائی اطمینان قلب ہے جب کہ کذب اضطراب کا نام

(۲۳۳۱) حدثنا ابو موسى الانصاري نا عبد الله بن ادريس نا شعبة عن بريد بن ابى مريم عن ابى الحور السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع مايريبك الى

❶ یعنی تم ذکر الہی میں مشغول رہو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائیں گے اور نیک کاموں کی توفیق بخشیں گے۔ (مترجم) ❷ یہ تقدیر کے لکھے جانے سے کنایہ ہے۔ (مترجم) ❸ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا جائے۔ (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تَذُنُّوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَمَا يَذُنُّوا فَيَغْفِرُ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ خَلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ الْجَنَّةُ مَا بِنَا وَهَا قَالَ لِبِنَةِ مِنْ فَضَّةٍ وَلِبِنَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَا ظَهَا الْمِسْكَ الْأَذْفَرُ وَحَضْبًا وَهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزُّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَبْئُتُ وَلَا يَخْلُدُ لَا يَمُوتُ وَلَا تَبْلَى تَبَائُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يَرُدُّدَعْوَتَهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَيَرْفَعُهَا فَوْقَ الْعَمَامِ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

حال میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہاری زیارت کے لئے تمہارے گھروں تک آئیں اور اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دیں تاکہ وہ گناہ کریں اور اللہ انہیں معاف کرے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ فرمایا: پانی سے۔ میں نے پوچھا: جنت کس طرح سے بنی ہے؟ فرمایا اس طرح کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کا گارامشک، کنکریاں موتی اور یاقوت کی اور مٹی زعفران ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے عادل حاکم، روزے دار جب روزہ افطار کرنے لگے اور مظلوم کی بددعا۔ چنانچہ جب مظلوم بددعا کرتا ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اگر چہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔

اس حدیث کی سند قوی نہیں اور میرے نزدیک یہ غیر متصل ہے۔ ابو ہریرہؓ سے یہی حدیث دوسری سند سے بھی منقول ہے۔

باب ۱۳۲۸۔ جنت کے کمرے۔

باب ۱۳۲۸۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُرَفِ الْجَنَّةِ

(۲۳۳۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَاطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

۲۳۳۹۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا وہ کس کے لئے ہوں گے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: جو اچھی باتیں کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے اور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کے لئے نماز پڑھیں گے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ بعض محدثین عبدالرحمن بن اسحاق کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہیں جب کہ عبدالرحمن بن

اسحاق قرشی مدنی ہیں اور وہ ائمتہ ہیں۔

(۲۳۴۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ

۲۳۴۰۔ حضرت عبداللہ بن قیسؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

جنت میں دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی

عبدالصمد العمی عن ابی عمران الجونی عن ابی

ہوں گی جب کہ دوسرے دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ پھر اہل جنت اور رویت باری تعالیٰ میں ایک اس کی کبریائی کی چادر کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی جو کہ جنت عدن میں اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں ایک ایسا خیمہ بھی ہوگا جو ساٹھ میل چوڑے موتی سے تراشا ہوا ہوگا اس کے ہر کونے میں حوریں ہوں گی پھر ایک کونے والے دوسرے کونے والے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ مؤمن ان حوروں کے ساتھ جماع کرے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران جوئی کا نام عبدالملک بن حبیب۔ اور ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ جب کہ ابو بکر بن موسیٰ کا نام معلوم نہیں۔

باب ۱۳۲۹۔ جنت کے درجات۔

۲۳۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان سو برس کا فاصلہ ہے۔

باب ۱۳۲۹۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

(۲۳۴۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَاشِرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۲۳۴۲) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيّ قَالَا نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا اَدْرِي اَذْكُرُ الزَّكَاةَ اَمْ لَا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اللّٰهُ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ اِنْ هَاجَرَ فَيُ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مَكَتَ بِاَرْضِهِ اَتَتَى وُلْدِيْهَا قَالَ مُعَاذٌ اِلَّا اُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِ النَّاسَ يَعْْمَلُوْنَ فَاِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَى الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا فَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهَا تَفْجَرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَاِذَا سَأَلْتُمْ اللّٰهَ فَاَسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ

۲۳۳۲۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ آپ ﷺ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کریں خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ معاذ نے عرض کیا: کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا: لوگوں کو عمل کرنے کے لئے چھوڑ دو کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے اس کے اوپر رُحْمٰن کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں۔ لہذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔

یہ حدیث ہشام سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ وہ زید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے اور وہ معاذ بن جبل سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ عطاء کی معاذ بن جبل سے ملاقات نہیں ہوئی وہ ان سے کافی مدت پہلے انتقال کر گئے تھے ان کا انتقال خلافت عمرؓ میں ہوا۔

۲۳۴۳۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان وزمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ ۱۰ فردوس اعلیٰ ترین جنت ہے۔ لہذا جنت کی چاروں نہریں اسی سے نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ لہذا اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو۔

(۲۳۴۳) حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ

احمد بن منیع بھی یزید بن ہارون سے وہ ہمام سے اور وہ زید بن اسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۳۴۴۔ حضرت ابوسعیدؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں سو درجے ہیں اگر ان میں سے ایک میں عالم کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تب بھی وہ وسیع ہوگا۔

(۲۳۴۴) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دِرَاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي أَحَدِهَا لَوْ سَعَتُهُمْ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۳۳۰۔ اہل جنت کی عورتیں۔

باب ۱۳۳۰۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

۲۳۴۵۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی سفیدی ستر جوڑے میں سے بھی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی دے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”کانھن..... الایۃ“ (یعنی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں) اور یاقوت ایک پتھر ہے اگر تم اس میں دھاگہ داخل کرو گے اور پتھر کو صاف کرو گے تو وہ دھاگا تمہیں اس کے اندر دکھائی دے گا۔

(۲۳۴۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَافِرَةُ ابْنِ أَبِي الْمِقْرَاءِ نَا عُبَيْدَةَ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وِرَاءِ سَبْعِينَ حَلَّةً حَتَّى يُرَى مُخْجَهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكَ كَأَنَّكَ لَمْ اسْتَصْفَيْتَهُ لَا رِيْتَهُ مِنْ وِرَائِهِ

ہناذ بھی عبیدہ سے وہ عطاء سے وہ عمرو سے وہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرنا جو ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کے درجے سو سے بھی زیادہ ہوں گے اس میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ مذکورہ سو درجے بہت بڑے بڑے ہیں جب کہ ان کے درمیان اور بھی اتنے درجات ہیں جن کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

پھر ہنادی ابوالاحوص سے وہ عمرو بن میمون سے اور وہ ابن مسعود سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ غیر مرفوع اور اس سے زیادہ صحیح ہے۔ جریر اور کئی راوی بھی اسے عطاء بن سائب سے غیر مرفوع ہی نقل کرتے ہیں۔

۲۳۳۶۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جنت میں پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جب کہ دوسرے گروہ کے چہروں کی چمک آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی سی ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ اور اس کی پنڈلی کا گودا ان جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا۔

(۲۳۴۶) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا أَبِي عَن فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيَّ مِثْلَ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَيَّ مِثْلَ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ ذُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَيَّ كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حَلَّةً يُرَى مَخْرَجُهَا مِنْ وَرَائِهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۳۷۔ حضرت ابوسعید خدریؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی سی ہوں گی جب کہ دوسرے گروہ کی آسمان کے بہترین ستارے کی سی (یعنی ان کی چمک ان کے مشابہ ہوگی) ان میں سے ہر ایک کے لئے دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر ستر جوڑے ہونے کے باوجود اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا ان میں سے نظر آئے گا۔

(۲۳۴۷) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى نَا شَيْبَانَ عَن فَرَّاسٍ عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَيَّ صُورَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالثَّانِيَةُ عَلَيَّ كَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ ذُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَيَّ كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حَلَّةً يَبْدُو مَخْرَجُهَا مِنْ وَرَائِهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۱۔ اہل جنت کے جماع کے متعلق۔

۲۳۳۸۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کو جنت میں جماع کی اتنی اتنی قوت دی جائے گی۔ پوچھا گیا: کیا وہ اتنے کا تحمل کر سکے گا؟ فرمایا: اے سو آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔

باب ۱۳۳۱۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَمَاعِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (۲۳۴۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَن عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجَمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يُطَبَّقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ

یہ حدیث صحیح غریب ہے اور اس باب میں زید بن ارقم سے بھی روایت ہے۔ ہم اسے قتادہ کی انس کی روایت سے صرف عمران بن

قطان کی ہی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۳۲۔ اہل جنت کی صفت۔

باب ۱۳۳۲۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

۲۳۴۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی مانند ہوں گے وہ لوگ تھوکیں گے، نہ ناک سکیں گے اور نہ ہی انہیں حاجت کا تقاضا ہوگا۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے چاندی کی جب کہ ان کی آنکھیاں اگر کی لکڑی سے سلگائی جائیں گے۔ ان کا پینہ مشک ہوگا۔ اور پھر ہر شخص کے لئے دو دیو یاں ہوں گی جو اتنی حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا تک گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں بغض۔ نیز ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔

(۲۳۴۹) حدثنا سويد بن نصر نا ابن المبارك نا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يصفون ولا يتمخطون ولا يتخوون ولا يفتنون فيها من الذهب والفضة ولا يمشطون من الذهب والفضة ولا يمشون من اللؤلؤة ورشحهم المسك والكلب واجد منهم زوجتان يرى مخرج سؤفهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۵۰۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان وزمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے ننگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی سے ماند پڑ جاتی ہے۔

(۲۳۵۰) حدثنا سويد بن نصر نا عبد الله بن المبارك نا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان ما يقبل ظفر مما في الجنة بدأ لترخرقت له ما بين حوافق السموات والارض ولو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدأ اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن ابی عمیر کی سند سے ہی جانتے ہیں۔ یحییٰ بن ابی یوسفؒ یہی حدیث یزید بن ابی حبیب سے نقل کرتے ہوئے ”عن عمر بن سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کہتے ہیں۔

باب ۱۳۳۳۔ اہل جنت کے کپڑوں کے متعلق۔

۲۳۵۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ نہ ان کے جسم پر بال ہوں گے نہ ان کے زیر ناف بال ہوں گے نہ بغلوں میں، اور نہ ہی ان کی داڑھی موچھیں ہوں گی اور سرگین آنکھوں والے ہوں گے۔ ① ہمیشہ جوان رہیں گے یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔

باب ۱۳۳۳۔ ما جاء في صفة ثياب اهل الجنة

(۲۳۵۱) حدثنا محمد بن بشار و ابو هشام الرفاعي قالنا معاذ بن هشام عن ابيه عن عامر الاحول عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة جرد مرد كحلي لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم

یہ حدیث غریب ہے۔

① کحلی سے مراد وہ شخص ہے جس کی پلکیں لمبی ہوں اور نبت سیاہ۔ بغیر سرمہ لگائے ہوئے ایسا معلوم ہو کہ سرمہ لگایا ہوا ہے۔ داڑھی موچھیں نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھے کہ اس کی داڑھی بھی نہ لگی ہو۔ واللہ اعلم۔ ①

۲۳۵۲۔ حضرت ابوسعیدؓ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وفرش مرفو“ ① کے متعلق آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ان کے فرشوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی آسمان و زمین کے درمیان مسافت ہے یعنی پانچ سو برس کی مسافت۔

(۲۳۵۲) حدثنا ابو کریب نارشد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابی السمع عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله و فرش مرفوعۃ قال ارتفاعہا کما بین السماء والأرض مسیرۃ خمس مائۃ عام

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف رشیدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرش سے مراد جنت کے درجات ہیں۔

باب ۱۳۳۴۔ ماجاء فی صفۃ ثمار الجنۃ

باب ۱۳۳۳۔ جنت کے پھلوں کے متعلق۔

۲۳۵۳۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو سدرۃ المنتہیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی سوار اس کی شاخوں کے سائے میں سو سال تک چل سکے گا یا فرمایا: کہ اس کے سائے میں ہو کر سونوار چل سکیں گے۔ یہ بچی کا شک ہے۔ اس کے پتے سونے کے اور پھل مکلوں کے برابر ہوں گے۔ ②

(۲۳۵۳) حدثنا ابو کریب نا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ عن أسماء بنت ابی بکر قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر سدرۃ المنتہیٰ قال ینسیر الراکب فی ظل الفنن منہا مائۃ سنۃ او ینسطل بظلہا مائۃ راکب شک یحییٰ فیہا فراش الذهب کما ذکرہا القلال

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۳۵۔ ماجاء فی صفۃ طیر الجنۃ

باب ۱۳۳۵۔ جنت کے پرندوں کے متعلق۔

۲۳۵۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ کوڑ کیا ہے؟ فرمایا: وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یہ تو بڑی نعمت میں ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے۔

(۲۳۵۴) حدثنا عبد بن حمید نا عبد اللہ بن مسلمۃ عن محمد بن عبد اللہ بن مسلم عن ابیہ عن انس بن مالک قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الکوثر قال ذک نھر اعطانیہ اللہ یعنی فی الجنۃ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل فیہ طیر اعناقہا کاعناق الجوز قال عمر ان ہذہ لنا عمۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلنہا انعم منہا

اس آیت کی تفسیر میں حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اس سے مراد بچھونے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ فرش سے مراد عورتیں ہیں جب کہ مرفوعہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی عورتوں سے حسن و جمال میں بہت آگے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم) ② بعض علماء کہتے ہیں کہ طوبی بھی اسی درخت کا نام ہے۔ اس کی صفات متعدد احادیث میں مختلف انداز سے منقول ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن ہے اور محمد بن عبداللہ بن مسلم، ابن شہاب زہری کے بھتیجے ہیں۔

باب ۱۳۳۶۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ حَيْلِ الْجَنَّةِ

(۲۳۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَلِيٍّ نَا الْمَسْعُودِيَّ عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْشَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ حَيْلٍ قَالَ إِنْ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ تَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ أَنْ يُدْخَلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ

باب ۱۳۳۶۔ جنت کے گھوڑوں کے متعلق۔

۲۳۵۵۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے فرمایا: اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم جب چاہو گے ایسے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ گے جو سرخ یا قوت کا ہو گا وہ تمہیں لے کر جنت میں جہاں چاہو گے اڑتا پھرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص نے پوچھا کہ کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ لیکن آنحضرت ﷺ نے اسے پہلے کی طرح جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جو تم چاہو گے اور تمہاری آنکھیں اس سے تھلڈ نہ ہوں گی۔

سوید بھی عبداللہ بن مبارک سے وہ سفیان سے وہ علقمہ بن مرشد سے وہ عبدالرحمن بن باسط سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ مسعودی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

(۲۳۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْإِحْمَسِيُّ نَا ابْنَ مَعَاوِيَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سُرَّةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الْحَيْلَ أَفِي الْجَنَّةِ حَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أَتَيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَّا حَانَ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ

اس حدیث کی سند قوی نہیں ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوسورہ، ابویوب کے بھتیجے ہیں۔ انہیں یحییٰ بن معین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جب کہ امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ یہ ایسی احادیث نقل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی متابع نہیں ہوتا۔

باب ۱۳۳۷۔ جنتیوں کی عمر کے متعلق۔

باب ۱۳۳۷۔ مَا جَاءَ فِي سِنَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(۲۳۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا عِمْرَانَ ابْنَ الْعَوَامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

۲۳۵۷۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اہل جنت اس حالت میں جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے بدن بال نہیں ہوں گے نہ ہی ان کی داڑھی یا مونچھیں ہوں گی ان کی آنکھیں

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرَدًا مُرَدًا مُكْحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً

سرگیں ہوں گی اور عمر تیس یا تینتیس برس تک ہوگی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے بعض قنادہ کے ساتھی اسے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۳۸۔ اہل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی؟

باب ۱۳۳۸۔ مَا جَاءَ فِي كَمْ صَفِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

۲۳۵۸۔ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی امت کی اور چالیس باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔

(۲۳۵۸) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَانُ الْكُوفِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ ضَرَّارِ بْنِ مَرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفِّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَّمِ

یہ حدیث حسن ہے اسے علقمہ بن مرثد بھی سلیمان بن بریدہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ بعض اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ”عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ پھر ابوسفیان کی محارب بن دینار سے منقول حدیث حسن ہے۔ ابوسنان کا نام ضرار بن مرہ ہے جب کہ ابوسنان شیبانی: سعید بن شان بصری ہیں۔ نیز ابوسنان شامی کا نام عیسیٰ بن شان ہے اور یہ قسمی ہیں۔

۲۳۵۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں ہم تقریباً چالیس آدمی آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک خیمے میں تھے کہ فرمایا: کیا تم لوگ اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی لوگ تم ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا تمہاری ہونے پر بھی راضی ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ پھر پوچھا کیا اس پر بھی راضی ہو کہ آدھے جنتی تم لوگ ہو؟ اس لئے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکیں گے اور تم لوگ تعداد میں مشرکین کی بہ نسبت اس طرح ہو جیسے کالے بیل کی کھال پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی کھال پر ایک کالا بال۔

(۲۳۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداود انبأنا سعيد عن ابی اسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحوًا من أربعين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربيع أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة إن الجنة لا يدخلها الأنفس مسلمة ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأحمر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عمران بن حصینؓ اور ابوسعید خدریؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۳۹۔ جنت کے دروازوں کے متعلق۔

باب ۱۳۳۹۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

۲۳۶۰۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی

(۲۳۶۰) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ نَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى الْقَرَّازِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ

اس کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار سوار اس میں تین روز تک چلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود داخل ہوتے وقت دباؤ اتنا بڑھے گا کہ قریب ہوگا کہ ان کے بازو اتر جائیں۔

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاحِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادَ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ

یہ حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: میں اسے نہیں جانتا۔ خالد بن ابوبکر، سالم بن عبد اللہ

کے حوالے سے بہت سے منکر احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۴۰۔ جنت کے بازار کے متعلق۔

باب ۱۳۴۰۔ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ

۲۳۶۱۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میری ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ میں نے عرض کیا: کیا وہاں بازار بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں۔ مجھے آنحضرت ﷺ نے بتایا کہ اہل جنت جب اپنے اعمال کے مطابق جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر جمعے کے دن انہیں بلایا جائے گا۔ تاکہ وہ اپنے رب کی زیارت کر سکیں۔ چنانچہ عرش الہی ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا۔ پھر ان کے لئے نور، موتی، زمرہ، یا قوت، سونے اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے اور ان میں سے ادنیٰ درجے کا جنتی۔ (اگر چہ ان میں کوئی ادنیٰ نہیں ہوگا۔) ❶ بھی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوگا۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ کوئی ان سے اعلیٰ منبروں پر بھی ہے۔ (تاکہ وہ غمگین نہ ہوں) ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے؟ فرمایا: ہاں۔ کیا تم لوگوں کو سورج یا چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی زحمت یا تردد ہوتا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھنے میں بھی زحمت و تردد میں مبتلا نہیں ہو گے۔ بلکہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہ کر سکے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے کہیں گے۔ اے فلاں بن فلاں تمہیں یاد ہے تم نے فلاں دن اس طرح کہا تھا۔ اور اسے اس کے بعض گناہ یاد دلائیں گے۔ و عرض کرے گا۔ اے اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ

(۲۳۶۱) حدثنا محمد بن اسمعيل نا هشام بن عمار نا عبد الحميد بن حبيب بن ابى العشرين نا الازاعي ثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريرة فقال ابو هريرة اسأل الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد فيها سوق قال نعم اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا فيزرون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدي لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس اذانهم وما فيهم من ديني على كئبان المسك والكافور ما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا قال ابو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون من رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يفي في ذلك المجلس رجل الا حاضرة الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلاں ابن فلاں انذرتك يوم قلت كذا وكذا فيذكرة ببعض عذراته في الدنيا فيقول يارب

❶ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی خسیس نہیں ہوگا ان کے درجات ضرور متفاوت ہوں گے۔ (مترجم)

فرمائیں گے کیوں نہیں۔ میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تم اس منزل پر پہنچے ہو۔ اس دوران ان لوگوں کو ایک بدلی ڈھانپ لے گی اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش کرے گی کہ انہوں نے کبھی ویسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اٹھو اور میری کرامتوں (انعامات) کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لئے رکھے ہیں اور جو چاہو لے لو۔ پھر ہم لوگ اس بازار کی طرف جائیں گے۔ فرشتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا۔ اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرے۔ چنانچہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کی جائے گی۔ جس کی ہم خواہش کریں گے۔ وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ پھر وہاں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ان میں ان سے اعلیٰ مرتبے والا جنتی اپنے سے کم درجے والے سے ملاقات کرے گا۔ حالانکہ ان میں کوئی بھی کم درجے والا نہیں ہوگا تو اسے اس کا لباس پسند آئے گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پر اس سے بھی بہتر لباس ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اس لئے ہوگا کہ وہاں کسی کا غمگین ہونا جنت کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں جب ہماری اپنی بیویوں سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گی۔ مرحباً و اہلاً۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر لوٹے ہو۔ ہم کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس میں بیٹھ کر آرہے ہیں۔ لہذا اسی حسن و جمال کے مستحق ہیں۔

أَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنزِلَتِكَ هَذِهِ فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبَّنَا قَوْمُوا أَعَدَدْتُمْ لَكُمْ مِنَ الْكِرَامَةِ فَخُذُوا مَا اسْتَهَيْتُمْ فَنَاتِي سَوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلْفِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعَيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيَحْمَلُ إِلَيْنَا مَا اسْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْتَقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةَ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ ذَنْبٌ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيَاسِ فَمَا يَنْقُضِي إِحْرَادِيَّتَهُ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَقْنَا نَا أَزْوَاجَنَا فَيَقْلَنَ مَرَحَبًا وَ أَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيُحَقِّقُنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۳۶۲۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی ہاں اس میں عورتوں اور مردوں کی تصویریں ہوں گی جو جسے پسند کرے گا اسی کی طرح ہو جائے گا۔

(۲۳۶۲) حدثنا احمد بن منيع وهنا قال انا ابو معاوية ثنا عبد الرحمن بن اسحق عن النعمان ابن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لسوقا ما فيها شري ولا بيع الا الصور من الرجال والنساء فاذا انتهى الرجل صورة دخل فيها

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۴۱۔ رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق۔

باب ۱۳۴۱۔ ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى

(۲۳۶۳) حدثنا هناد نا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم ستعوضون على ربكم فترؤنه كما ترؤن هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس و صلوة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

یہ حدیث صحیح ہے۔

(۲۳۶۴) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدی نا حماد بن سلمة عن ثابت البنانی عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين احسنوا الحسنی وزيادة قال اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا قالوا ألم يبئض وجوهنا وينجننا ويُدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف الحجاب قال فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه

قول نقل کرتے ہیں۔

(۲۳۶۵) حدثنا عبد بن حميد اخبرني شابة بن سوار عن اسراييل عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه

۲۳۶۳۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے چاند کی طرف دیکھا جو کہ چودھویں رات کا تھا اور فرمایا: تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھ سکو گے جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ یعنی اسے دیکھنے میں بالکل رحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لہذا اگر ہو سکے تو طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے کی نمازیں ضرور پڑھا کرو۔ ❶ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب“ الخ یعنی تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو ❷ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور بعد بھی۔

۲۳۶۴۔ حضرت صہیبؓ، ارشاد باری تعالیٰ ”للذين احسنوا الحسنی و زیادة“ ❶ کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہیں اللہ سے ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اور ہمیں نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ (یعنی اب ہمیں کس چیز کی حاجت باقی رہتی ہے) وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ پھر پردہ ہٹایا جائے گا۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہیں اس کی طرف دیکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی۔

اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے مسند اور مرفوع کیا ہے۔ سلیمان بن مغیرہ اسے ثابت بنانی سے اور وہ عبدالرحمن بن ابی لیلی سے انہی کا

۲۳۶۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ادنیٰ درجے کا جتنی بھی اپنے باغوں، بیویوں نعمتوں خدمت گاروں اور تختوں کو ایک ہزار برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی

❶ اس سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ خصوصی طور پر انہیں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں سستی غالب ہوتی ہے لہذا جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (مترجم) ❷ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ (مترجم) ❸ یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے جنت ہے یعنی حسنیٰ اور اس پر مزید یہ کہ انہیں باری تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ (مترجم)

وَسُرُّرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً

طرف دیکھے گا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وجوہ“..... لا یہ اس روز بہت سے چہرے بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔

یہ حدیث کئی سندوں سے اسرا کیل ہی سے منقول ہے وہ ثور سے اور وہ ابن عمر سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں عبد الملک بن ابجر بھی ثور سے اور وہ ابن عمر سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ پھر عبد اللہ الشحمی، سفیان سے وہ ثور سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمر سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں مرفوع نہیں کرتے۔ ابو کریب محمد بن علاء، عبد اللہ الجمعی سے وہ سفیان سے وہ ثور سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمر سے اسی کی مانند غیر مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

(۲۳۶۶) حدثنا محمد بن طريف الكوفي ثنا جابر ابن نوح عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر تضامون في رؤية الشمس قالوا لا قال فانكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته

۲۳۶۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو چودھویں کا چاند یا سورج دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: تم لوگ عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھ سکو گے جس طرح چودھویں کا چاند دیکھ سکتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یحییٰ بن عیسیٰ اور کئی راوی اسے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن ادريس، ابی اعمش سے وہ ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں پھر یحییٰ ابوسعید سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۲۔ مَا جَاءَ فِي رِضَى اللَّهِ

باب ۱۳۴۲۔ رضائے الہی کے متعلق۔

(۲۳۶۷) حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك نا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعدتك فيقول هل رضىتم فيقولون ما لنا لا نرضى وقد اعطينا ما لم نعط احدا من خلقك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا وای شيء افضل من ذلك قال اجل عليكم رضوانی فلا اسخط عليكم ابداً

۲۳۶۷۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیو! وہ جواب دیں گے لیک و سعد یک یا رب! اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم لوگ راضی ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں جب کہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا کروں گا۔ وہ پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایسی رضا عطا کرتا ہوں کہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۳۔ مَا جَاءَ فِي تَرَائِيِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

باب ۱۳۴۳۔ اہل جنت بالا خانوں سے ایک دوسرے کا نظارہ

کریں گے۔

۲۳۶۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو کمروں (بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے شرقی یا غربی ستارہ غروب یا طلوع کے وقت افق پر دیکھتے ہیں اور یہ سب تفاضل درجات میں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ فرمایا: ہاں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ وہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور پیغمبروں کی تصدیق کریں گے۔

(۲۳۶۸) حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله نا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الغرة كما يتراءون الكوكب الشرفي أو الكوكب العربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون قال بلى والذئبي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۴۔ جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔
۲۳۶۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے پھر ان کی طرف دیکھ کر فرمائیں گے کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ کیوں نہیں آتا۔ چنانچہ صلیب والے کے آگے صلیب کی تصویر والے کے لئے اس کی تصویریں اور آگ والے کے لئے اس کی آگ کی صورت بن کر آئے گی تو وہ تمام لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر مسلمان باقی رہ جائیں گے تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں گئے؟ وہ عرض کریں گے اے رب ہم تجھ ہی سے پناہ کے طلب گار ہیں۔ ہمارا رب تو اللہ ہے لہذا ہماری جگہ یہی ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ پھر اللہ انہیں حکم دیں گے انہیں ثابت قدم کریں گے اور دوبارہ چھپ جائیں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہوں گے اور پوچھیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے وہ پھر وہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں حکم دیں گے اور ثابت قدم کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا تم لوگ چودھویں کا چاند دیکھتے ہوئے شک میں مبتلا ہوتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح عنقریب تم لوگ اپنے رب (یقین کامل) کے

باب ۱۳۴۴۔ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ
(۲۳۶۹) حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون و يبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك ونعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يارسول الله قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يارسول الله قال فإنكم لاتضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرّفهم نفسه، ثم يقول

ساتھ دیکھو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ چھپیں گے اور پھر ظاہر ہو کر انہیں اپنے متعلق بتائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں لہذا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ سب مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس پر سے ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ وہ لوگ اس موقع پر یہ کہیں گے کہ ”سلم سلم“ یعنی سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر دوزخی باقی رہ جائیں گے چنانچہ ایک فوج اس میں ڈالی جائے گی اور پوچھا جائے گا کیا تو بھگئی؟ وہ عرض کرے گی: کچھ اور ہے؟ پھر ایک اور فوج ڈال کر پوچھا جائے گا تو بھی اس کا یہی جواب ہوگا۔ یہاں تک کہ سب کے ڈالے جانے پر بھی یہی جواب دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے جس سے وہ سمٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ: بس وہ کہے گی بس، بس۔ پھر جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے تو موت کو کھینچ کر لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان کی دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور دوزخیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہو لیکن ان سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ وہ سب کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے جو ہم پر مسلط تھی چنانچہ اسے لٹایا جائے گا اور اسی دیوار پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے جنت والو اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو اب ہمیشہ یہیں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی۔

أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِيْ فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمْرُ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ وَيَسْمَى أَهْلُ النَّارِ فَيَطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ فَيَقَالُ هَلِ امْتَلَأَتْ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيَقَالُ هَلِ امْتَلَأَتْ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطَّ قَطَّ قَطَّ فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ أَتَى بِالْمَوْتِ مُلَبِّيًا فَيُوقِفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ فَيَقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَاهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وَكَّلَ بِنَا فَيَضْحَعُ فَيَذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۷۰۔ حضرت ابوسعیدؓ فرموا نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو چت کبریٰ بھیرکی صورت میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا وہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنت والے مرجاتے اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مرجاتے۔

(۲۳۷۰) حدثنا سفیان بن وکیع نا ابی عن فضیل بن مرزوق عن عطیة عن ابی سعید یرفعہ قال اذا کان یوم القیامة اتی بالموت کالکبش المملح فیوقف بین الجنۃ والنار فیدبح وہم ینظرون فلو ان احدًا مات فرحًا لمات اهل الجنۃ ولو ان احدًا مات حزنا لمات اهل النار۔

یہ حدیث حسن ہے اور آپ ﷺ سے بہت سی احادیث منقول ہیں جن میں دیدار الہی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھیں گے۔ جہاں تک قدم کا تعلق ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں کا تو سفیان ثوری، مالک، ابن عیینہ، کعب، ابن مبارک اور کئی علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیفیت کے متعلق نہیں جانتے محدثین نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ مذکور ہیں ان کی تفسیر نہیں کی جاتی نہ ہی وہم کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی کیفیت بھی نہیں پوچھی جاتی مذکورہ حدیث میں ”فیعرفہم نفسہ“ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اپنی تجلی ظاہر کرے گا۔

باب ۱۳۴۷۔ مَا جَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

باب ۱۳۴۷۔ جنت شد اند سے پر ہی جب کہ دوزخ خواہشات سے پر ہے۔

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا عمرو بن عاصم انا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

۲۳۷۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی تو جبرائیل کو جنت اور اس میں موجود چیزیں دیکھنے کے لئے بھیجا۔ وہ گئے اور دیکھ کر واپس لوٹے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ وہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب دوزخ اور اس میں موجود عذاب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ واپس آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی قسم اس کا حال سننے کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بھیجا۔ اس مرتبہ وہ لوٹے اور عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی شخص نجات نہ پاسکے گا اور داخل

(۲۳۷۲) حدثنا ابو كريب نا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو نا ابو سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبرئيل الى الجنة فقال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها قال فجااء فنظر اليها والى ما اعدت للاهلها فيها قال فرجع اليه قال فوعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فامر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع اليها فانظر الى ما اعددت لاهلها فيها قال فرجع اليها فاذا هي قد حفت بالمكاره فرجع اليه فقال فوعزتك لقد حفت ان لا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر اليها والى ما اعدت لاهلها فيها فاذا هي يركب بعضها بعضا فرجع اليه فقال فوعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فامر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فقال فوعزتك لقد

یعنی جسے جنت میں داخل ہونا ہوگا اسے عبادت وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی کیونکہ جنت ان سے گھری ہوئی ہے جب کہ دوزخ اس کے برعکس شہوات نفسانی کی اتباع پر مقرر کی جاتی ہے۔ (مترجم)

حَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ہو جائے گا۔

باب ۱۳۴۸۔ ماجاء فی احتجاج الحنة والنار۔

۲۳۷۳۔ حدثنا ابو كريب ناعبده بن سليمان عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتجبت الحنة والنار فقالت الحنة يد خلني
الضعفاء و المساكين وقالت النار يد خلني
الجبارون والمتكبرون فقال للنار انت عذابي
انتقم بك ممن شئت وقال للحنة انت رحمتي
ارحم بك من شئت

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۴۸۔ جنت اور دوزخ کے مابین تکرار کے متعلق۔

۲۳۷۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت
کی دوزخ سے تکرار ہوئی تو جنت نے کہا: مجھ میں ضعفاء اور مساکین
داخل ہوں گے۔ دوزخ نے کہا: مجھ میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا: تم میرا عذاب ہو جس سے انتقام
لینا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے لیتا ہوں۔ پھر جنت سے فرمایا: تم میری
رحمت ہو میں تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔

باب ۱۳۴۹۔ ادنیٰ درجے کے جنتی کے لئے انعامات۔

۲۳۷۴۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ادنیٰ جنتی وہ ہے جس کے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی۔ اس
کے لئے موتی، یا قوت اور زمرد سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا جتنا
کہ صنعا اور جاہلیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی سند سے یہ بھی منقول
ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تیس سال کر
دی جائے گی۔ خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا۔ یہی
حال دوزخیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ ان کے
سرہوں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنیٰ سے ادنیٰ موتی بھی مشرق
و مغرب روشن کر دے گا۔

باب ۱۳۴۹۔ ماجاء مالاذنی اهل الحنة من الكرامة

(۲۳۷۴) حدثنا سويد بن نصر نا ابن المبارك نا
رشد بن سعد ثنی عمرو بن الحارث عن دراج
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنى أهل الحنة
الذي له ثمانون ألف خادم اثنان وسبعون زوجة و
تنصب له قبة من لؤلؤ و زبرجد و يا قوت كما بين
الحابية الى صنعا و بهذا الإسناد عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال من مات من أهل الحنة من صغير أو
كبير يردون بنى ثلاثون في الحنة لا يزيدون عليها
أبدا و كذا لك أهل النار بهذا الإسناد عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إن عليهم التيجان إن اذنى لؤلؤ
منها لتضيئ ما بين المشرق والمغرب

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف رشد بن سعد بن روایت سے جانتے ہیں۔

۲۳۷۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر کوئی مؤمن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑے

(۲۳۷۵) حدثنا ابو بكر محمد بن بشار نا معاذ
بن هشام ثنی ابی عن عامر الاحول عن ابی

میں حمل، پیدائش، اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی۔

الْصَّيْدِيْقُ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ، وَوَضْعُهُ، وَسِنُّهُ، فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهَى

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف جماع ہوگا اولاد نہیں۔ طاہوس، مجاہد اور ابراہیم نخعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام بخاری، اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی مؤمن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک گھڑے میں وہ جس طرح چاہے گا ہو جائے گا۔ لیکن وہ آرزو نہیں کرے گا۔ پھر ابو رزین عقیلی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ ابوصدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے بکر بن قیس بھی انہی کو کہتے ہیں۔

باب ۱۳۵۰۔ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ حُورِ الْعَيْنِ۔

باب ۱۳۵۰۔ حوروں کی گفتگو کے متعلق۔

۲۳۷۶۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جنت میں حوریں جمع ہوتی ہیں اور اپنی ایسی آواز بلند کرتی ہیں کہ مخلوق نے کبھی ویسی آواز نہیں سنی اور وہ کہتی ہیں: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ہم ناز و نعم میں رہنے والی ہیں کبھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتیں۔ ہم اپنے شوہروں سے راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتیں۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لئے جو ہمارے لئے ہے اور ہم اس کے لئے۔

(۲۳۷۶) حَدَّثَنَا هنادوا حمد بن منيع قالنا ابو معاوية نا عبد الرحمن بن اسحق عن النعمان بن سعيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لمجتمعاً للهور العين يعرفن باصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نياس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكننا له

یہ حدیث غریب ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابوسعیدؓ اور انسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۵۱۔ جنت کی نہروں کے متعلق۔

باب ۱۳۵۱۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

۲۳۷۷۔ حضرت معاویہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے سمندر ہیں پھر ان میں سے نہریں نکل رہی ہیں۔

(۲۳۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَائِزِيْدُ بْنُ هَارُونَ نا الحريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الحمر ثم تشقق الأنهار بعد

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حکیم بن معاویہؓ، بہر کے والد ہیں۔

۲۳۷۸۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی جنت اس کے لئے دعا

(۲۳۷۸) حَدَّثَنَا هناد نا ابوالاحوص عن ابى اسحق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك قال قال رسول

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قَالَتْ الْجَنَّةُ اللّٰهُمَّ ادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللّٰهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ

کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ سے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص
دوزخ سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ دوزخ اس کے لئے دعا کرتی ہے
کہ اے اللہ سے دوزخ سے بچا۔

یونس نے بھی ابواسحاق سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ وہ انس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کہ
ابواسحاق سے برید بن ابی مریم کے حوالے سے حضرت انسؓ ہی کا قول منقول ہے۔

(۲۳۷۹) حدثنا ابو كريب ناو كيع عن سفيان
عن ابى اليقظان عن زاذان عن ابن عمير قال قال
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ عَلَي كُتُبَانِ
الْمُسْكَ اَرَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْطُهُمُ الْاَوْوُونَ
وَالْاَجْرُونَ رَجُلٌ يَنْدِي بِالصَّلْوَةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَوْمَ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَعَبْدٌ
اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ

۲۳۷۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص
مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے (راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ
ﷺ نے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کیا) ان پر پہلے اور بعد والے
سب رشک کر رہے ہوں گے۔ مؤذن جو پانچوں نمازوں کے لئے
اذان دیتا ہے۔ ۲۔ ایسا امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔
۳۔ ایسا غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف سفیان ثوری کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابویقظان کا نام عثمان بن عمیر ہے۔ انہیں ابن
قیس بھی کہتے ہیں۔

(۲۳۸۰) حدثنا ابو كريب نا يحيى اذم عن ابى بكر
بن عياش عن الاعمش عن منصور عن ربيع عن
عبدالله بن مسعود يرفعه، قال ثلثة يُجِبُّهُمُ اللّٰهُ
عَزَّوَجَلَّ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ
تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِمِمينِهِ يُخْفِيهَا قَالَ اَرَاهُ مِنَ شِمَالِهِ
وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَاَنْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ

۲۳۸۰۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ تین شخص
ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ۱۔ وہ شخص جو رات کو
کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ۲۔ ایسا شخص جو اپنے دائیں
ہاتھ سے چھپا کر صدقہ و خیرات کرتا ہے (میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا
کہ) اور بائیں ہاتھ کو بھی خیر نہیں ہوتی۔ ۳۔ وہ شخص جس نے اپنے لشکر
کے ساتھیوں کے شکست کھانے کے بعد دشمن کا اکیلے مقابلہ کیا۔

یہ حدیث غریب اور اس سند سے غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہ ہے جو شعبہ وغیرہ منصور سے وہ ربیع بن خراش سے وہ زید بن ظلیان سے وہ
ابوزر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابوبکر بن عیاش کثیر الغلط ہیں۔

(۲۳۸۱) حدثنا ابو سعيد الاشج نا عقبه بن خالد نا
عبيد اللّٰه بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن جدّه
حفص بن غاصم عن ابى هريرة قال قال رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفَرَاتُ يَحْمِرُ عَنْ كَنْزٍ
مِّنَ الذَّهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

۲۳۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بحر قریب
دریائے فرات ایک سونے کے خزانے کو منکشف کرے گا۔ تم میں سے
جو اس وقت موجود ہو۔ وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔

۱۔ سر یہ ایک چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ چار سو تک ہوتی ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید اشج، عقبہ بن خالد سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ ابو زناد سے وہ اعرج سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ اس سے مختلف ہیں کہ عنقریب دریائے فرات ایک سونے کا پہاڑ کھول دے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۸۲۔ حضرت ابو ذرؓ آنحضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ تین شخصوں سے اللہ رب العزت محبت اور تین سے بغض رکھتے ہیں۔ جن سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ۱۔ کوئی شخص کسی قوم سے خدا کے لئے کچھ مانگتا ہے نہ کہ اس قربت اری کے لئے جو اس شخص اور اس قوم کے درمیان ہوتی ہے لیکن وہ لوگ اسے کچھ نہیں دیتے۔ پھر انہی میں سے کوئی شخص الگ جا کر اسے اس طریقے سے دیتا ہے کہ اللہ اور اس سائل کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ وہ دینے والا شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ۲۔ دوسرا وہ شخص جو کسی جماعت کے ساتھ رات کو چلتا ہے یہاں تک کہ انہیں نیند کے مقابلے کی تمام چیزوں میں نیند پیاری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ سر رکھ کر سو جاتے ہیں لیکن وہ شخص کھڑا ہو کر اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے۔ اور اس کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ ۳۔ تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں ہوتا ہے اور اس لشکر کو دشمن کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے لیکن وہ شخص سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تاکہ یا تو قتل ہو جائے یا پھر فتح کر کے لوٹے۔ (یہ تھے وہ تین جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب ان تین کا تذکرہ آتا ہے) جن سے اللہ بغض رکھتے ہیں وہ یہ ہیں۔ بوڑھا زانی، منکر فقیر اور ظالم غنی۔

(۲۳۸۲) حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالانا ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور ابن المعتمر قال سمعت ربيعى بن خراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه، الى ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم فاما الذين يحبهم الله فرجل اثنى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه، وبينهم فمنعوه فتخلف رجل باعيا عنهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذى أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوأرؤء وسههم قام يتملقنى ويتلوا آياتى ورجل كان فى سرية فلقى العدو فهزموا فاقبل بصدرة حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزانى والفقير المحتال والغنى الظلوم

محمود بن غیلان، نصر بن شمیل سے اور وہ شعبہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شیبان بھی منصور سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر بن عیاش کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 جہنم کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے نقل کردہ
 احادیث کے ابواب
 باب ۱۳۵۲۔ جہنم کے متعلق۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ابواب صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 باب ۱۳۵۲۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

۲۳۸۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائیں گے۔

(۲۳۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ نَا أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدِ الْكَا هِلِيَّ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُونَهَا

عبداللہ بن عبدالرحمن اور ثوری کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے مرفوع نہیں کرتے۔ عبدالرحمن بن حمید، عبدالملک اور ابو عامر عقدی سے وہ سفیان سے اور وہ علاء سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں یہ بھی مرفوع نہیں۔

۲۳۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی وہ کہے گی: مجھے تین شخصوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ۱۔ سرکش ظالم، ۲۔ مشرک، ۳۔ مصور۔

(۲۳۸۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۵۳۔ جہنم کی گہرائی کے متعلق۔

۲۳۸۵۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن غزوآن نے ہمارے اس بھری کے منبر پر آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑا پتھر پھینکا جائے اور وہ ستر برس تک نیچے گرتا رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ پھر عقبہ نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا کہ جہنم کو بکثرت یاد کیا کرو۔ اس لئے کہ اس کی گہرائی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی انتہائی بعید اور اس کے کوزے حدید (لوہے) کے ہیں۔

باب ۱۳۵۳۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

(۲۳۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنِ حَمِيدٍ نَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَعْفِيِّ عَنِ فَضِيلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مَنْبَرِنَا هَذَا مَنِبِرِ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتَلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَكْثَرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ

ہمیں علم نہیں کہ حسن نے عقبہ بن غزوآن سے کوئی حدیث سنی ہو کیونکہ وہ بصرہ، حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں آئے تھے اور حسن، حضرت عمرؓ کی خلافت ختم ہونے سے صرف دو سال پہلے پیدا ہوئے۔

(۲۳۸۶) حدثنا عبد بن حميد نا حسن بن موسى عن ابى لهيعة عن دراج عن ابى الهيثم عن ابى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوى فيه كذلك ابدا

۲۳۸۶۔ حضرت ابو سعيدؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے۔ کافر اس پر ستر سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا۔ اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

باب ۱۳۵۴۔ مَا جَاءَ فِي عَظْمِ أَهْلِ النَّارِ

باب ۱۳۵۴۔ دوزخیوں کی جسامت۔

(۲۳۸۷) حدثنا علي بن حجر نا محمد بن عمار ثني جدى محمد بن عمار وصالح مولى التؤمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت الكافر يوم القيامة مثل أحد وفجده، مثل البيضاء ومقعده، من النار مسيرة ثلاث مثل الربدة يعنى به كما بين المدينة والربدة والبيضاء جبل

۲۳۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی طرح، اس کی ران بیضاء پہاڑ کی طرح اور اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دن تک کی مسافت ہوگی۔ "مثل الربدہ" یعنی مدینہ اور ربدہ کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے جب کہ بیضاء ایک پہاڑ کا نام ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو کریب اسے مصعب بن مقدم سے وہ فضیل سے وہ ابو حازم سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے اور ابو حازم اشجعی ہیں۔ ان کا نام سلمان ہے اور یہ عزا اشجعیہ کے مولیٰ ہیں۔

(۲۳۸۸) حدثنا هناد نا على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن ابى المخارق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر ليسحب لسانه الفرسخ أو فرسخين يتوطأه الناس

۲۳۸۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو ایک یا دو فرسخ تک زمین پر گھسیٹے گا لوگ اسے روندتے پھریں گے۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ فضل بن یزید کوئی سے کسی ائمہ احادیث نقل کرتے ہیں۔ اور ابو مخارق غیر

مشہور ہیں۔

(۲۳۸۹) حدثنا العباس بن محمد الدورتي نا عبید الله بن موسى ناشيبان عن الاعمش

۲۳۸۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کافر کی کھال کی موٹائی بیالیس گز ہے۔ اس کی داڑھ احد کے برابر اور اس کے

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنْ ضُرَّسَهُ، مِثْلُ أَحَدٍ وَإِنْ مَجَلِسَهُ، مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ
یہ حدیث اعمش کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۵۵۔ دوزخیوں کے مشروبات۔

۲۳۹۰۔ حضرت ابوسعیدؓ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”کالمہل“ کے متعلق آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: وہ تیل کی تلچٹ کی مانند ہوگی اور جب دوزخی (اسے پینے کے لئے) منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

باب ۱۳۵۵۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ
(۲۳۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَارَشِدِينَ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دِرَاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالْمَهْلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ، إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ قَرْوَةٌ وَوَجْهَهُ فِيهِ

اس حدیث کو ہم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور ان کے حافظے پر اعتراض کیا گیا ہے۔

۲۳۹۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: گرم پانی (حمیم) ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور وہ ان کے جوف تک نفوذ کر جائے گا۔ اس سے اس کے گردے، کلیجہ اور آنتیں وغیرہ کٹ جائیں گی یہاں تک کہ وہ سب چیزیں اس کے قدموں میں سے نکل جائیں گی۔ قرآن کریم میں مذکورہ ”صہر“ سے بھی یہی مراد ہے اور پھر وہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔

(۲۳۹۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ جَحْمِرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لِيَصِبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُرَّقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ

ابن حجرہ کا نام عبدالرحمن بن حجرہ مصری ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۳۹۲۔ حضرت ابوامامہؓ قرآن کریم کی آیت ”وَيَسْقَىٰ مِنَ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ“ الآیة کی تفسیر آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اسے اس کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو

(۲۳۹۲) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۔ جلد اور اعضاء کی مقدار میں روایات کا اختلاف اعمال کے اختلاف پر محمول ہے چنانچہ جس قدر فساد و شر زیادہ ہوگا اس کا جسم بھی اسی قدر بڑا ہوگا گناہگار مومنوں کا بھی یہی حال ہوگا چنانچہ حارث بن قیس سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے کسی شخص کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بہنم کا ایک کونہ بھر جائے گا۔“ (مترجم) ۲۔ اس آیت سے مراد یہ آیت ہے۔ ”وَإِنْ يَسْتَوِيُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمَهْلِ يَشْوَى الْوَجُوهَ“ (مترجم) ۳۔ حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت اتنا تک پہنچ گئی ہو۔ (مترجم) ۴۔ یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ”يَصِبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ بِصَهْرٍ بِهِ مَافِي بَطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ“ (مترجم)

وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيُسْفَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، قَالَ يُقَرَّبُ إِلَيَّ فِيهِ فَيَكْرَهُهُ، فَإِذَا أُذِنِي مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرَوَةٌ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ، قَطَعَ أَمْعَاءَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُقُومَاءَ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُ هُمْ وَيَقُولُ وَإِنْ يَسْتَعْبِئُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهَلِّ يَشْوَى الْوُجُوهَ بِفَسِّ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

وہ اس سے کراہت کرے گا۔ جب اور قریب کیا جائے گا تو اس کا منہ اس سے بھن جائے گا۔ اور اس کے سر کی کھال اس میں گر پڑے گی اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر دربر سے نکل جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَسُقُومَاءَ الآیۃ یعنی انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ پھر فرمایا: ”وان يستعبيئوا“ الآیۃ یعنی اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچٹ کی مانند پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور یہ کتنی بری رہنے کی جگہ ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری بھی عبید اللہ بن بسرؓ نے اسی طرح روایت کرتے ہیں اور یہ اسی حدیث سے پہچانے جاتے ہیں۔ صفوان بن عمرو نے عبد اللہ بن بسرؓ سے اس کے علاوہ بھی کئی احادیث نقل کی ہیں۔ عبد اللہ بن بسرؓ کے ایک بھائی اور ایک بہن کا بھی آنحضرت ﷺ سے سماع ہے۔ عبید اللہ بن بسرؓ جن سے صفوان بن عمرو نے مذکورہ بالا حدیث نقل کی ہے شاید وہ عبد اللہ بن بسرؓ کے بھائی ہوں۔

۲۳۹۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ”کالہل“ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ تیل کی تلچٹ کی طرح ہے۔ جب وہ دوزخی کے قریب کی جائے گی تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سرادق نار (دوزخ کی) چار دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت ہے۔ اسی سند سے منقول ہے کہ اگر عساق ۱ کی ایک بالٹو بھی دنیا میں ڈال دی جائے تو پورے اہل دنیا سڑ جائیں۔

(۲۳۹۳) حدثنا سويد بن نصر نا عبد الله نارشدین بن سعد ثنی عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد بن السدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل قال كعكر الزيت فاذا قرب اليه سقطت فروة وجهه فيه وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كل جدار مسيرة أربعين سنة وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من آفاق يهراق في الدنيا لآتن أهل الدنيا

اس حدیث کو، صرف رشیدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

۲۳۹۴۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”اتقوا الله حق تقاته“ الآیۃ (ترجمہ) اللہ سے اتنا

(۲۳۹۴) حدثنا محمود بن غيلان نا أبو داود نا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن

• عساق دوزخیوں کے جسموں سے بہنے والی پیپ اور خون کا نام ہے۔ (مترجم)

طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر مرو) اور پھر فرمایا: اگر زقوم ① کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا کی معیشت بگڑ جائے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی یہ ہوگی۔

عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الرَّقُومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَافْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشُهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۵۶۔ دوزخیوں کے کھانے۔

۲۳۹۵۔ حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دوزخیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ دوسرا عذاب اور بھوک برابر ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ فریاد کریں گے۔ چنانچہ انہیں ضریح ② کھانے کے لئے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک کو ختم کرے گا۔ وہ دوبارہ کھانے کے لئے کچھ مانگیں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا۔ وہ لوگ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے پر پانی پیا کرتے تھے اور پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی لوہے کے کلاب میں دیا جائے گا۔ وہ جب ان کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو وہ انہیں بھون دے گا اور جب پیٹ میں داخل ہوگا تو سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گا وہ کہیں گے کہ جہنم کے داروغہ کو بلاؤ۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں فرشتے کہیں گے: تو پھر پکارو اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے: مالک کو پکارو اور عرض کریں گے کہ اے مالک آپ کے رب کو چاہئے کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ وہ انہیں جواب دے گا کہ تمہارا فیصلہ تو ہو چکا۔ اعمش کہتے ہیں: مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان کی پکار اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کی مدت ہوگی۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ

باب ۱۳۵۶۔ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَامِ اَهْلِ النَّارِ (۲۳۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَاعِصِمُ بْنُ يُوْسُفٍ نَاقِطِبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقَى عَلٰى اَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَعِيْنُوْنَ فَيُعَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِّنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَعِيْنُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُعَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذَا عَصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُوْنَ اَنْهُمْ كَانُوْا يُحِيْزُوْنَ الْعَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَعِيْنُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُدْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلَا لِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا اَذْنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوْتٌ وَوُجُوْهُهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنُهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُوْنِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا حَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تَكْ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَاذْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ قَالِ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا مٰلِكًَا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مٰلِكََ لِيَقْضِرْ عَلَيْنَا رَبَّنَا قَالَ فَيَجِيْبُهُمْ اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ قَالِ الْاَعْمَشُ نَبِيْتُ اَنَّ بَيْنَ دُعَايِهِمْ وَبَيْنَ

① زقوم ایک درخت ہے جس کی جڑ دوزخ کی گہرائی میں ہے یہ سخت کڑوا ہے دوزخی اسے نہیں کھائیں گے تو زبردستی کھلایا جائے گا۔ (مترجم) ② ضریح ایک خشک کانٹے دار نباتات کا نام ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ جہنم میں ایک ایسی چیز ہے جو ایلوے سے زیادہ کڑوی، مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ (مترجم)

اپنے رب کو بلاؤ اس لئے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر عرض کریں گے اے رب ہم پر بدبختی غالب آگئی ہے ہم لوگ گمراہ تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے اگر اب بھی ہم وہی کچھ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیں گے کہ دھڑکار ہوتی ہے مجھ سے بات مت کرو۔ پھر وہ لوگ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور گدھے کی طرح ڈینگیں مارنے لگیں گے۔ اور حسرت اور ویل پکاریں گے۔

إِحَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ فَيَجِيبُهُمْ إِحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسُؤُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ

عبداللہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ راوی اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے نیز یہ اس سند سے بھی منقول ہے۔ عن الامام عثمان بن عفان عن ابي الدرداء عن ام الدرداء. پھر اسے انہی کا قول روایت کیا گیا۔ قطبہ بن عبدالعزیز محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

۲۳۹۶۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ”وہہ فیہا کالحوں“ (ترجمہ: وہ اس میں بد شکل اور ترش دہور ہے ہیں) کی تفسیر میں فرمایا: اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا اوپر کا ہونٹ آگ میں بھن کر اتا سکر جائے گا کہ سر کے بیچ میں پہنچ جائے گا۔ جب کہ نیچے والا ہونٹ لنگ کر ناف کے ساتھ لگنے لگے گا۔

(۲۳۹۶) حدثنا سويد نصرانا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد ابى شجاع عن ابى السمع عن ابى الهيثم عن ابى سعيد بن الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط راسه وتسترحى شفته السفلى حتى تضرب سرتة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابونعیم کا نام سلیمان بن عمر بن عبدالعزازی ہے۔ یہ یتیم تھے ان کی پرورش ابوسعید نے کی۔

۲۳۹۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر ایک اس کے برابر رصاص کا گولہ۔ اور آپ ﷺ نے سر کے طرف اشارہ کیا۔ آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جو پانچ۔ سال کی مسافت ہے تو وہ رات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا لیکن آگ سے زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑ دیا جائے تو چالیس برس تک دن رات چلنے کے بعد اس کی گہرائی یا اس کی اصل تک پہنچے گا۔ ❶

(۲۳۹۷) حدثنا سويد بن نصرانا عبد الله انا سعيد بن يزيد عن ابى اسمع عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو و بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رصاصه مثل هذه وأشار الى مثل الجمجمة أرسلت من السماء الى الأرض وهى مسيرة خمس مائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولواتها أرسلت من لاس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن

❶ یہ آیت کی تفسیر ہے۔ ”فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه“ ۱۱۶ اور گہرائی سے مراد جہنم کی گہرائی ہے اس لئے کہ زنجیر کی گہرائی نہیں ہوتی اگر زنجیر ہی مراد ہو تو اسکی لمبائی مراد ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

تَبْلَغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعَرَهَا.

اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۵۷۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا سترواں (۷۰) حصہ ہے۔

باب ۱۳۵۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ

۲۳۹۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آگ جسے لوگ سلگاتے ہیں جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جلانے کے لئے تو یہی آگ کافی تھی۔ فرمایا: وہ آگ اس سے انتہر (۶۹) درجے زیادہ گرم ہے اور ہر درجہ اس کی گرمی کے برابر ہے۔

(۲۳۹۸) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقَدُ بِنَوَادِمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ أَمِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فَضَلَتْ بِتِسْعَةِ وَ سِتِّينَ جُزْءٍ أَكْلُهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمام بن منبہ، وہب بن منبہ کے بھائی ہیں ان سے وہب نے روایت کی ہے۔

باب ۱۳۵۸۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۳۵۸۔ مِنْهُ

۲۳۹۹۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا سترواں (۷۰) حصہ ہے ہر حصہ اتنا ہی گرم ہے جتنی تمہاری یہ آگ۔

(۲۳۹۹) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ أَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ أَمِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْهَا حَرُّهَا

یہ حدیث ابوسعید کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۲۴۰۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک سلگایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ کالی ہوگئی۔ چنانچہ اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔

(۲۴۰۰) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ نَا يَحْيَىٰ بْنُ بَكِيرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ أَحْمَرَتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ أَيْضُتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُّظْلَمَةٌ

سويد بن نصر، عبداللہ سے وہ شریک سے وہ عاصم سے وہ ابوصالح یا کسی اور شخص سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ موقوف ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ یحییٰ بن بکیر کے علاوہ بھی کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔ وہ شریک سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۹۔ دوزخ کے لئے دو سانس اور اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کا تذکرہ۔

۲۳۰۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ایک مرتبہ سردیوں میں دوسری مرتبہ گرمی میں۔ چنانچہ سردی میں اس کا سانس سخت سردی کی شکل میں اور گرمی میں سخت لو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

باب ۱۳۵۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسَيْنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ

(۲۴۰۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ الْكُتَيْبِيُّ الْكُوفِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكَلْتُ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ وَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسُمُومٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہؓ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ مفضل بن صالح محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

۲۳۰۲۔ حضرت انسؓ سے مروی (ہشام کی روایت) میں منقول ہے۔ کہ جنت سے نکلے گا۔ جب کہ شعبہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: حکم ہوگا کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر ہر اس شخص کو بھی نکال دو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ اور اس کے دل میں گے ہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ نیز اس شخص کو بھی نکال دو جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں جو گے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔

(۲۴۰۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداود نا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِيدُ شَعِيرَةَ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِيدُ بُرَّةَ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِيدُ دَرَّةَ وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِيدُ دَرَّةَ مُخَفَّفَةً

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابرؓ اور عمران بن حصینؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۳۰۳۔ حضرت انسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔

(۲۴۰۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا ابوداود عن مبارك بن فضالة عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي مِنْ مَقَامٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۲۴۰۴) حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا ابو معاوية عن الاعمش

بضم الذال وخضه الراء وهو بالقافية ارنن ۱۲۔

میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا وہ گھٹتا ہوا وہاں سے نکلے گا اور کہے گا کہ اے رب! لوگوں نے تو جنت کے سب گھر لے لئے ہوں گے اس سے کہا جائے گا تو جا اور جنت میں داخل ہو جا وہ جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے جنت کے تمام گھر لے لئے ہیں۔ چنانچہ لو نے گا اور عرض کرے گا اے میرے پروردگار! لوگوں نے سب گھر لے لئے ہیں پھر کہا جائے گا کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم دوزخ میں تھے وہ کہے گا: جی ہاں۔ اس سے کہا جائے گا کہ پھر اپنی تمنایاں کر۔ وہ تمنا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے وہ بھی دیا جائے گا جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے اور ساتھ ہی دس گنا دنیا بھی۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ آپ مالک ہوتے ہوئے میرا تسخر کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر آنحضرت ﷺ کو ہنستے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ کچلیاں مبارک نظر آنے لگیں۔

عن ابراهيم عن عبدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا عرف اجرا اهل النار خروجا يخرج منها زحفا فيقول يا رب قد اخذ الناس المنازل قال فيقال له انطلق الى الجنة فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد اخذوا المنازل قال فيرجع فيقول يا رب قد اخذ الناس المنازل قال فيقال له اذكرك الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن قال فيتمنى فيقال له فان لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا قال فيقول اتسخرني وانت الملك قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۰۵۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں دوزخ سے سب سے آخر میں نکلنے اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کو جانتا ہوں۔ چنانچہ ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بڑے گناہوں کو چھپا کر چھوٹے گناہوں کے متعلق پوچھو۔ اس سے کہا جائے گا تم نے فلاں دن اس اس طرح کیا تھا۔ فرمایا: پھر اس سے کہا جائے گا۔ تیرے تمام گناہ نیکوں سے بدل دیئے گئے۔ وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے گناہ کئے تھے جو یہاں نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہنس رہے ہیں یہاں تک کہ کچلیاں مبارک نظر آنے لگیں۔

(۲۴۰۵) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن المعرور ابن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا عرف اجرا اهل النار خروجا من النار واجرا اهل الجنة دحو لا الجنة يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه واحبوا كبا رها فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فيقال له فان لك مكان كل سيئة حسنة قال فيقول يا رب لقد عملت اشياء ما اراها ههنا قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۰۶۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ کوئلہ کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر رحمت الہی ان کا تدارک کرے گی

(۲۴۰۶) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدب ناس من اهل التوحيد في

اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کے لوگ ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے کوئی دانہ بہنے والے پانی کے کنارے اگتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔

النَّارِ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُم الرِّحْمَةُ
فَيَخْرَجُونَ وَيَطْرَحُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ قَالَ فَيُرْشُ
عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْحَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُنَاءُ
فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت جابرؓ سے منقول ہے۔

۲۴۰۷۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ جس کو شک ہو وہ یہ آیت پڑھے ”ان اللہ لا یظلم مشقال ذرہ“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے)

(۲۴۰۷) حَدَّثَنَا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق نا
معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من
الإيمان قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله
لا يظلم مثقال ذرة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۴۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخیوں میں سے دو شخص بہت زور زور سے چیخنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ انہیں نکالو۔ انہیں نکالا جائے گا تو ان سے کہیں گے تم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے: تاکہ آپ ہم پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤ اور دوبارہ خود کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہ دونوں جائیں گے اور ایک دوزخ میں چلا جائے گا جب کہ دوسرا وہیں کھڑا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیں گے اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیوں نہیں گئے؟ وہ عرض کرے گا: میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساتھ تمہاری امید کے مطابق معاملہ ہوگا اور دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

(۲۴۰۸) حَدَّثَنَا سويد بن نصرانا ابن المبارك نا
رشد بن سعد قال ثني ابن انعم عن ابي عثمان
انه حدثه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد
صياحهما فقال الرب تبارك وتعالى اخرجوهما
فلما اخرجوا قال لهما لا ي شي اشد صياحكما
قالا فعلنا ذلك لترحمنا قال رحمتي لكما أن
تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار
فينطلقان فيلقى أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا
وسلما ويقوم الآخر فلا يلقى نفسه فيقول له
الرب تبارك وتعالى وما منعك أن تلقى نفسك
كما ألقى صاحبك فيقول يارب إني لأرجو أن لا
تعيدني فيها بعدما اخرجتني فيقول له الرب

① اس آیت سے دوزخ کے نکلنے پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ضرور جزاء دیں گے اور جزاء جنت ہی میں دی جائے گی کیونکہ دوزخ تو دارالعداب ہے لہذا اسے لازمی طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے اس نیک عمل کو دگنا چوگنا کر دیا جائے گا۔ (مترجم) ② یعنی پہلے والا حکم کی تعمیل کی وجہ سے اور دوسرا اپنی نیک امید کی وجہ سے۔ (مترجم)

تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ رَجَاءُكَ فَيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا
بِرَحْمَةِ اللَّهِ

اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس لئے کہ یہ رشدین بن سعد سے منقول ہے اور وہ ضعیف ہیں وہ ابن انعم افریقی سے روایت کرتے ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں۔

(۲۴۰۹) حدثنا محمد بن بشارنا ابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالونا عوف عن ابی رجاء العطاردي عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسْمُونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

۲۴۰۹۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یقیناً میری شفاعت سے ایک قوم دوزخ سے نکلے گی۔ ان کا نام جہنمی ہوگا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابورجاء عطاردی کا نام عمران بن تیم ہے۔ انہیں ابن ملحان بھی کہتے ہیں۔

(۲۴۱۰) حدثنا سويد بن نصرانا بن المبارك عن يحيى ابن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

۲۴۱۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے دوزخ کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے اور جنت کے برابر کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سو جائے۔ ❶

اس حدیث کو ہم صرف یحییٰ بن عبید اللہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ شعبہ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۰۔ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت ہوگی۔

باب ۱۳۶۰۔ مَا جَاءَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ

(۲۴۱۱) حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم نا ايوب عن ابی رجاء العطاردي قال سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

۲۴۱۱۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے جنت میں دیکھا تو جنتیوں کی اکثریت فقراء کی تھی اور جب دوزخ میں دیکھا تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی۔

(۲۴۱۲) حدثنا محمد بن بشارنا ابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالونا عوف عن ابی رجاء العطاردي عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسْمُونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

۲۴۱۲۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے دوزخ میں جھانکا تو وہاں عورتوں میں زیادہ تھیں جب کہ جنت میں فقراء کی اکثریت تھی۔ ❶

❶ یعنی جنت اور دوزخ جیسی چیزوں کے ہوتے ہوئے سونا اور نائل رہنا قابلِ تعجب ہے۔ (مترجم) ❶ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری (یقیناً حاشیہ لکھے صفحہ پر)

بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْحَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے عوف بھی ابورجاء سے اور وہ عمران بن حصین سے اور ایوب، ابورجاء سے بحوالہ ابن عباس یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سے سنا ہو۔ عوف کے علاوہ اور راوی بھی یہ حدیث عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۱-

باب ۱۳۶۱-

(۲۴۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاهِبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ

۲۳۱۳۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخ میں خفیف ترین عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے تلووں میں دو چنگاریاں ہوں گی جن سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ ①

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ، عباس بن عبدالمطلب اور ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔

(۲۴۱۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاهِبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بِنَ وَهْبِ بْنِ الْخَزَّاعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْحَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَيَّ اللَّهُ لَأَبْرَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتُوٍّ جَوَاطِئِ مُتَكَبِّرٍ

۲۴۱۴۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی: کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ فرمایا: کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل جنت میں ہر وہ ضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیں اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل دوزخ میں ہر تند خو، بد مزاج، بخیل اور متکبر شخص ہوگا۔ ①

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) ہے کہ جس طرح دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی اسی طرح جنت میں بھی ان کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہر جناتی کے لئے ایک سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں دنیا میں بھی کثرت ہو کیونکہ آخری زمانے میں ان کی نسبت کافی زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک ہی مرد مگر ان ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

① اس شخص سے مراد ابو طالب ہیں کیونکہ بخاری نے اپنی روایت میں صراحت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ دوزخ میں انہیں سب سے کم عذاب ہوگا۔ (مترجم) ② آپ ﷺ کا یہ فرمانا اکثریت کے اعتبار سے ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان صفات کے نتائج بیان کرنا مقصود ہو۔

أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۶۳۔ مَا جَاءَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۲۴۱۵) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

ایمان کے متعلق آنحضرت ﷺ سے منقول

احادیث کے ابواب

باب ۱۳۶۳۔ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں۔

۲۳۱۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لوگ "لا الہ الا اللہ" کہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ کر لیں الا یہ کہ وہ ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس سے ان کی یہ چیزیں حلال ہو جائیں۔ ① نیز ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ②

اس باب میں جابر، ابوسعید اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۳۱۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور ابو بکرؓ خلف ہوئے تو عرب میں سے کچھ لوگوں نے دین کا انکار کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے ابو بکرؓ سے کہا: آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے؟ جب کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک یہ "لا الہ الا اللہ" نہ کہیں۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ان کی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے الا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کی چیزوں کو حلال کر دے پھر ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا۔ اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک ایسی رسی بھی ① بطور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے جو یہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے۔ تو میں ان سے اس کی عدم ادائیگی پر جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابو بکرؓ کا سینہ جنگ کے لئے

(۲۴۱۶) حدثنا قتیبہ نا الليث عن عقيل عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه، على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله

① یعنی اگر یہ لوگ ایسے جرموں کا ارتکاب کریں جن سے ان کی جان و مال حلال ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی قتل کرتا ہے یا کسی کا مال غصب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم) ② ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کا اقرار کر لے تو مجھے اس تفصیل کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لہذا یہ اللہ کا کام ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) حضرت سے مراد وہ شخص ہے جسے لوگ حقیر جانتے ہوں اور وہ رقیق القلب اور شیریں زبان ہو۔ واللہ اعلم (مترجم) ③ رسی سے مراد اونٹ باندھنے والی رسی ہے۔ (مترجم)

مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ
لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتَ أَنَّهُ الْحَقُّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعیب بن ابی حمزہ بھی اسے زہری سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ عمران بن قطان بھی یہ حدیث معمر سے وہ زہری سے وہ انس بن مالک سے اور وہ ابو بکر سے روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں خطا ہے اس لئے کہ عمران کا معمر سے روایت کرنے میں اختلاف ہے۔

باب ۱۳۶۴۔ مَا جَاءَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

باب ۱۳۶۳۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک یہ ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہیں اور نماز نہ پڑھیں۔

(۲۴۱۷) حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني نا ابن المبارك نا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَيْبِحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

۲۳۱۷۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (رسول اللہ ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نیز ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھائیں اور ہماری نماز کی سی نماز پڑھیں۔ اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے مال اور جانیں ہم پر حرام ہو جائیں گی الا یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس کی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہو جائیں پھر ان کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے ہے اور ان پر بھی وہی حقوق واجب الاداء ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔

اس باب میں معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی حمید سے اور انہوں نے انس سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔

باب ۱۳۶۵۔ مَا جَاءَ بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ

۲۴۱۸) حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان بن عیینة عن سعید بن الخمس التمیمی عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

باب ۱۳۶۵۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۲۳۱۸۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ۱۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اس کے رسول ہیں۔ ۲۔ نماز پڑھنا۔ ۳۔ زکوٰۃ دینا۔ ۴۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ ۵۔ بیت اللہ کا حج کرنا۔

اس باب میں عبداللہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ سعیر بن نس ثقفی ہیں۔ ابو کریم بھی کعب سے وہ حظلہ بن سفیان سے وہ مکرمہ بن خالد مخزومی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۶- حضرت جبرائیلؑ نے آنحضرت ﷺ سے ایمان و اسلام کی کیا صفات بیان کیں۔

باب ۱۳۶۶- مَا وَصَفَ جِبْرِئِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ

۲۴۱۹- حضرت یحییٰ بن یسر کہتے ہیں کہ معبد جہنی پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے تقدیر کے متعلق گفتگو کی کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبدالرحمن حمیری مدینہ کی طرف نکلے تاکہ کسی صحابی سے ملاقات کر کے اس نئے مسئلے کی تحقیق کریں۔ چنانچہ ہماری ہماری عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہوگئی وہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیر لیا۔ میں نے عرض کیا: اے ابو عبدالرحمن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں ❶ لیکن اس کے باوجود تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک پہلے سے تقدیر کا اندازہ نہیں کیا گیا۔ ❷ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: جب ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ کھاتا رہتا ہے اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ان سے اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تقدیر خیر و شر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا: حضرت عمر بن خطابؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال بالکل سیاہ تھے۔ نہ اس پر سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ آپ ﷺ کے اتنا قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے آنحضرت ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے (یعنی بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گیا) پھر کہا: اے محمد ﷺ! ایمان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ اس نے پوچھا:

(۲۴۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَرِيثِ الْخِزَاعِيُّ نَاوِ كَعْبٍ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ مَعْبُدُ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيُّ حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحَدَثَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فَلَقِينَاهُ يُعْنَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو هُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَكَتَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ قَوْمًا يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ وَ يَقْفُرُونَ الْعِلْمَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَاقِدْرًا وَأَنَّ الْأَمْرَآتُ قَالَ فَإِذَا لَقَيْتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ بِهِ وَشَرٌّ قَالَ ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالزَّقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ

❶ اس سے مراد ان علوم کی گہرائی تک چھان بین کرنا ہے۔ (مترجم) ❷ اس سے مراد فرقہ قدریہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے تقدیر نہیں لکھی۔ اور اسے اشیاء کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا علم واقعات کے روز پذیر ہونے تک محیط ہے یہ عقائد کفریہ ہیں کیونکہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کی تجہیل لازم آتی ہے۔

وَسَرَّهِ قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ فَمَا
الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ قَالَ
فَعَجَّبْنَا مِنْهُ يُسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ
مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَمَارَتُهَا
قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ
رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَ فَمَا لَمْ يَنْهَ
تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ ذَلِكَ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ
أَمْرَ دِينِكُمْ

اسلام کیا ہے؟ فرمایا: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا
کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا:
احسان کیا ہے؟ فرمایا: یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے
دیکھ رہے ہو (یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ) اس لئے کہ اگر تم اسے نہیں
دیکھ رہے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات
پوچھنے کے بعد کہتا آپ ﷺ نے سچ کہا جس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ
پوچھتا بھی خود ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ
قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس سے پوچھا جا رہا ہے
وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر کہنے لگا
کہ اس کی کوئی نشانی بتائیے۔ فرمایا: باندھی اپنی مالکن کو جسے لگی ۷ اور تم
دیکھو گے کہ ننگے پیر، برہنہ تن اور محتاج چرواہے لمبی لمبی عمارتیں بنانے
لگیں گے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میری آنحضرت ﷺ سے تین
دن بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ پوچھنے والا کون تھا؟ وہ
جبرائیل تھے جو تمہیں دینی امور سکھانے کے لئے آئے تھے۔

احمد بن محمد بن ابن مبارک سے وہ کہمس بن حسن سے اسی سند سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن شمی بھی معاذ بن
ہشام سے اور وہ کہمس سے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں طلحہ بن عبید اللہ، انس بن مالک اور ابو ہریرہ
سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے اسی طرح منقول ہے۔ پھر یہ ابن عمرؓ سے بھی آنحضرت ﷺ کے حوالے سے
منقول ہے جب کہ صحیح یہی ہے کہ ابن عمر اپنے والد عمرؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۷۔ مآجآء فی اِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيمَانِ

باب ۱۳۶۷۔ مآجآء فی اِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيمَانِ

باب ۱۳۶۷۔ مآجآء فی اِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيمَانِ

(۲۴۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِبَادِ بْنِ عَمْرٍوَ بْنِ عَبْدِ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ

۲۳۲۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد

أَبِي حَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ وَفَدَّ

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ

عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

! ہمارے راستے میں قبیلہ ربیعہ پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم

فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَفْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي

لوگ آپ کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینوں میں حاضر

● حضرت جبرائیل کے اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے متعلق سوال کرنے سے باز رہیں۔ (مترجم) ● بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اولاد کے کثرت
باندیوں سے پیدا ہونے سے کہنا ہے۔ یعنی جب باندی سے اولاد ہوگی تو وہی اولاد اس کی مالک ہوگی۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ حکام کثیر زادے ہوں گی چنانچہ ان کی ماں ان کی رعایا میں ہوگی اور وہ اس کے حاکم اور سید۔ پھر بعض حضرات اس سے کثرت بیچ ام ولد مراد ہے۔ یہاں تک
کہ وہ کہتے جتنے اپنی اولاد کی ملکیت میں آجائے گی اور انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان کی ماں ہے اور اس کی تقسیم و تکسیم نہیں کریں گے۔ کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے
کہ اس سے مراد اولاد کا اپنی ماں سے باندیوں کی طرح خدمت کرنا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہو سکتے ہیں ❶ ہمیشہ نہیں آ سکتے لہذا ہمیں ایسی چیز کا حکم دیجئے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ ۱۔ اللہ پر ایمان لاؤ پھر آپ ﷺ نے اس کی تفسیر کی کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ۲۔ نماز قائم کرو۔ ۳۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ ۴۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرو۔

تفسیر بھی حماد بن زید سے وہ ابو جرحہ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو جرحہ صحیحی کا نام نظر بن عمران ہے۔ شعبہ اسے ابو جرحہ سے نقل کرتے ہوئے اس میں یہ الفاظ زیادہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: "اتدرون ما الایمان! شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله" فذكر الحديث. یعنی کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ (ایمان یہ ہے کہ) گواہی دو..... الخ۔ تفسیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان چار بزرگوں جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا مالک بن انس، لیث بن سعد، عباد بن عماد مہلبی اور عبد الوہاب ثقفی۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی تھے کہ عباد سے روزانہ صرف دو ہی حدیثیں سن کر لوٹیں۔ یہ مہلب بن ابی صفرہ کی اولاد میں سے ہیں۔

باب ۱۳۶۸۔ ایمان میں کمی زیادتی اور اس کا مکمل ہونا۔

۲۳۲۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کی رو سے کامل ترین مؤمن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا حامل اور اپنے اہل سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔

باب ۱۳۶۸۔ فِي اسْتِكْمَالِ الْإِيمَانِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ (۲۴۲۱) حدثنا احمد بن منيع البغدادي انا اسمعيل بن علي بن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلِهِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور مالکؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔ ہمیں ابو قلابہ کے حضرت عائشہؓ سے سماع کا علم نہیں۔

ابو قلابہ، حضرت عائشہؓ کے رضاعی بھائی عبد اللہ بن زید سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کا نام عبد اللہ بن زید جرمی ہے۔ ابن ابی عمرو، سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی نے ابو قلابہ کا ذکر کیا تو قسم کھا کر کہا کہ وہ فقہاء ذوی الالباب میں سے ہیں۔

۲۳۲۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب فرمایا اور آخر میں عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے عورتو! صدقہ دیا کرو اس لئے کہ اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا: ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا: اس کی وجہ تم لوگوں کا بکثرت

(۲۴۲۲) حدثنا ابو عبد الله هريم بن مسعر الازدي الترمذي نا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا

❶ اشہر الحرام سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عرب ان دنوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ (مترجم)

مُعَشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لِكثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يُعْنِي وَيُكْفِرُكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ نُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضُ فَتَمَكُّتُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَارْبَعَ لَا تَصَلِّيْ

لعنت بھیجنا اور شوہروں کی ناشکری کرنا ہے۔ پھر فرمایا: میں نے کسی ناقص عقل و دین کو تکلید اور ہوشیار لوگوں پر تم سے زیادہ غالب ہونے والی چیز نہیں دیکھی ایک عورت نے پوچھا کہ اس کے عقل و دین کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا: تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور تمہارے دین کا نقصان حیض ہے کہ جب کوئی حائضہ ہو جاتی ہے تو عموماً تین چار دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی۔

اس باب میں ابوسعید اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۴۲۳) حدثنا ابو كريب ناو كيع عن سفيان عن سهيل بن ابى صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون بابا فادونها اماطة الاذى عن الطريق و ارفعها قول لا اله الا الله

۲۴۲۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں۔ ادنیٰ ترین راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور اعلیٰ ترین ”لا الہ الا اللہ“ کہنا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سہیل بن ابی صالحؓ بھی عبد اللہ بن دینار سے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ عمارہ بن غزیہؓ یہ حدیث ابوصالح سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کے چونتھ دروازے ہیں۔ یہ حدیث قبیہ بھی بکر بن نصر سے وہ عمارہ بن غزیہ سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۹۔ حیاء ایمان سے ہے۔

باب ۱۳۶۹۔ ما جاء الحياء من الايمان

(۲۴۲۴) حدثنا ابن ابى عمر و احمد بن منيع المعنى واحد قالنا نا سفين بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعط آحاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان

۲۴۲۴۔ حضرت سالم اپنے والد ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں آنحضرت ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نصیحت کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حیاء ایمان میں داخل ہے۔

احمد بن منیع اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے سنا..... الحدیث۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۷۰۔ نماز کی عظمت کے متعلق۔

باب ۱۳۷۰۔ ما جاء في حرمة الصلوة

۲۳۲۵۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک صبح میں آپ ﷺ کے قریب ہو گیا۔ ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی چیز بتائیے جو مجھے دوزخ سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا: تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور یہ اس کے لئے آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دیں۔ اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا: کیا میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتاؤں؟ روزہ ذہال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ پھر آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی اسی کام آتا ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”تتجافى جنوبهم“ سے ”یعملون“ تک (ترجمہ: یعنی ان کی کروٹیں ان کے سونے کی جگہوں (بستروں) سے الگ رہتی ہیں وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور طمع (دونوں) سے یاد کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص کو خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان موجود ہے۔ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے) پھر فرمایا: کیا میں تمہیں اس کی جزا اس کی بالائی چوٹی اور اس کی ریزہ کی ہڈی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: اس کی جزا: اسلام۔ اس کی بالائی چوٹی نماز اور اس کی ریزہ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فرمایا: کیا میں تمہیں ان سب کی جزا کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا: اسے اپنے اوپر روک رکھو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہمارا باتوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا: تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا تھنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۲۶۔ حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم

(۲۴۲۵) حدثنا ابن ابی عمر نا عبد اللہ بن معاذ الصنعانی عن معمر عن عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن معاذ بن جبل قال قلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ أخبرنی بعمل یدخلنی الجنة ویباعدنی عن النار قال لقد سألتنی عن عظیم وإنه لیسیر علی من یرسره اللہ علیہ تعبد اللہ ولا تشرك به شیئا وتقیم الصلوة وتؤتی الزکوۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ثم قال الا اذک علی ابواب الخیر الصوم حنة والصدقة تطفی الخیطیة كما یطفی الماء النار وصلوة الرجل من جوف الیل قال ثم تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم حتی یبلغ یعملون ثم قال الا أخبرک برأس الامر کلہ وعموده وذروة سنامه قلت بلی یا رسول اللہ قال فاحذ بلسانہ قال کف علیک هذا قلت ینبئ اللہ وانا المواخذون بما نتکلم به فقال تکلتک أمک یا معاذ وهل یكف الناس فی النار علی وجوههم اوعلی مناخیرهم الا حصائد السینتهم

(۲۴۲۶) حدثنا ابن ابی عمر نا عبد اللہ بن وهب

لوگ کسی شخص کو مسجد میں حاضر ہوتے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”انما یعمروا... الآیة۔“ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

عن عمرو بن الحارث عن دراج ابی السمع عن ابی الہیثم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلوة وآتى الزكوة الآية

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۷۱۔ نماز ترک کرنے کی وعید۔

باب ۱۳۷۱۔ ما جاء فی ترک الصلوة

۲۳۲۷۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کفر و ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

(۲۴۲۷) حدثنا قتيبة نا جرير وابومعاوية عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والإیمان ترک الصلوة

۲۳۲۸۔ اعمش سے بھی مذکورہ بالا سند سے اسی طرح منقول ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

(۲۴۲۸) حدثنا هناد نا أسباط بن محمد عن الأعمش بهذا الأسناد نحوه؛ قال بین العبد وبين الشريك ترک الصلوة

یہ حدیث حسن ہے اور ابوسفیان کا نام طلحہ بن نافع ہے۔

۲۳۲۹۔ حضرت جابر آنحضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

(۲۴۲۹) حدثنا هناد نا وكيع عن سفیان عن ابی الزبير عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبين الكفر ترک الصلوة

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے۔

۲۳۳۰۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے آنحضرت ﷺ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔

(۲۴۳۰) حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قالانا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد وثنا ابوعمار والحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذي بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر

اس باب میں انس اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۳۳۱۔ روایت ہے عبد اللہ بن شقیق عقیلی سے کہ اصحاب رسول خدا ﷺ

(۲۴۳۱) حدثنا قتيبة نا بشر بن المفضل عن

کے کسی چیز کے ترک کو اعمال میں سے کفر نہ جانتے تھے سوائے نماز کے۔

باب ۱۳۷۲۔ حلاوت ایمان کے بیان میں۔

۲۴۳۲۔ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ سے سنا کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوا، اسلام کو دین جانا اور محمد (ﷺ) کو نبی مانا اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔

الْحَكْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ، كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ

باب ۱۳۷۲۔ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ

(۲۴۳۲) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۴۳۳۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا۔ ۱۔ ایسا شخص جو اللہ کے اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ ۲۔ جو شخص کسی سے دوستی صرف اللہ ہی کے لئے کرے۔ ۳۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کے کفر سے بچانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا وہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔

(۲۴۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اِيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ، إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے قتادہ بھی انس بن مالکؓ سے اور وہ آنحضرتؐ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۷۳۔ کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حامل ایمان نہیں رہتا۔

۲۴۳۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی زانی مؤمن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی چور مؤمن ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتا۔ لیکن توبہ مقبول ہوتی ہے۔

باب ۱۳۷۳۔ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(۲۴۳۴) حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عُبَيْدَةَ بْنِ حَمِيدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ

اس باب میں ابن عباسؓ اور ابن ابی اوفیؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس پر سائے کی طرح رہتا ہے وہ جب اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی سے منقول ہے کہ اس حدیث سے مراد زانی کا ایمان سے

اسلام کی طرف جانا ہے۔ ۱۰ آپ ﷺ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ زنا اور چوری کرنے والوں پر حد جاری کی جائے۔ چنانچہ اگر حد جاری کر دی گئی تو یہ کفارہ ہو جاتی ہے اور اگر اس کی ستر پوشی ہو تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہیں تو عذاب دیں ورنہ معاف کر دیں۔ یہ حدیث علی بن ابی طالب، عبادہ بن صامت، اور خزیمہ بن ثابتؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۴۳۵۔ حضرت علی بن ابی طالب آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر کسی شخص پر حد جاری کر دی گئی تو اسے اس کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندے کو دوبارہ سزا دینے سے بہت درگزر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپالیں اور اسے معاف کر دیں تو وہ ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دینے سے زیادہ کریم ہیں۔

(۲۴۳۵) حدثنا ابو عبیدہ بن ابی السفرنا احمد بن عبد اللہ الهمدانی نا الحجاج بن محمد عن یونس بن ابی اسحق عن ابی اسحق الهمدانی عن ابی جحیفۃ عن علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصاب حدا فَعَجَلَ عِقُوبَتَهُ فِی الدُّنْیَا فَاللَّهِ اَعَدَّ لَهُ مِنْ اَنْ یُنْتَبِیَ عَلَیْ عِبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِی الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَصَابَ حَدًا فَسْتَرَهُ عَلَیْهِ وَعَفَى عَنْهُ فَاللَّهِ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ یَعُوذَ فِی شَیْءٍ عَفَى عَنْهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اہل علم کا یہی قول ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ ان میں سے کسی نے زنا یا چوری یا شراب پینے کے مرتکب کو کافر

قرار دیا ہو۔

باب ۱۳۷۴۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

باب ۱۳۷۴۔ مَا جَاءَ الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ

۲۴۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن (کامل) وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مال کا امین سمجھیں۔ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ پوچھا گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان وہ ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۲۴۳۶) حدثنا قتیبة نا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلِم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دماءہم واموالہم ویروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل ای المسلمین افضل قال من سلِم المسلمون من لسانہ ویدہ

یہ حدیث ابراہیم بن سعید جوہری، ابواسامہ سے وہ برید بن عبداللہ سے وہ اپنے دادا بردہ سے وہ ابوموسیٰ اشعریؓ اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ اس باب میں جائز، ابوموسیٰ اور عبداللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۵۔ مَا جَاءَ اَنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُوذُ

اس سے مراد یہ ہے کہ زانی یا چور سے مؤمن کا نام سلب کر لینے سے اس کا کافر ہونا لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا بلکہ اس سے مراد کمال ایمان کی نفی ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا نہ ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور مؤمن سے مراد انصاف الایمان ہے نہ کہ کافر۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

غَرَبْنَا

غریب ہو جائے گا۔

۲۴۳۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی ابتداء بھی غربت سے ہوئی تھی، اور وہ عنقریب پھر غریب ہو جائے گا جیسے اس کی ابتداء ہوئی تھی۔ لہذا غرباء کے لئے مبارکبادی ہے۔

(۱۴۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا حَفْصَ بْنَ غِيَاثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي اسْلَخِقَ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرَبِيًّا وَسَيَعُودُ غَرَبِيًّا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغَرَبِيَّةِ

اس باب میں سعد، ابن عمر، جابر، انس اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث ابن مسعود کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف حفص بن غیاث کی اعمش سے روایت کے متعلق جانتے ہیں۔ ابواحوص کا نام عوف بن مالک بن نضله جشمی ہے اور حفص اس روایت میں مفرد ہیں۔

۲۴۳۸۔ کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف بن ملکہ اپنے والد سے اور ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دین حجاز کی طرف اس طرح سٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹتا اور پناہ گزین ہوتا ہے۔ اور دین حجاز مقدس میں اس طرح پناہ گزین ہوگا جیسے جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ نیز دین کی ابتداء بھی غریب سے ہوگی اور وہ غربت ہی کی طرف لوٹے گا۔ لہذا ان غریبوں کے لئے مبارکباد ہے۔ جو اس چیز کو صحیح کرتے ہیں جسے لوگوں نے میری سنت میں سے میرے بعد بگاڑ دیا۔

(۱۴۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَعِيلِيُّ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ نَحْيَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ بْنِ مِلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ فِي الْحِجَازِ مَعْقَلَ الْأَرُوبِيِّ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرَبِيًّا وَيَرْجِعُ غَرَبِيًّا فَطُوبَى لِلْغَرَبِيَّةِ الَّذِينَ يُضْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنتِي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۶۔ منافع کی علامت۔

باب ۱۳۷۶۔ فِي عِلَامَةِ الْمُنَافِقِ

۲۴۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ ۱۔ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ۲۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ۳۔ اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(۲۴۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصَ عَمْرٍو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ

یہ حدیث علماء کی روایت سے غریب ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہ سے مرفوعاً منقول ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود، انس اور جابر سے بھی روایت ہے۔ علی بن حجر اسماعیل بن جعفر سے وہ ابوسہیل سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ابوسہیل، مالک، مالک بن انس کے چچا ہیں ان کا نام نافع بن مالک بن ابی عامر خولانی الاصحی ہے۔

(۲۴۴۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا عِيْدُ اللَّهِ بْنِ

۲۴۴۰۔ حضرت عبداللہ بن عمرو، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کرے۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرے: ہمیشہ وعدہ خلافی کرے۔ تیسرے: اگر جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ چوتھے یہ کہ اگر عہد کرے تو دھوکہ دے۔

موسى عن سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا و ان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر و اذا عاهد غدر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس سے مراد نفاق عملی ہے۔ رہ گیا نفاق تکذیب تو وہ عہد نبوی ﷺ میں تھا۔ حسن بصری سے بھی اسی طرح کچھ منقول ہے۔ حسن بن علی خلال بھی عبد اللہ بن نمیر سے وہ اعمش سے اور وہ عبد اللہ بن مرہ سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۴۴۱۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اس نیت سے وعدہ کرے کہ وہ اسے پورا کرے گا۔ لیکن پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۲۴۴۱) حدثنا محمد بن بشارنا ابو عامرنا ابراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الاعلى عن ابى النعمان عن ابى وقاص عن زید بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وعد الرجل ويغوى ان يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں۔ عبد اللہ ثقہ جب کہ ابو وقاص اور ابو نعمان مجہول ہیں۔

باب ۱۳۷۷۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔

باب ۱۳۷۷۔ ماجاء سباب المسلم فسوق

۲۴۴۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان بھائی کو جان سے مارنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔

(۲۴۴۲) حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد نا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم اخاه كفر وسبابه فسوق

اس باب میں سعد اور عبد اللہ بن مغفل سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ محمود بن غیلان اسے وکج سے وہ سفیان سے وہ زبید سے وہ ابو وائل سے اور وہ عبد اللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۸۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے۔

باب ۱۳۷۸۔ فيمن رمى اخاه بكفر

۲۴۴۳۔ حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: بندے پر اس چیز میں نذر واجب نہیں ہوتی جس کی اس کے پاس ملکیت نہیں۔ مؤمن پر لعنت ہے۔ (گناہ میں) اس کے قاتل کی

(۲۴۴۳) حدثنا احمد بن منيع نا اسحق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابى كثير عن ابى قلابة عن ثابت بن الضحاک عن النبي صلى

طرح ہے۔ جس نے کسی مؤمن پر کفر کا الزام لگا یا وہ اس کے قاتل کی مانند ہے اور جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی چیز سے عذاب دیں گے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِنَ الْمُؤْمِنِ كَفَاتِيلَهُ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِيلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں ابو ذر اور ابن عمر سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۴۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک نہ ایک پر ضرور یہ وبال آ پڑا۔

(۲۴۴۴) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَارِجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٍ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۹۔ جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو۔

باب ۱۳۷۹۔ فِي مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۲۳۴۵۔ صنّاجی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامتؓ کے پاس گیا وہ فوت ہونے والے تھے۔ میں رونے لگا تو فرمایا: چپ رہو۔ کیوں رورہے ہو۔ اگر مجھ سے تمہارے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئی تو گواہی دوں گا، اگر شفاعت کی اجازت دی گئی تو تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکا تو ضرور پہنچاؤں گا۔ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور میں نے آنحضرت ﷺ سے سن کر تم لوگوں کو نہ سنائی ہو۔ ہاں ایک حدیث ہے جو میں آج تمہیں سنا رہا ہوں۔ اس لئے کہ موت نے مجھے گھیر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے گواہی دی کہ ”اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں“ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ (یعنی اس کا دوام)۔

(۲۴۴۵) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ الصَّنَابِجِيِّ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلًا لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَأَنْ اسْتَشْهَدْتُ لَا شَهِدَكَ لَكَ وَلَأَنْ شَفَعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَا نَ اسْتَطَعْتُ لَا نَفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ الْإِحْدِيثَ وَاحِدًا وَسَاحِدًا تُكْمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

اس باب میں ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، ابن عمرؓ اور زید بن خالدؓ سے بھی روایت ہے صنّاجی کا نام عبدالرحمن بن عسیلہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ زہری سے آپ ﷺ کے مذکورہ قول کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا: یہ حکم ابتداء سے اسلام کا ہے۔ جب تک فرائض اور احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اہل توحید ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے صرف اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد نکال لئے جائیں گے۔ ابن مسعودؓ، ابو ذرؓ، عمران بن حصینؓ، جابر بن عبداللہؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ اور انسؓ سے منقول ہے کہ اہل توحید کی ایک جماعت دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور کئی

حضرات ”ربما یود الذین کفرو الو کانوا مسلمین“ کی تفسیر میں اس طرح کہتے ہیں کہ کفار ایک دن آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے اور یہ آرزو اس دن ہوگی جس دن اہل توحید و دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت یہ کافر پیچھتائیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی آج یہاں سے نکلنا نصیب ہوتا۔

(۲۴۴۶) حدثنا سويدبن نصرانا ابن المبارك عن ليث بن سعد ثني عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعتُ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجلاً مثل مد البصر ثم يقول اتنكبوا من هذا شيئاً أظلمكم كتبتي الحافظون يقول لا يارب فيقول أفلنك عذر فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء

۲۴۴۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس کے گناہوں کے نانوںے (۹۹) رجسٹری کھولے جائیں گے۔ ہر رجسٹری منجائے نظر تک بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تم اس میں کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے کاتبوں اور حفاظت کرنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: نہیں اے پروردگار! اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ اے پروردگار کوئی عذر نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نکی بھی ہے۔ اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اسے حکم دیں گے کہ اپنے اعمال لاؤ۔ وہ عرض کرے گا: یا اللہ ان رجسٹریوں کے سامنے اس پرچے کا کیا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ رجسٹری ایک پلڑے میں اور وہ ایک پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور وہ ایک پرچہ ان سب رجسٹریوں کے مقابلے میں وزنی ہو جائے گا۔ (آپ ﷺ نے فرمایا) اور اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ترمذیہ اسے ابن لہیعہ سے اور وہ عامر بن یحییٰ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اور بطاقت

(کاغذ کے) ٹکڑے کو کہتے ہیں۔

باب ۱۳۸۰۔ امت میں افتراق کے متعلق۔

باب ۱۲۸۰۔ افتراقِ هذه الأمة

۲۴۴۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہودی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح نصاریٰ بھی اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی۔

(۲۴۴۷) حدثنا الحسين بن حريث ابوعمار نا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتي على

ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ فُرْقَةً

اس باب میں سعد بن عبد اللہ بن عمرو اور عوف بن مالک سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۴۴۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جو تینوں کے جوڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا۔ تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا۔ اور بنو اسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی تھی لیکن میری امت بہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی اور ان میں سے ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا: وہ کون ہوں گے؟ فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔

(۲۴۴۸) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود الحضري عن سفیان عن عبد الرحمن بن زياد بن العم الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي ما اتى على بنى اسرائيل حذوا لنعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت على بنتين وسبعين ملة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الائمة واجده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي

یہ حدیث حسن غریب اور مفسر ہے۔ ہم اس کے مثل حدیث اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔

۲۴۴۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تار کی میں پیدا کیا۔ پھر ان پر اپنا نور ڈالا چنانچہ جس پر وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی اور جس تک نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ علم الہی پر قلم خشک ہو گیا۔

(۲۴۴۹) حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن يحيى بن ابي عمر و السيباني عن عبد الله بن الوليلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة قالفي عليهم من نوره فمن اصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فذلك اقول جف القلم على علم الله

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۴۵۰۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا: کیا جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا تو فرمایا: یہ کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔

(۲۴۵۰) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفیان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرى ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله اعلم قال فان حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال اتدرى ما حقهم على الله اذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله اعلم قال ان لا يعذبهم

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔

۲۳۵۱۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل آئے اور خوشخبری دی کہ جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ فرمایا: ہاں۔

(۲۴۵۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نا اَبُو دَاوُدَ اَبِيَانَا شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ وَالْاَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوْا مِنْ وَهْبِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِي جِبْرِئِلُ فَيُبَشِّرُنِي اَنْهُ مِنْ مَّاتٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَلِي وَاِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابودرداءؓ سے بھی روایت ہے۔

علم کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے منقول

أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ

احادیث کے ابواب

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۸۱۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔

باب ۱۳۸۱۔ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَفَقَّهَهُ فِي الدِّيْنِ

۲۳۵۲۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کی بہتری چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔

(۲۴۵۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

اس باب میں عمرؓ ابو ہریرہؓ اور معاویہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۸۲۔ طلب علم کی فضیلت۔

باب ۱۳۸۲۔ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

۲۳۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے علم سیکھنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں۔

(۲۴۵۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۳۵۴۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۲۴۵۴) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدٍ

فقہ سے مراد حدیث میں کمال درجے کی بصیرت، تاریخ و منسوخ کو ماننا، جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ ہیں نہ کہ اس کے اصطلاحی معنی مراد ہیں جو آج کل معروف ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

جو شخص طلب علم کے لئے نکلا وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔

العَتَكِي عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے مرفوع نہیں کرتے۔

۲۳۵۵۔ حضرت سخرہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں جس نے سم حاصل کیا وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

(۲۴۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى نَازِيَادُ بْنُ عَيْشِمَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابوداؤد کا نام نفیج اعی ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ عبد اللہ بن سخرہ اور ان کے والد کی زیادہ احادیث معروف ہیں۔

باب ۱۳۸۳۔ علم کو چھپانا۔

باب ۱۳۸۳۔ فِي كِتْمَانِ الْعِلْمِ

۲۳۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص سے ایسا سوال کیا گیا جسے وہ جانتا ہے اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

(۲۴۵۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ بْنُ قَرِيشٍ الْيَامِي الْكُوفِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ نَازِدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ، ثُمَّ كَتَمَهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں جابر اور عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۸۴۔ طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔

باب ۱۳۸۴۔ مَا جَاءَ فِي الْأَسْتِصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ

۲۳۵۷۔ ابوبارون کہتے ہیں کہ ہم ابوسعیدؓ کے پاس (علم سیکھنے کے لئے) جایا کرتے تو فرماتے: مرحبا..... یعنی میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگ تمہارے تابع ہیں۔ اور دروازے علاقوں سے (علم سیکھنے کے لئے) تمہارے پاس آئیں گے چنانچہ جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ

(۲۴۵۷) حَدَّثَنَا سَفِينُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا ابُو دَاوُدَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ

أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا آتَوْكُم خَيْرَ خَوَابِي كَابِرًا وَكَرْنَا۔
فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ حَيْرًا

علی بن عبداللہ، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ شعبہ، ابو ہارون عبدی کو ضعیف کہتے ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن عوف، ابو ہارون کی وفات تک ان سے روایت کرتے رہے۔ ان کا نام عمارہ بن جویں ہے۔

۲۳۵۸۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: مشرق کی جانب سے بہت سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اگر وہ آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو سعید جب ہمیں دیکھتے تو رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدیدی (مرحبا) کہا کرتے تھے۔

(۲۴۵۸) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَانُوْحِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا تَيْبُكُمْ رِجَالٌ مِّنْ قَبِيْلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ فَإِذَا جَاءَوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ حَيْرًا قَالَ فَكَانَ أَبُو سَعِيْدٍ إِذَا رَأَانَا قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس حدیث کو ہم صرف ہارون بن عبدی کی ابو سعید خدری سے روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۸۵۔ دنیا سے علم کا اٹھ جانا۔

باب ۱۳۸۵۔ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ

۲۳۵۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو ایک ہی مرتبہ نہیں اٹھالیں گے بلکہ علماء کی وفات کے ساتھ ساتھ اٹھاتے جائیں گے یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ چنانچہ ان سے (مسائل) پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(۲۴۵۹) حَدَّثَنَا هِرُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا عَبْدِ بَنِ سَلِيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْرُكْ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا

اس باب میں عائشہؓ اور زیاد بن لبیدؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے زہریؓ بھی عروہ سے وہ عبداللہ بن عمرو اور عروہ سے اور وہ عائشہؓ سے اسی کے مشرفو نقل کرتے ہیں۔

۲۳۶۰۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے آپ ﷺ نے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا: یہ ایر وقت ہے کہ لوگوں سے علم کھینچا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ زیاد بن لبید ناصری نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے کیسے علم سلب کیا جائے گا جب کہ ہم نے

(۲۴۶۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مَعْوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبِيْرٍ بْنِ نَفِيْرِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيْرِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَّصَ

قرآن پڑھا ہے اور اللہ کی قسم ہم اسے پڑھیں گے اور اپنی اولاد اور عورتوں کو پڑھائیں گے۔ فرمایا: تمہاری ماں تم پر روئے اسے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا۔ کیا تو ریت اور انجیل یہود و نصاریٰ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان کے کس کام آتی ہے؟ جبیر کہتے ہیں پھر میری عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کیا کہتے ہیں۔ پھر انہیں ان کا قول بتایا تو فرمایا: ابو درداء نے سچ کہا اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ علم میں سے سب سے پہلے کیا ٹھایا جائے گا؟ وہ خشوع ہے۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہو گے اور پوری مسجد میں ایک خشوع والا آدمی بھی نہیں پاؤ گے۔

بَبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَانٌ يُحْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ كَيْفَ يُحْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرَأَنَّهُ نِسَاءً نَا وَأَبْنَاءً نَا قَالَ تُكَلِّتُكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعِدُّكَ مِنْ فَقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ قَالَ جُبَيْرٌ فَلَقَيْتُ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَحْوَكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالذِّي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لِأَحَدِنَا بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخَشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا

یہ حدیث حسن غریب ہے اور معاویہ بن صالح محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں ہمیں علم نہیں کہ بچی بن سعید کے علاوہ کسی نے ان کے متعلق اعتراض کیا ہو۔ معاویہ بن صالح بھی اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے عبدالرحمن بن جبیر نقیر سے وہ اپنے والد سے وہ عوف بن مالک سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۸۶۔ جو شخص اپنے علم سے دنیا طلب کرے۔

۲۳۶۱۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اس مقصد کے لئے علم سیکھا کہ اس کے ذریعہ سے علماء سے مقابلہ آرائی کرے، بے وقوفوں کے ساتھ بحث و تکرار کرے اور لوگوں کو اس سے اپنی طرف متوجہ کرے (تا کہ وہ اسے مال وغیرہ دیں) تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے۔

باب ۱۳۸۶۔ فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا
۲۴۶۱۔ حَدَّثَنَا ابُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمَقْدَامِ الْعَجَلِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں ان کے لفظ

اعتراض کیا گیا ہے۔

۲۳۶۲۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے علم سیکھا یا اس سے غیر اللہ کا ارادہ کیا

(۲۴۶۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْهِنَائِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ

وہ جنہم میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے۔

خالد بن ذریک عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علماً لغير الله أو آداباً غير الله فليتبوا مقعده من النار

باب ۱۳۸۷۔ فی الْحَبِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

(۲۴۶۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداؤد نا شعبة اخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن ابان بن عثمان قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار فلنا ما بعث اليه هذه الساعة الا لشيء يسأله عنه فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نصر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

باب ۱۳۸۷۔ احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی فضیلت۔

۲۳۶۳۔ حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ زید بن ثابت، ایک مرتبہ مروان کے پاس سے دوپہر کے وقت نکلے۔ ہم نے سوچا کہ یقیناً انہیں مروان نے کچھ پوچھنے کے لئے بلایا ہوگا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو فرمایا: ہاں۔ اس نے ہم سے کئی احادیث کے متعلق پوچھا جو ہم نے آنحضرت ﷺ سے سنی تھیں۔ میں نے آپ ﷺ سے سنا کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے۔ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اسے اس وقت تک یاد رکھا جب تک کسی اور کو نہیں سنا دیا اس لئے کہ بہت سے فقہ کے حامل اسے اپنے سے زیادہ فقیہ شخص کے پاس لے جاتے ہیں اور بہت سے حاملین فقہ خود فقیہ ❶ نہیں ہوتے۔

اس باب میں عبد اللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، جبیر بن مطعم، ابوداؤد اور انسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۲۳۶۳۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور پھر بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی جس طرح سنی تھی۔ اس لئے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں حدیث پہنچے گی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھ اور علم رکھتے ہوں گے۔ ❶

باب ۱۳۸۸۔ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے۔

(۲۴۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداؤد اباننا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نصر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع

باب ۱۳۸۸۔ فِي تَعْظِيمِ الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۳۶۵۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے

میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جنہم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔

۲۴۶۵ حَدَّثَنَا ابوهشام الرفاعي نا ابوبكر بن عياش نا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمداً

❶ یہاں فقہ سے مراد حدیث نبوی ﷺ ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے علوم پر دسترس رکھنے والا اور احادیث یاد کرنے والا فقیہ ہوتا ہے۔ (مترجم) ❶ اس حدیث میں آنے والے زمانے میں محدثین کی پیشین گوئی ہے کہ وہ لوگ اس ذخیرے کی بروقت حفاظت کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(۲۴۶۶) حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ
بْنِ ابْنَةِ السَّدِيِّ نَاشِرِيكَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ
ابْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يَلِجُ
النَّارَ

۲۳۶۶۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میری طرف جھوٹ منسوب نہ کیا کرو اس لئے کہ جس نے ایسا کیا وہ
دوزخ میں جائے گا۔

اس باب میں ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، زبیرؓ، سعد بن زیدؓ، عبد اللہ بن عمروؓ، انسؓ، جابرؓ، ابن عباسؓ، ابوسعیدؓ، عمرو بن عبسہؓ، عقبہ بن
عامرؓ، معاویہؓ، بریدہؓ، ابو موسیٰؓ، ابوامامہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، معمرؓ اور اس ثقفی سے بھی روایت ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث حسن صحیح ہے۔
عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ منصور بن مسمر اہل کوفہ میں سے اشعث ہیں۔ کعب کا کہنا ہے کہ ربیع بن خراش نے اسلام میں کبھی جھوٹ
نہیں بولا۔

(۲۴۶۷) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ بِنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ

۲۳۶۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا (میرے خیال میں ”تصدًا“ بھی فرمایا)
وہ دوزخ میں اپنا گھر تلاش کر لے۔ ①

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے حضرت انسؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۳۸۹۔ فِي مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا وَهُوَ يُرَى
أَنَّهُ كَذِبٌ

(۲۴۶۸) حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي نَا
سَفِينُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي
شَيْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثَنَا وَهُوَ يُرَى
أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

۲۳۶۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو
میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرے اور اسے گمان ہو کہ
یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اس باب میں علی بن ابی طالبؓ اور سمرہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے شعبہ حکم سے وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ
سے وہ سمرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اعش اور ابن ابی لیلیٰ بھی اسے حکم سے وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے وہ علیؓ سے
اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی حدیث محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے میں نے ابو محمد عبد اللہ بن

① یہ حدیث متواتر ہے اور اس کے درجہ تواتر تک کوئی حدیث نہیں پہنچتی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے نقل کرنے والوں کی تعداد بائیس (۶۲) ہے جن میں
عشرہ ہمشرہ بھی داخل ہیں۔ (مترجم)

سَعِيدٌ قَالَ اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذُنْ لَنَا

یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی زید بن اسلم سے منقول ہے۔ ہمام سے زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۲۔ اس کی اجازت۔

باب ۱۳۹۲۔ فِي الرَّحْصَةِ فِيهِ

۲۳۷۲۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آنحضرت ﷺ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور احادیث سنتے تھے وہ انہیں بہت پسند آتیں لیکن یاد نہیں رہتیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ ﷺ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے مد حاصل کرو اور ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔

(۲۴۷۲) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَالِيثُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِينُ بِيَمِينِكَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْخَطَّ

اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ سے بھی روایت ہے اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اس لئے کہ امام بخاری، خلیل بن مرہ کو منکر الحدیث

کہتے ہیں۔

۲۳۷۳۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور پھر ایک قصہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو شاہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ خطبہ میرے لئے لکھوادیتے۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

(۲۴۷۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا نَالِيثُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبٌ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ أَبُو شَاهٍ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي يَا شَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شیبان بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۳۷۴۔ حضرت ہمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ: صحابہ میں سے عبداللہ بن عمروؓ کے علاوہ کوئی صحابی مجھ سے زیادہ احادیث نہیں جانتا وہ بھی اس لئے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں

(۲۴۷۴) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَالِيثُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبٌ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ أَبُو شَاهٍ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي يَا شَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

① یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا تا کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے میں نہ جائیں اور لوگ پورے کو ہی قرآن نہ سمجھنے لگیں۔ لیکن جب یہ خدشہ ختم ہو گیا تو آپ ﷺ نے کئی صحابہ کو احادیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ جیسے کہ آئندہ حدیث میں بھی مذکور ہے۔ (مترجم)

لکھتا تھا۔

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ
یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۹۳۔ بنو اسرائیل سے روایت کرنا۔

۲۴۷۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ غائبین کو میری باتیں پہنچاؤ خواہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ ❶ نیز فرمایا کہ بنو اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ❷ اور جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔

باب ۱۳۹۳۔ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا بَنِي يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونَانَ الْعَابِدِ الشَّامِيُّ عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن بشار، ابو عاصم سے وہ اوزاعی سے وہ حسان بن عطیہ سے وہ ابوبکیر سلولی سے وہ عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۳۹۴۔ خیر کار راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔

باب ۱۳۹۴۔ مَا جَاءَ أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

۲۴۷۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ سے سواری مانگنے کے لئے آیا۔ لیکن آپ ﷺ کے پاس سواری نہیں تھی۔ آپ ﷺ نے اسے دوسرے کسی شخص کے پاس بھیج دیا اس نے اسے سواری دے دی تو وہ دوبارہ آپ ﷺ کی خدمت میں یہ بتانے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خیر کار راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔

(۲۴۷۶) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ نَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَذَلَّهُ عَلَى الْاِخْرَ فَحَمَلَهُ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

اس باب میں ابن مسعود اور بریدہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

❶ یہاں آیت پہنچانے سے مراد حدیث ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اور بلا شک و شبہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ لہذا حدیث کا پہنچانا بدرجہ اولیٰ ضروری ہوا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ایسا کلام ہے جو جوامع الکلم میں سے ہو۔ چنانچہ معنی یہ ہوئے کہ مجھ سے ایک حدیث بھی پہنچاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے وعدے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم (مترجم) ❷ یعنی اگر ان کے واقعات نقل کر کے ان سے عبرت حاصل کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں نہ کہ شریعت اور احکام کیونکہ وہ سب شریعت محمدی ﷺ سے منسوخ ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۴۷۷- حضرت ابو مسعود بدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے پاس سواری مانگنے کے لئے حاضر ہوا اور بتایا کہ اس کی ساری مرگئی ہے تو آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری ڈے دی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کسی کو خیر کار راستہ بتائے اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لئے یا فرمایا: جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لئے۔

(۲۴۷۷) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداود انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا عمرو الشيباني يُحدِّث عن ابي مسعود بن البدري ان رجلاً اتي النبي صلى الله عليه وسلم يُستَحْمِلُه، فقال إنه قد اُبدع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انبت فلاناً فاتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عامله

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عمرو شیبانی کا نام سعید بن ایاس ہے۔ ابو مسعود بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔ حسن بن علی خلال، عبداللہ بن نمیر سے وہ اعمش سے وہ ابو عمرو شیبانی سے وہ ابو مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں راوی کو شک نہیں ہوا۔

۲۴۷۸- حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوسروں کے لئے سفارش کیا کرو تا کہ اجر حاصل کرو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی جاری کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔

(۲۴۷۸) حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي الحلال وغير واحد قالوا نا أسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا ولتوجروا وليقضي الله على لسان نبيه ماشاء

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بريد بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ ہیں۔ ان کی کنیت ابو بردہ ہے اور یہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں ان سے قلمبندی اور ابن عینیہ روایت کرتے ہیں۔

۲۴۷۹- حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہوئے قتل کیا جائے اور اس کا گناہ آدم کے بیٹے کو نہ پہنچے۔ اس لئے کہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ عبدالرزاق "اسن" کی جگہ "سن" کا لفظ نقل کرتے ہیں۔

(۲۴۷۹) حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع وعبدالرزاق عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن نفس تقتل ظلماً الا كان على ابن ادم كفضل من دمها ذلك لانه اول من اسن القتل وقال عبدالرزاق سن القتل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۹۵- جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور اس کی تابعداری کی گئی۔
۲۴۸۰- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس

باب ۱۳۹۵- في من دعا الى هدى فاتبع
(۲۴۸۰) حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن

شخص نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ۱۰ اس کے لئے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس کی تابعداری کرنے والوں کو ہوگا۔ اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب کہ اگر کوئی شخص گمراہی کی طرف ۱۱ دعوت دے گا۔ تو اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں پر اور اس میں بھی ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثم من يتبعه لا ينقص ذلك من اثمهم شيئا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۳۸۱۔ حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ۱۰ اور اس میں اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لئے بھی اس کے تبعین کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب کہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کو رواج دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لئے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کے لئے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

(۲۴۸۱) حدثنا احمد بن منيع نايزيد بن هارون قال ناالمسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خيرة فاتبع عليها فله اجره ومثل اجور من اتبعه غير منقوص من اجورهم شيئا ومن سن سنة شرفا تبع عليها كان عليه وزره ومثل اوزار من اتبعه غير منقوص من اوزارهم شيئا

اس باب میں حدیث سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جریر بن عبد اللہ ہی سے مروا عمروی ہے۔ پھر منذر بن جریر بن عبد اللہ بھی اسے اپنے والد سے آنحضرت ﷺ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبید اللہ بن جریر بھی اسی سند سے بیان کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۶۔ الْأَخْذُ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابُ الْبِدْعَةِ
(۲۴۸۲) حدثنا علي بن حجرنا بقية الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمى عن العرياض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلوة العداة موعظة بليغة

باب ۱۳۹۶۔ سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے اجتناب کرنا۔

۲۳۸۲۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز کے بعد اتنی بلیغ نصیحت کی۔ کہ اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کا پتھر لگے ایک شخص نے عرض کیا: یہ تو رخصت ہونے والے کی وصیت ہے آپ ﷺ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو تقویٰ اور سننے اور ماننے کی

۱۰ ہدایت کی طرف بلانے سے مراد ایمان و توحید اور اتباع سنت کی طرف دعوت دینا ہے اور اس میں دعوت دینے والے کو قیامت تک اس کی دعوت قبول کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ (مترجم) ۱۱ اس سے مراد ہر برائی، بدعت اور ظلم وغیرہ ہے، اسے بھی قیامت تک اپنے ہر تہج کا گناہ ملتا رہے گا اور ان گناہ کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ (مترجم) ۱۰ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ کسی سنت کو زندہ کیا یا کسی اسلامی شعار کو جاری کیا یا کسی عمل کو سنسنوں طریقے کے مطابق جاری کرایا وغیرہ وغیرہ نہ کہ کوئی بدعت نکالی واللہ اعلم (مترجم)

وصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار نبی چیزوں سے بچنا۔ کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہذا اگر کسی پر ایسا وقت آجائے تو اسے چاہئے کہ میرے اور خلفاء راشدین مہدیین (ہدایت یافتہ) کی سنت کو لازم پکڑے۔ (تم لوگ اسے) دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔

ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوتُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعَ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِنَّا نَحْمُ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثور بن یزید سے خالد بن معدان سے وہ عبدالرحمن سے وہ عرباض سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں پھر حسن بن علی خلال اور کئی راوی بھی اسے ابو عاصم سے وہ ثور بن یزید سے وہ خالد بن معدان سے وہ عبدالرحمن بن عمر سلمی سے وہ عرباض بن ساریہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ عرباض کی کنیت ابو نجیح ہے۔ پھر یہ حدیث حجر بن حجر سے بھی عرباض ہی کے حوالے سے مرویاً منقول ہے۔

۲۳۸۳۔ حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال بن حارث سے فرمایا کہ جان لو۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جان لوں؟ فرمایا: یہ کہ جس نے میرے بعد میری کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مر چکی تھی تو اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لئے۔ اس کے باوجود ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) پسند نہیں کرتے تو اس کے لئے اتنے ہی گناہ لکھے جائیں گے جتنے کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے لئے لکھے جائیں گے اور اس سے ان کے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔

(۲۴۸۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمِيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اإِعْلَمْ قَالَ اأَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اإِبْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا

یہ حدیث حسن ہے اور محمد بن عیینہ مصیصی شامی ہیں۔ جب کہ کثیر بن عبداللہ عمرو بن عوف مزی کے بیٹے ہیں۔

۲۳۸۴۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: بیٹے! اگر تم اس حالت میں صبح اور شام کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لئے کوئی برائی نہ ہو تو کرو۔ پھر فرمایا: بیٹے! یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

(۲۴۸۴) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْاِنْصَارِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْاِنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيُّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ

وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَأَفْعَلُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بَنِي
وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ
أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْحَنَةِ

اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور یہ اس سند سے حسن غریب ہے۔ محمد بن عبد اللہ انصاری اور ان کے والد ثقہ ہیں علی بن زید صدوق ہیں لیکن وہ ایسی اکثر روایات کو مرفوع کہہ دیتے ہیں جو دوسرے راوی موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، ابو ولید سے وہ شعبہ سے اور وہ علی بن زید سے نقل کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب کی انس سے اس کے علاوہ کسی اور حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ پھر عباد مرقی یہ حدیث علی بن زید سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہوئے سعید بن مسیب کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ انس بن مالک کا انتقال ۹۳ھ میں اور سعید بن مسیب کا ۹۵ء میں ہوا۔

باب ۱۳۹۷۔ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۹۷۔ جن چیزوں سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا انہیں ترک کرنا۔
۲۳۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اسی پر چھوڑ دو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ ❶ اور جب میں تمہارے لئے کوئی چیز بیان کروں تو اسے مجھ سے سیکھ لیا کرو کیونکہ تم سے پہلی امتیں زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔

(۲۴۸۵) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْرَكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَأِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَحَدِّثُوا عَنِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَآئِهِمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۹۸۔ مدینہ کے عالم کی فضیلت۔

باب ۱۳۹۸۔ مَا جَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ

۲۳۸۶۔ حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب لوگ علم حاصل کرنے کے لئے (دور دراز سے) اونٹوں پر سفر کریں گے۔ وہ لوگ مدینہ کے عالم سے کسی کو علم میں زیادہ نہیں پائیں گے۔

(۲۴۸۶) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَارِيُّ وَاسْتَحَقَّ بِنُ مَوْسَى الْإِنصَارِيُّ قَالَ نَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ

یہ حدیث حسن ہے۔ ابن عیینہ ہی سے منقول ہے کہ اس عالم سے مراد امام مالک بن انس ہیں۔ اسحاق بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ وہ عمری زاہد ہیں۔ ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔ نیز یحییٰ بن موسیٰ، عبدالرزاق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد مالک بن انس ہیں۔

● یعنی بغیر ضرورت کے سوال نہ کیا کرو اور میں جو حکم دوں اسکی تعمیل کیا کرو نیز جن چیزوں سے منع کروں ان سے باز رہا کرو۔ کیونکہ زیادہ سوالات کرنے سے احکام زیادہ ہو جائیں گے اور پھر انہیں بجالانا مشکل ہو جائے گا۔ (مترجم)

باب ۱۳۹۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

(۲۴۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ الْوَلِيدِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ نَارُوحُ بْنُ جِنَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهُهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

(۲۴۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدِ الْوَاسِطِيُّ نَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيوةٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يَدُ مِشَقَّ قَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي قَالَ حَدِيثٌ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تَحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَّعِبُ أَجْنِحَتَهَا رِضَى لَطَالِبٍ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَقَضَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهُمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

باب ۱۳۹۹۔ علم عبادت سے افضل ہے۔

۲۳۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک فقیہ، شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔

۲۳۸۸۔ حضرت قیس بن کثیر فرماتے ہیں کہ مدینہ سے ایک شخص دمشق میں ابودرداءؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا: بھائی آپ کیوں آئے؟ (انہوں نے جواب دیا) مجھے خبر ملی ہے کہ آپ آنحضرت ﷺ کیا ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرمایا: کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کیا آپ تجارت کے لئے نہیں آئے؟ عرض کیا: میں صرف اس حدیث کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ: اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیں گے۔ اور فرشتے طالب علم کی رضاء کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں نیز عالم کے لئے آسمان وزمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ پھر عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم ہی ان کا ورثہ ہوتا ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا۔

ہم اس حدیث کو صرف عاصم بن رجاء بن حیوة کی ہی سند سے جانتے ہیں۔ اس کی سند متصل نہیں۔ محمود بن حراش نے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے پھر عاصم بن رجاء بن حیوة بھی داؤد بن قیس سے وہ ابودرداء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ محمود بن حراش کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

۲۳۸۹۔ حضرت یزید بن سلمہ جعفی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آپ ﷺ سے بہت سی احادیث سنی ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو

(۲۴۸۹) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي الْاِحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ بَنِ اشْوَعٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ سَلْمَةَ الْجُعْفِيِّ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا
أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَ أَوْلَاهُ إِجْرَهُ، فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ
جَمَاعًا قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا تَعْلَمُ

کہ میں بعد والی احادیث یاد کرتے کرتے پچھلی بھلا بیٹھوں لہذا آپ
مجھے کوئی جامع سی چیز بتا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جن چیزوں کے
متعلق جانتے ہوں ان میں اللہ سے ڈرو۔

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ میرے نزدیک یہ مرسل ہے کیونکہ ابن اشوع کی یزید بن سلمہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا نام
سعید بن اشوع ہے۔

(۲۴۹۰) حدثنا ابو كريب ناخلف بن ايوب عن
عوف بن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم حصلتان لا تجتمعان في
مناقق حسن سميت ولا فقه في الدين

۲۳۹۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو
خصائیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ حسن اخلاق
اور دین کی سمجھ۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے عوف کی سند سے صرف خلف بن ایوب کی روایت سے جانتے ہیں۔ ہم نے ان سے محمد بن علاء کے
علاوہ کسی کو روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہمیں علم نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔

(۲۴۹۱) حدثنا محمد بن عبد الاعلى نا سلمة بن
رجاء نا الوليد بن جميل نا القاسم ابو عبد الرحمن
عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى
الله عليه وسلم رجلا ن احدهما عابدا والاخر عالم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم
على العابد كفضلتي على اذنكم ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الله واملكته واهل
السموات والارضين حتى النملة في جحرها وحتى
الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

۲۳۹۱۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے
دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عابد اور دوسرا عالم۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تمہارے ادنیٰ ترین
آدمی پر۔ پھر فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان
یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں تک، ایسے شخص کے لئے
دعاے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے میں نے ابوعمار حسین بن حریت کو فضل بن عیاض کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو لوگوں
کو علم سکھاتا ہے آسمان میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔

(۲۴۹۲) حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري
نا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع
المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة

۲۳۹۲۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
مؤمن بھلائی اور خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس
کی انتہاء جنت پر ہوتی ہے۔

یہ حدیث من غریب ہے۔

۲۳۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حکمت کی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے لہذا اسے جہاں بھی پائے وہی اس کا مستحق ہے۔

(۲۴۹۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ اور ابراہیم بن فضل خزومی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

آداب اور اجازت لینے کے متعلق

أَبْوَابِ الْإِسْتِذَانِ وَالْأَدَابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کے ابواب

بَاب ۱۴۰۰۔ مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

باب ۱۴۰۰۔ سلام کو رواج دینا۔

۲۳۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اور اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم لوگ اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت کرنے لگو وہ چیز یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور رواج دو۔

(۲۴۹۴) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي معاويةٍ عن الاعمشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا إِلَّا أَذَلَّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

اس باب میں عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن عمرو، براء، انس، ابن عمر اور شرح بن ہانی سے بھی روایت ہے۔ شرح اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۱۔ سلام کی فضیلت۔

۲۳۹۵۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے لئے دس (۱۰) نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آیا اور کہا کہ ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے لئے بیس (۲۰) نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے اس طرح سلام کیا: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے لئے تیس (۳۰) نیکیاں ہیں۔

باب ۱۴۰۱۔ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلَامِ

(۲۴۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلْيَانَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَشْرُ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس باب میں ابوسعیدؓ، علیؓ اور اہل بن حنیفؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۴۰۲۔ داخل ہونے کے لئے تین مرتبہ اجازت لینا۔

باب ۱۴۰۲۔ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِذَانِ ثَلَاثٌ

۲۳۹۶۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰؓ نے عمرؓ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور فرمایا: السلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ عمرؓ نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور دوبارہ اجازت چاہی عمرؓ نے کہا: دو مرتبہ۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تیسری مرتبہ اسی طرح اجازت مانگی۔ عمرؓ نے کہا: تین مرتبہ۔ پھر وہ واپس ہو گئے تو عمرؓ نے دربان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا: واپس چلے گئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ابو موسیٰؓ نے فرمایا: یہ سنت ہے۔ عمرؓ نے فرمایا: سنت ہے؟ اللہ کی قسم تم مجھے کوئی دلیل پیش کرو اور گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں تنبیہ کروں گا۔ ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ اس پر ابو موسیٰؓ ہم انصاریوں کی ایک جماعت کے پاس آئے اور فرمایا: اے انصار کیا تم لوگ احادیث رسول ﷺ کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: کہ اجازت تین مرتبہ مانگی جائے اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ۔ پھر لوگ ان سے مذاق کرنے لگے ابوسعیدؓ کہتے ہیں پھر میں نے سر اٹھایا اور کہا کہ اس معاملے میں آپ کو عمرؓ سے جو سزا ملے اس میں میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ پھر ابوسعیدؓ، حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ابو موسیٰؓ کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔

(۲۴۹۶) حَدَّثَنَا سَفِيانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدِ اَلْاَعْلَى بْنِ عَبْدِ اَلْاَعْلَى عَنْ اَلْحَرِيرِيِّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ قَالَ اِسْتَاذَنَ اَبُو مُوسَى عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلٰىكُمْ اَدْخُلْ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةً ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلٰىكُمْ اَدْخُلْ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلٰىكُمْ اَدْخُلْ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلٰى بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ اَلْسُنَةُ قَالَ اَلْسُنَةُ وَاللَّهِ لَتَاْتِيَنِيْ عَلٰى هَذَا بِبُرْهَانَ وَبَيِّنَةٍ اَوْ لَا فَعَلَنَ بِكَ قَالَ فَاْتَانَا وَنَحْنُ رُفُقَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَسْتُمْ اَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْتِذَانُ ثَلَاثٌ فَاِنْ اُذِنَ لَكَ فَاَدْخُلْ وَاِلَّا فَارْجِعْ فَحَجَلِ الْقَوْمُ يَمَارِ حُوْنَهُ قَالَ اَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ رَفَعْتُ رَاسِيْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا اَصَابَكَ فِيْ هَذَا مِّنَ الْعُقُوْبَةِ فَاَنَا شَرِيْكُكَ قَالَ فَاَتْنِيْ عُمَرُ فَاخْبِرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهٰذَا

اس باب میں علیؓ اور طارقؓ (جو سعد کے مولیٰ ہیں) سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جریری کا نام سعید بن ایاس اور

کنیت ابوسعود ہے۔ یہ حدیث کئی راوی ان کے علاوہ ابونضرہؓ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ ان کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔

(۲۴۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا عَمْرُو بْنُ ۲۳۹۷۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ

یونس عن عكرمة بن عمار ثنی ابو زمیل ثنی ابنُ عباس عن عمر بن الخطاب قال استاذنتُ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً فاذن لی

یونس عن عكرمة بن عمار ثنی ابو زمیل ثنی ابنُ عباس عن عمر بن الخطاب قال استاذنتُ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً فاذن لی

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو زمیل کا نام سماک حنفی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰؓ پر اعتراض اس بات پر کیا تھا کہ تین مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہئے۔ چنانچہ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ میں اجازت نہ ملنے پر لوٹ جانے کا حکم دیا ہے۔

باب ۱۴۰۳۔ کیف رد السلام

(۲۴۹۸) حدثنا اسحق بن منصورنا عبد الله بن نميرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال دخل رجل بالمسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل فانك لم تصل فذكر الحديث بطوله

۲۳۹۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں ایک طرف تشریف فرماتے تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہو کر سلام کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وعلیک۔ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر طویل حدیث ذکر کرتے ہیں۔

یہ حدیث حسن ہے اور اسے یحییٰ بن سعید قطان بھی عبید اللہ بن عمر سے اور وہ سعید مقبریؓ سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۴۰۴۔ کسی کو سلام بھیجنا۔

باب ۱۴۰۴۔ فی تبلیغ السلام

(۲۴۹۹) حدثنا علي بن مندر الكوفي نا محمد بن فضيل عن زكريا بن ابي زائدة عن عامر قال ثنی ابي سلمة ان عائشة حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبرئيل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته

۲۳۹۹۔ حضرت ابو سلمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے مجھے کہا: کہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اس باب میں ایک اور شخص سے بھی روایت ہے وہ ابن نمیر سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی اسے ابو سلمہؓ سے اور وہ عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۰۵۔ سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت۔

باب ۱۴۰۵۔ فی فضل الذي يبدأ بالسلام

(۲۵۰۰) حدثنا علي بن حجر نا قران بن تمام الاسدي عن ابي فروة الرهادي يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن ابي امامة قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام فقال

۲۵۰۰۔ حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو کون پہلے سلام کرے: جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہو گا وہ سلام میں پہل کرے گا۔

أَوْلَهُمَا بِاللَّهِ

یہ حدیث حسن ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو فروہ ر ہادی مقارب الحدیث ہیں۔ لیکن ان کے بیٹے ان سے منکر احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۰۶۔ سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت۔۔

۲۵۰۱۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اور نصاریٰ کا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ (یعنی تم ایسا نہ کرو۔)

باب ۱۴۰۶۔ فِی كَرَاهِيَةِ اِشَارَةِ الْيَدِ فِي السَّلَامِ

(۲۵۰۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابن مبارک اسے ابن لہیعہ سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۴۰۷۔ بچوں کو سلام کرنا۔

۲۵۰۲۔ سیرا کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا کہ بچوں پر گزر ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ میں انسؓ کے ساتھ تھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اور فرمایا: کہ میں (انسؓ) آنحضرت ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا کہ بچوں پر گزر ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں سلام کیا۔

باب ۱۴۰۷۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبِيَّانِ

(۲۵۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ نَا أَبُو عَتَابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَادٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ فَمَرَّ عَلَيَّ صَبِيَّانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِتٌ كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ عَلَيَّ صَبِيَّانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَسٌ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَيَّ صَبِيَّانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

یہ حدیث صحیح ہے اور اسے کئی حضرات نے ثابت سے نقل کیا ہے۔ پھر یہ کئی سندوں سے انسؓ سے منقول ہے۔ تفسیر بھی اسے جعفر

بن سلیمان سے وہ ثابت سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۰۸۔ عورتوں کو سلام کرنا۔

۲۵۰۳۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا پھر راوی عبد الحمید نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔

باب ۱۴۰۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

(۲۵۰۳) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ نَه سَمْعُ شَهْرَبْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فَعُوذُ فَأَوْمَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِيَدِهِ

یہ حدیث حسن ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الحمید بن بہرام کی شہر بن حوشب سے روایت میں کوئی مضا لفقہ نہیں امام بخاری

کہتے ہیں کہ شہر بن حوشب کی احادیث حسن ہیں اور انہیں قوی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ابن عوف ان پر اعتراض کرتے ہیں پھر ہلال بن ابی زینب

سے شہر ہی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد، نضر بن شمیل سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عوف سے سنا کہ محمد ثین نے شہر بن حوشب کو چھوڑ دیا ہے۔ نضر کہتے ہیں: یعنی ان پر طعن کیا ہے۔

باب ۱۴۰۹۔ فِی التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

باب ۱۴۰۹۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔
۲۵۰۳۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو۔ اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور گھر والوں پر بھی۔

(۲۵۰۴) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۴۱۰۔ کلام سے پہلے سلام کرنا۔

باب ۱۴۱۰۔ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

۲۵۰۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سلام کلام سے پہلے کیا جانا چاہئے۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ کسی کو اس وقت تک کھانے کے لئے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کرے۔

(۲۵۰۵) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَا عَنْ عَنِسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ وَبِهَذَا لِإِسْنَادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ

یہ حدیث منکر ہے ہم اسے اسی سند سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عنبسہ بن عبد الرحمن ضعیف اور ذاہب الحدیث ہیں اور محمد بن زکوان منکر الحدیث ہیں۔

باب ۱۴۱۱۔ ذمی (کافر) کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

باب ۱۴۱۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى الدِّمِيِّ

۲۵۰۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اور اگر ان میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو اسے تنگ راستے کی طرف سے گزرنے پر مجبور کر دو۔

(۲۵۰۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْنَعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۰۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی آنحضرت ﷺ کے

(۲۵۰۷) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ

پاس آئے اور کہا: السام علیک (یعنی تم پر موت آئے) آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: علیکم (تم پر ہو) حضرت عائشہؓ بگھتی ہیں میں نے کہا تم ہی پر سام اور لعنت ہو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر کام میں نزی کو ہی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ فرمایا: میں نے بھی تو انہیں ”علیکم“ کہہ کر جواب دے دیا تھا۔

ثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن رهطاً من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت عائشة فقلت عليكم السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت عليكم

اس باب میں ابوصبرہ غفاری، ابن عمرؓ اور عبدالرحمنؓ جہنی سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۲۔ ماجاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم۔

۲۵۰۸۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے۔ جس میں یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی۔ آپ ﷺ نے انہیں سلام کیا۔

(۲۵۰۸) حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيدا أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم

باب ۱۴۱۳۔ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔

باب ۱۴۱۳۔ ماجاء في تسليم الراكب على الماشي

۲۵۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوار، پیدل چلنے والے کو۔ پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑی تعداد زیادہ کو سلام کرے ابن شمیٰ اپنی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کہ ”چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔“

(۲۵۰۹) حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قالنا نا روح بن عباد عن حبيب بن شهيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي و الماشي على القاعد والقليل على الكثير وزاد ابن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير

اس باب میں عبدالرحمن بن شبلؓ، فضالہ بن عبید اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ ابوبختیانی، یونس بن عبید اور علی بن زید کہتے ہیں کہ حسن کا ابو ہریرہؓ سے سماع ثابت نہیں۔

۲۵۱۰۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھڑ سوار پیدل چلنے والے کو، چلنے والا کھڑے کو اور تھوڑی تعداد والے زیادہ کو سلام کریں۔

(۲۵۱۰) حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله نا حيوة بن شريح اخبرني ابو هانئ الخولاني عن ابي علي الجهني عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي
وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ عَلَى الْكَثِيرِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوعلیٰ جنی کا نام عمرو بن مالک ہے۔

۲۵۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوٹا بڑے کو، چلنے والے بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں۔

(۲۵۱۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا مَعْمَرُ بْنُ هَمَامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۳۔ مجلس میں بیٹھے یا اٹھتے وقت سلام کرنا۔

۲۵۱۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو انہیں سلام کرے پھر اگر جی چاہے تو بیٹھے اور جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے اور ان میں سے پہلی اور آخری مرتبہ سلام کرنا دونوں ہی ضروری ہیں۔

باب ۱۴۱۴۔ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ

(۲۵۱۲) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنُ اللَّيْثِ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ

یہ حدیث حسن ہے اور اسے عجلان بن ابی سعید مقبری سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۴۱۵۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنا۔

باب ۱۴۱۵۔ الاسْتِیْذَانُ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

۲۵۱۳۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے کسی کا پردہ ہٹا کر اجازت لینے سے پہلے اندر جھانکا گویا کہ اس نے گھر کی چھپی ہوئی چیز دیکھ لی اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لئے حلال نہیں تھا۔ پھر اگر اس دوران کسی نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو میں اس کا بدلہ نہیں دلاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے دروازے کے سامنے سے گزرا جس پر پردہ نہیں تھا اور وہ بند بھی نہیں تھا پھر۔ اس کی گھر والوں پر نظر پڑ گئی تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں بلکہ گھر والوں کی غلطی ہے۔

(۲۵۱۳) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصْرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصْرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَفَأَ عَيْنِيهِ مَا عَيْرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَنظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابو امامہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کے مثل صرف ابن لہیعہ کی روایت سے

جانتے ہیں اور ابو عبد الرحمن حبلی کا نام عبد اللہ بن یزید ہے۔

باب ۱۴۱۶۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا۔

باب ۱۴۱۶۔ مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

۲۵۱۴- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے آپ کے گھر میں جھانکا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ میں تیرے لئے کراس کی طرف لپکے وہ پیچھے ہٹ گیا۔

(۲۵۱۴) حَدَّثَنَا بِنْدَارُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَأَطَاعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِمَشْقِصٍ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۱۵- حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے حجرہ مبارک کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ آپ ﷺ کے پاس ایک برش تھا جس سے آپ ﷺ سر کو کھجار رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں چھو دیتا۔ اجازت لینا اسی لئے شروع کیا گیا ہے کہ پردہ تو آنکھ ہی سے ہوتا ہے۔

(۲۵۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو سَفِينٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا إِطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُجْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَأَةً يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۱۷- اجازت مانگنے سے پہلے سلام کرنا۔

باب ۱۴۱۷- التَّسْلِيمُ قَبْلَ الْإِسْتِذَانِ

۲۵۱۶- حضرت کلدہ بن حنبیلؓ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہؓ نے انہیں دودھ، پیوی اور گلزی کے گلزے دے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ ﷺ ان دنوں اعلیٰ وادی میں تھے۔ میں اجازت مانگے اور سلام کے بغیر داخل ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ واپس جاؤ اور سلام کر کے اجازت مانگو۔ اور یہ صفوان کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمرو کہتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث امیہ بن صفوان نے سنائی اور کلدہ کا ذکر نہیں کیا۔

(۲۵۱۶) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا رُوْحُ بْنُ عِبَادَةَ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفِيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلَبَاءٍ وَضَعَايِسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ وَلَمْ أَسْلَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابن جریج کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عاصم بھی ابن جریج سے اسی کی مانند نقل

کرتے ہیں۔

۲۵۱۷۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد پر آنحضرت ﷺ کے قرض کے متعلق بات کرنے کے لئے آپ ﷺ سے اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں ہوں۔ فرمایا: میں میں۔ گویا کہ یہ جواب پسند نہیں کیا۔

(۲۵۱۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۳۱۸۔ سفر سے واپسی میں رات کو گھر میں داخل ہونا مکروہ ہے۔
۲۵۱۸۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سفر سے رات کو واپس آنے پر عورتوں کے پاس داخل ہونے سے منع فرمایا۔

باب ۱۴۱۸۔ فِي كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلًا
(۲۵۱۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا سَفِيَانَ بْنِ عِيْنَةَ عَنِ الْإِسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ نَبِيحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا

اس باب میں انسؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابرؓ ہی سے مرفوعاً منقول ہے۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رات کو سفر سے واپسی پر عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ لیکن دو شخصوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور داخل ہو گئے تو دونوں نے اپنی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک آدمی کو پایا۔ یہ آنحضرت ﷺ کی نافرمانی کا وبال تھا۔

باب ۱۳۱۹۔ مکتوب کو خاک آلود کرنا۔
۲۵۱۹۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کچھ لکھے تو اسے خاک آلود کر لینا چاہئے کیونکہ اس میں اسحاق مرامی امید ہے۔

باب ۱۴۱۹۔ مَا جَاءَ فِي تَرْيِبِ الْكِتَابِ
۱۴۱۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاشِبَابَةَ عَنْ حَمْرَةَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتْرِبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ لِلْحَاجَةِ

یہ حدیث منکر ہے۔ ہم اسے ابو زبیر کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حمزہ: عمرو نصیبی کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث میں ضعیف ہیں۔

باب ۱۳۲۰۔
۲۵۲۰۔ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے سامنے کاتب بیٹھا ہوا تھا اور آپ ﷺ اس سے کہہ رہے تھے کہ قلم کو کان پر رکھو اس لئے کہ یہ املاء کرانے والے کو زیادہ یاد دلاتا ہے۔

باب ۱۴۲۰۔
(۲۴۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَنَسَةَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ نَلَى أذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَمْلُوعِ

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہے کیونکہ محمد بن زاذان اور عنبرہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔

باب ۱۴۲۱۔ سریانی زبان کی تعلیم۔

باب ۱۴۲۱۔ فِی تَعْلِیْمِ السُّرِیَانِیَّةِ

(۲۵۲۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّيَادِ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعَلِّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَمُنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي قَالَ فَمَا مَرَّبِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتَهُ لَهُ قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمْتَهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ

۲۵۲۱۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنے لئے یہودیوں کی کتاب سے کچھ کلمات سیکھنے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم مجھے بالکل اطمینان نہیں کہ وہ میرے لئے صحیح لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آدھا ماہ بھی نہیں گذرا تھا کہ میں نے سریانی زبان سیکھ لی۔ چنانچہ جب میں سیکھ گیا تو آپ ﷺ اگر یہودیوں کو کچھ لکھواتے تو میں لکھتا اور اگر ان کی طرف سے کوئی چیز آتی تو اسے بھی پڑھ کر سناتا۔ ❶

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ اعمش، ثابت بن عبید سے نقل کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا:

مجھے آنحضرت ﷺ نے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔

باب ۱۴۲۲۔ مشرکین سے خط و کتابت کرنے کے متعلق۔

باب ۱۴۲۲۔ فِی مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ

(۲۵۲۲) حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْبَصْرِيُّ نَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَالْيَ قَيْصَرَ وَالْيَ نَجَاشِيٍّ وَالْيَ كُلَّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَكَيَسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ

۲۵۲۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے وفات سے پہلے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر جاہر حاکم کو خطوط لکھوائے جن میں انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ نجاشی وہ نہیں جس پر آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۳۔ مشرکین کو کس طرح خط تحریر کیا جائے۔

باب ۱۴۲۳۔ مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

(۲۵۲۳) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفِيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَاقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ

۲۵۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابوسفیانؓ بن حرب نے انہیں بتایا کہ ہرقل نے انہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کے لئے شام جانے کے موقع پر پیغام بھیجا تو سب اس کے دربار میں حاضر ہوئے پھر ابوسفیان نے حدیث ذکر کی اور کہا کہ: ہرقل نے آنحضرت ﷺ خط منگوا دیا اور وہ پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ یہ تحریر اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد ﷺ کی طرف

❶ یہ حدیث کسی بھی زبان کے سیکھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ (مترجم)

سے ہرقل کی طرف بھیجی گئی ہے جو روم کا بڑا حاکم ہے۔ سلام ہے اس پر جو ہدایت کے راستے کی اتباع کرے۔ امام بعد

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ إِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْيَسْرَى
هَرَقَلَ عَظِيمِ الرُّومِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعِ الْهِنْدِي
أَمَا بَعْدُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسفیان کا نام صخر بن حرب ہے۔

باب ۱۳۲۳۔ خط پر مہر لگانا۔

۲۵۲۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے
عجمیوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ کو بتایا گیا یہ لوگ بغیر مہر کے
کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک انگوٹھی بنوائی۔ گویا
کہ میں آپ ﷺ کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ جس میں
آپ ﷺ کی مہر تھی۔

باب ۲۵۲۴۔ مَا جَاءَ فِي خَتَمِ الْكِتَابِ

(۲۵۲۴) حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ اخْبَرَنَا مَعَادُ
بْنُ هِشَامِ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ لَمَّا أَرَادَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ، أَنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ
إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَانَتْ أَنْظُرُ
إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۲۵۔ سلام کی کیفیت۔

۲۵۲۵۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دوست سہمی
مدینہ میں آئے۔ ہمارے کان اور آنکھیں فاتح کی وجہ سے کمزور ہو گئی
تھیں۔ ہم خود کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو کوئی ہمیں قبول نہ کرتا۔
پھر ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ ہمیں لے
کر اپنے گھر تشریف لے گئے وہاں تین بکریاں تھیں۔ آپ ﷺ نے
ہمیں ان کا دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر شخص دودھ دوہنے کے بعد
اپنا حصہ پی لیتا اور آپ ﷺ کا حصہ رکھ دیتا۔ آنحضرت ﷺ رات کو
تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگتا اور
جاگنے والا سن لیتا۔ پھر مسجد جاتے اور نماز پڑھتے پھر واپس آتے اور
اپنے حصے کا دودھ پیتے۔

باب ۱۴۲۵۔ كَيْفَ السَّلَامُ

(۲۵۲۵) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ابْنُ
سَلِيمَانَ بْنِ الْمَغِيرَةَ نَا ثَابِتَ الْبَنَانِي نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي
قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَا عُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُهْدِ فَجَعَلْنَا
نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاتَى بِنَا أَهْلَهُ، فَإِذَا ثَلَاثَةٌ أَعَزَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ وَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ
فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ وَيُرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْلِمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ
وَيَسْمَعُ الْبِقْطَانَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي
شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُهُ،

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۲۲۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يُبَوَّلُ

باب ۱۳۲۶۔ پیشاب کرتے ہوئے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

(۲۵۲۶) حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ابُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَوَّلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ

۲۵۲۶۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے لہذا اسے جواب نہیں دیا۔

محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف سے وہ سفیان بن عمار اور وہ ضحاک بن عثمان سے اس سند سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں علقمہ بن فغواء، جابر، براء اور مہاجر بن قنفذ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۲۷۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مُبْتَدِيًا

باب ۱۳۲۷۔ ابتداء میں علیک السلام کہنا مکروہ ہے۔

(۲۵۲۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدَ اللَّهِ نَا خَالِدَ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي نَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ وَلَا أَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَيِّتِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ أَحَاهُ الْمُسْلِمُ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

۲۵۲۷۔ حضرت ابو تمیمہ جہمی اپنے قوم کے ایک شخص کا قول نقل کرتے ہیں کہ: میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرنے کے لئے نکلا تو آپ ﷺ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اتنے میں چند لوگ آئے آنحضرت ﷺ بھی انہی میں تھے۔ میں آپ ﷺ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ ﷺ ان کے درمیان صلح کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو ان میں سے بعض آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! میں نے جب یہ دیکھا تو میں بھی کہنے لگا علیک السلام یا رسول اللہ (تین مرتبہ اسی طرح کہا) تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ میت کی دعا ہے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے ملے تو کہے "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" پھر آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ (تین مرتبہ)

ابوغفاریہ حدیث ابو تمیمہ جہمی سے اور وہ ابی جری جابر بن سلیم، جہمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا..... الحدیث ابو تمیمہ کا نام ظریف بن مجالد ہے۔ حسن بن علی خلیل بھی ابواسامہ سے وہ ابوغفاریہ جہمی سے اور وہ جابر بن سلیم سے نقل کرتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: علیک السلام۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس طرح مت کہو بلکہ السلام علیکم کہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۲۵۲۸) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدِ الصَّمَدِ

۲۵۲۸۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سلام

کرتے تو تین مرتبہ کرتے اور جب بات کرتے تو اسے بھی تین مرتبہ دہراتے۔

بن عبد الوارث نا عبد اللہ بن المثنیٰ نا شمامہ بن عبد اللہ عن انس بن مالک أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا سلّم سلّم ثلاثاً وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۲۸۔

باب ۱۴۲۸

۲۵۲۹۔ حضرت ابو واقد لیشی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی آئے ان میں سے دو تو آنحضرت ﷺ کی طرف آگئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جب وہاں کھڑے ہوئے تو ایک نے لوگوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا جب کہ دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا تو پیٹھ موڑ کر چلا ہی گیا تھا۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا میں تمہیں ان تینوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنانا چاہا تو اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ دوسرے نے شرم کی (اور پیچھے بیٹھ گیا) تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔

(۲۵۲۹) حدثنا الانصاری نامعن نا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن ابی مرة عن ابی واقد اللیثی أنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه؛ إذا قبل ثلثة نفر فأقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد فلما وقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلما سلما فاما أحدهما فرأی فرجة فی الحلقة فجلس فیها واما الآخر فجلس خلفهم واما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ألا أخبرکم عن النفر الثلثة أما أحد هم فأوی الی اللہ فأواه اللہ واما الآخر فاستحی فاستحی اللہ منه واما الآخر فأعرض فأعرض اللہ عنه

یہ حدیث حسن صحیح ابو واقد لیشی کا نام حارث بن عوف ہے اور ابو مرہ: ام ہانی بنت ابی طالب کے مولیٰ ہیں۔ ان کا نام یزید ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عقیل بن ابی طالب کے مولیٰ ہیں۔

۲۵۳۰۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آنحضرت ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ پاتے وہیں بیٹھ جاتے۔

(۲۵۳۰) حدثنا علی بن حجر ناشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كنا إذا أتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا أحدا حيا ينتهي

یہ حدیث حسن غریب ہے اسے زبیر بن معاویہ، سماک سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۹۔ راستے میں مجلس لگا کر بیٹھنے والوں پر کیا واجب ہے۔

باب ۱۴۲۹۔ ما جاء علی المجالس فی الطریق

۲۵۳۱۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کچھ انصار کے پاس سے

(۲۵۳۱) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود

گزرے جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر یہاں بیٹھنا ضروری ہو تو ہر سلام کرنے والے کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو اور بھولنے بھٹکنے کو راستہ بتاؤ۔

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُونَ فَاعْلَمِينَ فَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَاهْتَدُوا السَّبِيلَ

اس باب میں ابو ہریرہ اور ابو شریح خزاعی سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۳۰۔ مصافحے کے متعلق۔

۲۵۳۲۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا دوست کو ملے تو کیا اس کے لئے جھکے؟ فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: تو کیا اس سے لپٹ جائے اور بوسہ دے۔ فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا: ہاں۔

باب ۱۲۳۰۔ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافِحَةِ

(۲۵۳۲) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدَ اللَّهِ نَا حَنْظَلَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْحَنِ نَهْ قَالَ لَا قَالَ أَقْبَلْتَرِمُهُ وَيَقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۵۳۳۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا صحابہ میں مصافحہ مروج تھا؟ فرمایا: ہاں۔

(۲۵۳۳) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدَ اللَّهِ نَاهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۳۴۔ حضرت ابن مسعودؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنا یعنی مصافحہ کرنا تہیہ کو پورا کرنا ہے۔

(۲۵۳۴) ۱۰: ۱۱۱ احمد بن عبدہ الضبی نا یحییٰ بن سلیم الصائفی عن سفیان عن منصور عن حشمة عن رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخَذُ بِالْيَدِ

یہ حدیث غریب ہم اسے صرف یحییٰ بن سلیم کی۔ سفیان سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے محفوظ احادیث میں نہیں شمار کیا۔ اور کہا: کہ شاید یحییٰ نے سفیان کی منصور سے مروی حدیث کا ارادہ کیا ہو جو چشمہ ایک ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے ابن مسعود سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سنی ہے کہ فرمایا: رات کو صرف اس شخص کے لئے باتیں کرنا جائز ہے جس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو یا وہ مسافر ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں: منصور، ابواسحاق سے وہ عبدالرحمن یا کسی اور سے نقل کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنا تہیہ کو پورا کرنا ہے۔

(۲۵۳۵) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَةَ عَبْدُ اللَّهِ نَاحِي
بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ عِبَادَةِ
الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ، عَلَى جَنْبَيْهِ أَوْ قَالَ
عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ، كَيْفَ هُوَ وَتَمَامِ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ
الْمُصَافِحَةُ۔

۲۵۳۵۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مریض کی پیشانی یا فرمایا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور اس سے اس کی کیفیت پوچھنا پوری عبادت ہے اور تمہارے درمیان مصافحہ پوری تحیہ ہے۔

اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زحر ثقہ ہیں اور علی بن یزید ضعیف۔ قاسم بن عبد الرحمن ہیں اور ان کی کثیبت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ ثقہ ہیں اور یہ عبد الرحمن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولیٰ اور شامی ہیں۔

(۲۵۳۶) حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ وَاسْحَقُ بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَا نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ
فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

۲۵۳۶۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی دو مسلمان ایسے نہیں جو ملاقات کے وقت مصافحہ کریں اور ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت نہ کر دی جائے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے ابواسحاق، براء سے نقل کرتے ہیں اور انہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

۱۴۳۱۔ بوسے اور معانی کے متعلق۔

باب ۱۴۳۱۔ مَا جَاءَ فِي الْمَعَانِقِ وَالْقَبَلَةِ

(۲۵۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ
يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَدِينِيِّ ثَنَى أَبِي يَحْيَى بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَنَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجْرُ تَوْبَهُ،
وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ، فَاغْتَنَفَهُ، وَقَبَّلَهُ،

۲۵۳۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہؓ مدینہ آئے تو رسول اللہ ﷺ میرے گھر تھے۔ وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ ﷺ برہنہ کپڑے کھینچتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ ﷺ کو اس سے پہلے یا بعد کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے زہری کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۱۴۳۲۔ ہاتھ اور پیرو کو بوسہ دینا۔

باب ۱۴۳۲۔ مَا جَاءَ فِي قُبَلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

۱۴۳۲۔ زید بن حارثہؓ حضرت ﷺ کے متبھی تھے۔ آپ ﷺ کو ان سے بہت محبت تھی اور یہ طویل القدر صحابی ہیں۔ (مترجم)۔ برہنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی تھی اور خوشی کی شدت کی وجہ سے اسے اڑھا بھی نہیں اور جلدی ان سے معافی کے لئے دوڑے (مترجم)۔

۲۵۳۸- حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو۔ اس کے ساتھی نے کہا: نبی نہ کہو کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا تو خوشی سے ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ وہ دنوں آئے اور نونشانوں کے متعلق پوچھا۔ ① آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا حرام ہے، بے قصور شخص کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے (یعنی تہمت وغیرہ لگا کر) جادومت کرو، سوومت کھاؤ، پاکباز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت پیٹھ مت پھیرو اور خصوصاً یہودیوں کے لئے یہ بھی حکم ہے کہ ہفتے کے دن ظلم و زیادتی نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ اور پیر چوم لئے۔ اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع سے روکتی ہے؟ کہنے لگے کہ یہودی کہتے ہیں کہ داؤدؑ نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں نہ ہوں۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ ﷺ کی اتباع کریں گے تو یہود ہمارے قتل نہ کر دیں۔ ②

(۲۵۳۸) حدثنا ابو كريب نا عبدالله بن ادریس و ابو اسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فقال صاحبه لا تقل نبي انه لو سمعتك كان له اربعة اعين فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركو بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا بيريء الى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربو ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفجار يوم الرحف و عليكم خاصة اليهود الاتعدوا في السبت قال فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد انك نبي قال فما يمنعكم ان تتبعوني قال قالوا ان داود دعا ربه ان لا يزال من ذريته نبي وانا نخاف ان تبعناك تقتلنا اليهود

اس باب میں یزید اسود، ابن عمر اور کعب بن مالک سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۳۳- مرحبا کے متعلق۔

باب ۱۴۳۳- ماجاء فی مرحبا

۲۵۳۹- حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ ﷺ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ نے ایک کپڑے سے آذر کر رکھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو پوچھا کہ یہ کو ہے؟ میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ام ہانی مرحبا۔ اور پھر ایک طویل قصہ ذکر کیا ہے۔

(۲۵۳۹) حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك عن ابى النصر ان ابامرة مولى أم هانئ ع تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل و فاطمة تستره بنوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت انا أم هانئ ع قال

① یہ تو چیزیں تو ریت کے شرع میں لکھی جاتی تھی۔ واللہ اعلم (مترجم) ② مذکورہ بالا دونوں بابوں کی حدیثوں میں بالجملہ بوسہ کا تذکرہ آیا ہے جب گذشتہ باب مصافحہ میں حضرت انسؓ کی حدیث میں بوسہ کی ممانعت ہے۔ ممانعت اور فعل نبی ﷺ میں تطہق یوں ہوگی کہ وہ بوسہ ممنوع ہے جو موجب ایشہوت کا اس میں شائبہ ہو اور وہ بوسہ جائز ہے جو بطور اعزاز و اکرام ہو۔ پھر حدیث عائشہؓ میں مطلق بوسہ کا ذکر ہے جو معانقہ کے ساتھ ہے اس ظاہر ہے کہ یہ پیشانی یا سر کا بوسہ ہے۔ جب کہ صفوان بن عسال کی حدیث میں ہاتھوں اور پیروں کے بوسہ کا صراحتاً ذکر ہے۔ پیشانی وغیرہ کے بوسہ ذکر و حکم اور پر گذر چکا۔ رہا ہاتھ پاؤں چومنے کا مسئلہ تو ہاتھ چومنا مکروہ ہے۔ الا یہ کہ متاخرین نے عظماء کا ہاتھ چومنے کی رخصت رکھی ہے باقی پاؤں چومنا بالاتفاق مکروہ اور درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

مَرْحَبًا يَا مَهَانِيَّةٌ فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ -

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۵۴۰۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: مہاجر سوار کو مرحبا۔

(۲۵۴۰) حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا نا موسى بن مسعود عن سفيان عن ابى اسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبى جهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجته مرحبا بالراكب المهاجر

اس باب میں بریدہ، ابن عباس اور ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح نہیں اور ہم اسے موسیٰ بن مسعود کی سفیان سے روایت کے علاوہ نہیں پہچانتے اور موسیٰ بن مسعود ضعیف ہیں۔ پھر عبدالرحمن بن مہدی بھی سفیان سے اور وہ ابو اسحاق سے مرسل نقل کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ میں نے محمد بن بشر کو کہتے ہوئے سنا کہ موسیٰ بن مسعود ضعیف ہیں۔ میں نے ان سے بہت سی احادیث لکھی تھیں لیکن بعد میں ان کے ضعف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا۔

باب ۱۲۳۲۔ چھینک کا جواب دینا۔

باب ۱۴۳۴۔ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ -

۲۵۴۱۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: ۱۔ اگر اسے طے تو سلام کرے۔ ۲۔ اگر وہ اسے دعوت دے تو وہ قبول کرے۔ ۳۔ اگر وہ چھینک مار کر الحمد للہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ ۴۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ۵۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ ۶۔ اس کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۲۵۴۱۔ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه، ويحبه، اذا دعاه، ويشمته، اذا عطس ويعوده، اذا مرض ويتبع جنازته، اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه.

اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ نیز ابو مسعود اور ابو ایوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔ بعض محدثین حارث اعور پر کلام کرتے ہیں۔

۲۵۴۲۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے مؤمن پر چھ حقوق ہیں: ۱۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ۲۔ اس کی تجہیز و تکفین میں موجود ہو۔ ۳۔ اس کی دعوت قبول کرے۔ ۴۔ اگر اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ ۵۔ وہ چھینک مار کر الحمد للہ کہے تو یہ یرحمک اللہ کہے۔ ۶۔ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے۔

(۲۵۴۲) حدثنا قتيبة بن سعيد نا محمد بن موسى المنخزومي المدني عن سعيد بن ابى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن سب نحصال يعوده، اذا مرض ويشهده، اذا مات ويحبه، اذا دعاه، ويسلم عليه اذا لقيه، ويشمته، اذا عطس وينصح له، اذا غاب أو شهد

یہ حدیث صحیح ہے اور محمد بن موسیٰ المنخزومی مدنی ثقہ ہیں۔ ان سے عبدالعزیز بن محمد اور ابن ابی ندیک روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۴۳۵- مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ-

۲۵۴۳- حدثنا حميد بن مسعدة نا زياد بن الربيع نا حضرمي مولى ال الحارود عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلوة على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال-

باب ۱۴۳۵- جب چھینک آئے تو کیا کہے۔

۲۵۴۳- حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کی موجودگی میں ایک شخص نے چھینک ماری اور ”الحمد لله والسلام على رسول الله“ کہا۔ انہوں نے فرمایا: میں کہتا ہوں ”الحمد لله والصلوة على رسول الله“ لیکن آنحضرت ﷺ نے ہمیں الحمد لله على كل حال سکھایا ہے یعنی ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف زیاد بن ربیع کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۴۳۶- مَا جَاءَ كَيْفَ يُشِمَّتُ الْعَاطِسُ

(۲۵۴۴) حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدي نا سفيان عن حكيم بن ديلم عن ابى بردة بن ابى موسى عن ابى موسى قال قال كان اليهود يعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم-

باب ۱۴۳۶- چھینکنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے؟

۲۵۴۴- حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ یہودی آنحضرت ﷺ کے پاس چھینکنے اور امید رکھتے کہ آپ ﷺ ”یورحمکم اللہ“ کہیں۔ لیکن آپ ﷺ انہیں کہتے ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔

اس باب میں علیؓ، ابو ایوبؓ، سالم بن عبید، عبداللہ بن جعفرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۵۴۵) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفين عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد انه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال عليك وعلى أمك فكان الرجل وجدفي نفسه فقال اما اني لم اقل الا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله

۲۵۴۵- حضرت سالم بن عبید ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص نے چھینک ماری تو کہنے لگا ”السلام علیکم“ انہوں نے جواب دیا کہ تم پر بھی سلام اور تمہاری ماں پر بھی۔ ① یہ بات اس کے دل پر گراں گزری تو سالم نے فرمایا: جان لو کہ میں نے وہی جواب دیا ہے جو آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے چھینک مار کر ”السلام علیکم“ کہنے پر دیا تھا۔ پھر فرمایا: اگر تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ”الحمد لله رب العالمين“ کہے اور جواب دینے والا کہے ”یرحمک اللہ“ پھر پہلا کہے ”یغفر اللہ لی ولکم“ یعنی اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرتے۔

① شاید اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ تمہاری ماں نے تمہیں آداب شرعی کی تعلیم نہیں دی۔ واللہ اعلم (مترجم)

وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ۔

اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض راوی ہلال اور سالم کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کرتے ہیں۔

(۲۵۴۶) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة
احبرنى ابن ابى لیلی عن اخيه عيسی عن
عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابی یوب أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل
الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرُدُّ عليه
برحمتك الله وليقل هو يهديكُم الله ويصلح بالکم۔

۲۵۴۶۔ حضرت ابویوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ”الحمد لله على كل حال“ کہے۔ اسے جواب دینے والا ”برحمتك الله“ کہے اور وہ اسے ”یهدیکم الله ویصلح بالکم“ کہہ کر جواب دے۔

محمد بن شعیبہ، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ ابن ابی لیلیٰ سے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شعبہ ہی سے ابن ابی لیلیٰ سے وہ ابویوب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں اضطراب ہے۔ اس لئے کہ ابن ابی لیلیٰ کبھی ابویوب سے اور کبھی حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار اور محمد بن یحییٰ دونوں یحییٰ بن سعید سے وہ ابن ابی لیلیٰ سے وہ اپنے بھائی عیسیٰ سے وہ علیؑ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۳۷۔ مَا جَاءَ فِيْ اِيْحَابِ التَّشْمِيْتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ۔

باب ۱۴۳۷۔ اگر چھینک مارنے والا الحمد لله کہے تو اسے جواب دینا واجب ہے۔

(۲۵۴۷) حدثنا بن ابى عمرنا سفیان عن سليمان التيمي عن انس بن مالك ان رجلا عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمتمت احد هما ولم يشمتم الاخر فقال الذي لم يشمتمه يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حمدا لله وانك لم تحمد

۲۵۴۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی محفل میں دو شخصوں کو چھینک آئی تو آپ ﷺ نے ایک کو جواب دیا دوسرے کو نہیں۔ اس پر دوسرے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اسے جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس لئے کہ اس نے ”الحمد لله“ کہا اور تم نے نہیں کہا۔

باب ۱۴۳۸۔ تَنْتِيْ مَرْتَبَةَ جَوَابِ دِيْنَا جَابِيْ۔

باب ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۸۔ مَا جَاءَ كُمْ يُشْمِتُ الْعَاطِسِ (۲۵۴۸) حدثنا سويد اخبرنا عبدالله انا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك الله ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا رجل مزكوم

۲۵۴۸۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں آپ ﷺ کے پاس ایک شخص چھینکا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”برحمتك الله“ پھر وہ دوبارہ چھینکا تو فرمایا: اس شخص کو زکا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار سے یحییٰ بن سعید سے وہ عکرمہ سے وہ ایاس سے وہ اپنے والد سلمہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ چھینکنے پر فرمایا کہ اسے زکام ہے۔ اور یہ ابن مبارک کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ بھی عکرمہ بن عمار سے یہی حدیث یحییٰ بن سعید کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے احمد بن حنبلہ نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے عکرمہ بن عمار سے نقل کیا ہے۔

۲۵۴۹۔ حضرت عمرو بن اسحاق بن ابی طلحہ مبنی والدہ سے اور وہ ان کے والد سے نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھینکنے والوں کو تیز مرتبہ جواب دو۔ اگر اس سے زیادہ مرتبہ چھینکنے تو تمہیں اختیار ہے چاہے تو جواب دو، ورنہ نہ دو۔

(۲۵۴۹) حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا اسحق بن منصور السلوي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابى خالد الدالانى عن عبد الرحمن ابى خالد عن عمرو بن إسحاق بن أبى طلحة عن أمه عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت العاطس ثلثا فإذا زاد فإن شئت فسمته وإن شئت فلا

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند مہول ہے۔

باب ۱۴۳۹۔ چھینکنے وقت آواز پست رکھنا اور چہرہ چھپانا۔

باب ۱۴۳۹۔ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعَطَاسِ۔

۲۵۵۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو چھینک آتی تو چہرہ مبارک ہاتھوں یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز پست کرتے

(۲۵۵۰) حدثنا محمد بن وزير الواسطي نا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وعَضَ بِهَا صَوْتَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۴۰۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔

باب ۱۴۴۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّأَوُّبَ

۲۵۵۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھینک اللہ کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو چہرہ آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے اس لئے کہ جب جمائی لینے والا آہ آہ ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر سے ہنستا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھینک پسند کرتے اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں چنانچہ جب کوئی جمائی وقت آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے اندر سے (اس کی غفلت پر) ہے۔ (یعنی اگر ہاتھ نہ رکھے تو)۔

(۲۵۵۱) حدثنا ابن ابى عمرا سفين عن ابى عجلان عن المقبرئى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتأوب من الشيطان فإذا تناوب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التأوب فإذا قال الرجل آه آه إذا تناوب فإن الشيطان

يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی چھینکے تو ”الحمد للہ“ کہے اور ہر سننے والے پر حق ہے کہ جواب میں ”یوحکمک اللہ“ کہے۔ جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو اگر کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسع اسے روکنے کی کوشش کرے اور ”ہاہ ہاہ“ نہ کرے کیونکہ اس سے شیطان ہنستا ہے۔

(۲۵۵۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَلِيُّ نَائِبُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ أَحْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذئبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَقَّقْ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِذَا تَنَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُولُ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ

یہ حدیث صحیح اور ابن عجلان کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی ذئب، سعید مقبری کی روایت کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ نیز ابن عجلان سے اشبت ہیں۔ ابو بکر عطاء بصری، علی بن مدینی سے وہ یحییٰ سے اور وہ ابن عجلان سے نقل کرتے ہیں کہ سعید مقبری کی حدیثیں سعید کبھی ابو ہریرہؓ سے بلا واسطہ اور کبھی ایک شخص کی وساطت سے نقل کرتے ہیں اور مجھے بھول گیا ہے کہ کون سی بلا واسطہ ہیں اور کون سی بالواسطہ۔ لہذا میں نے سب اسی طرح روایت کی ہیں ”عن سعید عن ابی ہریرہؓ“

باب ۱۴۴۱۔ نماز میں چھینک آنا شیطان کی طرف سے ہے۔

باب ۱۴۴۱۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْعُطَّاسَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

۲۵۵۳۔ حضرت عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ نماز کے دوران چھینک، اونگھ، حیض، تے اور تکسیر پھوٹنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

(۲۵۵۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَّاسُ وَالنَّعَّاسُ وَالتَّنَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی ابو یظان سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے عدی کے دادا کا نام پوچھا تو انہیں معلوم نہیں تھا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کا نام دینار ہے۔

باب ۱۴۴۲۔ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے۔

باب ۱۴۴۲۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

۲۵۵۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے۔

۲۵۵۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفِيْمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن علی خلال اسے عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ جب ابن عمر کو دیکھتے تو ان کے لئے جگہ خالی کر دیتے لیکن وہ اس ممانعت کی وجہ سے وہاں نہ بیٹھتے۔

باب ۱۴۴۳۔ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

باب ۱۴۴۳۔ اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے۔

(۲۵۵۵) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا عَمَّالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ

۲۵۵۵۔ حضرت وہب بن حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: آدمی اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ اگر وہ کسی ضرورت کے لئے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے اور اس باب میں ابویکرہ، ابوسعید اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۴۴۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بَعِيرٍ إِذْنَهُمَا

باب ۱۴۴۴۔ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے۔

(۲۵۵۶) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ نَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَا إِسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ثَنِي عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلُزُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

۲۵۵۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ عامر احول اسے عمرو بن شعیب سے بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۴۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفُعُودِ وَسُطِّ الْحَلْقَةِ

باب ۱۴۴۵۔ حلقے کے درمیان میں بیٹھنے کی کراہت۔

(۲۵۵۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ نَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسُطِّ الْحَلْقَةِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَنْ قَعَدَ وَسُطِّ الْحَلْقَةِ

۲۵۵۷۔ حضرت ابوجلز کہتے ہیں کہ ایک شخص حلقے کے بیچ میں بیٹھا تو حذیفہ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ کے قول کے مطابق حلقے کے درمیان بیٹھنے والا ملعون ہے۔ ❶

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوجلز کا نام لاتیق بن حمید ہے۔

باب ۱۴۴۶۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

باب ۱۴۴۶۔ کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت۔

❶ اس حدیث کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پھلانگ کر انہیں اذیت دیتے ہوئے درمیان میں جائے گا لہذا اس سے منع کر دیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو خود کو تعظیم اور مذاق وغیرہ کے لئے پیش کرے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۵۵۸۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لئے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ ﷺ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ اسے براماتے تھے۔

۲۵۵۸ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا عفان نا حماد بن سلمة عن جُمَيْدٍ عَنِ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَةِ لِذَلِكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۵۹۔ حضرت ابو جحزہ فرماتے ہیں کہ معاویہؓ نکلے تو عبد اللہ بن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا: بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جسے لوگوں کا اس کے سامنے تصویروں کی طرح کھڑے رہنا پسند ہو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔

(۲۵۵۹) حدثنا محمود بن غيلان نا قبيصة نا سفين عن حبيب بن شهيد أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رآياه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار

اس باب میں ابوامامہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔ ہناد بھی ابواسامہ سے وہ حبیب سے وہ ابو جحزہ سے وہ معاویہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۳۷۔ ناخون تراشا۔

باب ۱۴۴۷۔ ما جاء في تَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ

۲۵۶۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت سے ہیں۔ زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ، مونچھیں کترنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور ناخن تراشا۔

(۲۵۶۰) حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد نا لوانا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب وتنف الإبط وتقليم الأظفار

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۶۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دس چیزیں فطرت سے ہیں۔ مونچھیں کترنا۔ داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشا، انگلیوں کے پشت کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا کہتے ہیں کہ مصعب نے فرمایا: میں دسویں چیز بھول گیا لیکن وہ کلی کرنا ہی ہوگا۔

(۲۵۶۱) حدثنا قتيبة وهناد قال نا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وأعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم وتنف الإبط وحلق

الْعَانَةَ وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُضْعَبٌ
وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةُ

اس باب میں عمار بن یاسر اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث سن ہے۔

باب ۱۴۴۸۔ مَا جَاءَ فِي تَوَقُّبِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ
أَخْذِ الشَّرَابِ

(۲۵۶۲) حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدِ الصَّمَدِ نَا
صَدَقَةَ بْنَ مُوسَى ابْنَ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّقِيقِ نَا
أَبُو عَمْرَانَ الْحَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتْ لَهُمْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَأَخْذَ الشَّرَابِ وَحَلَقَ الْعَانَةَ۔

۲۵۶۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے
لئے ناخن تراشنے، مونچھیں کترنے اور زیر ناف بال موٹنے کی زیادہ
سے زیادہ مدت چالیس روز مقرر کی۔

(۲۵۶۳) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنِ ابْنِ
عَمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ فِي
قَصِّ الشَّرَابِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ
الْإِبْطِ أَنْ لَا تَنْتَرِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

۲۵۶۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس لئے مونچھیں
کترنے، ناخن تراشنے، زیر ناف بال موٹنے اور بغل کے بال
اکھاڑنے کے متعلق حکم دیا گیا کہ چالیس دن سے زیادہ نہ گزرنے
پائیں۔

یہ حدیث گزشتہ حدیث سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے راوی صدقہ بن موسیٰ ضعیف ہیں۔

باب ۱۴۴۹۔ مَا جَاءَ فِي قَصِّ الشَّرَابِ

(۲۵۶۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْوَلِيدِ الْكُوفِيُّ
الْكَنْدِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنِ اسْرَائِيلَ عَنِ سَمَاءَ عَنِ
عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ قَالَ وَكَانَ حَلِيلُ
الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ يُفْعَلُهُ

۲۵۶۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی مونچھیں کاٹنا
کرتے تھے اور فرماتے کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی
کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(۲۵۶۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عَبِيدَةُ بْنُ حَمِيدٍ عَنِ
حَمِيدِ بْنِ يَوْسُفَ بْنِ صَهَبِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ يَسَّارٍ عَنِ
زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

۲۵۶۵۔ حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو
مونچھیں نہیں کترتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار بھی یحییٰ سے وہ یوسف بن صہیب سے
اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۵۰۔ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللَّحْيَةِ

(۲۵۶۶) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرَضِهَا وَطَوْلِهَا

باب ۱۳۵۰۔ داڑھی میں سے کچھ بال کاٹنا۔

۲۵۶۶۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی داڑھی مبارک لمبائی اور چوڑائی دونوں جانب سے تراشا کرتے تھے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری، عمر بن ہارون کو مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے۔ مجھے ان کی ایسی کسی حدیث کا علم نہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو یا اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں وہ متفرد ہوں۔ اسے میں صرف انہی کی روایت سے جانتا ہوں یعنی وہ ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ تہذیب انہیں صاحب حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ کعب سے وہ ایک شخص سے اور وہ ثور بن یزید سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے اہل طائف پر منجیق نصب کئے..... الخ تہذیب نے کعب سے پوچھا یہ شخص کون ہیں؟ فرمایا: یہ آپ کے ساتھی عمر بن ہارون ہیں۔

باب ۱۴۵۱۔ مَا جَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ۔

(۲۵۶۷) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ

باب ۱۳۵۱۔ داڑھی بڑھانا۔

۲۵۶۷۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مونچھیں کترنے میں مبالغہ کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

(۲۵۶۸) حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكٍ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بِنَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيِ

۲۵۶۸۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مونچھوں کو اچھی طرح کترنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر کے مولیٰ ابو بکر بن نافع اور عمر بن نافع ثقہ ہیں۔ جب کہ عبداللہ بن نافع ضعیف ہیں۔

باب ۱۴۵۲۔ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ

عَلَى الْأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا

(۲۵۶۹) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا سَفِينُ عَنِ الرَّهْمِيِّ عَنِ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضْعَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

باب ۱۳۵۲۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنا۔

۲۵۶۹۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہیں۔

باب ۱۴۵۳۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

باب ۱۴۵۳۔ اس کی کراہت کے متعلق۔

(۲۵۷۰) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ نَا أَبِي نَاسِلِيمَانَ التَّمِيمِيَّ عَنِ خَدَّاشِ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِيَاءِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ

۲۵۷۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ہی کپڑے میں ہاتھوں اور جسم کو لپیٹنے اور ایک ہی کپڑے میں اکڑوں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نیز اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی چت لیٹ کر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے۔

اس حدیث کوئی لوگوں نے سلیمانؑ جی سے روایت کیا ہے۔ خدش کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں سلیمانؑ جی ان سے کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔ تیبہ، لیث سے وہ ابو زبیر سے وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۴۵۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْطِحَاجِ عَلَى

باب ۱۴۵۴۔ پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہت۔

الْبَطْنِ

(۲۵۷۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ نَا عَبْدِ بْنِ سَلِيمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لَا يُجِبُهَا اللَّهُ

۲۵۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتے۔

اس باب میں طرفہ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے یحییٰ بن ابی کثیر یہ حدیث ابو سلمہ سے وہ یعیش بن طرفہؓ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ انہیں طمہ بھی کہتے ہیں جب کہ صحیح طرفہ ہی ہے بعض طمغہ بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں۔ صحیح طمہ ہے۔

باب ۱۲۵۵۔ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ۔

باب ۱۲۵۵۔ ستر کی حفاظت۔

(۲۵۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا بَهْزَيْنُ حَكِيمٌ نَبِيُّ أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَا فَعَلْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ

۲۵۷۲۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اپنا ستر کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں۔ فرمایا: بیوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپاؤ۔ عرض کیا: اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ ہو تو؟ فرمایا: جہاں تک ہو سکے اپنے ستر کی حفاظت کرو کہ کوئی نہ دیکھ پائے۔ عرض کیا: بعض اوقات آدمی اکیلا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا: تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اور بہز کے دادا کا نام معاویہ بن حیدہ قشیری ہے اسے جریری بھی بہز کے والد حکیم بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۵۶۔ تَكْيُ الْكَانَا۔

باب ۱۴۵۶۔ مَا جَاءَ فِي الْإِتِّكَاءِ۔

۲۵۷۳۔ حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي
نا اسحاق بن منصور نا اسرئيل عن سَمَاكٍ عَنْ جَابِرِ
بْنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُتَّكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کئی راوی اسے اسرائیل سے وہ سماک سے اور وہ جابرؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں
بائیں جانب کا ذکر نہیں۔ یوسف بن عیسیٰ بھی اسے وکیع سے وہ اسرائیل سے وہ سماک بن حرب سے اور وہ جابرؓ سے اسی کی مانند مرفوعاً نقل
کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۴۵۷۔

باب ۱۴۵۷۔

۲۵۷۴۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن
اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَيُّومَ الرَّجُلُ
فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَيَّ تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۴۵۸۔ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَائِيهِ۔

باب ۱۴۵۸۔ سواری کا مالک اس پر آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے۔

۲۵۷۵۔ حضرت بريدةؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ پیدل
چل رہے تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس کے پاس گدھا تھا۔ اس نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! سوار ہو جائیے اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: نہیں تم آگے بیٹھنے کے زیادہ حق دار ہو۔ الایہ کہ اپنا حق مجھے دے
دو۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ ﷺ کو حق دے دیا۔ پھر آپ ﷺ
سوار ہوئے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۴۵۹۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

باب ۱۴۵۹۔ انماط ۱ کے استعمال کی اجازت

۲۵۷۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن
مهدي نا سفين عن محمد بن المنكدر عن جَابِرِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ

۱۔ انماط قالین کی ایک قسم ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک نرم قالین ہوتا ہے جسے ہودج پر بھی ڈالتے ہیں اور کبھی پردے بھی بناتے ہیں۔ اس
حدیث میں پیشین گوئی ہے کہ عنقریب تم لوگوں کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ اس امت پر رزق کو وسیع کر دیں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

أَنَّمَا طُ قُلْتُ وَأَنْتَى تَكُونُ لَنَا أَنَّمَا طُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا
سَتَكُونُ لَكُمْ أَنَّمَا طُ قَالَ فَإِنَّا أَقُولُ لِأَمْرَاتِنِي أَخِيرِي
عَنِّي أَنَّمَا طُ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنَّمَا طُ قَالَ فَادْعُهَا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۰۔ ایک جانور پر تین آدمیوں کا سوار ہونا۔

باب ۱۴۶۰۔ مَا جَاءَ فِي رَكُوبِ ثَلَاثَةِ عَلَى ذَابِيَةِ

(۲۵۷۷) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ نَا
النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عِمَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
سَلْمَةَ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتَّى
أَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
قُدَامَهُ، وَهَذَا اخْلَفَهُ،

۲۵۷۷۔ حضرت سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے فخر
شہباء کو کھینچا۔ اس پر آنحضرت ﷺ اور حسنؓ و حسینؓ سوار تھے۔ یہاں
تک کہ اسے آپ ﷺ کے حجرہ مبارک میں لے گیا۔ ایک آپ ﷺ کے
آگے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پیچھے۔

اس باب میں ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن جعفرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۳۶۱۔ اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق۔

باب ۱۴۶۱۔ مَا جَاءَ فِي نَظَرَةِ الْفُجَاءَةِ

(۲۵۷۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ نَا يُونُسُ
بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرَةِ الْفُجَاءَةِ بِمَا مَرِنِي
أَنْ أَصْرَفَ بَصَرِي

۲۵۷۸۔ حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ
سے کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کا حکم پوچھا تو فرمایا: اپنی نگاہ پھیر
لو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو زرہ کا نام حرم ہے۔

(۲۵۷۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي
رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ، قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ
النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

۲۵۷۹۔ حضرت بریدہؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: علی! ایک مرتبہ نگاہ پڑنے کے بعد دوبارہ اس پر نگاہ مت ڈالو
لے کہ پہلی تو اچانک پڑ جانے کی وجہ سے قابل معافی ہے جب کہ
دوسری قابل مؤاخذہ ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۶۲۔ عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنا۔

باب ۱۴۶۲۔ مَا جَاءَ فِي أَحْتَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

۲۵۸۰۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہؓ آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں کہ ابن ام مکتومؓ (ناہینا صحابی) داخل ہوئے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ نابینے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھیاں ہو؟ کیا تم بھی اسے نہیں دیکھ سکتیں۔

(۲۵۸۰) حدثنا سويد نا عبد الله نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى ام سلمة انه، حدثه، عن ام سلمة انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده، اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه فقلت يا رسول الله اليس هو اعشى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميان انتمما استتما تبصرانه
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۶۳۔ شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس جانے کی ممانعت۔

باب ۱۴۶۳۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ۔

۲۵۸۱۔ ذکوان، عمرو بن عاصؓ کے مولیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ عمروؓ نے انیس علیؓ کے پاس بھیجا کہ عمروؓ کے لئے اسماء بنت عمیس کے پاس جانے کی اجازت لے کر آئیں۔ انہوں نے اجازت دے دی (وہ ان کے شوہر تھے) جب عمرو اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ان کے مولیٰ نے اس اجازت کے طلب کرنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔

(۲۵۸۱) حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله بن المبارك نا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص ارسله الي علي يستاذنه، علي اسماء ابنة عميس فاذن له، حتى اذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا او نهى ان ندخل على النساء بغير اذن ارجاهن

اس باب میں عقبہ بن عامرؓ، عبد اللہ بن عمروؓ اور جابرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۳۷۲۔ عورتوں کے فتنے سے تحذیر۔

باب ۲۵۶۴۔ مَا جَاءَ فِي تَحْذِيرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

۲۵۸۲۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں نے اپنے بعد تم لوگوں میں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر ضرر پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔

(۲۵۸۲) حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني نا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن أسامة بن زيد و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے کئی ثقہ راوی سلیمان تمیمی سے وہ ابو عثمان سے وہ اسامہ بن زید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں سعید بن زید کا ذکر نہیں۔ ہمیں معتمر کے علاوہ کسی راوی کے اسامہ بن زید سے روایت کرنے کا علم نہیں۔ اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۶۵۔ بالوں کا گچھا بنانے کی ممانعت۔

ب ۱۴۶۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقَصَّةِ

(۲۵۸۳) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدِ اللَّهِ نَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاءَهُمْ

۲۵۸۳۔ حمید بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو مدینہ میں خطاب کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا: اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے آنحضرت ﷺ کو بالوں کے اس طرح گچھے بنانے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بنو اسرائیل بھی اسی وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح بال بنانے شروع کئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت معاویہؓ سے منقول ہے۔

باب ۱۴۶۶۔ مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

(۲۵۸۴) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عُبَيْدُ بْنُ حَمِيدٍ عَنِ مَنصُورٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْصِلَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيَّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ۔

باب ۱۳۶۶۔ گودنے والی، گدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے والی جڑوانے والیوں کے متعلق۔

۲۵۸۴۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گودنے والی، گودوانے والی اور (پلکوں کے) بالوں کو اکھیڑ کر زینت و حسن حاصل کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کا بدلتی ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۵۸۵) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللَّثَّةِ۔

۲۵۸۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بالوں کو جوڑنے والی، جڑوانے والی، گودنے والی اور گودوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ گودنا مسوڑھوں میں ہوا ہے۔

● ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عائشہؓ، معقل بن یسارؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکر اس میں نافع کا قول نہیں ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

● گودنا شاید اس زمانے میں صرف مسوڑھوں پر ہوتا ہوگا اس لئے صرف اسی کا تذکرہ کیا ہے ورنہ جسم کے کسی گچھے پر گودنا گودوانا حرام ہے۔ جیسے بعض عورتیں رخساروں پر گودوا کرتی ہیں یا کلائیوں پر گودواتی ہیں یہ سب اسی حرمت میں داخل ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

باب ۱۳۶۷۔ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

باب ۱۴۶۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

۲۵۸۶۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔

(۲۵۸۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَاشِعَةَ وَهَمَامَ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۸۷۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کی وضع قطع اختیار کرنا والے مردوں اور مردوں کی وضع قطع اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی۔

(۲۵۸۷) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَابْنُ أَبِي عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

باب ۱۳۶۸۔ عورت کا خوشبو لگا کر گلنا منع ہے۔

باب ۱۴۶۸۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے۔

۲۵۸۸۔ حضرت ابو موسیٰ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی (مردوں کی) مجلس کے پاس سے گزے وہ ایسی ویسی ہے یعنی زانیہ ہے۔

(۲۵۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ثَابِتِ بْنِ عَمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنِ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَّاءُ أَيْعُنِي زَانِيَةٌ

باب ۱۳۶۹۔ عورتوں اور مردوں کی خوشبو کے متعلق۔

باب ۱۴۶۹۔ مَا جَاءَ فِي طَيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔

۲۵۸۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو زیادہ اور رنگت ہلکی ہو۔ اور عورتوں کے لئے وہ خوشبو ہے جس کی رنگت تیز اور خوشبو کم ہو۔

(۲۵۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ الْجَفْرِيُّ عَنِ سَفْيَانَ عَنِ الْحَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ رَجُلٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطَيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

علی بن حجر بھی اسماعیل سے وہ جریری سے وہ ابو نضرہ سے وہ طفاوی سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن ہم طفاوی کو صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔ ہمیں ان کا نام بھی معلوم نہیں۔ اسماعیل بن ابراہیم

کی حدیث زیادہ مکمل اور طویل ہے۔ اس باب میں عمران بن حصینؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۵۹۰۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: مردوں کے لئے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ پوشیدہ اور خوشبو تیز ہو اور عورتوں کے لئے بہترین خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ہلکی اور رنگ ظاہر ہو۔ نیز آپ ﷺ نے سرخ یعنی ریشمی زین پوش سے منع فرمایا۔

(۲۵۹۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ طَيْبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طَيْبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ وَنَهَى عَنِ الْمَيْتَرَةِ الْأَرْجَوَانِ۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۷۰۔ خوشبو سے انکار کرنا مکروہ ہے۔

۲۵۹۱۔ حضرت ثمامہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ انسؓ کبھی خوشبو سے انکار نہیں کرتے تھے۔ نیز فرماتے کہ آنحضرت ﷺ بھی کبھی خوشبو لگانے سے انکار نہیں کرتے تھے۔

باب ۱۴۷۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطَّيِّبِ

(۲۵۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَاعَزْرَةَ بِنْتُ ثَابِتٍ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ وَقَالَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۵۹۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزوں سے انکار نہیں کیا جاتا۔ نکیہ، خوشبو اور دودھ۔

(۲۵۹۲) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنِ أَبِي فَدِيكٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرُدُّ الْوَسَائِدَ وَالذُّهْنَ وَاللَّبْنَ

یہ حدیث غریب ہے اور عبد اللہ بن مسلم، جناب کے بیٹے اور مدائن کے رہنے والے ہیں۔

۲۵۹۳۔ حضرت ابو عثمان نہدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کو خوشبودی جائے تو انکار نہ کرے کیونکہ جنت سے نکلی ہے۔

(۲۵۹۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلِيفَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ حِجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ حَنَّانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم حنّان کی اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں جانتے۔ ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن ملن ہے۔

انہوں نے عہد نبوی ﷺ پایا۔ لیکن زیارت سے مشرف نہیں ہوئے۔

باب ۱۲۷۱۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ

باب ۱۳۷۱۔ مباحثت ممنوعہ کے متعلق۔

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ

۲۵۹۴- حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت کسی عورت سے ملاقات کو اپنے شوہر سے اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ❶

(۲۵۹۴) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْءَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۵۹۵- حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا ستر نہ دیکھے۔ نیز دو مرد یا دو عورتیں برہنہ ہو کر ایک ہی کپڑے (چادر) میں نہ لیٹیں۔

(۲۵۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ اسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۷۲- ستر کی حفاظت۔

باب ۱۴۷۲- مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ.

۲۵۹۶- حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی (ﷺ) ہم کس سے ستر کو چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ فرمایا: اپنے ستر کو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپاؤ میں نے عرض کیا: اگر لوگ آپس میں مباشرت میں باہم شریک ہوں تو؟ فرمایا: اگر ہو سکے تو تمہاری شرم گاہ کو کوئی نہ دیکھے تو ضرور ایسا ہی کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی اکیلا ہو تو؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ اس کا حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

(۲۵۹۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا مَعَاذَ وَيزيد بن هارون قالنا نا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عورائنا ما تأتي منها وما ندر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قال قالت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترضيها قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحرق أن يستحيي منه الناس.

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۷۳- ران ستر میں داخل ہے۔

باب ۱۴۷۳- مَا جَاءَ أَنَّ الْفَحْدَ عَوْرَةَ

۲۵۹۷- حضرت جرہد کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مسجد میں ان کے پاس سے گزرے تو ان کی ران منکشف تھی آپ ﷺ نے فرمایا: ران ستر میں داخل ہے۔

(۲۵۹۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مَسْلَمَ بْنِ جَرَّهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرَّهَدٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى

❶ یعنی یہ حکم اس لئے ہے کہ اس میں فتنے کا ذرہ ہے کہ کہیں اس کا شوہر زمان میں نہ پڑ جائے یعنی یہ ذرائع کو ختم کرنے کی قبیل سے ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ
فَجِدْهُ، فَقَالَ إِنَّ الْفَجْدَ عَوْرَةٌ

یہ حدیث حسن ہے لیکن اس کی سند متصل نہیں۔

۲۵۹۸۔ حضرت جرہد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان کے پاس سے
گزرے تو وہ اپنی ران کھولے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ران کو
ڈھانپ دو۔ یہ ستر میں داخل ہے۔

(۲۵۹۸) حدثنا الحسن بن علي ناعبدالرزاق نامعمر
عن ابى الزناد قال أخبرني ابن جرهد أن النبي صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فِجْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطِّ فِجْدَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ.

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۵۹۹۔ حضرت جرہد سلمیٰ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ران
ستر میں داخل ہے۔

(۲۵۹۹) حدثنا واصل بن عبدالاغلی نا يحيى
بن ادم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد
بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسدي عن النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَجْدُ عَوْرَةٌ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۲۶۰۰۔ حضرت ابن عباسؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ران
ستر میں داخل ہے۔

(۲۶۰۰) حدثنا واصل بن عبدالاغلی الكوفي نا
يحيى بن ادم نا اسرائيل عن ابى يحيى عن مجاهد
عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْفَجْدُ عَوْرَةٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں علی اور محمد بن عبد اللہ بن جحش سے بھی روایت ہے۔ عبد اللہ بن جحش اور ان کے بیٹے صحابی ہیں۔

باب ۱۴۷۴۔ پاکیزگی کے متعلق۔

باب ۱۴۷۴۔ ماجاء فى النِّظَافَةِ

۲۶۰۱۔ صالح بن ابی حبان، حضرت سعید بن مسیب سے نقل کرتے

(۲۶۰۱) حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر نا
خالد بن الیاس عن صالح بن ابی حسان قال
سمعت سعید بن المسیب يقول ان الله طيب
يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب
الكرم جواد يحب الجود فنظفوا اراة قال
افيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك
لهم جربن مسمار فقال حدثني عامر بن سعید
عن ابيه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله، إلا
قال نظفوا افيتكم.

ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، وہ صاف پیر
اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، وہ کریم ہیں اور کرم کو پسند کرتے ہیں وہ
ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں لہذا تم لوگ پاک صاف
کرو۔ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے محنوں کو صاف ستمار کھوا
یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو (وہ لوگ اپنے محنوں میں کو
اکٹھا کرتے ہیں) صالح کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مہاجر بن مس
کے سامنے بیان کی تو فرمایا: مجھے یہ حدیث عامر بن سعید کے حوالے
شائی، وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند

کرتے ہیں۔ الایہ کہ اس میں ”تگمان کرتا ہوں“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے اور خالد بن ایاس ضعیف ہیں انہیں ابن ایاس بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۴۷۵۔ جماع کے وقت پردہ کرنا۔

۲۶۰۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برہنہ ہونے سے پرہیز کرو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو تم سے قضائے حاجت اور تمہارے اپنی بیویوں سے جماع کرنے کے اوقات کے علاوہ جدا نہیں ہوتے۔ لہذا ان سے حیا کرو اور ان کی تکریم کرو۔ ❶

باب ۱۴۷۵۔ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِثَارِ عِنْدَ الْجَمَاعِ

(۲۶۰۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نَيْزِكِ الْبَغْدَادِيُّ نَالَا سُوْدَ بْنَ عَامِرٍ نَا أَبُو مَحِيَاةَ عَنِ لَيْثِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوحمیة کا نام یحییٰ بن یعلیٰ ہے۔

باب ۱۴۷۶۔ حمام میں جانے کے متعلق۔

۲۶۰۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ ❶ اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ برہنہ ہو کر حمام میں داخل نہ ہو۔ نیز اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا شخص ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔

باب ۱۴۷۶۔ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

(۲۶۰۳) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ نَامُصْعَبِ بْنِ الْمَقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ عَنِ لَيْثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حُلَيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ الْحَمَّامَ بَعِيرٍ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف طاووس کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ لیث

بن ابی سلیم صدوق ہیں لیکن اکثر وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت سے دل خوش نہیں ہوتا۔

۲۶۰۴۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں اور

مردوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا۔ لیکن بعد میں مردوں کو نہ بند باندھ کر جانے کی اجازت دے دی۔

(۲۶۰۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنَ مَهْدِيٍّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

شَدَادِ الْاَعْرَجِ عَنِ أَبِي عَفْرَةَ وَكَانَ قَدَادِرُكَ الْبَنِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ

❶ ان لوگوں سے مردانہ شے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ (مترجم) ❶ اس حمام سے مرد وہ حمام ہے جس میں عورتیں برہنہ غسل کرتی ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

رَخِصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ

اس حدیث کو ہم صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں اس کی سند قوی نہیں۔

۲۶۰۵۔ حضرت ابو یوسف ہذیلی فرماتے ہیں کہ حمص یا شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم وہی عورتیں ہو جو حماصوں میں داخل ہوتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس نے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارے اور اپنے اور رب کے درمیان حائل رہنے والا پردہ پھاڑنے سے بچ ہوگی۔

(۲۶۰۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابوداؤد ابانًا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن ابی الجعد یحدث عن ابی الملیح الہذلی ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلن علی عائشة فقالت انتن اللاتی یدخلن نساءکم الحمامات سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرأة تصنع ثیابها فی غیر بیت زوجها الا هتکت الستر بینها و بین ربها

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۳۷۷۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو۔

باب ۱۴۷۷۔ مَا جَاءَ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ اَوْ كَلْبٌ

۲۶۰۶۔ حضرت ابن عباسؓ، ابو طلحہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (رحمت کے) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتیا کسی جاندار کی تصویر ہو۔

(۲۶۰۶) حَدَّثَنَا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قالوا نَا عبدالرزق نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحة يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة تماثيل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۰۷۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ جس گھر میں مجسمہ یا تصویریں (راوی کو شک ہے) ہوں وہاں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(۲۶۰۷) حَدَّثَنَا احمد بن منيع نا روح بن عبادة نا مالك بن انس عن اسحق بن عبد الله بن ابی طلحة ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا وعبد الله بن ابی طلحة علی ابی سعید الخدري نعوده فقال ابو سعید اخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل او صورة شك اسحق لا يدري ايهما قال

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ میں کل رات آپ ﷺ کے پاس آیا تھا مجھے آپ ﷺ کے پاس داخل ہونے سے اس گھر کے دروازے پر موجود مردوں کی تصویروں نے روک دیا جس گھر میں آپ تھے اس گھر میں ایک پردہ تھا۔ جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں پھر وہاں ایک کتابھی تھا۔ لہذا حکم دیجئے کہ اس تصویر کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت کی طرح ہو جائے۔ پردے کے متعلق حکم دیجئے کہ اسے کاٹ کر دو تکیے بنائے جائیں جو پڑے رہیں اور (پیروں) میں روندے جائیں۔ پھر کتے کو نکال دینے کا حکم دیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ کتاب ایک کتے کا بچہ تھا۔ جو حسن یا حسین کا تھا اور آپ کے پلنگ کے نیچے تھا پھر آپ ﷺ کے حکم سے نکال دیا گیا۔

(۲۶۰۸) حدثنا سويدنا عبد الله بن المبارك نايونس بن ابي اسحاق نا مجاهد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبرئيل فقال اني كنت اتيتك البارحة فلم يمنعني ان اكون دخلت عليك البيت

الذي كنت فيه الا انه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهينة الشجر ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين متبذتين توطيان ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للחסنين او للحسن تحت نضده فامر به فاخرج

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۴۷۸۔ کم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردوں کے لئے ممانعت۔
۲۶۰۹۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے گزرا اور آنحضرت ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا۔

باب ۱۴۷۸۔ ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال (۲۶۰۹) حدثنا عباس بن محمد البغدادي نا اسحق بن منصور نا اسرافيل عن ابي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر رجل وعليه ثوبان احمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فلم يرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ علماء کے نزدیک اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی کا رنگا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد وغیرہ سے رنگا گیا ہو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ وہ کم کا نہ ہو۔

۲۶۱۰۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سونے کی انگوٹھی پہننے، ریشمی کپڑا پہننے، ریشمی زین پوش اور جھ سے منع فرمایا۔ ابواحوص کہتے ہیں کہ جھ مصر کی ایک شراب ہے جو جو سے بنتی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۶۱۰) حدثنا قتيبة نا ابوالاحوص عن ابي اسحق عن هبيرة بن يريم قال قال علي بن ابي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الفسي وعن الميثرة وعن الجعة قال

أَبُو الْأَحْوَصِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ

(۲۶۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا شُعْبَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنِ الْمُعْوِيَّةِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ أَمْرًا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمْرًا نَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيبِ الْعَاطِسِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِرَارِ الْمُقْسِمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَإِيَةِ الْفِضَّةِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْقَيْسِيَّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اشعث بن سلیم: ابو شعفاء سلیم بن اسود کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۴۷۹۔ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبِيَاضِ

(۲۶۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّفْنَا فِيهَا مَوْتَنَا كُمْ۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں ابن عمر اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۴۸۰۔ مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ

لِلرِّجَالِ

(۲۶۱۳) حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَيْشَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْأَشْعَثِ وَهُوَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ أَبِي اسْحَقَ عَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ أَضْحِيَّانَ فَحَعَلْتُ أَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ

۲۶۱۱۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا: جن چیزوں کا حکم دیا وہ یہ ہیں۔ ۱۔ جنازے کے ساتھ چلنا۔ ۲۔ مریض کی عیادت کرنا۔ ۳۔ چھینکنے والے کو جواب دینا۔ ۴۔ دعوت قبول کرنا۔ ۵۔ مظلوم کی مدد کرنا۔ ۶۔ قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا۔ ۷۔ سلام کا جواب دینا۔ جن چیزوں سے منع کیا وہ یہ ہیں۔ ۱۔ سونے کی انگٹھی یا چھلہ پہننا (مردوں کے لئے)۔ ۲۔ چاندی کے برتن استعمال کرنا۔ ۳۔ مردوں کا ریشمی لباس۔ ۴۔ دیباچ۔ ۵۔ استبرق۔ ۶۔ قسی کے کپڑے پہننا۔

باب ۱۴۷۹۔ سفید کپڑے پہننا۔

۲۶۱۲۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پہننا کرو اس لئے کہ یہ پاکیزہ اور عمدہ ترین ہیں اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔

باب ۱۴۸۰۔ مردوں کے لئے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت۔

۲۶۱۳۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی آپ ﷺ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ آپ ﷺ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ آپ ﷺ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اشعث کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ اور ثوری اسے ابو اسحاق سے اور وہ براء بن عازب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ (یعنی اس پر سرخ لکیریں تھیں نہ کہ پورا سرخ تھا)

محمود بن غیلان بھی وکیع سے وہ سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے۔ پھر محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابواسحاق سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ کلام ہے۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ براء کی حدیث زیادہ صحیح ہے یا جابر بن سرہ کی فرمایا: دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس باب میں براء اور ابو جحیفہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

باب ۱۴۸۱۔ مَا جَاءَ فِي التَّوْبِ الْأَخْضَرِ

(۲۶۱۴) حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن

مهدی نا عبید اللہ بن ایاد بن لقیط عن أبيه عن أبي

رُمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه برذان أخضران

باب ۱۴۸۱۔ سبز کپڑے پہننے کے متعلق۔

۲۶۱۴۔ حضرت ابورمضہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دو سبز

کپڑوں میں دیکھا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن ایاد کی روایت سے جانتے ہیں۔ رمضہ بھی کا نام حبیب بن حیان ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام رفاعہ بن یثرب ہے۔

باب ۱۴۸۲۔ فِي التَّوْبِ الْأَسْوَدِ

(۱۶۱۵) حدثنا احمد بن منيع نا يحيى بن

زكريا بن ابي زائده اخبرني ابي عن مصعب بن

شيبه عن صفية ابنة شينة عن عائشة قال خرج

النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط

من شعر أسود

باب ۱۴۸۲۔ کالے کپڑے پہننا۔

۲۶۱۵۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک صبح نکلے تو آپ

ﷺ کے جسم پر ایک سیاہ بالوں والی چادر تھی (کالی کالی)۔

باب ۱۴۸۳۔ مَا جَاءَ فِي التَّوْبِ الْأَصْفَرِ

باب ۱۴۸۳۔ زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق۔

۲۶۱۶۔ حضرت قیلہ بنت حخرمہ فرماتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوئے پھر طویل حدیث بیان کرتی ہیں۔ یہاں تک

کہ فرماتی ہیں: ایک شخص سورج بلند ہونے کے بعد آیا اور عرض کیا:

”السلام عليك يا رسول الله“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وعليك

السلام ورحمة الله“ اور آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک پر اس

وقت دو پرانے بنغیر سلعے ہوئے کپڑے تھے جو زعفران سے رنگے

ہوئے تھے اور ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نیز آپ ﷺ کے پاس ایک کھجور کی

شاخ بھی تھی۔

۲۶۱۶۔ حدثنا عبد بن حميد نا عفان بن مسلم

الصفار ابو عثمان نا عبد الله بن حسان انه حدثه

حدثنا ه صفية حدثناه عن قيلة بنت مخزومة انها

قالت قلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد

تفتت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك

السلام ورحمة الله وعليه يعني النبي صلى الله

عليه وسلم اسماء ملتين كانتا بزعفران وقد

نفضتا ومعه عسيب نخلة

قیلہ کی حدیث کہ ہم صرف عبداللہ بن حسان کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۴۸۴۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّرَعُّفِ وَالْخَلُوقِ
لِلرِّجَالِ

(۲۶۱۷) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَعُّفِ لِلرِّجَالِ

باب ۱۲۸۳۔ مردوں کے لئے زعفران یا خلوق بطور خوشبو استعمال کرنے کی کراہت۔

۲۶۱۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مردوں کو زعفران بطور خوشبو لگانے سے منع فرمایا:

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اسے اسماعیل بن علیہ سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے (مردوں کو) زعفران لگانے سے منع فرمایا۔ ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن عبدالرحمن، آدم کے حوالے سے اور وہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ترمذی سے مراد زعفران کو خوشبو کے طور پر استعمال کرنا ہے۔

۲۶۱۸۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو خلوق لگانے ہوئے دیکھا تو فرمایا: جاؤ اور اسے دھوؤ پھر دوبارہ دھوؤ اور آئندہ نہیں لگانا۔

(۲۶۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يُّعْلَى بْنِ مَرَّةٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْصَرَ رَجُلًا مَتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ

یہ حدیث حسن ہے۔ بعض حضرات نے اس کی سند میں اختلاف کیا ہے جو عطاء بن سائب سے مروی ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ جس نے عطاء سے شروع عمر میں احادیث سنیں وہ صحیح ہیں۔ شعبہ اور سفیان کا بھی ان سے سماع صحیح ہے۔ البتہ دو حدیثیں جو عطاء زاذان سے روایت کرتے ہیں صحیح نہیں۔ کیونکہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیثیں ان کی عمر کے آخری ایام میں سنی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اس باب میں عمارؓ اور ابو موسیٰؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۲۸۵۔ ریشم اور دیباچ کی کراہت۔

۲۶۱۹۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا۔ وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔

باب ۱۴۸۵۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاچِ
(۲۶۱۹) حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقِيُّ ثَنِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سَلِيْمَانَ ثَنِيَّ مَوْلَى اَسْمَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ۔

اس باب میں علیؓ، حدیثہؓ، انسؓ اور کئی حضرات سے روایت ہے جن کا ذکر ہم نے کتاب اللباس میں کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور حضرت عمرؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیقہ کے مولیٰ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو عمر ہے۔ ان سے عطاء بن ارباب اور عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں۔

• خلوق ایک خوشبو ہے اور یہ دونوں خوشبوئیں عورتوں کے لئے مخصوص ہیں مردوں کے لئے انہیں استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ (مترجم)

باب ۱۴۸۶۔

باب ۱۴۸۶۔

(۲۶۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ
عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ أَقْبِيَّةً وَ لَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ
شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَدْ عَوَّثْتُ
لَهُ فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ
مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ لَكَ هَذَا قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ
مَخْرَمَةَ

۲۶۲۰۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے قبائیں
تقسیم کیں اور مخرمہ کو کچھ نہیں دیا۔ مخرمہ نے مجھے کہا کہ بیٹے چلو رسول
اللہ ﷺ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا۔ وہاں پہنچے تو
مجھے کہا کہ اندر جاؤ اور آنحضرت ﷺ کو بلاؤ۔ آپ ﷺ نکلے تو آپ ﷺ
کے بدن مبارک پر ان میں سے ایک قبائی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں
نے یہ تمہارے لئے بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ مخرمہ نے اس کی طرف
دیکھا اور رضامندی کا اظہار کر دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن ابی ملیکہ کا نام عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ملیکہ ہے۔

باب ۱۴۸۷۔ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ
نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

باب ۱۴۸۷۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھنا پسند کرتے
ہیں۔

(۲۶۲۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ نَا عِفَانَ
بْنَ مُسْلِمٍ نَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ۔

۲۶۲۱۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر
اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتے ہیں۔

اس باب میں عمران بن حصین، ابن مسعود اور ابو جوص سے بھی روایت ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۴۸۸۔ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْأَسْوَدِ

باب ۱۴۸۸۔ سیاہ موزوں کے متعلق۔

(۲۶۲۲) حَدَّثَنَا هِنَادٌ نَا وَ كَيْعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
خَجِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّجَّاشِيَّ أَهْلَى
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ
فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا۔

۲۶۲۲۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں
نجاشی نے موزوں کا ایک سیاہ جوڑا بھیجا جو غیر منقوش تھا۔ آپ ﷺ نے
اسے پہنا اور وضو کرتے ہوئے ان پر مسح کیا۔

یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف دلہم کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن ربیعہ بھی اسے دلہم سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۴۸۹۔ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ تَنْفِ الثَّيْبِ

باب ۱۴۸۹۔ سفید بال نکالنا۔

(۲۶۲۳) حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا
عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ تَنْفِ الثَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ

۲۶۲۳۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سفید بال نکالنے سے منع فرمایا:
نیز فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اسے عبدالرحمن بن حارث اور کئی راوی عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۸۹۔ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ

باب ۱۳۸۹۔ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔

(۲۶۲۴) حدثنا ابو كريب نا وكيع عن داود بن ابي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن

۲۶۲۴۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے مشورہ لیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ امانت کو ملحوظ رکھے اور راز فاش نہ کرے۔

اس باب میں امین مسعود، ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث ام سلمہؓ کی روایت سے غریب ہے۔

(۲۶۲۵) حدثنا احمد بن منيع نا الحسن بن موسى نا شيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن

۲۶۲۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔

اس حدیث کو کئی راوی شیخان بن عبدالرحمن نخوی سے نقل کرتے ہیں۔ شیخان صاحب کتاب اور صحیح الحدیث ہیں۔ ان کی کنیت ابو معاویہ ہے پھر عبد الجبار بن عطاء عطار نے یہ حدیث سفیان بن عیینہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ سفیان، عبد الملک کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں جو حدیث بیان کرتا ہوں اسے حرف بہ حرف بیان کرتا ہوں۔

باب ۱۴۹۰۔ مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ

باب ۱۳۹۰۔ نحوست کے متعلق۔

(۲۶۲۶) حدثنا ابن ابي عمير نا سفیان عن الزهري عن سالم وحمزة انني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلثة في المرأة والمسكن والدابة

۲۶۲۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نحوست تین چیزوں میں ہے۔ عورت، گھر اور جانور میں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض زہری کے ساتھی اس حدیث کی سند میں حمزہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ اس طرح روایت کرتے ہیں۔ ”عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم“ ابن ابی عمر بھی اسے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ وہ سفیان سے و زہری سے وہ سالم اور حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے وہ دونوں اپنے والد ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن عبدالرحمن بھی سفیان سے وہ زہری سے وہ سالم سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ اگر میں یہ تذکرہ نہیں کہ سعید بن عبدالرحمن، حمزہ سے روایت کرتے ہیں اور سعید کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ علی بن مدینی اور حمید بن دونوں سفیان سے روایت کرتے ہیں جب کہ زہری نے یہ حدیث صرف سالم سے روایت کی ہے۔ پھر مالک بن انس بھی اسے زہری سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زہری، سالم اور حمزہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں بہل بن سعد، عائشہؓ اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا: اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت، گھر اور جانور میں ہوتی

یعنی کسی چیز میں نحوست نہیں۔ حکیم بن معاویہ، رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی گھر، عورت اور گھوڑے میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ یہ حدیث علی بن بحر، اسماعیل بن عیاش سے وہ سلیمان سے وہ یحییٰ بن جابر سے وہ معاویہ سے وہ اپنے چچا حکیم بن معاویہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۴۹۱۔ مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اِنَّانِ دُونَ الثَّالِثِ (۲۶۲۷) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش ح وحدثنا ابن ابى عمر نا سفیان عن الاعمش عن شَقِيبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِنَّانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجَى اِنَّانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْرَنُ؛

باب ۱۴۹۱۔ تیسرے شخص کی موجودگی میں دو کے سرگوشی کرنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ (سفیان اپنی حدیث میں لا یتناجی کے الفاظ بیان کرتے ہیں) اس لئے کہ یہ اسے غمگین کر دے گا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ ﷺ سے منقول ہے کہ فرمایا: دو شخص تیسرے کی موجودگی میں آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن کو تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۴۹۲۔ مَا جَاءَ فِي الْعِدَّةِ (۲۶۲۸) حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي نا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي جَحِيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ، وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْضُهَا فَاتَّانَا مَوْتُهُ، فَلَمْ يُعْطُوا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيُجِئْ فَمُتْ إِلَيْهِ فَأُخْبِرْتَهُ، فَأَمَرْنَا بِهَا

باب ۱۴۹۲۔ وعدے کے متعلق۔ حضرت ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ گورے تھے اور بڑھاپا آنے لگا تھا۔ حسن بن علیؓ آپ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے ہمارے لئے تیرہ جوان اونٹنیوں کا حکم دیا تھا۔ ہم انہیں لینے کے لئے گئے تو آپ ﷺ کی وفات کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ پھر جب ابو بکرؓ نے خلافت سنبھالی تو فرمایا: اگر کسی کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ کوئی وعدہ ہو تو وہ آئے۔ میں کھڑا ہوا اور آپ ﷺ کے وعدے کے متعلق بتایا تو انہوں نے ہمیں وہ اونٹنیاں دیئے کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن ہے۔ مروان بن معاویہ سے اپنی سند سے ابو جحیفہؓ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ کئی راوی ابو جحیفہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے۔ حسن بن علیؓ آپ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ حدیث یہیں تک ہے۔ محمد بن بشار بھی محمد بن یحییٰ سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے اور وہ ابو جحیفہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ حسن بن علیؓ آپ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ کئی راوی اسماعیل سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ اس پر جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ ابو جحیفہؓ کا نام وہب سوانی ہے۔

باب ۱۴۹۳۔ مَا جَاءَ فِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (۲۶۲۹) حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا سفیان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب

۱۴۹۳۔ ”میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان“ کے الفاظ کہنا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں

۲۶۲۹۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں

باپ تم پر قربان۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَمَعَ أَبُو يَهُ لَا حَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

۲۶۳۰۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کو اس طرح نہیں کہا:
کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر آپ
ﷺ نے فرمایا: تیرا دو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ پھر یہ بھی
فرمایا: اے جوان پہلوان تیر چلاؤ۔

(۲۶۳۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارِيُّ
سَفِيَانُ عَنْ أَبِي جَدْعَانَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ مَا جَمَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ إِرْمُ فِدَاكَ أَبِي
وَأُمِّي وَقَالَ لَهُ إِرْمُ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزْوَرِيُّ

اس باب میں زبیر اور جابرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت علیؑ سے منقول ہے۔ کئی راوی
اسے یحییٰ بن سعید بن مسیب سے اور سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ نے غزوہ احد کے موقع پر
مجھ سے فرمایا: میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

باب ۱۳۹۳۔ کسی کو بیٹا کہہ کر پکارنا۔

باب ۱۴۹۴۔ مَا جَاءَ فِي يَابُنِي

۲۶۳۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے بیٹا کہہ کر
مخاطب کیا۔

(۲۶۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
الشَّوَّارِبِ نَا أَبُو عَوَانَةَ نَا ابُو عَثْمَانَ شَيْخٌ لَهُ عَنْ أَنَسِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ

اس باب میں مغیرہؓ اور عمر بن ابی سلمہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور دوسری سند سے بھی انسؓ
ہی سے منقول ہے۔ ابو عثمان شیخ کا نام جعد بن عثمان ہے۔ یہ ثقہ ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں یہ بصری ہیں ان سے یونس بن عبید،
شعبہ اور کئی ائمہ حدیث، احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۵۔ نومولود کا نام جلدی رکھنا۔

باب ۱۴۹۵۔ مَا جَاءَ فِي تَعَجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ

۲۶۳۲۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے
نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نومولود کا نام پیدائش کے
ساتویں دن رکھنے کا حکم دیا۔ نیز یہ بھی حکم دیا کہ اسی دن اس کے بال بھی
موٹھے جائیں اور عقیقہ بھی کیا جائے۔

(۲۶۳۲) حَدَّثَنَا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن
سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ثني
عمي يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا شريك من
محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه
عن جدته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية
المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۹۶۔ مستحب ناموں کے متعلق۔

باب ۱۴۹۶۔ مَا جَاءَ يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

۲۶۳۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

(۲۶۳۳) حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابو عمر الوراق البصرى نا معمر بن سليمان الرقى عن على بن صالح الزنجى عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۳۹۷۔ مکروہ ناموں کے متعلق۔

باب ۱۴۹۷۔ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ۔

۲۶۳۴۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو رافع، برکت اور یسار جیسے نام رکھنے سے منع کرتا ہوں۔

(۲۶۳۴) حدثنا محمد بن بشار نا ابو احمد نا سفيان عن ابى الزبير عن جابر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهين أن يسمى رافع وبركة ويسار۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ابو احمد بھی سفیان سے وہ ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ عمرؓ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو احمد ثقہ اور حافظ ہیں۔ مشہور حضرات کے نزدیک یہ حدیث جابرؓ سے روایت ہے اس سند میں عمرؓ نہیں ہیں۔

۲۶۳۵۔ حضرت سرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنے بچے کے لئے یہ نام تجویز کرنے سے منع فرمایا: رباح، یسار، ارفح اور نجیح۔ اس لئے کہ کبھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں تو کہا جائے گا نہیں۔ ❶

(۲۶۳۵) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسم غلامك رباح ولا أرفح ولا يسار ولا نجيح يقال أنتم هو فيقال لا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام ”ملک الاملاک“ ہے۔ سفیان کہتے ہیں یعنی شہنشاہ۔

(۲۶۳۶) حدثنا محمد بن ميمون المكي نا سفيان ابن عيينة عن ابى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع إسم عند الله يوم القيامة رجلٌ تسمى ملك الأملاك قال سفيان شاهان شاه۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ارفح کے معنی قبیح ترین کے ہیں۔

❶ یعنی اگر کبھی اس نام والا موجود نہ ہو تو کہا پڑتا ہے کہ وہ نہیں ہے مثلاً برکت کے لئے کہیں گے برکت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ (مترجم)

باب ۱۴۹۸۔ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

باب ۱۳۹۸۔ نام بدلنے کے متعلق۔

(۲۶۳۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَابُو بَكْرٍ بِنْدَارٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ

۲۶۳۷۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا: تم جمیلہ ہو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان اسے عبید اللہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے مروی عار وایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اسی سند سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں عبد الرحمن بن عوف، عبد اللہ بن سلام، عبد اللہ بن مطیع، عائشہ، حکیم بن سعید، مسلم، اسامہ بن ادریس اور شریح بن ہانی سے بھی روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ خیمہ بھی اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۶۳۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔

(۲۶۳۸) حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ نَا عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدُمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِيحَ

ابو بکر بن علی راوی حدیث کہتے ہیں کہ کبھی عمر بن علی، ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کرتے

باب ۱۴۹۹۔ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۳۹۹۔ رسول اللہ ﷺ کے اسماء

۲۶۳۹۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے بہت سے نام ہیں۔ میں احمد بھی ہوں محمد بھی ہوں اور اسی طرح الماحی بھی ہوں یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتے ہیں۔ میں حاشر ہوں قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں میرے پیچھے ہوں گے اور میں عاقب بھی ہوں یعنی پیچھے رہ جانے والا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۲۶۳۹) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا سَفِيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحَشِّرُ النَّاسَ عَلَيَّ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۰۰۔ کسی کے لئے آنحضرت ﷺ کا نام اور کنیت ایک ساتھ تجویز کرنا۔

باب ۱۵۰۰۔ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ

۲۶۴۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے نام اور کنیت کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی اپنا نام اس طرح رکھے۔ محمد ابوالقاسم ﷺ۔ دونوں میں سے ایک نام رکھنے کی اجازت ہے یا نام یا کنیت۔

اس باب میں جابر سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۴۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر میرا نام رکھو تو کنیت نہ رکھو۔

(۲۶۴۰) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا اللّٰثِ عَنْ اِبْنِ عَجَلَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يَجْمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّي مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ

(۲۶۴۱) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيثٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقدِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَسَمَّيْتُمْ بِي فَلَا تَكُنُوْبِي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء آپ ﷺ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا مکروہ قرار دیتے ہیں۔ بعض حضرات اسے کراہت تنزیہی کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم آپ ﷺ کی حیات طیبہ تک مخصوص تھا۔ آپ ﷺ نے بازار میں ایک شخص کو ابوقاسم کہہ کر پکارتے ہوئے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ ﷺ کو نہیں پکارا۔ تب آپ ﷺ نے اپنی کنیت رکھنے سے منع فرمایا: یہ حدیث حسن بن علی خلّال، یزید بن ہارون سے وہ حمید سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ابوقاسم کنیت رکھنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔

۲۶۴۲۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ کے بعد میرے ہاں کوئی بیٹا ہو تو اس کی آپ ﷺ کی کنیت اور نام بھی محمد رکھ لوں۔ فرمایا: ہاں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میرے لئے اس کی اجازت تھی۔

(۲۶۴۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نَا فَطْرَبْنِ خَلِيفَةَ ثَنِي مَنْدَرٍ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَايْتَ اِنْ وُلِدْتَنِي بَعْدَكَ اُسْمِيهِ مُحَمَّدًا وَاكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَتْ رُحْصَةً لِّي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۰۱۔ شعروں کے متعلق۔

باب ۱۵۰۱۔ مَا جَاءَ فِي الشُّعْرِ

۲۶۴۳۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔

(۲۶۴۳) حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدٍ الْاَشْجَعِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي غَنِيَةَ ثَنِي اِبِي عَن عَاصِمٍ عَنْ زَرِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً

یہ حدیث غریب ہے اسے صرف ابوسعید اشجعی نے ابن عمیر کی روایت سے مرفوع کیا ہے۔ دوسرے راوی اسے موقوف روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث کئی سندوں سے عبداللہ بن مسعودؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔ اس باب میں ابی بن کعبؓ، ابن عباسؓ، عائشہؓ، بریدہؓ

اور کثیر بن عبد اللہ سے بھی روایت ہے یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

(۲۶۴۴) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اَبُو عَوَاثَةَ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً
ش حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۰۲۔ شعر پڑھنے کے متعلق۔

باب ۵۰۲۔ مَا جَاءَ فِيْ اِنْشَادِ الشَّعْرِ

(۲۶۴۵) حَدَّثَنَا اسْمَعِيْلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِيُّ وَعَلِيُّ حَجْرُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَابِئِ ابْنِ ابِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحْسَانَ مَنِيْرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَتْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَانَ بَرُوْحِ الْقُدْسِ مَا يُفَاخِرُ اَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۶۴۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے لئے منبر رکھا کرتے تھے جس پر کھڑے ہو کر حسان آپ ﷺ کی طرف سے فخریہ اشعار کہا کرتے تھے یا فرمایا: جس پر کھڑے ہو کر حسان آنحضرت ﷺ کی طرف سے اعتراضات کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے کہ جب حسان فخر کرتے یا اعتراضات کا رد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔

اسماعیل اور علی بن حجر بھی ابن ابی زناد سے وہ اپنے والد سے وہ عمروہ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل

کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور براءؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(۲۶۴۶) حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ نَابِئِ عَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبَدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ
خَلُوْا بِنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يَزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

۲۶۴۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عمرے کی قضاء ادا کرنے کے لئے مکہ داخل ہوئے تو عبد اللہ بن رواحہ آپ ﷺ کے آگے آگے یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔

خَلُوْا بِنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يَزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

(ترجمہ: اے کفار کی اولاد آپ ﷺ کا راستہ خالی کر دو آج کے دن ان کے آنے پر ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے جو دماغ کو اس کی جگہ سے ہلا کر رکھ دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی) حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے ابن رواحہ! رسول اللہ ﷺ کے آگے اور اللہ کے حرم میں،

فَقَالَ لَهُ، عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشَّعْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّ عَنْهُ يَا

عَمْرٌ فَلَهَايَ اسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَصْحِ النَّبِيِّ
شعر پڑھ رہے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عمر اسے چھوڑ دو۔ یہ کافروں کے لئے تیروں سے بھی زیادہ اثر انداز ہوگا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ عبدالرزاق اسے معمر سے وہ زہری سے اور وہ انس سے اسی طرح نقل کرتے ہیں ایک حدیث میں منقول ہے کہ آپ ﷺ جب مکہ داخل ہوئے تو کعب بن مالک آپ ﷺ کے آگے تھے اور یہ بعض محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے کیونکہ عبداللہ بن رواحہ غزوہ موتہ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور عمرہ قضاء اس کے بعد ہوا۔ ❶

(۲۶۴۷) حدثنا علي بن حجر انا شريك عن المقدم بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول ويأتيتك بالآخبار من لم تزود
۲۶۴۷۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے؟ فرمایا: ہاں ابن رواحہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ ”ویأتیک بالآخبار من لم تزود“ (ترجمہ: یعنی تمہارے پاس وہ لوگ خبریں لائیں گے جن کو تم نے زادراہ فراہم نہیں کیا)۔

اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲۶۴۸) حدثنا علي بن حجر نا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل
۲۶۴۸۔ حضرت ابو ہریرہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: عرب شعراء کے بہترین کلام میں سے لیبید کا یہ قول ہے۔ الاکل الخ (ترجمہ) جان لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے یعنی فنا ہونے والی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے ثوری، عبدالملک بن عمیر سے نقل کرتے ہیں۔

(۲۶۴۹) حدثنا علي بن حجر انا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما يتبسم معهم
۲۶۴۹۔ حضرت جابر بن سمیرہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ سو سے زیادہ مرتبہ بیٹھا۔ چنانچہ صحابہ اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کیا کرتے تھے لیکن آپ ﷺ خاموش رہتے ہاں کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرا دیتے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے سماک سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۰۳۔ ما جاء لا أن يتملي حوف أحدكم فيحاخير له من أن يتملي شعرا
۱۵۰۳۔ کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے۔

(۲۶۵۰) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبیر عن محمد
۲۶۵۰۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے یہ اس سے بہتر

❶ لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عمرہ قضاء کو فرودہ موتہ کے بعد کہا صریح غلطی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہے کہ شعروں سے بھرے۔

بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۵۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے جو اس کے پیٹ کو خراب کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ شعروں سے بھر لے۔

(۲۶۵۱) حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي نا عمى يحيى بن عيسى عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يمتلي جوف أحدكم قيحاً يريه خيراً له من أن يمتلي شعراً۔

اس باب میں سعد، ابوسعید، ابن عمر اور ابودرداء سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۰۳۔ فصاحت اور بیان کے متعلق۔

باب ۱۵۰۴۔ مَا جَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

۲۶۵۲۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے بلیغ شخص سے بغض رکھتے ہیں جو اپنی زبان سے اس طرح باتوں کو لپیٹتا ہے جیسے گائے چارے کو۔ (یعنی بے فائدہ اور بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔)

(۲۶۵۲) حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني نا عمر بن على المقدمى نا نافع بن عمر المجمعى عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغيض البليغ الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس باب میں سعد سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۵۰۵۔ برتنوں کو ڈھکنا۔

باب ۱۵۰۵۔ فِي تَحْمِيرِ الْأَيَّةِ

۲۶۵۳۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ (سونے سے پہلے) برتنوں کو ڈھک دو، مشک کا منہ باندھ دو، دروازے بند کر لو اور چراغ بجھا دو۔ اس لئے کہ اکثر چوہا سنی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ جس سے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔

(۱۶۵۳) حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن كثير بن شطير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمروا الأيئة وأوكوا الأسقية وأجفوا الأبواب وأطفؤا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جابر سے کئی سندوں سے مروی ہے وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۰۶۔

باب ۱۵۰۶۔

۲۶۵۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم

(۲۶۵۴) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن

سہیل بن ابی صالح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخُصْبِ
فَاعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ
فَبَاجِرُوا بِهَا نَفْسَهَا وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا
طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَا وَءَ الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

سبزے کے دنوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین سے ان کا حصہ دو اور اگر
خشک سالی کے دنوں میں سفر کرو تو اس کی قوت باقی رہنے تک جلدی
جلدی سفر مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر جب رات کے آخری حصے میں
آرام کے لئے اترو تو راستے سے ایک طرف ہو جاؤ۔ اس لئے کہ وہ
جانوروں کے راستے اور کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں انس اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۵۰۷۔

باب ۱۵۰۷۔

۲۶۵۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ نَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَنَكِّبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ
لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ

۲۶۵۵۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی چھت پر
سونے سے منع فرمایا۔ جس کے گرد دیوار نہ ہو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے محمد بن منکدر کی جابر سے روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور عبد الجبار ابلی ضعیف ہیں۔

(۲۶۵۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو أَحْمَدَ نَا
سَفِينُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّنَا
بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

۲۶۵۶۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہمیں نصیحت
کے ساتھ ساتھ فرصت بھی دیا کرتے تھے تاکہ ہم ملول نہ ہو جائیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار بھی اسے یحییٰ بن سعید سے وہ سلیمان سے وہ شقیق بن سلمہ سے اور وہ عبد اللہ بن مسعود سے اسی
طرح نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۰۸۔

باب ۱۵۰۸۔

(۲۶۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ نَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سِئِلْتُ عَائِشَةَ وَأُمُّ
سَلَمَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا مَا دَرَيْمُ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلَّ

۲۶۵۷۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے
پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک کون سا عمل سب سے محبوب
تھا۔ فرمایا: جس پر مداومت کی جائے۔ خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ہشام اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ
کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس پر مداومت کی جائے۔ ہارون بن اسحاق بھی عبدہ سے وہ ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت
عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَبْوَابُ الْأَمْثَالِ عَنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۵۰۹ - مَا جَاءَ فِي مِثْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ

(۲۶۵۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ السَّدِيُّ نَابِقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلَابِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ زُورَانٍ لَّهُمَا أَبْوَابٌ مُّفْتَحَةٌ عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ وَدَاعٌ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٌ يَدْعُو فَوْقَهُ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ حُدُودٌ اللّٰهُ فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللّٰهِ حَتَّى يَكْشِفَ السِّتْرَ وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَأَعْظُرَ رَبِّهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مثالوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے منقول

احادیث کے ابواب

باب ۱۵۰۹ - اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لئے مثل۔

۲۶۵۸ - حضرت نواس بن سمان کلابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال دی ہے کہ وہ ایسی راہ ہے جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں جن میں جا بجا دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ پھر ایک بلا نپے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا ہو کر اور ایک اس کے اوپر کھڑا ہو کر بلا رہا ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وَاللّٰهُ يَدْعُو..... الْآيَةَ“ (یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا تے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں) اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود (حرام کی ہوئی چیزیں) ہیں۔ ان میں اس وقت تک کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا جب تک پردہ نہ اٹھائے یعنی صغیر گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور اس راستے کے اوپر پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ نصیحت کرنے والا ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن کو ذکر کیا بن عدی کے حوالے سے ابواسحاق فزاری کا یہ قول نقل کر۔ ہوئے سنا کہ بقیہ بن ولید کی وہی روایتیں جو وہ ثقہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں اور اسماعیل بن عیاش کی کسی روایت کا اعتبار نہ کرو خواہ ثا سے یا غیر ثقہ سے۔

(۲۶۵۹) حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا الْلَيْثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرَائِيلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اضْرِبْ لَهُ، مَثَلًا فَقَالَ اسْمَعْ سَمِعْتُ أذُنَكَ وَأَعْقِلْ عَقْلَ قَلْبِكَ إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ

۲۶۵۹ - حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ ہماری طرف نکلے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا جبرائیل میرے سر پر ہانے اور میکائیل میری پانچٹی کھڑے ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے لئے مثال بیان کر دوسرے نے کہا: (اے نبی) سنئے آپ ﷺ کے کان ہمیشہ سنتے رہے اور سمجھے، آپ ﷺ کا دل ہمیشہ سمجھتا رہے۔ آپ ﷺ کی اور آپ امت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بڑا مکان بنا

۱۰ یعنی اس مثال کو سمجھنے کے لئے اچھی طرح دماغ کو حاضر کیجئے اور کانوں سے سینے اور آنکھوں سے ادھر ادھر نہ دیکھئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

پھر اس میں ایک گھر بنایا پھر وہاں ایک دسترخوان لگوا کر ایک پیغامبر کو بھیجا کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ چنانچہ بعض نے اس کی دعوت قبول کی اور بعض نے نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں وہ بڑا مکان اسلام ہے اور اس کے اندر والا گھر جنت ہے اور آپ ﷺ اے محمد پیغامبر (رسول) ہیں جس نے آپ کی دعوت قبول کی اسلام میں داخل ہوا۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس میں موجود چیزیں کھالیں۔

یہ حدیث مرسل ہے اس لئے کہ سعید بن ہلال نے جابر بن عبد اللہ کو نہیں پایا۔ اس باب میں ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔ وہ سند اس سے زیادہ صحیح ہے۔

۲۶۶۰۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور عبد اللہ بن مسعودؓ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر بطحاء کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں بٹھایا اور ان کے گرد ایک خط کھینچ کر فرمایا: تم اس خط سے باہر نہ نکلتا۔ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تم ان سے بات نہیں کرنا (اگر تم نہیں کرو گے تو وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ پھر آپ ﷺ نے جہاں کا ارادہ کیا تھا چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے ❶ گویا کہ وہ زط ہیں۔ ❷ ان کے بال اور بدن نہ تو میں نگے دیکھتا تھا اور نہ ہی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آتے لیکن اس خط سے تجاوز نہ کر سکتے پھر آنحضرت ﷺ کی طرف جاتے۔ یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: میں پوری رات نہیں سو سکا پھر میرے خط میں داخل ہوئے اور میری ران کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے۔ آپ ﷺ جب سوتے تو خراٹے لینے لگتے تھے میں اسی حال میں تھا اور آنحضرت ﷺ میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے۔ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے حسن و جمال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگ مجھ تک آئے پھر ایک جماعت آپ ﷺ کے سر ہانے بیٹھ گئی اور دوسری آپ ﷺ کے پیروں کے پاس۔ پھر کہنے لگے: ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جسے وہ کچھ دیا

أَمْتِكَ كَمَنْ لَمَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَابَبَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ قَالَهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالِدَارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْحَنَّةُ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ مِنْ أَحَابِكِ دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْحَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْحَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا

(۲۶۶۰) حدثنا محمد بن بشر نا محمد بن ابی عدی عن جعفر بن میمون عن ابی تمیمة العجمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم انصرف فآخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به الى بطحاء مكة فاجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرجن خطك سينتهي اليك رجال فلا تكلمهم فانهم لن يكلموك ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حيث اراد فبيننا انا جالس في خطي اذ اتاني رجال كانوا الرط اشعارهم واجسامهم لا اراى عورة ولا اراى قسورا وينتهون الي ولا يجاوزون الخط ثم يصدرون الي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان من اجر الليل لكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء نبي وانا جالس فقال لقد اراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذني فرقد وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد نفع بيننا انا قاعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسد فخذني اذا برجال عليهم ثياب بيض الله

❶ یہ جن تھے۔ (مترجم)۔ ❷ زط مراد جٹ لوگ ہیں واللہ اعلم (مترجم)

گیا ہو جو اس نبی ﷺ کو عطا کیا گیا ہے۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ ان کے لئے مثال بیان کرو کہ ایک سردار نے ایک محل تعمیر کرایا اور اس میں دسترخوان لگوا کر لوگوں کو کھانے پینے کے لئے بلایا۔ پھر جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے کھایا پیا اور جس نے قبول نہیں کیا اس نے اسے سزا دی یا فرمایا: عذاب دیا۔ پھر وہ لوگ اٹھ گئے۔ اور آنحضرت ﷺ جاگ گئے۔ اور فرمایا: تم نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ فرشتے تھے۔ جو مثال انہوں نے بیان کی جانتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: انہوں نے جو مثال دی وہ یہ ہے کہ رحمن نے جنت بنا لی اور لوگوں کو بلایا۔ جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے انکار کیا اسے عذاب دیا۔

أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ فَانْتَهَوْا إِلَيَّ فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَيْنِيهِ تَنَامَانٌ وَقَلْبُهُ يَقْضَانُ إِضْرِبُوا لَهُ مِثْلًا مِثْلَ سَيِّدِ بَنِي قُصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَا قَدَدَهُ فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقِبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَهُ هُوَ لَأَيُّ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هُمْ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ فَتَدْرِي مَا الْمِثْلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمِثْلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ الرَّحْمَنُ بَنَى الْجَنَّةَ وَدَخَلَ إِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقِبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوتیمیمہ کا نام طریف بن ماجلہ ہے۔ ابو عثمان نہدی کا نام عبدالرحمن بن بل ہے۔ اور سلیمان بنی طرخان کے بیٹے ہیں۔ وہ قبیلہ بنی تمیم میں جایا کرتے تھے اس لئے تیمیمی مشہور ہو گئے۔ علی، یحییٰ بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو سلیمان سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب ۱۵۱۰۔ آجاء مثل النبی والانبیاء صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین وسلم۔

۲۶۶۱۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا محمد بن سنان ناسليم بن حيان نا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل الانبياء كرجل بني دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة ف جعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة

۲۶۶۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھ بنایا اور اسے اچھی طرح مکمل کر کے اس کی آرائش و تزئین کی۔ لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ چنانچہ لوگ اس میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے ہوئے کہتے کہ کاش یہ جگہ خالی نہ ہوتی۔ ①

① اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں جس ک وجہ سے انبیاء کا وہ محل مکمل ہو گیا جیسے کہ صحیحین کی روایت میں بھی ہے کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ مجھ سے ہی و عمارت مکمل ہوئی اور انبیاء کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم الانبیاء ہوں۔ واللہ اعلم (مترجم)

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور ابی بن کعبؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۱۱۔ مَا جَاءَ مَثَلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ۔

۲۶۶۲۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا موسى ابن اسمعيل نا ابان بن يزيدنا يحيى بن ابى كثير عن زيد بن سلام ان اباسلام حدثه، ان الحارث الأشعري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بها ويامر بنى اسرائيل ان يعملوها وانه، كاذان يطوع بها قال عيسى ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتامر بنى اسرائيل ان يعملوها بما فاما ان تامرهم واما انا امرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعدب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلكا واعدوا على الشرف فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وامرکم ان تعملوا بهن اولهن ان تعبدوا لله ولا تشرکوا به شيئا وان مثل من اشرك بالله كمثل رجل باشرى عبدا من خالص ماله بنهب او ورق فقال هذه دارى وهذا عملى فاعمل واد الى فكان يعمل ويؤدى الى غير سيده فايكم يرضى ان يكون عبده، كذلك وان الله امرکم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلوته مالم يلتفت وامرکم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه ضره فيها مسك فكلهم يعجب او يعجبه ریحها وان ریح الصائم اطيب عند الله من ریح المسك وامرکم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا اؤديه منكم بالقليل والكثير فقد افسده منكم وامرکم ان

باب ۱۵۱۱۔ نماز، روزے اور صدقے کی مثال۔

۲۶۶۲۔ حضرت حارث اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام نے انہیں پہنچانے میں تاخیر کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل سے ان پر عمل کرانے کا حکم دیا ہے لہذا یا تو آپ انہیں حکم دیجئے ورنہ میں حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا: مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ انہیں پہنچانے میں سبقت لے گئے تو مجھے دھنسا دیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ یہاں تک کہ وہ جگہ بھر گئی اور لوگ اونچی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ ۱۔ تم صرف اللہ ہی کے عبادت کرو اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے یا چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے لہذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کرو لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع کسی اور کو دے دیتا۔ چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا۔ لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور جانب التفات نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف منہ کئے رہتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ کسی اور طرف التفات نہ کرے۔ ۳۔ اور میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک گروہ کے ساتھ ہے اس کے پاس مشک سے بھری ہوئی تھلی ہے جس کی خوشبو اس کو بھی پسند ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ چنانچہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ۴۔ میں تمہیں صدقہ دینے کا بھی حکم دیتا ہوں اس کی

تَذَكُّرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي آثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا آتَى عَلَى حَصِينٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرَزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُمْرُكُمْ بِحَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالْجِهَادَ وَالْهَجْرَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدٌ شَبِيرٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنْحَى جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ إِنْ صَلَّى وَصَامَ فَأَدْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ

مثال ایسے شخص کی سی ہے جو دشمن کی قید میں چلا جائے اور وہ لوگ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اسے قتل کرنے کے لئے لے کر چل دیں جب وہ اس کی گردن اتارنے لگیں تو وہ کہے کہ میں تم لوگوں کو جو کچھ تھوڑا زیادہ میرے پاس ہے اسے بطور فدیہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ انہیں فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہوں اور وہ بھاگ کر ایک قلعے میں گھس جائے اور ان لوگوں سے اپنی جان بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ خود کو شیطان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اور میں بھی تم لوگوں کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ۱۔ بات سنتا۔ ۲۔ اطاعت کرنا۔ ۳۔ جہاد کرنا۔ ۴۔ ہجرت کرنا۔ ۵۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔ اس لئے کہ جو جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی الا یہ کہ وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ التزم کرے اور جس نے زمانہ جاہلیت والی برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ اگرچہ اس نے نماز پڑھی اور روزے رکھے؟ فرمایا: ہاں۔ لہذا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ جس نے تمہیں مسلمین و مؤمنین اللہ کے بندوں کا نام دیا۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حارث اشعری صحابی ہیں۔ ان کی اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ محمد بن بشار بھی ابوداؤد طیالسی سے وہ ابان بن یزید سے وہ یحییٰ سے وہ زید بن سلام سے وہ ابوسلام سے وہ حارث اشعری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسلام کا نام محظور ہے۔ نیز علی بن مبارک یہ حدیث یحییٰ بن کثیر سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۱۲۔ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال۔

باب ۱۵۱۲۔ مَا جَاءَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْقَارِي لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقَارِي

۲۶۶۳۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے مؤمن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور جو مؤمن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ بیٹھا ہوتا ہے۔

(۲۶۶۳) حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابوعوانة عن قتادة عن أَنَسٍ عَنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّرْنَجَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ

پھر قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ کڑوا ہوتا ہے۔ نیز قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال حنظل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی۔

الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ رِيحُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اسے قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۶۶۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر مؤمن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔

۲۶۶۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَرُ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۶۵۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مؤمن کی طرح ہے۔ مجھے بتاؤ کو وہ کون سا درخت ہے؟ عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے والد عمرؓ سے اپنے دل میں آنے والے خیال کا تذکرہ کیا تو فرمایا: اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو یہ میرے لئے ایسا ایسا مال ہونے کے مقابلے میں زیادہ محبوب تھا۔

۲۶۶۵۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مُوسَى نَا مَعْنِ نَا مَالِكُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حَدِيثُونِي مَا هِيَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ يَعْنِي أَنِّي أَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قَلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۵۱۳۔ بجاگنا نماز کی مثال۔

۲۶۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا: نہیں بالکل نہیں۔ فرمایا: اسی طرح پانچوں نمازوں کی بھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔

باب ۱۵۱۳۔ مَا جَاءَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

۲۶۶۶۔ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَيْنَ بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ قَالُوا لَا يَبْقَى

مِنْ دَرَبِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ
يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

اس باب میں جاہرے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ اسے بکر بن معمر سے اور وہ ابن ہاد سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۱۴۔

باب ۱۵۱۳۔

۲۶۶۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا حماد بن یحییٰ الایح عن ثابت
البنائی عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مثل أمي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره

۲۶۶۷۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں اس کا اول بہتر
ہے یا آخر۔

اس باب میں عمارؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبدالرحمن بن

مہدی، حماد بن یحییٰ کو ثبت کہتے ہیں۔ نیز انہیں اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔

باب ۱۵۱۵۔ مَا جَاءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

باب ۱۵۱۵۔ انسان، اس کی موت اور امید کی مثال۔

۲۶۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ناخِلاد بن
یحییٰ نا بشیر بن المهاجر انا عبد الله بن يريدة قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل
هذه وهذه ورأى بخصتين قالوا الله ورسوله
أعلم قال هذا الأمل وهذا الأجل

۲۶۶۸۔ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا
تم جانتے ہو کہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ اور دو کنکریاں ماریں۔
صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: وہ
امید ہے اور یہ موت ہے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۲۶۶۹۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ناخِلاد بن
قالوا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما الناس كابل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة

۲۶۶۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کی
مثال اس طرح ہے کہ (کسی کے پاس) سو (۱۰۰) اونٹ ہوں لیکن ان
میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم سے اسے سعید، سفیان کے حوالے سے اور وہ زہری سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۶۷۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا المغيرة بن
عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس
كابل مائة لا تجد فيها راحلة أو لا تجد فيها إلا راحلة
۲۶۷۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا المغيرة بن
عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي

۲۶۷۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کی
مثال سو (۱۰۰) اونٹوں کی سی ہے کہ تم ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل
نہ پاؤ یا فرمایا کہ ان میں سے صرف ایک اونٹ سواری کے قابل

پاؤ۔ ①

۲۶۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت
میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی۔ چنانچہ

① یعنی سو میں سے ایک بھی کام کا نہیں یا کبھی ایک کام کا نکل آتا ہے تو آنحضرت ﷺ کے زمانے کا حال ہے جسے خیر القرون کہا گیا تو پھر آج کل کا کیا حال ہوگا۔ (مترجم)

کیڑے کوڑے اور پروانے (یا تتلیاں) اس پر گرنے لگیں۔ چنانچہ میں پیچھے کی طرف گھسیٹ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ آگے بڑھ کر اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ ❶

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتْ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا فَإِنَّا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَفَحِّمُونَ فِيهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۷۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ پھر تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کئی مزدوروں کو کام پر لگایا اور ان سے کہا کہ کون میرے لئے دوپہر تک ایک قیراط کے عوض کام کرے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک ایک قیراط کے بدلے کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون ایک قیراط کے عوض دوپہر سے عصر تک کام کرے گا۔ چنانچہ نصاریٰ نے اس وقت کام کیا۔ پھر اب تم لوگ عصر سے غروب آفتاب تک دو دو قیراط کے عوض کام کرتے ہو۔ جس پر یہود و نصاریٰ غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ کم دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے حق میں سے کچھ رکھ لیا اور تم پر ظلم کیا؟ وہ کہتے ہیں: نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ میرا فضل ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ ❷

۲۶۷۲۔ حدثنا اسحق بن موسى الانصاري نامعن نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَحَلُّكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَيَرَاطٍ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَيَرَاطٍ فَعَمَلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَيَرَاطَيْنِ فَعَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً فَقَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي أَوْ تَبِيهِ مِنْ أَسَاءَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن کے فضائل کے متعلق آنحضرت ﷺ

سے منقول احادیث کے ابواب۔

باب ۱۵۱۶۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت

۲۶۷۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ابی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اب ۱۵۱۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۲۶۷۱۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزیز بن محمد عن

ابنی تم لوگ گناہوں میں پڑتے جا رہے ہو جو آگ (دوزخ) میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ (مترجم) ❶ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اس کی امت کی عمریں یں چھوٹی ہیں لہذا عمل بھی قلیل ہے لیکن اجر زیادہ ہے اور وہ اس کا فضل ہے۔ (مترجم)

العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجب وصلى أبي فحفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام مامنك يا أبا أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلوة قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعوذ إن شاء الله قال أتجب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلوة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنما سبغ من المثنائي والقرآن العظيم الذي أعطيته

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۵۱۷۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کے متعلق۔

باب ۱۵۱۷۔ ماجاء فی سورة البقرة وآية الكرسي
۲۶۷۴۔ حدثنا قتيبة بن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۷۵۔ حدثنا محمود بن غيلان نا حسين

بن كعب کے پاس گئے اور انہیں پکارا۔ اے ابی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے لہذا مڑ کر دیکھا اور جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے نماز مختصر کی اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے جواب دیا اور پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دینے سے روکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا: کیا تم نے میرے اوپر نازل ہونے والی وحی میں یہ حکم نہیں پڑھا "استجبوا للہ..... الآیة" (یعنی جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس چیز کے لئے پکاریں جو تمہیں حیات بخشے تو انہیں جواب دو) عرض کیا: جی ہاں۔ انشاء اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایسی سورت بتاؤں جو نہ توریت میں اتری ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی سورت ہے؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن (سورت فاتحہ) پڑھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ توریت، زبور، انجیل حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی سبج مثنائی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

۲۶۷۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

۲۶۷۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہرچ

ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔

الجعفی عن زائدة عن حکیم بن جبیر عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنَامٌ وإنَّ سنَامَ القرآنِ سورَةُ البقرة وَفِیہَا آیةٌ هِیَ سَیِّدَةُ آیِ القرآنِ آیةُ الکرسی

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکیم بن جبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔

۲۶۷۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت حم المؤمن سے الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی پڑھی تو ان آیات کی برکت سے اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کو پڑھے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

۲۶۷۶۔ حدثنا یحییٰ ابن المغیرة ابوسلمة المخزومی المدینی نا ابن ابی فدیك عن عبدالرحمن الملیکی عن زرارة بن مضعب عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حم المؤمن الی الیہ المصیر وایة الکرسی جین یصبح حفظ بہما حتی یمسی ومن قرأہما جین یمسی حفظ بہما حتی یصبح

یہ حدیث غریب ہے بعض علماء عبدالرحمن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ کے حافظے پراعتراض کرتے ہیں۔

۲۶۷۷۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک طاق تھا جس میں کھجوریں تھیں۔ ایک جنی آتی اور اس میں سے کھجوریں لے جاتی۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی تو فرمایا: جاؤ اور جب وہ آئے تو کہنا۔ بسم اللہ اور پھر کہنا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ایوب نے اسے پکڑ لیا تو وہ جنی قسم کھانے لگی کہ واپس نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ عرض کیا: قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گی۔ انہوں نے دوبارہ اسے پکڑ لیا تو اس نے پھر قسم کھائی اور ابو ایوب نے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہی سوال و جواب ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: وہ پھر آئے گی ابو ایوبؓ نے تیسری مرتبہ بھی اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا: میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہ تم گھر میں

۲۶۷۷۔ حدثنا محمد بن بشارنا ابواحمد نا سفیان عن ابن ابی لیلی عن اخیه عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابی ایوب الأنصاری أنه کان لہ سہوۃ فیہا تمر فکانت تجیی الغول فتأخذ منہ فشکی ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذهب إذا رأیہا فقل بسم اللہ آجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فأخذہا فحلفت أن لاتعود فأرسلہا فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل أسیرک قال حلفت أن لاتعود قال کذبت وھی معاوۃۃ للکذب قال فأخذہا فحلفت أن لاتعود فأرسلہا فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل أسیرک قال فحلفت أن لاتعود فقال کذبت وھی معاوۃۃ للکذب قال فأخذہا فقال ماانا بتارکک حتی اذهب بک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ائی

آیت الکرسی پڑھا کرو تو شیطان یا کوئی اور چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو اس کے قول کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا اگر چہ وہ جھوٹی ہے۔

ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَقْرَأَهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَفْرُتُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ؛ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ؛ بِمَا قَالَتْ قَالَ صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۶۷۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا۔ اس میں گنتی کے لوگ تھے ان سب سے قرآن پڑھوایا تو ہر شخص کو جتنا یاد تھا اتنا پڑھا۔ پھر آپ ﷺ ان میں سے سب سے کم عمر شخص کے پاس سے گزرے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں سورت اور سورہ بقرہ یاد ہے آپ ﷺ نے پوچھا: تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: تو پھر جاؤ تم ان کے امیر ہو۔ چنانچہ ان کے اشراف میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم میں نے اسے صرف اس اندیشے سے یاد نہیں کیا میں اسے تہجد میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قرآن سیکھو اور اسے پڑھو اس لئے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر اسے تہجد وغیرہ میں پڑھا اس کی مثال ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی سی ہے کہ اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی رہتی ہے اور جس نے اسے یاد کیا اور پھر سوا گیا تو وہ اس کے دل میں محفوظ ہے جیسے مشک کی تھیلی کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہو۔

۲۶۷۸۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ نَا ابُو اسامَةَ نَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ ذُو عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَ هُمْ فَاسْتَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَعْنِي مَامَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحَدِيهِمْ سِنًا فَقَالَ مَامَعَكَ يَا فُلَانُ فَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقْرَةِ فَقَالَ مَعَكَ سُورَةُ الْبَقْرَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ وَاللَّهِ مَا مَنَعْنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْبَقْرَةَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَأَقْرَأُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ؛ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ مَحْشُوبٍ مَسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ؛ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ؛ فَيَرُدُّهُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ أَوْكِيَ عَلَى مَسْكِ

یہ حدیث حسن ہے اور اسے سعید مقبری بھی ابواحمد کے مولیٰ عطاء سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند مرسل نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ سے لیث بن سعد سے وہ سعید مقبری سے وہ عطاء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی مرسل نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس باب میں ابی بن کعب سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۵۱۸۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔

باب ۱۵۱۸۔ مَا جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ

۲۶۷۹۔ حضرت ابو سعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قیام شب میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں وہی اس کے لئے کافی ہیں۔

۲۶۷۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۸۰۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ اگر یہ آیتیں کسی گھر میں تین رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

۲۶۸۰۔ حدثنا بندارنا عبدالرحمن بن مهدی نا حماد بن سلمة عن اشعث بن عبدالرحمن الحرمی عن ابی قلابة عن ابی الأشعث الجرمی عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السموات والأرض بالفی عام انزل منه آیتین حتم بہا سورة البقرة ولا یقرآن فی دار ثلاث لیلال فیقرّبہا شیطان

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۵۱۹۔ سورہ آل عمران کی فضیلت۔

باب ۱۵۱۹۔ ماجاء فی ال عمران

۲۶۸۱۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (قیامت کے دن) قرآن اور اہل قرآن جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے اس طرح آئیں گے کہ آگے سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران ہوگی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں میں اس کے بعد انہیں کبھی نہیں بھولا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ دو چھتیریاں ہیں اور ان کے درمیان ایک فرج ہے یا اس طرح آئیں گی جیسے دو کالی بدلیاں یا پھر صف باندھے ہوئے پرندوں کی مانند اپنے ساتھی کی طرف سے شفاعت کرتے ہوئے آئیں گی۔

۲۶۸۱۔ حدثنا محمد بن اسماعیل نا هشام بن اسمعیل ابو عبد الملك العطارنا محمد بن شعيب نا ابراهيم بن سليمان بن نفيير عن نواس بن سمان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ای القرائن واهله الذین یعملون به فی الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران قال نواس وضرب لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة امثال مانسیتهن بعد قال یا تیان کانهما غیابتان وینهما شرقا او کانهما غماتان سوادا وان او کانهما ظلة من طیر صواف تجادلان عن صاحبهما

اس باب میں ابوامامہ اور بریدہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ سورتوں کے آنے سے مراد ان کا ثواب ہے۔ بعض علماء اس حدیث اور اس سے مشابہ احادیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت نواس کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کے آنے سے مراد اس پر عمل کرنے والوں کے اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ امام بخاری، حمیدی سے اور وہ سفیان بن عیینہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی حدیث کہ ”اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اس کے پیدا کئے ہوئے آسمان و زمین سے بہت عظیم ہے۔

باب ۱۵۲۰۔ سورہ کہف کی فضیلت۔

باب ۱۵۲۰۔ ماجاء فی سورة الکہف

۲۶۸۲۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا

۲۶۸۲۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابو داود ابانا شعبة

کہ اس نے اپنی سواری کو کودتے ہوئے دیکھا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بدلی تھی۔ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سیکڑ تھا جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا یا فرمایا: قرآن کے اوپر نازل ہوا۔

عن ابی اسحق قال سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ إِفْرَأَى دَابَّةَهُ تَرَكُضُ فَتَنْظُرُ فَإِذَا مِنْهُ الْعَمَامَةُ أَوْ السَّحَابَةُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ أَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں اسید بن خنیر سے بھی روایت ہے۔

۲۶۸۳۔ حضرت ابو برداء کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس نے سورہ کہف کی پہلی تین آیتیں پڑھیں۔ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔

۲۶۸۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

محمد بن بشار، معاذ بن ہشام سے اور وہ اپنے والد سے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۲۱۔ سورہ یٰسین کی فضیلت۔

باب ۱۵۲۱۔ مَا جَاءَ فِي يَسٍ

۲۶۸۴۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یٰسین ہے۔ جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔

۲۶۸۴۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَسَفْيَانُ بْنُ كَيْعٍ نَا لَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ حِيَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسٌ وَمَنْ قَرَأَ يَسَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَائَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حمید بن عبد الرحمن کی روایت سے جانتے ہیں اہل بصرہ اس حدیث کو قتادہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہارون ابو محمد مجہول ہیں۔ ابو موسیٰ ابھی یہ حدیث احمد بن سعید سے وہ قتیبہ سے اور وہ حمید بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں اس باب میں ابو بکر سے بھی روایت ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

باب ۱۵۲۲۔ سورہ دخان کی فضیلت۔

باب ۱۵۲۲۔ مَا جَاءَ فِي حَمِّ الدُّخَانِ

۲۶۸۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سورہ دخان رات کو پڑھی وہ اس حالت میں صبح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت مانگ رہے ہوں گے۔

۲۶۸۵۔ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ كَيْعٍ نَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ عمر بن خطابؓ ضعیف ہیں۔ امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔

۲۶۸۶۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي نازيد بن حباب عن هشام ابى المقدم عن الحسن بن أبى هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمْدَ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ،

۲۶۸۷۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب نا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن ابيه عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِوَاءَةً عَلَى قَبْرِ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا قَبْرُ الْإِنْسَانِ يُقْرَأُ سُورَةُ الْمَلِكِ حَتَّى خْتَمَهَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ضَرَبْتُ جِوَاءِي عَلَى قَبْرِ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يُقْرَأُ سُورَةُ الْمَلِكِ حَتَّى خْتَمَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ هشام ابو مقدم ضعیف ہیں۔ ان کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں۔ ایوب

یونس بن عبید اور علی بن زید تینوں یہی کہتے ہیں۔

باب ۱۵۲۳۔ سورہ ملک کی فضیلت۔

باب ۱۶۲۳۔ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْمَلِكِ

۲۶۸۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ لیکن وہ قبر تھی جس میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسے مکمل کیا۔ وہ شخص آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ سنایا تو آپؐ نے فرمایا: یہ عذاب قبر کو روکنے اور اس سے نجات دلانے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو اس سے بچاتی ہے۔

۲۶۸۸۔ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفرنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبى هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ تَلَاوُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

۲۶۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرتؐ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن میں تیس آیتوں والی ایک سورت ہے جس نے ایک شخص کی شفاعت کی اور اسے بخش دیا گیا۔ وہ سورہ ملک ہے۔

۲۶۸۹۔ حدثنا هریم بن مسعرا الفضيل بن عياض عن ابيث عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آيَةَ التَّنْزِيلِ وَتَبَارَكَ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۶۸۹۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ سورہ الم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔

۲۶۸۹۔ حدثنا هریم بن مسعرا الفضيل بن عياض عن ابيث عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آيَةَ التَّنْزِيلِ وَتَبَارَكَ

الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ

اس حدیث کو راوی ایث بن ابی سلیم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بھی ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ زہیر نے ابو زبیر سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث جابر سے سنی ہے تو فرمایا: مجھے یہ صفوان یا ابن صفوان نے سنائی ہے۔ گویا کہ انہوں نے اسے روایت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں روایت کی ہناد بھی ابو احوص سے وہ ایث سے وہ ابو زبیر سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں پھر ہریم بن مسعر بھی فضیل سے وہ ایث سے اور وہ طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورۃ المجدہ اور سورۃ ملک قرآن کی ہر سورۃ سے متر درجے فضیلت رکھتی ہیں۔

باب ۱۵۲۴۔ مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزِلَتْ۔

۲۶۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرِثِيِّ الْبَصْرِيُّ نَا الْحَسَنَ بْنَ سَلْمِ بْنِ صَالِحِ الْعَجَلِيِّ نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عَدِلْتُ لَهُ؛ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَدِلْتُ لَهُ؛ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَدِلْتُ لَهُ؛ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ

۲۶۹۰۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۃ زلزلا پڑھی اس کے لئے آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جس نے سورۃ کافرون پڑھی اس کے لئے چوتھائی قرآن کا اور جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لئے تہائی قرآن کا ثواب ہے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حسن بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

۲۶۹۱۔ حَدَّثَنَا عَقِبَةُ بْنُ مَكْرَمِ الْعَمِيِّ الْبَصْرِيُّ ثَنِي ابْنِ أَبِي فَدْيِكِ اخْبَرَنِي سَلْمَةُ ابْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا قَلَانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي مَا أَنْزَوْجُ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ بَلَى قَالَ ثَلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ بَلَى قَالَ رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ تَزَوَّجُ تَزَوَّجُ

۲۶۹۱۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے اپنے کسی صحابی سے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کیا: اللہ کی قسم نہیں کی یا رسول اللہ! اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے شادی کروں آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں سورۃ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ تہائی قرآن ہوا۔ پھر پوچھا سورۃ کافرون؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر پوچھا: سورۃ کافرون؟ عرض کیا: یہ بھی یاد ہے۔ فرمایا: یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر پوچھا: کیا سورۃ زلزلا بھی یاد ہے؟ عرض کیا: جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی چوتھائی قرآن ہے پھر فرمایا: تم نکاح کرو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف یمان بن مغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۵۲۵۔ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِحْلَاصِ وَفِي سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ

۲۶۹۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ نَا يَزِيدُ بْنُ

۲۶۹۲۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورۃ

زلزال نصف قرآن کے برابر۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

ہارون نا یمان بن المغیرہ العنزی نا عطاءً عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ أحد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکفرون تعدل ربع القرآن

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف یمان بن مغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۵۶۲۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔

باب ۱۵۲۶۔ ماجاء فی سورۃ الاخلاص

۲۶۹۳۔ حضرت ابویوبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے بھی عاجز ہے کیونکہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی۔ گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھا۔

۲۶۹۳۔ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مہدی نا زائدہ عن منصور عن ہلال بن یساف عن ربیع بن حیثم عن عمرو بن میمون عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن امراء ابی ایوب عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعجز احدکم ان یقرأ فی لیلة ثلث القرآن من قرأ اللہ الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن

اس باب میں ابودرداء، ابوسعید، قتادہ بن نعمان، ابو ہریرہ، انس، ابن عمر اور ابو مسعود سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے ہمیں علم نہیں کہ اسے کسی نے زائدہ سے بہتر بیان کیا ہو۔ اسرائیل اور فیاض بھی ان کی متابعت کرتے ہیں۔ پھر شعبہ اور کئی ثقہ راوی اسے منصور سے نقل کرتے ہوئے اضطراب کرتے ہیں۔

۲۶۹۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ ﷺ نے کسی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا آپ ﷺ نے فرمایا: واجب ہوگی۔ میں نے پوچھا: کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت۔

۲۶۹۴۔ حدثنا ابو کریب نا اسحاق بن سلیمان عن مالک بن انس عن عبید اللہ بن عبدالرحمن عن ابی حنین مولی لال زید بن الخطاب عن ابی ہریرہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلاً یقرأ قل هو اللہ أحد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الحنة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف مالک بن انس کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور ابو حنین: عبد بن حنین ہیں۔

۲۶۹۵۔ حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جس شخص نے روزانہ دو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہاں البتہ اگر اس پر قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی سند سے منقول ہے کہ فرمایا: جس شخص نے سونے کا ارادہ کیا اور پھر اپنی دائیں کروٹ لینا۔ پھر سومرتبہ سورہ اخلاص پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے

۲۶۹۵۔ حدثنا محمد بن مرزوق البصری نا حاتم بن میمون ابوسہل عن ثابت البنانی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ کل یوم مائتین مرۃ قل هو اللہ أحد محی عنه ذنوب خمسین سنۃ إلا ان یشکون علیہ ذنوب وبہذا الإسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اراد ان ینام

عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
مِائَةً فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَا عَبْدِي أُدْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ

یہ حدیث ثابت کی روایت سے غریب ہے وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں پھر یہ اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔

۲۶۹۶- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمع ہو جاؤ میں تم لوگوں کے سامنے تمہاری قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے جمع ہو گئے پھر رسول اللہ ﷺ نکلے اور سورہ اخلاص پڑھی پھر واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آنحضرت ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ تمہاری قرآن پڑھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے اندر گئے ہیں۔ پھر رسول اکرم ﷺ دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری قرآن پڑھوں گا۔ جان لو کہ یہ تمہاری قرآن کے برابر ہے۔

۲۶۹۶- حدثنا محمد بن بشار نا يحيى سعيد نا يزيد بن كيسان ثنى أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشدوا فإني سأقرأ عليكم تلك القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم تلك القرآن إني لأرى هذا خبر جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم تلك القرآن آلا وإنها تعدل بثلاث القرآن

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور ابو حازم اشجعی کا نام سلیمان ہے۔

۲۶۹۷- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورہ اخلاص تمہاری قرآن کے برابر ہے۔

۲۶۹۷- حدثنا العباس بن محمد الدوري نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال ثنى سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۹۸- حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ انصاری شخص مسجد قباء میں ہم لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کیا آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں جو دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں۔ یا تو آپ یہ سورت پڑھ لیا کریں یا پھر کوئی اور سورت۔ انہوں نے فرمایا: میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو

۲۶۹۸- حدثنا محمد بن اسمعيل نا اسمعيل ابي اويس ثنى عبدالعزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا فكان كل ما فتتح سورة يقرأ لهم في الصلوة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى ذلك في كل ركعة فكلّمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى إنها تجزئك حتى

کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے لہذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اس شخص سے پوچھا: اے فلاں تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں اس سورت کی محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔

تَقْرَأُ بِسُورَةِ أُخْرَىٰ فَمَا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأُ بِسُورَةِ أُخْرَىٰ قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرَهُوا أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوهُ الْخَبِرَ فَقَالَ يَا قَلَانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یعنی عبد اللہ بن عمر کی ثابت بنانی سے روایت سے۔ مبارک بن فضالہ بھی اسے ثابت بنانی سے اور وہ انسؓ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں یعنی سورہ اخلاص۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔

باب ۱۵۲۷۔ معوذتین کی فضیلت۔

۲۶۹۹۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل کی ہیں کہ کسی نے ان کے مثل آیات نہیں دیکھیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔

باب ۱۵۲۷۔ مَا جَاءَ فِي الْمَعْوَذَتَيْنِ۔

۲۶۹۹۔ حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ نَاحِيحِي بِنِ سَعِيدِ نَاسْمَعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ أَحْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يَرِ مِثْلَهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۰۰۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔

۲۷۰۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمَعْوَذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

باب ۱۵۲۸۔ قاری کی فضیلت۔

۲۷۰۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے وہ شخص ایسے لکھنے

باب ۱۵۲۸۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِي الْقُرْآنِ

۲۷۰۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَاسْمَعِيلِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الطَّيَالِسِيِّ نَاشِعَةَ وَهْشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى

نہیں ہو سکتے۔ یہ بار بار دوہرانے اور پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسے سن کر جن بھی کہہ دیکھے کہ ”ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔“ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے صراطِ مستقیم پر چلا دیا گیا۔ اے اعمار اس حدیث کو یاد کر لو۔

وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْعُبُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّيِّ وَلَا تَنْفَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجَنُّ إِذَا سَمِعْتَهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَى إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذَهَا إِلَيْكَ يَا عَوْرُ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حمزہ زیات کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور اس کی سند مجہول ہے۔ نیز حارث کی روایت میں مقال ہے۔

باب ۱۵۳۰۔ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

باب ۱۵۳۰۔ قرآن کی تعلیم کی فضیلت۔

۲۷۰۴۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا ابو داؤد انبانا شعبۂ اخبرنی علقمہ بن مرثد قال سمعت سعد بن عیبہ یحدث عن ابی عبد الرحمن عن عثمان بن عفان ان رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھایا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی۔

۲۷۰۴۔ حَدِيثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عَيْبَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَلِكَ الَّذِي أَقَعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۰۵۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین یا فرمایا افضل ترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا پھر اور لوگوں کو بھی قرآن سکھایا۔

۲۷۰۵۔ حَدِيثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا سَفِيانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی اور کئی راوی اسے سفیان ثوری سے وہ علقمہ بن مرثد سے وہ ابو عبد الرحمن سے وہ عثمان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان بھی یہ حدیث سفیان سے وہ شعبہ سے وہ علقمہ بن مرثد سے وہ سعد بن عبیدہ سے وہ ابو عبد الرحمن سے وہ عثمان سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے بھی اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ وہ سفیان اور شعبہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ وہ علقمہ بن مرثد سے وہ سعد بن عبیدہ سے وہ ابو عبد الرحمن سے وہ عثمان سے اور وہ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ سفیان کے ساتھی اس حدیث کی سند میں سفیان کے سعد بن عبیدہ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں سفیان نے سعد بن عبیدہ کو زیادہ ذکر کیا ہے اور ان کی حدیث اشبہ ہے۔ علی بن عبد اللہ، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ثقاہت میں کوئی شعبہ

کے برابر نہیں اور جب شعبہ کی سفیان مخالفت کرتے ہیں تو میں ان کا قول لے لیتا ہوں۔ ابوعمار و بیع سے شعبہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فرمایا: سفیان مجھ سے زیادہ حافظ ہیں۔ میں نے ان سے حدیث سننے کے بعد کئی مرتبہ اس شخص سے پوچھی جس سے وہ روایت کرتے ہیں تو ویسے ہی پایا جیسے سفیان نے روایت کیا تھا۔ اس باب میں علی اور سعد سے بھی روایت ہے۔

۲۷۰۶۔ حدثنا قتيبة نا عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه

۲۷۰۶۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

اس حدیث کو ہم علی بن ابی طالبؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۵۳۱۔ قرآن میں سے ایک حرف پڑھنے کا اجر۔

۲۷۰۷۔ حدثنا محمد بن بشارنا ابوبكر الحنفى ناالضحاك بن عثمان عن ايوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من القرآن مله من الاجر حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الهم حرف ولكن الف حرف ولا م حرف وميم حرف

۲۷۰۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ”الم“ حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ محمد بن کعب قرظی حیات نبی (ﷺ) میں پیدا ہوئے۔ یہ حدیث اس کے علاوہ اور سند سے بھی ابن مسعودؓ سے منقول ہے۔ ابواحوص اسے عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے مرفوع اور بعض موقوف روایت کرتے ہیں۔ محمد بن کعب قرظی کی کنیت ابومزہر ہے۔

۲۷۰۸۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي نا عبدالصمد بن عبدالوارث نا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يارب حبله فيلبس ثم يقول يارب ارض عنه فقبضت عنه فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة

۲۷۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا اور قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا۔ یا اللہ اسے جوڑا پہنا پھر اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ (قرآن) عرض کرے گا: یا اللہ اسے زیادہ دیجئے چنانچہ اسے کرامت کا جوڑا بھی پہنادیا جائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا: یا اللہ اس سے راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور سیرھیاں (درجات) چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔

یہ حدیث حسن ہے۔ محمد بن بشار اسے محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ عاصم بن بہدل سے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی

کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ غیر مرفوع ہے اور زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۵۳۲۔

باب ۱۵۳۲۔

۲۷۰۹۔ حدثنا احمد بن منيع بن منيع نا ابو نصر نا بكر بن حنيس عن ليث بن ابى سليم عن ديد بن اوطاة عن ابى امامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لعبد في شئيه افضل من ركعتين يصليهما وان البر ليدبر على رأس العبد مادام في صلوته وما تقرب العباد الى الله عز وجل بمثل ما خرج منه قال ابو النضر يعنى القرآن

۲۷۰۹۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی چیز کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنا کہ اس کی (قرأت والی) دو رکعتوں کو سنتے ہیں اور جتنی دیر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ نیکی اس کے سر پر چھڑکی جاتی ہے نیز بندوں میں سے کوئی کسی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کے پاس سے نکلی ہوئی چیز سے۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بکر بن حنیس پر ابن مبارک اعتراض کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے آخر میں ان سے نقل کرنا چھوڑ دیا تھا۔

۲۷۱۰۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں وہ دیران گھر کی مانند ہے۔

۲۷۱۰۔ حدثنا احمد بن منيع نا جرير عن قابوس بن ابى ظبيان عن ابيه عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في حوفه شئ من القرآن كالبيت الحرب

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۱۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صاحب قرآن (حافظ) سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور منزلیں چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تمہاری منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔

۲۷۱۱۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود الحفري وابو نعيم عن سفيان عن عاصم بن ابى النجود عن زرر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعنى لصاحب القرآن اقرأ واراق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأ بها

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے اور وہ عاصم سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۳۳۔

باب ۱۵۳۳۔

۲۷۱۲۔ حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي نا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على اجور

۲۷۱۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے مسجد سے تنکا بھی نکالا تھا تو وہ بھی۔ پھر مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کئے گئے۔ چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کسی

أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرُدَّنَا أَعْظَمَ مِنْ
سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ يَتَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا

نے قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورۃ یاد کرنے کے بعد بھلا دی ہو۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری بھی اسے غریب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب بن عبد اللہ بن حطب کے کسی صحابی سے سماع کے متعلق نہیں جانتا۔ ہاں ان ہی کا ایک قول ہے کہ میں نے یہ حدیث ایسے شخص سے روایت کی ہے جو خود آنحضرت ﷺ کے خطبے میں موجود تھا۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کسی صحابی سے سماع کا علم نہیں۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی مطلب کے انس سے سماع کا انکار کرتے ہیں۔

باب ۱۵۳۳۔

باب ۱۵۳۴۔

۲۷۱۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا
سفين عن الاعمش عن خيشمة عن الحسن عن
عمران بن حصين انه مر على قاري يقرأ ثم سأل
فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من قرأ القرآن فليسال الله به فانه
سيجي اقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس
وقال محمود هذا خيشمة البصري الذي روى عنه
جابر الجعفي وليس هو خيشمة بن عبد الرحمن

۲۷۱۳۔ حضرت عمران بن حصین سے منقول ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے کچھ مانگا (بھیک مانگی) تو عمران نے ”انا لله وانا اليه راجعون“ پڑھا اور ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہئے کہ اللہ سے سوال کرے اس لئے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ محمود کہتے ہیں کہ خشیمة بصری جن سے جابر جعفی روایت کرتے ہیں وہ خشیمة بن عبد الرحمن نہیں۔

یہ حدیث حسن ہے اور خشیمة بصری کی کنیت ابو نصر ہے۔ انہوں نے انس بن مالک سے کئی احادیث روایت کی ہیں اور ان سے جابر جعفی روایت کرتے ہیں۔

۲۷۱۴۔ حدثنا محمد بن اسمعيل الواسطي نا
وكيع نا ابو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن
صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه

۲۷۱۴۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا وہ اس پر ایمان نہیں لایا۔

محمد بن یزید بن سنان یہ حدیث اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے اس کی سند اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجاہد، سعید بن مسیب سے اور وہ صہیب سے نقل کرتے ہیں۔ ان کی روایت کا کوئی متابع نہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ ابو مبارک بھی مجہول ہیں لہذا اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ وکیع کے نقل کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زید بن سنان رہادی کی حدیث میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن ان کے بیٹے ان سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔

۲۷۱۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن

۲۷۱۵۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلان کر کے صدقہ کرنے والے کی طرح

کثیر بن مِرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

اور آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن آہستہ پڑھنا زور سے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لئے کہ چھپا کر صدقہ دینا اعلان کر کے دینے سے افضل ہے اس لئے کہ چھپا کر صدقہ دینے میں آدمی لوگوں کے تعجب سے محفوظ رہتا ہے۔

باب ۱۵۳۵۔

۲۷۱۶۔ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ

۲۷۱۶۔ حضرت ابولبابہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا آنحضرت: سورہ اسراء اور سورہ زمر پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابولبابہ بصری ہیں ان سے حماد بن زید کی احادیث نقل کرتے ہیں ان کا نام مروان ہے۔ یہ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں نقل کیا ہے۔

۲۷۱۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَلَالٍ عَنْ عُرْبَابِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ

۲۷۱۷۔ حضرت عرباض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ سونے سے پہلے وہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جو سج یا تسبیح سے شروع ہوتی ہیں نیز فرماتے ہیں کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیتوں سے افضل ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۵۳۶۔

۲۷۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ ابُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ ثَنِي نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ جِئِنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَحْرَ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَسِّيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا جِئِنَ يُمَسِّيَ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

۲۷۱۸۔ حضرت معقل بن یسارؓ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت ”اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم“ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ شکر کی آخری تین آیتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لئے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس دن مرجائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے نیز اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو اسے بھی یہی مرتبہ عطا کیا جائے گا۔

باب ۱۵۳۶۔

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۵۳۷۔ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۷۱۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يُعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَوْتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَوْتُهُ، وَكَانَ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ تَنَعْتُ قِرَاءَةَ تَهْ، فَإِذَا هِيَ تَنَعْتُ قِرَاءَةً مَفْسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

۲۷۱۹۔ یعلیٰ بن مملک کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہؓ سے آنحضرت ﷺ کی نماز میں قرأت اور آپ ﷺ کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: تمہاری آپ ﷺ کی نماز سے کیا نسبت؟ آپ ﷺ کی عادت تھی کہ جتنی دیر (رات کو) سوتے اتنی دیر اٹھ کر نماز پڑھتے پھر جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر سو جاتے یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو جاتی۔ پھر حضرت ام سلمہؓ نے آپ ﷺ کی قرأت کی کیفیت بیان کی کہ آپ پڑھتے تو ہر حرف جدا جدا ہوتا۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف لیث بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں وہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں وہ یعلیٰ سے اور وہ ام سلمہؓ سے۔ پھر ابن جریج بھی یہ حدیث ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کی قرأت میں ہر حرف الگ الگ معلوم ہوتا تھا اور لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

۲۷۲۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ معاوية بن صالح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ يُؤْتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ مِنَ الْخَيْرِ فَقَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنَ الْخَيْرِ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سِعَةً فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَتُهُ، أَكَانَ يُسْرُ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسْرَ وَرُبَّمَا جَهَرَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سِعَةً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ قَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سِعَةً

۲۷۲۰۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کے وتر کے متعلق پوچھا کہ کس وقت پڑھا کرتے تھے۔ شروع رات میں یا آخر میں۔ انہوں نے فرمایا: دونوں وقتوں میں پڑھا کرتے تھے کبھی رات کے شروع میں اور کبھی آخر میں۔ میں نے کہا: الحمد للہ..... یعنی تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ ﷺ کی قرأت کی کیفیت کیا ہوتی تھی یعنی زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ یعنی دل میں انہوں نے فرمایا: دونوں طرح پڑھتے تھے کبھی زور سے پڑھتے اور کبھی دل ہی میں۔ میں نے کہا: تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اور حالت جنابت میں ہوتے تو کیا سونا سے پہلے غسل کرتے یا غسل اٹھ کر کرتے؟ انہوں نے فرمایا: دونوں طرز سے کیا کرتے تھے کبھی غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو کر کے ہی سو جانا میں نے کہا: الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں وسعت رکھی ہے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۲۷۲۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

۲۷۲۱۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ خود کو عرفات

میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے چلے تاکہ میں انہیں اپنے رب کا کلام سناؤں اس لئے کہ قریش نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔

كثيرا نا اسرائيل انا عثمان بن المغيرة عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض نفسه بالموقف فقال الا رجل يحملني الى قومه فان قریشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۵۳۸-

۲۷۲۲- حضرت ابوسعید رسول اکرم ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: جسے قرآن نے میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا۔ ۱ میں اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور اللہ کے کلام کی دوسرے تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح خود اللہ کی اس کی تمام مخلوقات پر۔

باب ۱۵۳۸- ۲۷۲۲- حدثنا محمد بن اسمعيل نا شهاب بن عباد العبدي نا محمد بن الحسن بن ابی یزید الهمدانی عن عمر بن قيس عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من سغله القرآن عن ذكرى ومسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرأت کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

منقول احادیث کے ابواب

۲۷۲۳- حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ قرآن پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقف کرتے تھے یعنی اس طرح پڑھتے الحمد لله رب العالمین پھر رکتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر رکتے اور پھر پڑھتے، مالک یوم الدین (اور پھر رکتے).....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَبْوَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۷۲۳- حدثنا علي بن حجرنا يحيى بن سعيد الاموى عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين

۱ یعنی وہ صرف قرآن ہی پڑھنے میں مشغول ہے جس کی وجہ سے اسے کسی اور وظیفہ کی فرصت ہی نہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا افضل ترین وظیفہ ہے واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث غریب ہے ابو عبیدہ بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے اور یہی قرأت پڑھتے تھے یعنی ”مالک یوم الدین“ کی جگہ ”ملک یوم الدین“ نہیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن سعید اور کئی راوی بھی ابن جریج سے وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی سند سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس کی سند متصل نہیں۔ اس لئے کہ لیث بن سعد ابن ابی ملیکہ سے وہ یعلیٰ بن مملک سے اور وہ ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہا ہوں نے آنحضرت ﷺ کی قرأت کی کیفیت بیان کی کہ ہر حرف الگ الگ ہوتا تھا۔ لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ ﷺ ”مالک یوم الدین“ پڑھتے تھے۔

۲۷۲۴۔ حدثنا ابو بکر بن محمد بن ابان نا ایوب بن سوید الرملی عن یزید بن یزید عن الزهری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابابکر و عمر و اراه قال و عثمان كانوا یقرءون ملک یوم الدین

۲۷۲۳۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ، ابوبکرؓ، عمرؓ (اور میرا خیال ہے کہ انسؓ نے) عثمانؓ (کا نام بھی لیا) یہ سب حضرات ”مالک یوم الدین“ پڑھا کرتے تھے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے زہری کی انسؓ سے روایت سے صرف شیخ ایوب بن سوید رملی کی روایت سے جانتے ہیں۔ زہری کے بعض ساتھی یہ حدیث زہری سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ، ابوبکرؓ اور عمرؓ سب ”مالک یوم الدین“ پڑھتے تھے۔ عبدالرزاق بھی عمرؓ سے وہ زہری سے اور وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ، ابوبکرؓ اور عمرؓ ”مالک یوم الدین“ پڑھتے تھے۔

۲۷۲۵۔ حدثنا ابو کریب نا ابن المبارک عن یونس بن یزید عن ابی علی بن یزید عن الزهری عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ان النفس بالنفس والعین بالعين قال سوید بن نصر انا ابن المبارک عن یونس بن یزید بهذا الإسناد نحوه

۲۷۲۵۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھی۔ ”ان النفس بالنفس و العین بالعين“ سوید بن نصر بھی ابن مبارک سے اور وہ یونس بن یزید سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں: سوید بن نصر، ابن مبارک سے وہ یونس بن یزید سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ اور ابوعلی بن یزید یزید بن یونس کے بھائی ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن مبارک اس حدیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ ابو عبیدہ نے بھی اس حدیث کی اتباع میں یہ آیت اسی طرح پڑھی ہے۔

۲۷۲۶۔ حدثنا ابو کریب نا رشد بن سعد عن عبدالرحمن بن زیاد بن النعم عن عتبة بن حمید عن عبادة بن نسی عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هل یستطیع ربک

۲۷۲۶۔ حضرت معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پڑھا ”هل تستطیع ربک“ یعنی کیا تم اپنے رب سے مانگنے کی طاقت رکھتے ہو۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف رشد بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ پھر عبدالرحمن بن زیاد افریقی بھی ضعیف ہیں۔ لہذا اس کی سند ضعیف ہے۔

۲۷۲۷۔ حدثنا حسین بن محمد البصری نا عبد اللہ بن حفص نا ثابت البنانی عن شهر بن

۲۷۲۷۔ حضرت ام سلمہ عمرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ پڑھا کرتے تھے ”انہ عمل غیر صالح“ یعنی اس نے غیر صالح عمل کیا۔

حَوْشِبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقْرَأُهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ

اس حدیث کو کئی راوی ثابت بنانی سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ شہر بن حوشب بھی اسے اسماء بنت یزید سے روایت کرتے ہیں۔ عبد بن حمید کہتے ہیں کہ یہی ام سلمہ انصاریہ ہیں اور میرے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ شہر بن حوشب نے کئی حدیثیں ام سلمہ انصاریہ سے نقل کی ہیں وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتی ہیں۔

۲۷۲۸۔ حدثنا ابو بكر بن نافع البصري نا امية بن خالد نا ابوالجارية العبدی عن شعبة عن ابی اسحق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابی بن كعب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا مُثْقَلَةً

۲۷۲۸۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ”قد بلغت من لدنی عذرا“ میں ذال پر پیش پڑھا۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امیہ بن خالد ثقہ اور ابو جاریہ عبدی مجہول ہیں۔

۲۷۲۹۔ حدثنا يحيى بن موسى نا معلى بن منصور عن محمد بن دينار عن سعد بن اوس عن مصدع ابی يحيى عن ابن عباس عن ابی بن كعب ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي عَيْنِ حَمْنَةَ

۲۷۲۹۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھی۔ ”فی عین حمنا“

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور صحیح وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے چنانچہ ابن عباس اور عمرو بن عاص کے درمیان اس حدیث کی قرأت میں اختلاف ہے۔ اور وہ اس اختلاف کو کعب احبار کے سامنے پیش کیا۔ لہذا اگر اس بارے میں کوئی حدیث ہوتی تو وہ کافی ہوتی۔

۲۷۳۰۔ حدثنا نصر بن علی الجهضمی نا المعتمر بن سليمان عن ابیه عن سليمان الاعمش عن عطية عن ابی سعید قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فاعجب ذلك المؤمنين فنزلت الم غلبت الروم الى قوله يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس

۲۷۳۰۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر (خبر ملی کہ) اہل روم فارس والوں پر غالب ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت پسند آئی چنانچہ ”الم غلبت الروم“ سے ”یفرح المؤمنون“ تک آیات نازل ہوئیں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ”غلبت“ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اہل روم مغلوب ہو گئے تھے پھر غالب ہوئے۔ لہذا غلبت میں ان کے غالب ہونے کی خبر بیان کی گئی ہے۔ نصر بن علی نے بھی اسی طرح پڑھا ہے۔

۲۷۳۱۔ حدثنا محمد بن حميد الرازی نا نعيم بن ميسرة النحوی عن نفيل بن مرزوق عن عطية العوفی عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صَلَّى اللَّهُ

۲۷۳۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے پڑھا۔ ”خلفكم من ضعف“ تو فرمایا ”من ضعف“ پڑھو۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ فَقَالَ مِنْ ضَعْفٍ

عبد بن حمید بھی یزید بن ہارون سے اور وہ فضیل بن مرزوق سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۷۳۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے۔ فِهِلْ مِنْ مَدَكِرٍ۔ یعنی دال کے ساتھ۔

۲۷۳۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد الزبيرى ناسفين عن ابى اسحق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مذكر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۳۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پڑھا ”فروح وريحان وجنة نعيم“ یعنی راء پر پیش۔

۲۷۳۳۔ حدثنا بشر بن هلال الصواف البصرى نا جعفر بن سليمان الضبعى عن هارون الاعور عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ہارون اعور کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۷۳۴۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں ہم شام گئے تو ابو درداء ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی عبداللہ بن مسعود کی قرأت سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: تم نے عبداللہ کو یہ آیت کس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے ”والليل اذا يغشى“ میں نے عرض کیا وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے ”والليل اذا يغشى والذكر والانثى“ ابو درداء نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے آنحضرت ﷺ کو بھی اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ”وما خلق الذکر والانثى“ پڑھوں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔

۲۷۳۴۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء فقال افيكم احد يقرأ على قراءة عبد الله فاشاروا الى فقلت نعم قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل اذا يغشى قال قلت سمعتها يقرأ والليل اذا يغشى والذكر والانثى فقال ابو الدرداء وانا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها وهولاء يريدونى ان اقرأها وما خلق فلا اتابعهم

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عبداللہ بن مسعود کی قرأت اسی طرح ہے ”والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى“

۲۷۳۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھائی ”انى انا الرزاق ذو القوة المتين“

۲۷۳۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبيد الله عن اسرائيل عن ابى اسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا الرزاق ذو القوة المتين

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۳۶۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھی ”وترى الناس سكارى وما هم بسكارى“

۲۷۳۶۔ حدثنا ابو زرعة والفضل بن ابى طالب وغير واحد قالوا انا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

یہ حدیث حسن صحیح ہے حکم بن بشر بن عبد الملک قتادہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ ہمیں قتادہ کے ابو طفیلؓ اور انسؓ کے علاوہ کسی صحابی سے سماع کا علم نہیں اور یہ روایت مختصر ہے اس کی صحیح سند اس طرح ہے کہ قتادہ، حسن سے اور وہ عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”یا ایہا الناس اتقوا ربکم“ الآیۃ۔ میرے خیال میں یہ حدیث اس حدیث سے مختصر ہے۔

۲۷۳۷۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتنا برا ہے وہ شخص ان میں سے کسی کے لئے یا فرمایا تم لوگوں کے لئے جو کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا۔ بلکہ اسے تو بھلا دیا گیا۔ لہذا قرآن کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قرآن لوگوں کے دلوں سے اس سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے جس طرح چوپایا اپنی باندھنے کی رسی سے بھاگتا ہے۔

۲۷۳۷۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابو داود انبانا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لاحدہم اولاحدکم ان یقول نسیت آية کیت وکیت بل هو نسی فاستذکروا القرآن فوالذی نفسى بیده لهو اشد تفصیاً من صدور الرجال من النعم من عقله یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۵۳۹۔ قرآن سات قرأتوں پر نازل ہوا۔

۲۷۳۸۔ حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: اے جبرائیل میں ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں جو امی ہے ان میں بوزھے بھی ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی۔ پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی جبرائیل نے کہا: اے محمد (ﷺ) قرآن کو سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔

باب ۱۵۳۹۔ ما جاء ان القرآن انزل على سبعة احرف ۲۷۳۸۔ حدثنا احمد بن منيع نا الحسن بن موسى نا شيبان عن عاصم عن زر بن حبیش عن ابي بن کعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل فقال يا جبرئيل انى بعثت الى امية اميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والحارية والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط قال يا محمد ان القرآن انزل على سبعة احرف

اس باب میں عمرؓ، حذیفہ بن یمانؓ اور ام ایوبؓ سے بھی زواہر روایت ہے۔ ام ایوب، ابو ایوب کی بیوی ہیں۔ نیز سمرہؓ، ابن عباسؓ اور ابو جہم بن حارث بن صمد سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابی بن کعب ہی سے منقول ہے۔

۲۷۳۹۔ مسوز بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں عہد نبوی ﷺ میں ہشام بن حکیم بن حزام کے پاس

۲۷۳۹۔ حدثنا الحسن بن على الخلال وغير واحد قالوا نا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى

سے گزرا تو وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کی قرأت سنی تو وہ ایسی قراءت پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں ان کے نماز پڑھتے ہوئے ہی ان سے لڑ پڑوں لیکن میں نے انتظار کیا کہ سلام پھیر لیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر ان کے گردن پر ڈال دی اور پوچھا کہ تمہیں یہ سورت کس نے پڑھائی؟ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے: رسول اللہ ﷺ نے۔ میں نے کہا: جھوٹ بولتے ہو اللہ کی قسم آپ ﷺ نے مجھے بھی یہ سورت پڑھائی ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے انہیں سورہ فرقان ان قرأت کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائیں اور آپ ﷺ نے مجھے سورہ فرقان بھی پڑھائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو پھر فرمایا: ہشام پڑھو۔ انہوں نے وہی قراءت پڑھی جو پہلے پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ تم پڑھو۔ میں نے پڑھی تو فرمایا: اسی طرح بھی نازل ہوئی ہے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ قرآن سات قرأت میں نازل ہوا ہے لہذا جس میں آسانی ہو اس میں پڑھا کرو۔

عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذت أساوره، في الصلوة فنظرت حتى سلم فلما سلم لبيته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له، كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها فانطلقت أفوذه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وانت أقرأني سورة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ياعمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ياعمر فقرأت التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تيسر منه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس اسے زہری سے اسی سند سے نقل کرتے ہیں لیکن مسور بن مخرمہ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۱۵۴۰

باب ۱۵۴۰

۲۷۴۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے کسی (مسلمان) بھائی سے کوئی دنیاوی مصیبت دور کر دی اللہ تعالیٰ

۲۷۴۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة نا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال

اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیں گے۔ جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسکی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کریں گے، جو کسی تنگ دست کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس وقت تک مدد کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جس نے علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم تلاوت یا آپس میں، ایک دوسرے کو قرآن سنتے سنا تے سیکھتے سکھاتے ہوں اور ان پر اللہ کی مدد نازل نہ ہو اور اس کی رحمت ان کا احاطہ نہ کر لے اور فرشتے انہیں گھیر نہ لیں اور جس نے عمل میں سستی کی اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔

اسے کئی راوی اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اسباط بن محمد نے اعمش سے کہا کہ مجھے ابوصالح کے واسطے سے ابو ہریرہ سے ایک حدیث پہنچی ہے اور پھر اس میں سے تھوڑی سی بیان کی۔

باب ۱۵۴۱۔

باب ۱۵۴۱۔

۲۷۴۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کتنے دنوں میں قرآن ختم کر لیا کروں؟ فرمایا: ایک ماہ میں۔ میں نے عرض کیا میں اس سے کم مدت میں پڑھ سکتا ہوں فرمایا تو پھر بیس دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہوں فرمایا پھر پندرہ دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا اس سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا دس دن میں پڑھ لیا کرو۔ عرض کیا اس سے بھی کم میں پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ فرمایا: پھر پانچ دن میں پڑھ لیا کرو۔ عرض کیا مجھ میں اس سے کم مدت میں بھی پڑھنے کی طاقت ہے لیکن آپ ﷺ نے اس سے کم مدت میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔

۲۷۴۱۔ حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی قال ثنی ابی عن مطرف عن ابی اسحق عن ابی بردة عن عبد اللہ بن عمرو قال قلت یارسول اللہ فی کم اقرأ القرآن قال اخیتمہ فی شہر قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اخیتمہ فی عشرين قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اخیتمہ فی خمسہ عشر قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اخیتمہ فی عشر قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اخیتمہ فی خمس قلت انی اطیق افضل من ذلک قال فما رخص لی

یہ حدیث ابو بردہ کی عبد اللہ بن عمرو سے روایت سے حسن صحیح غریب ہے اور کئی سندوں سے عبد اللہؓ ہی سے منقول ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا وہ اسے نہیں سمجھا۔ نیز یہ بھی انہی سے منقول ہے کہ چالیس دن میں قرآن کریم ختم کیا کرو۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص چالیس دن میں بھی قرآن کو ختم نہ کرے۔ بعض

علماء کہتے ہیں کہ تین دن سے کم میں قرآن نہ پڑھا جائے ان کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عمروؓ ہی کی حدیث ہے۔ لیکن بعض علماء جن میں عثمان بن عفانؓ بھی ہیں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں دو رکعتوں میں قرآن ختم کیا۔ لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا علماء کے نزدیک مستحب ہے۔

۲۷۴۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ قرآن کو چالیس دن میں ختم کیا کرو۔

۲۷۴۲۔ حدثنا ابو بکر بن ابی النصر البغدادی نا علی بن الحسن عن عبد اللہ بن المبارک عن معمر عن سماک بن الفضل عن وهب بن منبہ عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اقرأ القرآن فی اربعین

یہ حدیث حسن غریب ہے بعض حضرات اسے معمر سے وہ سماک سے وہ وہب بن منبہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن عمروؓ کو چالیس روز میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔

۲۷۴۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا: کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے آپ ﷺ نے فرمایا: کہ آدمی قرآن ختم کر کے شروع کرنے والا بن جائے۔

۲۷۴۳۔ حدثنا نصر بن علی الجهضمی نا الہیثم بن الربیع ثنی صالح المری عن قتادة عن زرارة بن ابی اوفی عن ابن عباس قال قال رجل یا رسول اللہ ائی العمل احب الی اللہ قال الحال المر تلح

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے ابن عباسؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، محمد بن بشار، مسلم بن ابراہیم سے وہ صالح مری سے وہ قتادہ سے وہ زرارہ بن اونی سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں اس میں ابن عباسؓ کا ذکر نہیں اور یہ سند میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

۲۷۴۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن کو تین دن سے کم میں پڑا وہ اسے سمجھ نہیں سکا۔

۲۷۴۴۔ حدثنا محمود بن غیلان نا النصر بن شمیث نا شعبه عن قتادة عن یزید بن عبد اللہ بن الشخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

قرآن کی تفسیر کے متعلق آنحضرت ﷺ

سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۵۴۱۔ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے۔

۲۷۴۵۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس

ابواب تفسیر القرآن عن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب ۱۵۴۱۔ ما جاء فی الدی یفسر القرآن برأیه

۲۷۴۵۔ حدثنا محمود بن غیلان نا بشر بن السری

نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔

نا سفیان عن عبدالاعلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۴۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری طرف سے کوئی بات اس وقت تک نہ نقل کرو جب تک اس یقین نہ ہو کہ یہ میرا ہی قول ہے اور جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اور ایسا شخص جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے دونوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں۔

۲۷۴۶۔ حدثنا سفیان بن وكيع نا سويد بن عمرو الكلبي نا ابو عوانة عن عبدالاعلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني الا ما علمتم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
یہ حدیث حسن ہے۔

۲۷۴۷۔ حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور وہ صحیح تھی تب بھی اس نے غلطی کی۔

۲۷۴۷۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا حبان بن هلال نا سهيل بن عبدالله وهو ابن ابی حزم اخو حزم القطعي ثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

یہ حدیث غریب ہے۔ بعض محدثین سہیل بن ابی حزم کو ضعیف کہتے ہیں۔ بعض علماء صحابہ اور بعد کے علماء سے یہی منقول ہے کہ وہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والے کی مذمت کرتے ہیں۔ نیز جو روایات مجاہد اور قتادہ سے منقول ہیں کہ انہوں نے تفسیر کی ان پر یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی اس لئے کہ حسین بن مہدی عبد الرزاق سے وہ معمر سے اور وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کی تفسیر میں نے کوئی نہ کوئی روایت نہ سنی ہو۔ پھر ابن ابی عمر، سفیان سے اور وہ اعش سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا: اگر میں ابن مسعودؓ کی قرأت پڑھتا تو مجھے ابن عباسؓ سے بہت سی ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھتا جو میں نے ان سے پوچھیں۔

باب ۱۵۳۲۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر۔

باب ۱۵۴۲۔ وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

۲۷۴۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے نامکمل ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے ابو ہریرہؓ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا: اے فارسی کے بیٹے دل میں پڑھا کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے سنا کہ

۲۷۴۸۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام قال قلت يا أبا هريرة اني أحيانا

لیا۔ آپ ﷺ پہلے ہی صحابہ سے کہہ چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ آپ ﷺ مجھے لے کر کھڑے ہوئے تو ایک عورت اور بچہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ ﷺ سے کام ہے۔ آپ ﷺ ان سے ہاتھ ہوئے اور ان کا کام کر کے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور آپ گھر لے گئے۔ ایک بچی نے آپ ﷺ کے لئے کچھونا بچھا دیا جس پر آپ بیٹھ گئے اور میں آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی معبود کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرمایا: تم اس لئے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اس سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصاریٰ گمراہ ہیں۔ میں راست باز اور دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ کہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر مجھے حکم دیا اور میں ایک انصاری کے یہاں رہنے لگا اور صبح و شام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ ایک دن میں رات کے وقت آپ ﷺ کے پاس تھا کہ ایک قوم آئی انہوں نے اون کے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور خطبہ دیتے ہوئے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دی اور فرمایا: اگرچہ ایک صاع ہو یا نصف ہو یا مٹھی ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ تم میں ہر ایک (کو چاہئے کہ) اپنے چہرے کو جہنم کی آگ کی گرمی یا اس کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے خواہ وہ ایک کھجور یا آدھی کھجور دے کر رہی ہو۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے چنانچہ وہ تم سے یہی پوچھے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں مال و اولاد نہیں دی؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر کہاں ہے جو تم نے اپنے لئے آگے بھیجا تھا۔ پھر وہ اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھے گا اور اپنے چہرے کو آگ کی گرمی سے بچانے کے لئے کوئی چیز نہیں پائے گا۔ تم لوگوں کو چاہئے کہ ہر شخص اپنے چہرے کو آگ سے بچائے خواہ آدھی

الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا عِدِّيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ فَقَامَ بِي فَلَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَصَبِيٍّ مَعَهَا فَقَالَا إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةَ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا يُفْرِكُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنَ الْإِسْوَى اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا تَفْرُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ قَالَ قُلْتُ فَأَتَيْتِي حِينَيْفَ مُسْلِمٍ قَالَ فَرَأَيْتِ وَجْهَهُ تَبَسُّطُ فَرَحًا ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَنْزَلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتُ أَعْشَاءُ طَرَفِي النَّهَارِ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ قَالَ فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ قَبْضَةً وَلَوْ بِنِصْفِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارَ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَأَبَى اللَّهُ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَلَمْ أَحْجَلْ لَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ آئِنَ مَا قَدَّمْتُ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قَدَامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَتِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ لَمْ يَجِدْهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَأَتَيْتِي لَا أَحَافَ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الطَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَتْرَبِ وَالْحَجِيرَةَ أَكْثَرَ مَا يُخَافُ عَلَى مُطَيَّبَتِهَا السَّرِقَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي فَأَيِّن

لُصُوصٌ طَيِّ

کھجور (اللہ کی راہ میں) خرچ کر کے ہو یا کلمہ خیر کہہ کر۔ اس لئے کہ میں تم لوگوں کے متعلق فاتحے سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ اللہ تمہارا مددگار اور تمہیں دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ... (عقربین ایسا وقت آئے گا کہ) ایک اکیلی عورت مدینہ سے حیرہ تک جائے گی اور اسے اپنی سواری کی چوری کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ ❶ عدی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت قبیلہ بنو طلی کے چور کہاں ہوں گے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف سماک بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی سماک سے وہ عباد بن حمیش سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن ثنی اور محمد بن بشر بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ سماک بن حرب سے وہ عباد بن حمیش سے وہ عدی بن ابی حاتم سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ یہود مغضوب علیہم اور نصاریٰ گمراہ ہیں پھر طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۵۴۳۔ سورہ بقرہ سے۔

باب ۱۵۴۳۔ وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

۲۷۵۱۔ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيد نا ابي عدى ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا ناعوف بن ابي جميلة الاعرابى عن قيسامة بن زهير عن ابي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضة قبضتها من جميع الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب

۲۷۵۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے پوری زمین سے اکٹھا کیا۔ اس لئے اولاد آدم میں سے کوئی سرخ رنگ کا ہے کوئی سفید ہے کوئی کالا ہے اور کوئی ان رنگوں کے درمیان۔ اسی طرح کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی خبیث اور کوئی طیب۔

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۵۲۔ حدثنا عبد بن حميدنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا مترجفين على اوراكهم ابي منحر بن

۲۷۵۲۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”ادخلوا الباب سجدا“ کی تفسیر میں فرمایا: کہ بنو اسرائیل اپنے کولہوں پر گھٹھے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے یعنی انحراف کرتے ہوئے۔

اسی سند سے ”فبدل الدين ظلموا قولاً غير الذين قيل لهم“ ❶ تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا: ”حبة في شعيرة“

۲۷۵۳۔ حضرت عاصم بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات

۲۷۵۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا

❶ یعنی دین اسلام کی بالادستی ہوگی اور اس قدر امن و امان ہوگا کہ وہ اکیلی سفر کرتے ہوئے بھی نہیں گھبرائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم) ❷ یعنی سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ (مترجم) ❸ یعنی ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ (مترجم)

میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم میں سے کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی لہذا جس کا جہر منہ تھا۔ اسی طرف نماز پڑھ لی۔ صبح ہوئی تو ہم نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی ”فاینما تو لوافتم وجہ اللہ“ (یعنی تم جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔)

اشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على جباله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فاینما تولوا فثم وجه الله

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اشعث بن سمان ربیع کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔

۲۷۵۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نفل نماز سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے خواہ اس کا منہ کسی طرف بھی ہوتا۔ اور آپ ﷺ مکہ سے مدینہ کی طرف آرہے تھے پھر ابن عمرؓ نے یہ آیت پڑھی ”وللہ المشرق والمغرب“ اور فرمایا: یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی۔ (ترجمہ: اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے۔)

۲۷۵۴۔ حدثنا عبد بن حميدنا يزيد بن هارون نا عبد الملك بن ابى سليمان قال سمعت سعيد بن جبیر يحدث عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوعاً حيث ماتوجهت به وهو جاء من مكة الى المدينة ثم قرأ بن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب وقال ابن عمر في هذا انزلت هذه الآية

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور قنادہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: یہ آیت ”وللہ المشرق“..... الآية ”فول وجہک شطر المسجد الحرام“ (یعنی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے) سے منسوخ ہے۔ یہ قول محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب، یزید بن زریج سے وہ سعید سے اور وہ قنادہ سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف قبلہ ہے یعنی تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یہ قول ابو کریب، وکیع سے وہ نصر بن عربی سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔

۲۷۵۵۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کاش کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ”واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی“ یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر دو۔

۲۷۵۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا الحجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس إن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله لوصلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی

یہ حدیث حسن ہے۔ احمد بن مہج، ہشیم سے وہ حمید طویل سے اور وہ انسؓ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حسن صحیح ہے اور اس باب میں عمرؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۷۵۶۔ حضرت ابو سعیدؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ”و كذلك جعلناكم امة وسطاً“ کی تفسیر میں فرمایا کہ وسطاً سے مراد ”عدلاً“ یعنی نہ افراط ہے نہ تفریط دونوں کے درمیان۔ (ترجمہ: اور اسی طرح ہم ہے تمہیں امت وسط بنایا۔)

۲۷۵۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية الاعمش عن ابى صالح عن ابى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم امة وسطاً قال عدلاً

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۵۷۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن حضرت نوحؑ کو بلایا اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ﷺ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ اور پوچھا جائے گا کہ کیا نوحؑ نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا یا کوئی اور نہیں آیا۔ پھر نوحؑ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ وہ عرض کریں گے محمد (ﷺ) اور ان کی امت۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے ”و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً“ (اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہوں۔) نیز وسط سے مراد عدل ہے۔

حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشر بھی جعفر بن عون سے اور وہ اعمش سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

۲۷۵۸۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن چاہتے تھے کہ انہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”قد نری تقلب..... الآیة“ (یعنی ہم آپ کا چہرہ (بار بار) آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ ﷺ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ لہذا اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے (مسجد حرام) چنانچہ آپ ﷺ کا رخ اسی قبلے کی طرف کر دیا گیا۔ جسے آپ ﷺ پسند کرتے تھے۔ پھر ایک شخص نے آپ ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد اس کا گزر انصار کی ایک جماعت پر سے ہوا جو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا اس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ ﷺ کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے

۲۷۵۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ نَا حَمِيدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنِ نَا الْاِعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى نُوحٌ فَيَقَالُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيَقَالُ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ مَا آتَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ أَحَدٍ فَيَقَالُ مَنْ شَهِدُوكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ قَالَ فَيُؤْتِي بِكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ

۲۷۵۸۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا وَكَيْعُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَرَى قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَبَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوُجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رَكُوعٌ

① یعنی امت گواہی دے گی اور رسول اللہ ﷺ اس کی توثیق و تصدیق کریں گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

بھی رکوع ہی میں اپنے چہرے قبلہ کی طرف پھیر لئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری اسے ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں۔ ہناد بھی وکیع سے وہ سفیان سے وہ عبد اللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ اس باب میں عمرو بن عوف حرقی، ابن عمر، عمارہ بن اوس اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۵۹۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف چہرے کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس حکم سے پہلے فوت ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”وما كان الله..... الآية“ (یعنی اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔

۲۷۵۹۔ حدثنا هناد وابوعمارة قالنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لَمَّا وَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بَاخَوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ الْآيَةَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۰۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا۔ میں صفامروہ کے درمیان سعی نہ کرنے والے پر اس عمل میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھتا۔ نیز میرے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان سعی نہ کروں۔ انہوں نے فرمایا: بھانجے تم نے کتنی غلط بات کہی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جو سرکش مناة (مشرکین کا معبود جو مشلل میں تھا) کے لئے لبیک کہتا تھا وہ صفا اور مروہ کے مابین سعی نہیں کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”فمن حج البيت“..... الآية (جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ ادا کرے اس پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے پر کوئی گناہ نہیں) اگر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ”فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما“ (یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے) زہری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے سامنے بیان کی تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور فرمایا: اس میں بڑا علم ہے۔ میں نے کچھ علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عرب میں سے جو لوگ صفا اور مروہ کے مابین سعی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے درمیان سعی کرنا امور

۲۷۶۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین قال سمعت الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَلَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِسَمَاعٍ قُلْتُ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمِشَلِّ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَمْرُنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

جاہلیت میں سے ہے۔ اور انصار میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صفا و مروہ کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ان الصفا والمروة من شعائر اللہ“..... (یعنی صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔) ابوبکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیت انہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۱۔ حضرت عاصم احوال کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے صفا و مروہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا: یہ زمانہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھے جب اسلام آیا تو ہم نے ان کا طواف چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ان الصفا والمروة“..... (آیت۔) انس نے فرمایا: ان کے درمیان سعی کرنا نفل عبادت ہے۔

۲۷۶۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ نَازِلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَ هُمَا تَطَوُّعٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ تشریف لے گئے تو بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا پھر یہ آیت پڑھی ”واتخذوا من مقام“..... (آیت اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی پھر آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا پھر فرمایا: ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اور یہ آیت پڑھی ”ان الصفا والمروة من شعائر اللہ“..... (آیت۔)

۲۷۶۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو سَفِينٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَقَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۳۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ صحابہؓ میں سے اگر کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کے وقت بغیر افطار کئے سو جاتا تو آئندہ رات اور دن بھی کچھ نہ کھاتا یہاں تک کہ دوسرے دن افطار کا وقت ہو جاتا۔ قیس بن صرمہ انصاری بھی ایک مرتبہ روزے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا

۲۷۶۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ نَازِلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ اسْرَاقِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْأَفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ

تو بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں لیکن میں جاتی ہوں اور کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے سارا دن کام کیا تھا لہذا نیند غالب آگئی اور وہ سو گئے جب ان کی بیوی آئیں تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں کہنے لگیں ہائے تمہاری محرومی۔ پھر جب دوسرے دن دو پہر کا وقت ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئے چنانچہ اس کا تذکرہ آپ ﷺ سے کیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ”احل لکم..... الآیة“ (تم لوگوں کے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا) اس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وکلوا واشربوا..... الآیة“ یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم لوگوں کے لئے سفید خط سیاہ خط سے تمیز ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۶۴۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ آنحضرت ﷺ نے ”وقال ربکم..... الآیة“ (یعنی تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا) کی تفسیر میں فرمایا: دعا ہی اصل عبادت ہے اور یہ آیت ”داخرین“ تک پڑھی۔

۲۷۶۴۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن زر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب الى قوله داخرين

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۵۔ شععی، عدی بن حاتم سے نقل کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ”حتی یتبین“..... تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے مردرات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی کا ظاہر ہونا ہے۔

۲۷۶۵۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم انا حصين عن الشعبي قال ثنا عدی بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك بياض النهار من سواد الليل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، ہشیم سے وہ مجالد سے وہ شعبہ سے وہ عدی بن حاتم سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۷۶۶۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے روزے کے متعلق پوچھا تو یہ آیت پڑھی۔ ”حتی یتبین لکم الخیط“..... الآیة چنانچہ میں نے درسیاں رکھ لیں ایک سفید اور

۲۷۶۶۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن مجالد عن الشعبي عن عدی بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى

ایک کالی اور رات کے آخر میں انہیں دیکھنے لگا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے کچھ کہا۔ لیکن یہ بات سفیان کو یاد نہیں رہی۔ چنانچہ فرمایا کہ اس سے مراد رات اور دن تھا۔

يَتَبَيَّنْ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ
فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أبيضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ
فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سَفِيَانٌ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ
اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۷۔ حضرت اسلم ابو عمران کبھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لئے روم گئے ہوئے تھے کہ رومیوں کی فوج میں سے ایک بڑی صف مقابلے کے لئے نکلی جن سے مقابلے کے لئے مسلمانوں میں سے بھی اتنی ہی تعداد میں یا اس سے زیادہ آدمی نکلے۔ ان دنوں مصر پر عقبہ بن عامر حاکم تھے اور لشکر کے فضالہ بن عبید امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے روم کی صف پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ ان کے اندر چلا گیا۔ اس پر لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ خود کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ ابویوب انصاری کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! تم لوگ اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہو ۱۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ہم انصار لوگوں کے متعلق نازل ہوئی اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کے مددگاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور اس کی مدد کرنے والے بہت ہیں اور ہمارے اموال (کھیتی باڑی وغیرہ) ضائع ہو گئے ہیں۔ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ”وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....“ الآية۔ (یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو) چنانچہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے اموال اور کھیتی باڑی کی اصلاح میں لگ جائیں اور جنگ و جہاد کو ترک کر دیں راوی کہتے ہیں کہ ابویوب ہمیشہ جہاد ہی میں رہے یہاں تک کہ دفن بھی روم ہی کی سر زمین پر ہوئے۔

۲۷۶۷۔ حدثنا عبد بن حميد نا الضحاك عن
مخلد ابو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد
بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران التميمي قال
كنا بمدينة الروم فاجرحوا إلينا صفا عظيما من
الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر
وعلى أهل مصر عقبه بن عامر وعلى الجماعة
فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على
صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا
سبحان الله يلقى بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب
الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه
الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر
الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثرنا صروره فقال
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه
وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام
وكثرنا صروره فلو قمنا في أموالنا فأصلحنا ماصاع
منها فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله
عليه وسلم يرُدُّ علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركتنا الغزوة
فما زال أبو أيوب شاحصا في سبيل الله حتى دُفن
بأرض الروم

۱۔ اس آیت سے مراد یہ آیت ہے ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ یعنی خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔

یہ حدیث حسن فریب ہے۔

۲۷۶۸۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہؓ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی۔ ”فمن كان منكم..... الآية“ (ترجمہ: یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے، خیرات یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرو۔) کہتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے۔ ہمیں مشرکین نے روک دیا۔ میرے بال کانوں تک لمبے تھے اور جو کچھ میرے منہ پر گرنے لگی تھیں۔ اتنے میں آنحضرت ﷺ میرے پاس سے گزرے اور دیکھا تو فرمایا: لگتا ہے کہ تمہارے سر کی جو کچھ تمہیں خاصی اذیت دے رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں! تو پھر بال منڈوا دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مجاہد کہتے ہیں، روزے تین دن کے، کھانا کھلائے تو چھ مسکینوں کو اور اگر قربانی کرے تو ایک بکری یا اس سے زیادہ۔

۲۷۶۸۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَنَا هَشِيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقِيْتُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا يَأْتِي عَنِّي بِهَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ فَقَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهُوَامُ تَسَاقُطُ عَلَيَّ وَجْهِي فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ هُوَامٌ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلَقْ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ مُجَاهِدٌ الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِدًا۔

علی بن حجر بھی ہشیم سے وہ ابوبشر سے وہ مجاہد سے وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ کعب بن عجرہؓ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے علی بن حجر نے ہشیم سے انہوں نے اشعث بن سوار سے انہوں نے شععی سے انہوں نے عبداللہ بن معقل سے اور انہوں نے کعب بن عجرہؓ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن اصہبانی بھی عبداللہ بن معقل سے روایت کرتے ہیں۔ پھر علی بن حجر، اسماعیل سے وہ ایوب سے وہ مجاہد سے وہ عبدالرحمن سے اور وہ کعب بن عجرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہا تھا اور جو کچھ میری پیشانی پر جھڑ رہی تھیں آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا یہ تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: تو سر کے بال منڈوا دو اور قربانی کر دو یا تین روزے رکھ لو یا پھر چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایوب کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی چیز پہلے فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۶۹۔ حضرت عبدالرحمن بن بیمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حج عرفات میں حاضر ہونے کا نام ہے۔ اور منیٰ کا قیام تین دن تک ہے لیکن اگر کوئی جلدی کرتے ہوئے دو دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور اگر تین دن تک قیام کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نیز جو شخص عرفات میں طلوع فجر سے پہلے پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔

۲۷۶۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِينُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَاتِ الْحَجُّ عَرَفَاتِ الْحَجُّ عَرَفَاتِ أَيَّامٍ مِنِّي ثَلَاثٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

ابن عمر، سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ثوری کی بیان کردہ یہ حدیث بہت عمدہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے شعبہ نے بھی بکیر سے نقل کیا ہے لیکن اس حدیث کو ہم صرف بکیر ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۷۷۰۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: سخت جھگڑا
لو آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں میں زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ①

۲۷۷۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن ابن جریج عن
ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الی اللہ الذ الحصم

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۷۷۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی عورت
ایام حیض میں ہوتی تو وہ لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ میل
جول رکھتے چنانچہ آنحضرت ﷺ سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا
گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ”ویستلونک..... الایة“ (یعنی یہ آپ
سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرمادیجئے) کہ یہ ناپاک ہے
(.....) پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کھایا پیاجائے اور انہیں
گھروں میں اپنے ساتھ رکھا جائے نیز ان کے ساتھ جماع کے علاوہ
سب کچھ کرنا (بوس و کنار وغیرہ) جائز ہے۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ
یہ ہمارے ہر کام کی مخالفت کرتے ہیں چنانچہ عباد بن بشیر اور اسید بن
حضیر آئے اور آپ ﷺ کو یہود کے اس قول کی خبر دینے کے بعد عرض کیا:
کیا ہم حیض کے ایام میں جماع بھی نہ کرنے لگیں تاکہ ان کی مخالفت
پوری ہو جائے۔ یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ کا چہرہ غصے سے متغیر
ہو گیا۔ ② یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ شاید آپ ﷺ ان سے ناراض ہو گئے
ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیئے۔ اسی وقت ان دونوں کے لئے دودھ بطور
ہدیہ آیا تو آپ ﷺ نے انہیں بھیج دیا۔ اور انہوں نے پیا۔ اس طرح
ہمیں علم ہوا کہ آپ ﷺ ان سے ناراض نہیں ہیں۔

۲۷۷۱۔ حدثنا عبد بن حمید ثنی سلیمان بن
حرب ناحماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال
كانت اليهود اذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها
ولم یشاربونها ولم یجامعوها فی البیوت فسئل
النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فانزل اللہ
تبارک وتعالی ویستلونک عن الم حیض قل هو اذی
فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
یؤاكلوهن ویشاربوهن وان یكونوا معهن فی
البیوت وان یفعلوا کل شیء ما خلا النکاح فقالت
اليهود ما یرید ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ
فحاء عباد بن بشیر وأسید بن حضیر الی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآخبراه بذلك وقالوا
یا رسول اللہ افلا ننکحهن فی الم حیض فتمعر
وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انه
قد غضب علیهما فقام فاستقبلتہما ہدیة من لبن
فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اترهما
فسقاہما فاعلمنا انه لم یغضب علیہما

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبدالاعلیٰ اسے عبدالرحمن بن مہدی سے اور وہ حماد بن سلمہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۷۷۲۔ ابن منکدر کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا: یہود کہا کرتے
تھے جو شخص اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے اس طرح صحبت کرے کہ
دخول قبل (آگے ہی) میں ہو تو اس سے بچہ بھیگنا پیدا ہوتا ہے۔ اس

۲۷۷۲۔ حدثنا محمد بن عبدالاعلیٰ نا عبدالرحمن
بن مہدی عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه حدثنا
ابن ابی عمر ناسفین وعن ابن المنکدر سمع جابرا

① امام ترمذی یہ حدیث بیان کر کے اس آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ ”ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا ویشهد اللہ علی مافی قلبہ وهو
الذ الحصم“ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں آپ اس کی بات کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اور وہ سخت جھگڑا لو ہے۔
(مترجم) ② آپ ﷺ کے غصے میں آنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے کفار کی مخالفت کرنا اس طرح درست ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

پر یہ آیت نازل ہوئی ”نساء کم حرث“..... الایة یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو داخل ہو۔ ❶

يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ آتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبْرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَانزَلَتْ نِسَاءُ كُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِي شِئْتُمْ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۷۳۔ حدیثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمان بن مہدی نا سفین عن ابی خثیم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساء كمْ حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم يعنى صماما واحدا

۲۷۷۳۔ حدیثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمان بن مہدی نا سفین عن ابی خثیم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساء كمْ حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم يعنى صماما واحدا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن خثیم کا نام عبداللہ بن عثمان بن خثیم ہے اور ابن سابط: عبدالرحمن بن عبداللہ حنفی کی ہیں اور حفصہ، عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ بعض روایات میں ”فی صمام واحد“ وارد ہوا ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

۲۷۷۴۔ حدیثنا عبد بن حمید نا الحسن بن موسی نا یعقوب بن عبداللہ الاشعری عن جعفر بن ابی المغيرة عن سعيده بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رجلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساء كمْ حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم قبل وأدبر واتى الدبر والحیضة

۲۷۷۴۔ حدیثنا عبد بن حمید نا الحسن بن موسی نا یعقوب بن عبداللہ الاشعری عن جعفر بن ابی المغيرة عن سعيده بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رجلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساء كمْ حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم قبل وأدبر واتى الدبر والحیضة

یہ حدیث غریب ہے۔ یعقوب: عبداللہ اشعری کے بیٹے ہیں اور یہ یعقوب ثقی ہیں۔

۲۷۷۵۔ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت ﷺ میں اپنی بہن کا کسی مسلمان سے نکاح کیا۔ تھوڑا عرصہ وہ ساتھ رہے پھر اس نے اسے ایک طلاق دے دی اور عدت گزار جانے تک رجوع نہیں کیا۔ عدت گزار گئی تو اسے اس کی خواہش ہوئی اور اسے اس کی۔ چنانچہ اس نے بھی دوسرے پیغام بھیجنے والوں کے ساتھ نکاح کا

۲۷۷۵۔ حدیثنا عبد بن حمید نا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن بن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى

❶ کھیتی وہی ہوتی ہے جہاں بیج بونے پر وہ آگ جائے لہذا اس آیت سے دیر میں جماع کرنے پر استدلال کرنا ناممکن ہے۔ واللہ اعلم۔ ❶ یعنی اپنی بیوی سے پچھل جانب سے اگلے حصے میں صحبت کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے سوچا کہ شاید اس میں گناہ ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهِيَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ
الْحُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لِكَيْعٍ أَكْرَمْتِكُ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا
فَطَلَّقْتَهَا وَاللَّهِ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَدًا إِخْرَ مَا عَلَيْكَ قَالَ
فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَيْهَا فَانزَلَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ
إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ
سَمِعَ لِرَبِّي وَطَاعَةٌ ثُمَّ دَعَاَهُ فَقَالَ أَرْوِّجْكَ وَأَكْرِمْكَ

پیغام بھیجا تو میں نے اس سے کہا: کینی میں نے اسے تمہارے نکاح
میں دے کر تمہاری عزت افزائی کی تھی اور تم نے اسے طلاق دے دی۔
اللہ کی قسم وہ کبھی تمہاری طرف رجوع نہیں کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ ان
دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت جانتا تھا۔ چنانچہ یہ آیات نازل
ہوئیں۔ ”وإذا طلقتم النساء..... سرے و انتم لا تعلمون“ تک
(ترجمہ: اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور
ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں اپنے سابقہ شوہروں سے
(دوبارہ) نکاح کرنے سے مت روکو بشرط یہ کہ وہ قاعدے کے مطابق
اور باہم رضامند ہوں۔ اس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے
لئے زیادہ صفائی اور پاک کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم
نہیں جانتے) جب معقل نے یہ آیات سنیں تو فرمایا: اللہ ہی کے لئے
سبح و اطاعت ہے پھر اسے بلایا اور فرمایا: میں اسے تمہارے نکاح میں
دے کر تمہارا اکرام کرتا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حسن سے منقول ہے۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بغیر ولی کے نکاح
جائز نہیں۔ اس لئے کہ معقل کی بہن مطلقہ تھیں چنانچہ اگر انہیں نکاح کا اختیار ہوتا تو وہ اپنا نکاح خود کر لیتیں اور معقل کی محتاج نہ ہوتیں۔
اس آیت میں خطاب بھی اولیاء ہی کے لئے ہے کہ انہیں نکاح سے مت روکو۔ لہذا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کا اختیار
عورتوں کی رضامندی کے ساتھ ان کے اولیاء کو ہے۔ ①

۲۷۷۶۔ حدثنا قتيبة نا مالك بن انس حدثنا
الانصاري نا معن نا مالك عن زيد بن اسلم عن
القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ
أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا
بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ
وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اذْنَتُهَا فَأَمَلْتُ عَلَيَّ
حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَصَلَاةِ
الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۷۷۶۔ حضرت عائشہ کے مولیٰ ابویونس کہتے ہیں کہ عائشہ نے مجھے حکم
دیا کہ ان کے لئے ایک مصحف (قرآن کریم کا نسخہ) لکھوں اور جب اس
آیت حافظوا علی الصلوات..... الایة پر پہنچوں تو انہیں بتاؤں
چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہیں بتایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ
آیت اس طرح لکھو ”حافظوا علی الصلوات والصلوة
الوسطی و صلوة العصر وقوموا لله قانتین“ (ترجمہ) نمازوں
کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ نیز عصر کی نماز کی بھی۔
اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو) پھر حضرت عائشہ
نے فرمایا: میں نے یہ آیت آنحضرت ﷺ سے اسی طرح سنی ہے۔

(۱) اس مسئلے کی تفصیل ابواب النکاح میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

اس باب میں حصہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۷۷- حضرت مسعد بن مسعدہ ثنا یزید بن زریع
درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔

عن سعید عن قتادة نال الحسن عن سمرة بن جندب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوة الوسطى
صلوة العصر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۷۸- عبیدہ سلمانی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کے لئے بددعا کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ! ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے غروب آفتاب تک مشغول کر دیا (یعنی عصر کی نماز)

حدثنا هناد نا عبدة عن سعید بن ابی
عروبة عن قتادة عن ابی حسان الأعرج عن عبدة
السلمانی أن علیاً حدثه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املا قلوبهم
وبؤوتهم نارا كما شغلونا عن صلوة الوسطى حتى
غابت الشمس

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت علی سے منقول ہے۔ ابوحسان اعرج کا نام مسلم ہے۔

۲۷۷۹- حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عصر
کی نماز کو درمیانی نماز قرار دیا۔ ①

حدثنا محمود بن غیلان نا ابوالنضر
وابوداؤد عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبید
عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلوة الوسطى صلوة العصر

اس باب میں زید بن ثابتؓ، ابوہاشم بن عقبہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۸۰- حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے پھر یہ آیت نازل ہوئی ”وقوموا لله قانتين“ یعنی اللہ کے لئے باادب کھڑے ہوا کرو۔ چنانچہ ہمیں نماز کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

حدثنا احمد بن منيع نامروان بن معاوية
ویزید بن ہارون و محمد بن عبید عن اسمعیل بن ابی
خالد عن الحارث بن شبیل عن ابی عمرو الشیبانی
عن زید بن ارقم قال کنا نتکلم علی عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فی الصلوة فتزلت وقوموا لله
قانتين فامرنا بالسکوت۔

احمد بن منیع بھی ہشیم سے اور وہ اسماعیل بن ابی خالد سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ”ونہینا عن الکلام“ یعنی اور ہمیں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عمر و شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔

① ان تمام احادیث کے ذکر سے اس آیت کی تفسیر مقصود ہے کہ حافظہ اعلیٰ الصلوات و الصلوة الوسطی۔ یعنی نمازوں اور بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کی تفسیر اکثر علماء عصر کی نماز ہی سے کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

۲۷۸۱۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي عن ابي مالك عن البراء لا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الانصار كنا اصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان اهل الصفة ليس لهم طعام فكان احدهم اذا جاع اتى القنو فضره بعصاه فسقط البسر والتمر فياكل وكان اناس ممن لا يرعب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تعضوا فيه قال لو ان احدكم اهدى مثل اعطى لم ياخذهُ الا على اعماض او حياض قال فكننا بعد ذلك ياتي اخذنا بصالح ما عنده

۲۷۸۱۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ لا تيمموا الخبيث..... الآية ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم لوگ کھجوروں والے تھے اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی یا زیادہ کھجوریں لے کر حاضر ہوتا۔ کچھ لوگ گچھایا دو گچھے لاکر مسجد میں لٹکا دیتے پھر اصحاب صفہ کے لئے کہیں سے کھانا مقرر نہیں تھا اگر ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو وہ گچھے کے پاس آتا اور اپنی لاشی مارتا جس سے کھتی اور پکی ہوئی کھجوریں گر جاتیں اور وہ کھا لیتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خیرات دینے میں رغبت نہیں رکھتے تھے وہ ایسا گچھالاتا جس میں خراب کھجوریں زیادہ ہوتیں یا ٹوٹا ہوا گچھالا کر لٹکا دیتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایہا الذین..... الآية۔ اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کرو۔ اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے اور رومی چیزوں کو خرچ کرنے کی نیت نہ کیا کرو۔ حالانکہ تم خود کبھی ایسی چیز کو نہیں لیتے الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور تعریف کے لائق ہیں۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ابوالمالک کا نام غزو ان ہے وہ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے ہیں سفیان ثوری بھی سدی سے کچھ اس قسم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۷۸۲۔ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن عطاء ابن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بين ادم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابوالاحوص کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

۲۷۸۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: انسان پر شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی۔ شیطان کا اثر شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے جب کہ فرشتے کا اثر خیر کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے۔ لہذا اگر کوئی اسے پائے تو جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرے اور جو پہلے والا اثر پائے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ "الشيطان يعدكم....." الآية۔ یعنی شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

۲۷۸۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ ل چیز ہی کو قبول کرتے ہیں پھر اس نے مؤمنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو دیا اور فرمایا: ”یٰۤاَیُّهَا الرَّسُلُ.....“ (یعنی اسے پیغمبر و تم عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو اس لئے کہ میں تمہارے اعمال کے متعلق جانتا ہوں) پھر (مؤمنوں کو مخاطب کر کے) فرمایا: ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا.....“ (یعنی اے ایمان والو ہماری عطا کی ہوئی چیزوں میں سے بہترین چیزیں کھاؤ) راوی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے پریشان ہے اور اس کے بال خاک آلود ہو رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے۔ اے رب اے رب۔ حالانکہ اس کا کھانا، پینا، پہننا سب حرام چیزوں سے ہیں اسے حرام ہی سے خوراک دی گئی پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو۔

۲۷۸۴۔ حدیثنا عبد بن حمید نا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی قال قال حدیثی من سمع علیاً یقول لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ اِنْ تُبَدُّوا مَا قِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ الْآیَةُ اَحْزَنْتُنَا قَالَ قُلْنَا یُحَدِّثُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ فِیْحَاسِبُ بِهٖ لَانَدری مَا یَغْفِرُ مِنْهُ وَمَا لَا یَغْفِرُ مِنْهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ بَعْدَهَا فَتَسَخَّرَتْهَا لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

۲۷۸۳۔ حضرت علیؓ سے سنی کہ جب یہ آیت ”ان تبدوا ما فی“ لآیہ (یعنی خواہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اللہ اس کا حساب کریں گے پھر جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے) نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمگین کر دیا۔ ہم سوچنے لگے کہ اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال کرے اور اس پر حساب ہونے لگا تو ہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیا معاف کیا جائے گا۔ اور کیا نہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور اسے مسخوخ کر دیا ”لا یكلف اللہ.....“ لآیہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے اسے ثواب بھی اسی کا ہوگا جو وہ ارادہ سے کرے گا اور گناہ بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے گا (یعنی خیال پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

۲۷۸۵۔ حضرت امیہ نے حضرت عائشہؓ سے ”ان تبدوا ما فی“ لآیہ۔ اور ”من یعمل سوء یجز به“ کی تفسیر پوچھی تو فرمایا: میں نے جب سے ان آیات کی تفسیر آنحضرت ﷺ سے پوچھی ہے اس وقت سے کسی نے مجھ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا: ان سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو مصیبتوں میں گرفتار کرنا ہے مثلاً

۲۷۸۳۔ حدیثنا عبد بن حمید نا ابونعیم نا فضیل بن مرزوق عن عن عدی بن ثابت عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَیِّبٌ وَلَا یَقْبَلُ اِلَّا طَیِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ بِمَا اَمَرَ بِهٖ الْمُرْسَلِیْنَ فَقَالَ یٰۤاَیُّهَا الرَّسُلُ كُلُّوْا مِنْ الطَّیِّبِ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ وَقَالَ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُلُّوْا مِنْ طَیِّبِ مَا رَزَقْنٰكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ یَطْبُلُ السَّفَرَ اَشَعَتْ اَحْبَرَ یَمُدُّ یَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِیُّ بِالْحَرَامِ فَاِنِّیْ یُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ

۲۷۸۴۔ حدیثنا عبد بن حمید نا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی قال قال حدیثی من سمع علیاً یقول لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ اِنْ تُبَدُّوا مَا قِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ الْآیَةُ اَحْزَنْتُنَا قَالَ قُلْنَا یُحَدِّثُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ فِیْحَاسِبُ بِهٖ لَانَدری مَا یَغْفِرُ مِنْهُ وَمَا لَا یَغْفِرُ مِنْهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ بَعْدَهَا فَتَسَخَّرَتْهَا لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

۲۷۸۵۔ حدیثنا عبد بن حمید نا الحسن بن موسیٰ وروح بن عبادہ عن حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن امیہ انہا سألت عائشہ عن قول اللہ تبارک وتعالیٰ اِنْ تُبَدُّوا مَا قِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ وَعَنْ قَوْلِهِ مَنْ یَعْمَلُ سُوءَ یُجْزِ بِهٖ

بخاریا کوئی غمگین کر دینے والا حادثہ یہاں تک کہ کبھی اپنے کرتے کے بازو (جیب) وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے کے بعد اسے گم کر دیتا ہے اور پھر اس کے متعلق پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی پر بھی اس کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے سونا سرخ لنگیٹھی سے۔^①

یہ حدیث حضرت عائشہؓ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۷۸۶۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آیت ”ان تبدوا“ آئیے نازل ہوئی تو صحابہؓ کے دلوں میں اس سے اتنا خوف بیٹھ گیا کہ کسی اور چیز سے نہیں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس خوف کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا تو فرمایا: کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی ”امن الرسول بما انزل“ لآیہ (ترجمہ: رسول اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسی طرح مؤمنین بھی۔ یہ سب اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اسے ثواب بھی اس کا ہوتا ہے جو وہ ارادے سے کرتا ہے اور گناہ بھی۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجئے۔ (اس دعا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے قبول کی (پھر وہ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب ہم پر سخت حکم نہ بھیجے جیسے کہ آپ نے پہلی امتوں پر بھیجے تھے۔ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے یہ دعا بھی قبول کی۔ (پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالئے جسے سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور ہمیں معاف کر دیجئے ہماری مغفرت کر دیجئے ہم پر رحم فرمائیے اس لئے کہ آپ ہی

فَقَالَتْ مَا سَأَلْتِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ مُعَابَتَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيصِهِ فَيَقْدُهَا فَيَفْرَعُ لَهَا حَتَّى إِنْ الْعَبْدَ لِيُخْرِجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يُخْرِجُ التَّيْرَ الْأَحْمَرَ مِنَ الْكَبِيرِ

۲۷۸۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن ادم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا واطعنا فلقى الله الايمان في قلوبهم فانزل الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا اصرنا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت الآية قال قد فعلت

① یعنی ان آیتوں میں مذکور ہر بدی کی سزا سے مراد عذاب دنیوی ہے نہ کہ اخروی۔ حاصل یہ کہ اس صورت میں آیت ”ان تبدوا ما فی انفسکم“ الایہ کو منسوخ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہمارے کارساز ہیں۔ لہذا ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دیجئے۔) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا بھی قبول کی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ایک اور سند سے بھی ابن عباسؓ ہی سے منقول ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔ آدم بن سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یحییٰ کے والد ہیں۔

باب ۱۵۴۴۔ ومن سورة آل عمران

باب ۱۵۴۳۔ سورة آل عمران

۲۷۸۷۔ حدثنا عبد بن حميد انا ابو الوليد نا يزيد بن ابراهيم نا ابن ابى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ

۲۷۸۸۔ حدثنا محمد بن بشارنا ابو داود الطيالسي نا ابو عمرو هو الخزاز ويزيد بن ابراهيم كلاهما عن ابن ابى مليكة قال يزيد عن ابن ابى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت

۲۷۸۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”هو الذى انزل عليك“ الآية کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے پوچھا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پرہیز کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو اسحاق سے ابن ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۷۸۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ ”فاما الذين فى قلوبهم“ الآية (یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہ کی اتباع کرتے ہیں ان کی غرض فتنہ پیدا کرنا اور اس کی غلط تفسیر کرنا ہوتا ہے) تو آپ ﷺ نے

۲۷۸۸۔ حدثنا محمد بن بشارنا ابو داود الطيالسي نا ابو عمرو هو الخزاز ويزيد بن ابراهيم كلاهما عن ابن ابى مليكة قال يزيد عن ابن ابى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت

پوری آیت یہ ہے ”هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَاتٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ“ (سورہ آل عمران، آیت ۷)

تشابہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) جس کا لغوی معنی بھی کسی کو معلوم نہ ہو۔ انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ (۲) کہ اس کا مدلول لغوی تو معلوم ہو لیکن کسی عقلی یا فطری محذور کی وجہ سے مراد نہ لے سکیں۔ پھر اس آخری قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان معانی و جہ میں کسی دلیل سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو دوسرے یہ کہ کسی ایک کو ترجیح دی گئی ہو خواہ دلیل قطعی یا فطری ہو۔

چنانچہ مقطعات کا حکم یہ ہے کہ ان میں اس قید کے ساتھ تفسیر جائز ہے کہ ان کی کیفیت مجہول ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ معنی والے میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو اس میں بھی سکوت واجب ہے۔ لیکن اگر کسی ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہو تو اگر اس لفظ کو لفظ مخصوص ہی سے تعبیر کریں تو کوئی اختلاف نہیں (یعنی لفظ کا نہ ترجمہ کیا جائے اور نہ ہی اس سے اشتقاق) اور اگر لفظ غیر مخصوص سے تفسیر کی جائے تو اس میں دو مسلک ہیں۔ ایک سلف کا اور وہ یہ کہ اس کو معنی حقیقی ہی پر محمول کیا جائے، خواہ اس معین کی تفسیر دلیل قطعی سے ہو یا فطری سے۔ دوسرا مسلک خلف کا ہے۔ وہ یہ کہ اصل مسلک تو سلف ہی کا ہے لیکن ضعفاء العقول کے سمجھنے اور ان کی تشویش دور کرنے کی مصلحت کی بناء پر مجاز کنایہ پر محمول کر لیا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

فرمایا: جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ یزید اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ جب تم لوگ ان کو دیکھو تو پہچان لو۔ دوا تین مرتبہ فرمایا۔

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ
فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ قَالَ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
فَاعْرِفْهُمْ وَقَالَ يَزِيدُ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَاعْرِفْهُمْ قَالَهَا
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس طرح کئی حضرات اسے ابن ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہوئے قاسم بن محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کا ذکر صرف یزید بن ابراہیم کرتے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ کا نام عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ملیکہ ہے ان کا حضرت عائشہؓ سے سماع ثابت ہے۔

۲۷۸۹۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں۔ میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست (ابراہیم) ہیں پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ان اولی الناس بابراہیم.....“ (لا آیتہ ترجمہ: ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور یہ نبی اور جو اس پر ایمان لائے اور اللہ مؤمنوں کے دوست ہیں۔)

۲۷۸۹۔ حدثنا محمود بن غیلان ثنا ابو احمد نا
سفین عن ابیہ عن ابی الضحی عن مسروق عن
عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
لکل نبی ولاة من النبیین ان ولی ابی و خلیلی ربی
ثم قرأ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه و هذا
النبی و الذین امنوا واللہ ولی المؤمنین

محمود بھی ابو نعیم سے وہ سفیان سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ضحیٰ سے وہ عبد اللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں مسروق کا ذکر نہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ ابو ضحیٰ کا نام مسلم بن صبیح ہے پھر ابو کریم بھی کبج سے وہ سفیان سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ضحیٰ سے وہ عبد اللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ابو نعیم کی روایت کے مطابق نقل کرتے ہیں اس میں بھی مسروق کا ذکر نہیں ہے۔

۲۷۹۰۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھائی جس سے وہ کسی مسلمان کا مال دبانا چاہتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اشعث بن قیسؓ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے متعلق ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ مشترک زمین تھی اس نے میری شراکت کا انکار کر دیا تو میں اسے لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے گواہ لانے کے لئے کہا تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں چنانچہ آپ ﷺ نے یہودی کو حکم دیا کہ قسم کھاؤ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو قسم کھا جائے گا اور میرا مال لے جائے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”ان

۲۷۹۰۔ حدثنا ہناد ابو معاویة عن الاعمش عن
شقیق بن سلمة عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یعین و هو
فیہا فاجر لیفتطع بہا مال امری مسلم لقی اللہ
و هو علیہ غضبان فقال الاشعث بن قیس فی واللہ
کان ذلک کان بنی و بین رجل من الیہود ارض
فاحدنی فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذک بینة
قلت لا فقال للیہودی احلف فقلت یا رسول اللہ
اذن یحلف فذهب بما لی فانزل اللہ تبارک و تعالیٰ

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ
 الذين يشترون بعهد الله..... الآية (یعنی جو لوگ اللہ سے کئے
 ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے
 ہیں آخرت میں ان لوگوں کے لئے کوئی حصہ نہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ
 انہیں پاک کریں گے۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔)
 (سورہ آل عمران: ۷۷)

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں علی ابن اوفیٰ سے بھی روایت ہے۔

۲۷۹۱۔ حدثنا اسحاق بن منصورنا عبد الله بن
 بكر السهمي ناحميد عن انس قال لما نزلت هذه
 الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او من
 ذالذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابو طلحة وكان
 له حائط يارسول الله حائطى لله ولو استطعت ان
 اسره لم اعلمه فقال اجعله في قرابتك او اقربك

۲۷۹۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ "لن
 تنالوا البر"..... الآية "من ذالذي يقرض"
 کے پاس ایک باغ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا یہ باغ
 اللہ کے لئے وقف ہے۔ اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو کبھی ظاہر نہ
 ہونے دیتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اسے اپنے قریبداروں میں تقسیم
 کر دو۔ راوی کوشک ہے کہ "قرابتک" فرمایا، یا "اقربیک"

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انسؓ سے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے اور وہ انسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۷۹۲۔ حدثنا عبد بن حميدنا عبدالرزاق نا
 ابراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن
 جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل الى النبي
 صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يارسول الله
 قال الشعث التفل فقام رجل اخر فقال اى الحج
 افضل يارسول الله قال الحج والشج فقام رجل اخر
 فقال ما السبيل يارسول الله قال الراد والراحلة

۲۷۹۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا
 یا رسول اللہ! کونسا حاجی اچھا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا سر گرد آلود
 ہو اور کپڑے میلے کچلے ہوں۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا
 یا رسول اللہ! کونسا حج افضل ہے؟ فرمایا: جس میں بلند آواز سے لبیک
 کہا جائے اور زیادہ قربانیاں کی جائیں پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور پوچھا
 کہ "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" میں
 سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تو شاور سواری۔

اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن خوزی کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

۲۷۹۳۔ حدثنا قتيبة نا حاتم بن اسمعيل عن بكير
 بن مسمار عن عامر بن سعد قال لما نزلت هذه
 الآية نذع ابناءنا وانا وبنساءنا وبنساءكم

۲۷۹۳۔ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "نذع
 ابناءنا وانا وبنساءنا وبنساءكم"..... الآية۔ تو رسول اللہ ﷺ نے علیؓ، فاطمہؓ،
 حسنؓ اور حسینؓ کو بلا کر کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ ❶

❶ یہ آیات نصاریٰ نجران کے آنحضرت ﷺ سے سوال جواب کرنے اور اپنے شبہات دور کرنے کے بعد نازل ہوئی کہ اگر اب بھی کوئی تسلیم نہ
 کرے تو انہیں مہا بلے کی دعوت دیجئے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا تے ہیں تم بھی بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا تے ہیں تم بھی بلاؤ، پھر ہم خود بھی آتے
 ہیں اور تم بھی آؤ اور دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن نصاریٰ نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ واللہ اعلم (مترجم)

الآیة دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا
وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۷۹۴۔ حدثنا ابو كريب ناو كيع عن ربيع وهو
ابن صبيح وحماد بن سلمة عن ابي غالب قال راى
ابو امامة رء و سا منصوبة على درج ديمشق فقال
ابو امامة كلاب النار شر قتلى تحت اديم السماء
خير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود
وجوه الى اجر الاية قلت لابي امامة انت سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم
اسمعه الا مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى عد
سبعاً ما حدثتكموه

۲۷۹۴۔ حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہؓ نے کچھ سروں کو دمشق کی
سیڑھی پر لٹکے ہوئے دیکھا تو فرمایا: یہ دوزخ کے کتے اور آسمان کی
چھت کے نیچے کے بدترین مقتول ہیں اور بہترین مقتول وہ ہیں جو ان
کے ہاتھوں قتل ہوئے پھر یہ آیت پر بھی ”یوم تبیض وجوہ“
.....الآیة۔ (یعنی جس دن کچھ چہرے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے)
راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ آنحضرت
ﷺ سے سنا؟ فرمایا: اگر میں نے ایک دو یا تین یا چار یہاں تک کہ سات
مرتبہ نہ سنا ہوتا تو ہرگز تم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا۔ یعنی کئی مرتبہ سنا
ہے۔

یہ حدیث حسن ہے اور ابو غالب کا نام جزو رہے جب کہ ابو امامہ باہلی کا نام صدی بن عجلان ہے وہ قبیلہ باہلہ کے سردار ہیں۔

۲۷۹۵۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل
کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو اس آیت کی تفسیر میں
فرماتے ہوئے سنا۔ ”کنتم خیر امة“.....الآیة کہ تم لوگ ستر امتوں
کو پورا کرنے والے ہو اور ان سب میں بہتر اور اکرم ہو۔

۲۷۹۵۔ حدثنا عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن
معمّر عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه سمع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى
كنتم خير امة اخرجت للناس قال انتم تيمون
سبعين امة انتم خيرها واکرمها على الله

یہ حدیث حسن ہے اسے کئی راوی بہز بن حکیم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے۔

۲۷۹۶۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آنحضرت ﷺ
کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سر میں زخم آیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی
یہاں تک کہ آپ ﷺ کے چہرے مبارک پر خون بہنے لگا۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کچھ کیا
اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”لیس
لک من الا مرثی“.....الآیة (آپ ﷺ کا اس میں کوئی اختیار
نہیں اللہ چاہیں تو انہیں معاف کر دیں اور چاہیں تو عذاب دیں۔)

۲۷۹۶۔ حدثنا احمد بن منيع انا حميد عن انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ربا عيته يوم
احد وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم
على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم
وهو يدعوهم الى الله فنزلت ليس لك من الامر
شيء اوتوب عليهم اوتعدبهم الى اخرها

یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۷۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو

۲۷۹۷۔ حدثنا احمد بن منيع وعبد بن حميد قالا

گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے اور شانہ مبارک پر ایک پتھر مارا گیا اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ ﷺ اسے صاف کرتے اور کہتے کہ وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کچھ کیا جب کہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”لیس لك من الامر شيء“..... الآية۔

نا يزيد بن هارون انا حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته، ورمي رمية على كفيه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسه، ويقول كيف تفلح امة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء اوتوب عليهم اوتعدبهم فانهم ظلمون
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۷۹۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا: اے اللہ ابوسفیان پر لعنت بھیج، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت بھیج۔ اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت بھیج۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”لیس لك من الامر شيء“..... الآية۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور یہ لوگ اسلام لے آئے اور وہ بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔

۲۷۹۸۔ حدثنا ابوالسائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي نا احمد بن بشر عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اُحُدِ اللَّهُمَّ الْعَنِ ابَاسْفِيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ اللَّهُمَّ الْعَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ فَانزَلَتْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَنَابَ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا فحَسَنَ إِسْلَامُهُمْ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے عمر بن حمزہ نے سالم سے نقل کیا ہے۔ پھر زہری بھی سالم سے اور وہ اپنے والد ابن عمرؓ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۷۹۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ چار آدمیوں کے لئے بدعا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”لیس لك من الامر“..... الآية۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی ہدایت دی۔

۲۷۹۹۔ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري نا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اربعة نفر فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء اوتوب عليهم او يعدبهم فانهم ظلمون فهذا هم الله للاسلام

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح بھی جاتی ہے یعنی نافع کی ابن عمرؓ سے روایت سے۔ نیز یحییٰ بن ایوب بھی اسے ابن عجلان سے نقل کرتے ہیں۔

۲۸۰۰۔ حضرت اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ آنحضرت ﷺ سے جو حدیث سنا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مجھے اس سے فائدہ پہنچتا

۲۸۰۰۔ حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحکم الفرزاري قال سمعت عليا يقول اني كنت رجلا اذا

اور اگر کوئی صحابی مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اسے قسم دیتا۔ اگر وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مجھ سے بیان کیا اور وہ سچے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کریں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ ”وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمِنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ“ (اور وہ لوگ جو اگر کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں خود پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کو مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون گناہ بخشتا ہے اور اپنے گناہ جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہ کریں۔)

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَقْتُهُ وَإِنِّي حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ إِلَىٰ إِحْرَاءِ الْآيَةِ

اس حدیث کو شعبہ اور کئی لوگوں نے عثمان بن مغیرہ سے غیر مرفوع روایت کیا ہے اور ہم اسامیٰ کی صرف یہی حدیث جانتے ہیں۔

۲۸۰۱۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس روز ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا: اونگھ کی وجہ سے نیچے کونہ جھکا جاتا ہو۔ ۱ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: یہی اونگھ مراد ہے۔ ”ثم انزل عليكم من بعد الغم ام ناعسا“..... (پھر تم لوگوں پر تنگی (غم) کے بعد اونگھ نازل کی گئی تم میں سے ایک جماعت کو گھیر رہی تھی۔ اور دوسری جماعت کو صرف اپنی فکر تھی۔)

۲۸۰۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر ما منهم يومئذ أحد إلا يميئد تحت جحفته من النعاس فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمة ناعسا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبادہ ا سے روح بن عبادہ سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے اسی۔

مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی حسن صحیح ہے۔

۲۸۰۲۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا: غزوہ احد کے موقع پر میدان جنگ میں ہم پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ میں بھی ا لوگوں میں تھا جن لوگوں پر اس روز اونگھ طاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ میرے

۲۸۰۲۔ حدثنا يوسف بن حماد نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أباطلحة قال نغشنا ونحن في مصافنا يوم أحد حدثت أنه كان في من

۱ غزوہ احد میں جب مسلمانوں پر شکست کے آثار ظاہر ہوئے اور جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے جنہوں نے راہ فرار اختیار کرنی تھی انہوں نے راہ فرار اختیار کیا تو میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگھ طاری کر دی تاکہ وہ ہشت اور خوف زائل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہوئے اور دوبارہ جنگ کی۔ (مترجم)

تلوار میرے ہاتھ سے گرنے لگی۔ میں اسے پکڑتا پھر گرنے لگتی۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی یہ لوگ انتہائی بزدل، مرعوب اور حق کو چھوڑنے والے تھے۔

عَشِيَّةَ النَّعَاسِ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذَهُ، وَالطَّائِفَةُ الْآخِرَى الْمُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أَجْبِنَ قَوْمٌ وَأَرْعَبَهُ، وَأَخَذَهُ، لِلْحَقِّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۰۳۔ حضرت مقسم کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا: ”وما كان لنبی ان یغل“..... الآية یعنی اور (مال غنیمت میں) خیانت کرنا نبی کا کام نہیں اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا) یہ آیت ایک سرخ روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید آنحضرت ﷺ نے لے لی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۲۸۰۳۔ حدثنا قتيبة نا عبد الواحد بن زياد عن خُصَيْفٍ نَامِقَسِمٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ أَتَقَدَّتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد السلام بھی خصیف سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں بعض اسے خصیف سے اور وہ مقسم سے نقل کرتے ہوئے ابن عباس کا ذکر نہیں کرتے۔

۲۸۰۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میری آنحضرت ﷺ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: جابر کیا بات ہے؟ میں تمہیں شکستہ حال یوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد شہید ہو گئے اور قرض اور عیال چھوڑ گئے۔ فرمایا: کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہارے والد سے ملاقات کی۔ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے علاوہ ہر شخص سے پردے کے پیچھے سے بات کی لیکن تمہارے والد کو زندہ کر کے ان سے بالمشافہ گفتگو کی اور فرمایا: اے میرے بندے تمنا کر۔ تو جس چیز کی تمنا کرے گا میں جیسے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یہ میں طے کر چکا ہوں کہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ راوی کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا..... الْآيَةَ (یعنی تم ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ہیں بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے..... الخ)

۲۸۰۴۔ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي نا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة ابن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر مالي اراك منكسرا قلت يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا قال الا ابشرك بما لقي الله به اباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله احدا قط الا من وراة حجابة واحلى اباك فكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي اعطيك قال يارب تحبني فاقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى انه قد سبق مني انهم لا يرجعون قال وانزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الآية

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ پھر علی بن عبداللہ مدنی اور کئی راوی بھی اسے کبار محدثین سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی جابر سے اس کا کچھ مضمون نقل کرتے ہیں۔

۲۸۰۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس آیت ”وَلاتحسبن الذین قتلوا“..... الایة کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا: کہ ہم نے بھی اس کی تفسیر آنحضرت ﷺ سے پوچھی تھی آپ ﷺ نے فرمایا: ان کی رو میں سبز پرندوں (کی شکل) میں ہیں جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پھرتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ عرش سے لگی ہوئی قدیلیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ کچھ اور بھی چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں گے ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح سوال کیا تو ان شہداء نے سوچا کہ ہم اس وقت تک نہیں چھوٹیں گے جب تک کوئی فرمائش نہیں کریں گے تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہماری رو میں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر آئیں۔

۲۸۰۵۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرة عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود انه سئل عن قوله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربهم فقال اما انا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا إن ارواحهم فی طیر خضر تسرح فی الجنة حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقة بالعرش فاطلع علیهم ربك إطلاعة فقال هل تستزیدون شیئا فآزیدکم قالوا ربنا وما تستزید ونحن فی الجنة تسرح حیث شئنا ثم اطلع علیهم الثانیة فقال هل تستزیدون شیئا فآزیدکم فلما رأوا انهم لا یتزکون قالوا نعیذ ارواحنا فی اجسادنا حتی نرجع الی الدنيا فنقتل فی سبیلک مرة أخرى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۰۶۔ حضرت ابن مسعودؓ سے بھی اسی اسناد سے اسی طرح منقول ہے لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے سلام پہنچایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہم اس سے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔

۲۸۰۶۔ حدثنا ابن عمرنا سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی عبیدة عن ابن مسعود مثله، وزاد فیہ وتقری نبینا السلام وتخبیره، ان قدرضینا ورضی عننا

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۸۰۷۔ حضرت عبداللہ مروفاً نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک اڑدھا بنا دیں گے پھر آپ ﷺ نے اس کے مطابق آیت پڑھی۔ ”لاتحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة“ (ترجمہ: جو لوگ اللہ کی اپنے فضل سے دی ہوئی چیزوں کو خرچ کرنے میں غل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے

۲۸۰۷۔ حدثنا ابن عمرنا سفین عن جامع

وهو ابن ابی راشد و عبد الملك بن اعین عن ابی وائل عن عبد اللہ ینلغ بہ النبئی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا یؤدی زکوٰۃ ماله الا جعل اللہ یوم القیامة فی عنقه شجاعا ثم قرأ علینا مصادقہ من کتاب اللہ لاتحسبن الذین یبخلون بما انهم اللہ من فضله الایة وقال مرة قرأ رسول

لئے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے کیونکہ عنقریب قیامت کے دن جس چیز سے انہوں نے نکل کیا تھا وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر لٹکانی جائے گی۔) پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے اس کے مصداق میں یہ آیت پڑھی۔ ”سیطوقون مابخلوا بہ یوم القیامة“ اور فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان بھائی کا جھوٹی قسم کھا کر حق لے لیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے پھر اس کے مصداق میں یہ آیت پڑھی۔ ”ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلاً“

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شجاع اقرع سے مراد سانپ ہے جو گنجا ہوگا۔ شدت زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں گے۔

۲۸۰۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ لہذا اگر چاہا ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ ”فمن زحزح عن النار“..... الآیة (یعنی پھر جو جہنم سے کھسکا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سودا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اللہِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ، سَيَطُوقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمِثْمَلِ لِقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ

۲۸۰۸۔ حدثنا عبد بن حميد بن حميد نا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها إقرءوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۰۹۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے اپنے محافظ کو حکم دیا کہ ابن عباس کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر دنیا کی حاصل شدہ نعمتوں پر خوش ہونے والا اور بلا کیے تعریف کی خواہش کرنے والا ہر آدمی جتلائے عذاب ہو جائے تو ہم سب کو عذاب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا: تم لوگوں کو اس آیت سے کیا مطلب پھر یہ آیت پڑھی ”وإذاخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبنذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون ان يحمدوا وإنما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم“ الآیة (یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اقرار لیا کہ اسے لوگوں کے لئے بیان کرو

۲۸۰۹۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني نا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكة ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان مروان بن الحكم قال اذهب يارافع ليؤا به الى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرء فرح بما اوتى واحب ان يحمده بما لم يفعل معدبا لتعذبن اجمعون فقال ابن عباس مالكم وللهذه الآية انما انزلت هذه في اهل الكتاب ثم تلا ابن عباس واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا ولا تحسبن الذين يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يحمدا بما لم يفعلوا قال ابن عباس سالهم

اور چھپاؤ مت لیکن انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیا یہ کتنی بری خریداری کرتے ہیں جو اپنے کئے پر خوش ہوتے ہیں اور بن کئے کی تعریف چاہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق یہ نہ سوچئے کہ انہیں عذاب سے چھکارا مل جائے گا ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے) ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے کوئی چیز پوچھی تو انہوں نے اسے چھپا کر کسی اور چیز کے متعلق بتا دیا۔ پھر چلے گئے اور آنحضرت ﷺ پر یہی ظاہر کیا کہ جو آپ ﷺ نے پوچھا تھا وہی بتایا ہے۔ پھر اپنی تعریف کے خواہش مند اور خوش ہوئے اس چیز پر بھی جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کو بتائی تھی اور اس چیز پر بھی جو آپ ﷺ نے پوچھی تھی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ نساء
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۸۱۰۔ حدثنا عبد بن حمید نا یحیی بن ادم نا ابن عیینة عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول مرصت فأتانی رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وقد أغمى علي فلما أفقت قلت كيف أقضي في مالي فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

۲۸۱۰۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تو آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ مجھ پر بیہوشی طاری تھی۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کے متعلق کیا فیصلہ دوں آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں ”یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین“..... الآية یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتے ہیں کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دو۔ ①

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے کئی لوگ محمد بن منکدر سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ فضل بن ربیع کی حدیث میں اس سے زیادہ کلام ہے۔

① ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتے ہیں کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترک کا دو تہائی مال دیا جائے گا اور اگر اکیلی لڑکی ہو تو آدھا مال اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے ترک کا چھٹا حصہ ہے (بشرطیکہ) اس کی اولاد نہ ہو۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو تو اس کی والدین ہی اس کے وارث ہوں گے۔ اس صورت میں اس کی والدہ کا ایک تہائی حصہ ہوگا۔ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو (میت) کی ماں کو وصیت پوری کرنے کے بعد چھٹا حصہ ملے گا۔ بشرطیکہ اس نے وصیت ہی ہو یا قرض (ادا ہو تو ادا کرنے کے بعد) تمہارے اصول و فروع سے تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ النساء (مترجم)

۲۸۱۱- حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے موقع پر ہم لوگوں نے مال غنیمت کے طور پر ایسی عورتیں پائیں جن کے شوہر مشرکین میں موجود تھے چنانچہ بعض لوگوں نے ان سے صحبت (جماع) کرنا مکروہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”والمحصنات“ الآية ۱

۲۸۱۲- حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جنگ اوطاس میں ہمیں غنیمت کے طور پر کچھ عورتیں ملیں جن کے شوہر بھی اپنی قوم میں موجود تھے۔ چنانچہ صحابہ نے اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا۔

یہ حدیث حسن ہے۔ ثوری بھی اسے عثمان بنی سے وہ ابو ظیل سے وہ ابوسعید خدری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ اس میں ابوعلقمہ کا ذکر نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ ابوعلقمہ کا ذکر ہمام کے علاوہ کسی اور نے بھی کیا ہو۔ وہ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں ابو ظیل کا نام صالح بن ابی مریم ہے۔

۲۸۱۳- حضرت انس بن مالک کبیرہ گناہوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ناراض کرنا، قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔

۲۸۱۴- حدثنا محمد بن عبد الاعلیٰ الصنعانی نا خالد بن الحارث عن شعبۃ نا عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشریک باللہ وعقوٰی الوالدین وقتل النفس وقول الزور

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ روح بن عبادہ، شعبہ سے اور وہ عبد اللہ بن ابی بکر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں۔

۲۸۱۴- حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ناراض کرنا۔ آپ ﷺ تکبیر لگائے بیٹھے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے پھر فرمایا: جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات اور اسے اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ ﷺ خاموش ہو جائیں۔

۱۸۱۴- حدثنا حمید بن مسعدة تبشر بن المفضل نا الحریری عن عبد الرحمن بن ابی بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلی یارسول اللہ قال الاشرک باللہ وعقوٰی الوالدین قال وجلس وكان متکئا قال وشهادة الزور او قول الزور قال فما زال رسول اللہ

۱۹ ان آیات کا ترجمہ: اور وہ شوہروں والی عورتیں بھی (حرام) ہیں الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ (النساء ۲۴) (مترجم)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۱۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا يونس بن محمد نا
ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد
مهاجر بن قنفذ التيمي عن ابي امامة بن الأنصاري
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ
وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينِ الْغُمُوسُ وَمَا حَلَفَ خَالِفٌ
بِاللَّهِ يَمِينٍ صَبْرٍ فَادْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا
جَعَلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

۲۸۱۵۔ حضرت عبداللہ بن انیس جہنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑے گناہوں میں سے یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اسی قسم پر موقوف ہو پھر وہ اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے تو اس کے دل پر ایک نکتہ بنا دیا جاتا ہے جو قیامت تک رہے گا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوامامہ انصاری ثعلبہ کے بیٹے ہیں ہمیں ان کا نام معلوم نہیں۔ انہوں نے بہت سی احادیث آنحضرت ﷺ سے نقل کی ہیں۔

۲۸۱۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن
جعفرنا شعبة عن فراس عن الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكِبَائِرُ
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ الْيَمِينِ
الْغُمُوسُ شَكَّ شُعْبَةُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۱۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، آنحضرت ﷺ سے کبیرہ گناہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ناراض کرنا یا فرمایا جھوٹی قسم۔ (یہ شعبہ کا شک ہے۔)

۲۸۱۷۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابن ابی
نجیح عن مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَغْزُو
الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَنْزَلَ فِيهَا إِنَّ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْلَ
طَلْعِيَّةٍ قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً

۲۸۱۷۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتیں۔ پھر ہم عورتوں کے لئے وراثت میں سے بھی مرد سے آدھا حصہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ "وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ....." (یعنی اس چیز کی تمنا مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دو ہے) مجاہد کہتے ہیں کہ "ان المسلمین والمسلمات"..... (آیات بھی انہی (ام سلمہؓ) کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ پہلی عورت ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔

یہ حدیث مرسل ہے بعض راوی اسے البوقح سے اور وہ مجاہد سے مرسل نقل کرتے ہیں کہ ام سلمہؓ نے اس طرح فرمایا۔

۲۸۱۸۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفین عن عمرو بن

۲۸۱۸۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے نہیں سنا کہ

اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ہجرت کے متعلق ذکر کیا ہو چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”انہی لا اضيع“.....الایة (میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں سے بعض بعض سے ہیں۔)

۲۸۱۹۔ حضرت ابراہیم، علقمہ سے اور وہ عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھوں آپ ﷺ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا ”فکیف اذا جننا“.....الایة تو آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے آپ ﷺ کی طرف نظر ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ (ترجمہ: یعنی پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا بلائیں گے اور پھر آپ ﷺ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے بلائیں گے۔)

ابواحوص بھی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے اور وہ عبد اللہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ سند اس طرح ہے کہ ابراہیم، عبیدہ سے اور وہ عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

۲۸۲۰۔ حضرت ابراہیم بن عبیدہ حضرت عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ ﷺ کے سامنے پڑھوں؟ یہ آپ ﷺ ہی پر تو نازل ہوا ہے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جب اس آیت ”و جننا بک علی“.....الایة تک پہنچا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔

یہ روایت ابواحوص کی روایت سے زیادہ صحیح ہے اسے سوید بن نصر، ابن مبارک سے وہ سفیان سے وہ اعمش سے اور وہ معاویہ بن ہشام سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۸۲۱۔ حضرت علی بن ابی طالب عمر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے ہماری دعوت کی اور اس میں شراب پلائی۔ ہم مدہوش ہو گئے تو نماز کا وقت آ گیا سب نے مجھے امامت کے لئے آگے کر دیا۔ تو میں نے پڑھا ”قل یأیہا الکافرون لا عبد متعبدون ونحن

دینار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت یارسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرة فانزل اللہ تبارک وتعالیٰ انہی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض

۲۸۱۹۔ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد اللہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ علیہ وهو علی المنبر فقرأت علیہ من سورة النساء حتی اذا بلغت فکیف اذا جننا من کل امة بشہید و جننا بک علی هولاء شہیدا عمزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینیدہ فنظرت الیہ وعیناہ تدمعان

۲۸۲۰۔ حدثنا محمود بن غیلان نا معاویة بن ہشام نا سفیان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبیدة عن عبد اللہ قال قال لئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت یارسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انہی احب ان اسمعه من غیری فقرأت سورة النساء حتی بلغت و جننا بک علی هولاء شہیدا قال فرأیت عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہملان

۲۸۲۱۔ حدثنا سوید بن نصرانا ابن المبارک عن سفیان عن الاعمش نحو حدیث معاویة بن ہشام حدثنا عبد بن حمیدنا عبد الرحمن بن سعد عن ابی جعفر الرازی عن عطاء بن السائب عن ابی

نعبدا تعبدون“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“
..... الآية۔ (یعنی اے ایمان والو! نشے کے حالت میں نماز کے قریب
مت جاؤ یہاں تک کہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔)

عبدالرحمن السلمی عن علي بن أبي طالب قال
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا
وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت
الصلاة فقدموني فقراة قل يا أيها الكفرون لا أعبد
ماتعبدون ونحن نعبد ماتعبدون فأنزل الله يأيها
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى
تعلموا ماتقولون

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۸۲۲۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں
کہ ایک انصاری کا ان سے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ جس سے وہ اپنے کھجوروں
کے درختوں کو پانی دیا کرتے تھے انصاری نے کہا کہ پانی کو چلنا ہوا چھوڑ دو
لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے زبیرؓ سے فرمایا کہ تم پانی دے کر اسے اپنے
پڑوسی کے لئے چھوڑ دیا کرو۔ اس فیصلے سے انصاری ناراض ہو گئے اور کہنے
لگے آپ ﷺ یہ فیصلہ اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے بھوپھی زاد
بھائی ہیں۔ آپ ﷺ کا چہرہ متخیر ہو گیا اور پھر فرمایا: زبیر تم پانی دے کر اسے
روک لیا کرو یہاں تک کہ منڈیر پر واپس لوٹ جائے۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی
قسم میرے خیال میں یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ”فلا
وردبک“..... الآية (یعنی قسم ہے آپ ﷺ کے رب کی یہ لوگ اس وقت
تک مؤمن (کامل) نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو
منصف نہ ٹھہرائیں اور پھر آپ کے فیصلے کو تہہ دل سے قبول نہ کر لیں کہ ان
کے دلوں میں کوئی کدورت باقی نہ رہے۔

۲۸۲۲۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن
عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه
أن رجلاً من الأنصارٍ خاصم الزبير في شراج الحجرة
التي يسقون به النخل فقال الأنصاري سرح الماء
يمر قايبي عليه فاحتصموا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للزبير اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك فغضب
الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمك
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
يا زبير اسق واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
فقال الزبير والله إنني لأحسب هذه الآية نزلت في
ذلك فلا وربك لأؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم

امام بخاری کہتے ہیں۔ ابن وہب یہ حدیث لیث بن سعد سے وہ زہری سے وہ عروہ سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے
اسی کے مانند نقل کرتے ہیں۔ شعیب بن حمزہ اسے زہری سے اور وہ عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔
۲۸۲۳۔ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفرنا شعبة عن عدی بن ثابت قال سمعت
۲۸۲۳۔ حضرت زید بن ثابتؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے ”فما
لكم فى المناقین فتنین“..... الآية ۱ کی تفسیر میں فرمایا: عروہ

۱ آیت کا ترجمہ: پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے متعلق دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا۔ کیا تم
لوگ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لئے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ (مترجم)

احد کے موقع پر صحابہ میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے ان کے متعلق لوگوں کے دو فریق بن گئے ایک کا کہنا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور دوسرا فریق کہتا تھا۔ نہیں چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا مدینہ پاک ہے اور یہ ناپاکی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو۔

عبد اللہ بن یزید یحدث عن زید بن ثابت أنه قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فنتين قال رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول أقتلهم وفريق يقول لا فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فنتين فقال إنها طيبة وقال إنها تنفي الحبث كما تنفي النار حبت الحديد

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۲۳۔ حضرت ابن عباسؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مقتول، قاتل کے پیشانی کے بال اور سر پکڑ کر لائے گا۔ قاتل کے گلے میں خون بہہ رہا ہوگا پھر مقتول عرض کرے گا اے میرے رب! مجھے اس نے قتل کیا ہے یہاں تک کہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا کہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی ”ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً..... الآية (ترجمہ: جو شخص کسی مؤمن کو تصداً قتل کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے) پھر ابن عباسؓ نے فرمایا: کہ یہ آیت منسوخ ہوئی اور نہ بدل گئی تو پھر اس کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ ۵

۲۸۲۴۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني نا شبابة نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يارب قتلني هذا حتى يذنيه من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال مانسخت هذه الآية ولا تبدلت وأتى له التوبة

یہ حدیث حسن ہے بعض حضرات اسے عمرو بن دینار سے اور وہ ابن عباسؓ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں۔

۲۸۲۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کا صحابہ کے پاس سے گزر ہوا اس کے ساتھ بکریاں تھیں اس نے صحابہ کو

۲۸۲۵۔ حدثنا عبد بن حميدنا عبدالعزيز بن ابي رزمة عن اسراييل عن سماك بن حرب عن عكرمة

۱۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک یہ عذاب اس کے لئے ہے جس نے قتل کو حلال جان کر اس کا ارتکاب کیا یا پھر ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے مراد طویل مدت ہے۔ اس لئے کہ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مؤمنین ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ ”واني لغفار لمن تاب“ جو توبہ کرے میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے ”ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا ان آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

سلام کیا وہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے ہم سے بچنے کے لئے سلام کیا ہے۔ لہذا اٹھے اور اسے قتل کر کے اس کی بکریاں لیں اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قَالِيَ الْيَكْمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا“ (ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دریافت کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو۔)

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں اسامہ بن زید سے بھی روایت ہے۔

۲۸۲۶۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ“..... (الآیة) کہ بیٹھنے والے جہاد کرنے والے مؤمنین کے برابر نہیں ہو سکتے) تو عمرو بن ام مکتوم آئے جو نابینا تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نابینا ہوں میرے لئے کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”غیر اولی الضرر“ یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہیں کوئی عذر ہو) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: شانے کی ہڈی اور دو ات لاؤ یا فرمایا تختی اور دو ات۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَقَامُوا وَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَاتَّوَّأَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قَالِيَ الْيَكْمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

۲۸۲۶۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفين عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريء البصر فقال يا رسول الله مات أمرني إني ضريء البصر فانزل الله هذه الآية غير أولى الضرر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بالكثف والدواة أو اللوح والدواة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس روایت میں عمرو بن ام مکتوم ہے جب کہ بعض روایات میں عبداللہ بن ام مکتوم ہے اور عبداللہ زائدہ کے بیٹے ہیں ام مکتوم ان کی والدہ ہیں۔

۲۸۲۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ”لا يستوي“..... (الآیة) سے مراد اہل بدر اور اس میں شریک نہ ہونے والے ہیں اس لئے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو عبداللہ بن جحش اور ابن ام مکتوم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں اندھے ہیں کیا ہمارے لئے اجازت ہے؟ چنانچہ ”لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجۃ“ (یعنی جہاد نہ کرنے والے اور کرنے والے برابر نہیں الایہ کہ جو بیماریاں معذور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو نہ کرنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔) نازل ہوئی پھر ابن عباسؓ نے فرمایا: یہ جہاد نہ کرنے والے معذور اور بیمار لوگ نہیں بلکہ

۲۸۲۷۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی نا الحجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني عبدالکریم سمع مقسما هولى عبدالله بن الحارث یحدث عن ابن عباس انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر أولى الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدین درجۃ فهؤلاء القاعدون

ویسے ہی جہاد نہ کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 ”فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً۔“
 یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر کئی درجے
 فضیلت دی۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا: کہ یہاں بھی مراد اہل اعذار
 اور مریض لوگ نہیں ہیں۔ ❶

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ مقسم بعض محدثین کے نزدیک عبد اللہ بن حارث کے اور بعض کے نزدیک عبد اللہ
 بن عباس کے مولیٰ ہیں۔ ان کی کنیت ابوالقاسم ہے۔

۲۸۲۸۔ حضرت اہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مروان
 بن حکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو خود بھی آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ
 گیا اس نے ہمیں زید بن ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی کہ
 آنحضرت ﷺ نے زید کو یہ آیت لکھوائی ”لا یستوی القاعدون“
 الایۃ زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لکھوا ہی رہے تھے کہ ابن ام
 مکتوم آگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا وہ
 نابینا تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر وحی نازل کی آپ ﷺ کی
 ران میری ران پر تھی وہ بھاری ہو گئی اور قریب تھا کہ میری ران کچلی
 جاتی تو آپ کی طبیعت کھل گئی اور آپ ﷺ نے یہ الفاظ بتائے۔ ”غیر
 اولی الضرر۔“

۲۸۲۸۔ حدثنا عبد بن حمید ثنی یعقوب بن
 ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن صالح بن کیسان
 عن ابن شہاب قال نئی سہل بن
 سعید الساعدی قال رأیت مروان بن الحکم
 جالساً فی المسجد فاقبلت حتی جالساً الی
 جنبہ فآخبرنا ان زید بن ثابت أخبرہ ان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم أملاً علیہ لا یستوی
 القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل
 اللہ قال فجاءہ ابن ام مکتوم وهو یملہا علی
 فقال یا رسول اللہ واللہ لو استطیع الجہاد
 لجاہدت وکان رجلاً أعمی فانزل اللہ علی
 رسوله وفی حذہ علی فحذی فنقلت حتی ہمت
 ترص فحذی ثم شری عنہ فانزل اللہ علیہ غیر
 اولی الضرر

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ایک صحابی نے تابعی سے روایت کیا ہے یعنی اہل بن سعد نے مروان سے اور مروان تابعی ہیں۔

❶ یہ آیات اس طرح ہیں: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً
 درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفوراً رحیماً۔ ترجمہ: وہ مؤمنین جو اہل عذر نہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے
 والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور دونوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور مجاہدین کو غیر مجاہدین
 پر کئی درجے زیادہ فضیلت ہے۔ اپنی طرف سے کئی درجات اور رحمت و مغفرت اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ابن عباسؓ کے قول کا منہور یہ ہے کہ فضیلت ان
 لوگوں کے لئے جو بغیر عذر جہاد میں شریک نہیں ہوتے اور اہل اعذار کو مجاہدین کے برابر اجر و ثواب ہے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی آیت میں مراد اہل اعذار ہوں۔
 کیونکہ اس میں ایک درجہ فضیلت کا ذکر ہے اور دوسری میں مراد غیر اہل اعذار ہوں۔ کیونکہ اس میں زیادہ درجات کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۸۲۹۔ حضرت یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمروؓ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ان تقصروا من الصلوة ان خفتم“ (یعنی اگر تمہیں خوف ہو تو قصر نماز پڑھ لیا کرو۔) اور اب تو لوگ امن میں ہیں۔ اب قصر کس طرح جائز ہے؟ فرمایا: مجھے بھی اس طرح تعجب ہوا تو پھر میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو فرمایا: یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ صدقہ ہے اسے قبول کرو۔

۲۸۲۹۔ حدثنا عبد بن حمیدانا عبدالرزاق نا ابن جریج قال سمعت عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی عمار یحدث عن عبد اللہ بن باباہ عن یعلیٰ بن أمیة قال قلت لعمر انما قال الله ان تقصروا من الصلوة ان خفتم وقد امن الناس فقال عمر عجت مما عجت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ضحنان او عسفان کے درمیان پڑاؤ کیا تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ عصر کی نماز کو اپنے باپ بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں لہذا ان لوگ جمع ہو کر ان پر ایک ہی مرتبہ دھاوا بول دو۔ چنانچہ جبرائیل آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیں اور نماز پڑھائیں ایک جماعت آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھے اور دوسرا ان کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنے ہتھیار اور ڈھالیں وغیرہ ہاتھ میں لیں اور پہلی جماعت آپ ﷺ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے۔ پھر وہ لوگ ہتھیار وغیرہ لے کر کھڑے ہو جائیں اور دوسری جماعت آپ ﷺ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اس طرح آپ ﷺ کی دو اور ان کی ایک رکعت ہوگی۔

۲۸۳۰۔ حدثنا محمود بن غیلان نا عبدالصمد ابن الوارث نا سعید بن عبیدالہنائی نا عبداللہ بن شقیق قال نا ابوہریرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضحنان وعسفان فقال المشركون ان لهؤلاء صلوة هي احب اليهم من ابايهم وابنائهم وهي العصر فاجمعوا امرهم فمیلوا عليهم ميلة واحدة وان جبرئیل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ ان یقسیم اصحابہ شطرتین فیصلی بہم وتقوم طائفة اخرى وراہم ولیاخذوا جذرہم واسلحتہم ثم یاتی الاخرون ویصلون معہ رکعة واحدة ثم یأخذ هؤلاء جذرہم واسلحتہم فتکون لہم رکعة وللرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان

یہ حدیث عبداللہ بن شقیق کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور اس باب میں عبداللہ بن مسعودؓ زید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ اور ابو عیاش زرقیؓ، ابن عمرؓ، ابو بکرؓ اور سہل بن ابی حمزہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں ابو عیاش کا نا زید بن ثابت ہے۔

۲۸۳۱۔ حضرت قتادہ بن نعمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ایک گھروالے تھے جنہیں بنو امیہ قہر کیا جاتا تھا۔ وہ تین بھائی تھے۔ بشیر اور بشر۔ بشر منافق تھا اور صحابہؓ کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا پھر ا

۲۸۳۱۔ حدثنا الحسن بن احمد بن ابی شعیب ابو مسلم الحرانی نا محمد بن سلمة الحرانی نا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن

شعروں کو بعض عرب شعراء کی طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے فلاں نے اس طرح کہا ہے۔ جب صحابہؓ یہ اشعار سنتے تو کہتے کہ اللہ کی قسم یہ شعرا ہی خمیٹ کے ہیں۔ یا جیسا راوی نے فرمایا۔ صحابہ کہتے کہ یہ شعرا بن ابیرق ہی نے کہے ہیں۔ وہ لوگ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں محتاج اور فقیر تھے۔ مدینہ میں لوگوں کا طعام کھجور اور جوہی تھا پھر اگر کسی آدمی کے پاس کچھ ہوتا تو اگر کوئی بنجارہ شام سے میدہ وغیرہ لاتا تو وہ اس سے خرید لیا کرتا اور وہ صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہوتا باقی گھر والے تو جو اور کھجور ہی پر گزارہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بنجارہ آیا تو میرے چچا رفاعہ بن زید نے اس سے میدے کی گون خریدی اور اسے ایک جھروکے میں رکھ دیا۔ وہاں ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان کے گھر کے نیچے سے نقب لگا کر ان کا میدہ اور ہتھیار وغیرہ چوری کر لئے۔ صبح ہوئی تو چچا رفاعہ آئے اور کہنے لگے: بھتیجے آج رات ہم پر ظلم کیا گیا اور جھروکے سے کھانا اور ہتھیار وغیرہ چوری کر لئے گئے۔ چنانچہ ہم نے اہل محلہ سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ آج رات بنو ابیرق نے آگ جلائی تھی۔ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ وہ تمہارے ہی کھانے پر ہوگی ہم محلے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ بنو ابیرق کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تمہارا چور لبید بن سہل ہی ہے جو تمہارا دوست ہے۔ وہ صالح لشخص تھا اور مسلمان تھا جب لبید نے یہ بات سنی تو اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یا تو تم چوری کے متعلق بتاؤ گے یا پھر یہ تلوار ہوگی اور تم۔ بنو ابیرق کہنے لگے تم اپنی تلوار تک رہو تم نے چوری نہیں کی۔ پھر ہم محلے میں پوچھتے رہے یہاں تک کہ یقین ہو گیا کہ چور بنو ابیرق ہی ہیں۔ اس پر میرے چچا نے کہا: بھتیجے اگر تم آنحضرت ﷺ کے پاس جاتے اور ذکر کرتے (تو شاید چیز مل جاتی) چنانچہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک گھر والے نے میرے چچا پر ظلم کیا اور نقب لگا کر ان کا غلہ اور ہتھیار وغیرہ لے گئے۔ جہاں تک غلے کا تعلق ہے تو اس کی تو ہمیں حاجت نہیں لیکن ہمارے ہتھیار واپس کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں عنقریب اس کا فیصلہ

جده عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو أَبِي رِقِّ بْنِ شَيْبَةَ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشُّعْرَ يَهْجُوا بِهِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضُ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشُّعْرَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشُّعْرَ إِلَّا هَذَا الْحَبِيبُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوا ابْنُ الْأَبِيرِقِ قَالَهَا قَالَ وَكَانُوا أَهْلُ بَيْتِ حَاجَةَ وَفَاقَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرَ وَالشُّعَيْرَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ صَافِطَةُ مِنَ الشَّامِ وَمِنَ الدَّرْمَكِ ابْتِاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَحَضَّ بِهَا نَفْسَهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرَ وَالشُّعَيْرَ فَقَدِمَتْ صَافِطَةُ مِنَ الشَّامِ فابْتِاعَ عَمِّي رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ جَمَلًا مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلَاحٌ دِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعَدِي عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَتَقَبَّتِ الْمَشْرَبَةُ وَأَخَذَ الطَّعَامَ وَالسِّلَاحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ آتَانِي عَمِّي رِفَاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَّهُ قَدْ عَدِي عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَتَقَبَّتِ مَشْرَبَتُنَا وَذَهَبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا قَالَ فَتَحَسُّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا قَدَرْنَا أَنَا بَنِي أَبِي رِقِّ اسْتَوْفَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَا نَرَى فِيمَا نَرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ قَالَ وَكَانَ بَنُو أَبِي رِقِّ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ وَاللَّهِ مَا نَرَى صَاحِبِكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صِلَاحٌ وَأَسْلَامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ إِخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ أَنَا أَسْرِقُ فَوَاللَّهِ لِيُحَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْلَتْبَيْنَ هَذِهِ السَّرِقَةَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشْكُ أَنَّهُمْ

کروں گا۔ جب بنو امیرق نے یہ سنا تو اپنی قوم کے ایک شخص اسیر بن عروہ کے پاس آئے اور اس سے اس معاملے میں بات کی پھر اس کے لئے محلے کے بہت سے لوگ جمع ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا ہمارے گھر والوں پر بغیر دلیل اور بغیر گواہ کے چوری کے تہمت لگا رہے ہیں جب کہ وہ لوگ نیک اور مسلمان ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بات کی تو فرمایا: تم نے کسی مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر کسی گواہ اور دلیل کے چوری کے تہمت لگائی ہے؟ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میرا کچھ مال چلا جاتا اور میں آنحضرت ﷺ سے اس معاملے میں بات نہ کرتا۔ اسی دوران میرے چچا آئے اور پوچھا کہ کیا کیا؟ میں نے انہیں بتادیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فرمایا ہے انہوں نے کہا: اللہ مدگار ہے۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلنا الیٰسٰ کتاب..... الایۃ یعنی ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں نہ کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے ہی جھگڑا کریں۔ ان سے مراد بنو امیرق ہیں۔ اور اللہ سے اس بات کے لئے استغفار کیجئے جو آپ ﷺ نے قتادہ سے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر فرمایا ”ولا تجادل عن الذین..... سے رحیمًا، تک۔ یعنی اگر مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور جو گناہ کا مرتکب ہوگا اس کا عذاب اسی کو ہوگا۔ (ومن یکسب انما سے ”انما مبینًا، تک) اس سے بنو امیرق کا لیبید کو کہا جانے والا قول ہے پھر ”ولولا فضل اللہ“ سے ”نونتیه اجزا عظیمًا“ تک۔ پھر جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ ہتھیار لائے اور آپ ﷺ کو دے دیئے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں ہتھیار لے کر چچا کے پاس آیا۔ (ابوہنی کو شک ہے کہ عشی فرمایا، یا عسی) ان کی پینائی زمانہ جاہلیت میں کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں ان کے ایمان میں کچھ خلل کا گمان کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں ہتھیار وغیرہ لے کر ان کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ جھنجھکیا یہ اللہ کی راہ میں دے دیئے

أَصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمِّي يَا بَنَ أَخِي لَوْ آتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ قَتَادَةُ فَآتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَتَقَبَّوْا مَشْرَبَةً لَهُ، وَأَخَذُوا سِلَاحَهُ، وَطَعَامَهُ، فَلْيُرِدُوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا فَمَا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامُرُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقٍ آتُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَيْرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ وَعَمَّهُ عَمَدُوا إِلَى أَهْلِ بَيْتِ مِنَّا أَهْلَ إِسْلَامٍ وَصَلَاحٍ يَرْمُونَهُمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا نَبْتٍ قَالَ قَتَادَةُ فَآتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتَهُ، فَقَالَ عَمَدْتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ ذِكْرٍ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَرْمِيهِمُ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ نَبْتٍ وَلَا بَيِّنَةٍ قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أَكَلِمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَآتَانِي عَمِّي رِفَاعَةَ فَقَالَ يَا بَنَ أَخِ مَا صَنَعْتُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا بَنِي أُبَيْرِقٍ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتِنًا أَيُّمًا يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ رَحِيمًا أَى لَوْ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَلَهُمْ وَمَعَى يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا مِيبِنًا

ہیں۔ چنانچہ مجھے ان کے ایمان کا یقین ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو بشیر مشرکین کے ساتھ مل گیا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس ٹھہرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى“..... سے بعیداً تک (یعنی جو ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا اور مؤمنین کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا اور جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے) جب وہ سلافہ کے پاس ٹھہرا تو حسان نے اس کی اشعار میں بھجوا دی۔ چنانچہ سلافہ نے اس کا سامان اٹھا کر سر پر رکھا اور اسے باہر جا کر میدان میں پھینک دیا۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ کیا تو حسان کے شعر میرے لئے ہدیے میں لایا ہے تجھ سے مجھے کبھی خیر نہیں مل سکتی۔

قَوْلُهُمْ لِلْبَيْدِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أُنْتَبِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّلَاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ فَتَادَهُ لَمَّا أَتَيْتُ عَمِيَّ بِالسَّلَاحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَشِيَ أَوْ عَسَى الشُّكُّ مِنْ أَبِي عَيْسَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ أُرَى إِسْلَامَهُ مَدْخُولًا فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسَّلَاحِ قَالَ يَا بَنُ أَخِي هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ لِحَقِّ بُشَيْرٍ بِالْمُشْرِكِينَ فَنَزَلَ عَلَيَّ سُلَافَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّةَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ سُلَافَةُ رَمَاهَا حَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِ فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ حَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَتْ أَهْدَيْتُ لِي شِعْرَ حَسَّانٍ مَا كُنْتُ تَأْتِينِي بِخَيْرٍ

یہ حدیث غریب ہے ہمیں علم نہیں کہ اسے محمد بن سلمہ حرانی کے علاوہ کسی اور نے مرفوع کیا ہو۔ یونس بن بکر اور کئی راوی اسے محمد بن اسحاق سے اور وہ عاصم بن قنادہ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس میں عاصم کے اپنے والد سے اور ان کے ان کے دادا سے روایت کرنے کا تذکرہ نہیں اور قنادہ بن نعمان، ابوسعید خدری کے اخیانی بھائی ہیں ابوسعید کا نام مالک بن سنان ہے۔

۲۸۳۲۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ آیت ہے ”ان الله لا يغفران يشرك به..... الآية“

۲۸۳۲۔ حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي نا النضر بن شميلة عن اسرئيل عن ثوير وهو ابن ابي فاختة عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوفاختہ کا نام سعد بن علاقہ ہے اور ثویری کی کنیت ابو جهم ہے یہ کوئی ہیں ان کا ابن عمر اور زبیرؓ سے سماع ہے۔ ابن مہدی ان پر طعن کرتے ہیں۔

۲۸۳۳۔ حدثنا ابن عمر و عبد الله بن ابي زياد المعنى واحد قالوا ناسفیان ابن عيينة عن ابن مَحْبُصِيْنٍ عن محمد بن قيس بن مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُحْزِبُهُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فِي كُلِّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ كَفَّارَةٌ حَتَّى الشُّوْكَةُ تُشَاكُّهَا أَوْ النَّكْبَةُ يُنْكِبُهَا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابن محبصن کا نام عمر بن عبدالرحمن بن محبصن ہے۔

۲۸۳۴۔ حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قالوا ناروح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال اخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُحْزِبُهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا أَفْرَأُكَ آيَةَ أَنْزَلْتُ عَلَيَّ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَقْرَأْنِيهَا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي وَجَدْتُ فِي ظَهْرِي افْتِصَامًا فَتَمَطَّطْتُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَيْتَانِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَأَنَا لَمْ جَزِيُونَ بِمَا عَمَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُحْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْفُقُوا اللَّهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الْآخِرُونَ فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُحْزَرُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بدلہ دیا جائے۔

۲۸۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب ”من يعمل سوءا یحزبہ“ (یعنی جو شخص برا کرے گا اسے ضرور سزا ملے گی) نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاق گزری انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا اظہار کیا تو فرمایا: تمام امور میں افراط و تفریط سے بچو اور استقامت کی دعا کرو۔ مؤمن کی ہر آزمائش میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کاٹنا چھچھ جائے یا کوئی مشکل پیش آجائے۔

۲۸۳۴۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس تھا۔ کہ آپ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی ”من يعمل سوءا یحزبہ ولا یجدلہ من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً“ (یعنی جو برائی کرے گا اسے سزا ملے گی وہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں پائے گا۔) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابو بکر کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ پڑھاؤں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ پھر آپ ﷺ نے مجھے یہ آیت پڑھائی پھر مجھے کچھ معلوم نہیں ہے الا یہ کہ میں نے اپنی کمر لٹوٹی ہوئی محسوس کی اور انگڑائی لی تو آپ ﷺ نے پوچھا: کیا ہوا ابو بکر؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے والدیر آپ پر قربان جائیں ہم میں سے کون ہے جو برائی نہیں کرتا۔ تو آہمیں تمام عملوں کی سزا دی جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ابو بکر جہاں تک تمہارا اور مؤمنین کا تعلق ہے تو تم لوگوں کی سزا دنیا ہی میں ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت گناہوں سے پاک ہو۔ لیکن دوسرے لوگوں کی برائیاں جمع کی جائیں گی تاکہ انہیں قیامت کے دن بدلہ دیا جائے۔

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن سعید اور امام احمد نے موسیٰ بن عبیدہ کو ضعیف قرار دیا۔ جب کہ ابن سباع کے مولیٰ مجہول ہیں پھر یہ حدیث ایک اور سند سے بھی حضرت ابو بکرؓ ہی سے منقول ہے لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں اس باب میں عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۸۳۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سووہ کو خدشہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ انہیں طلاق نہ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیجئے اپنے نکاح میں رہنے دیجئے اور میری باری عانت کو دے دیجئے۔ پھر آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما والصلح خیر“..... الآیة (یعنی اگر دونوں آپس میں صلح کر لیں تو کوئی گناہ نہیں بلکہ صلح تو بہتر ہے) لہذا جس چیز پر ان کی صلح ہو وہ جائز ہے۔

۲۸۳۵۔ حدثنا محمد بن المثنیٰ نا ابوداؤد الطیالسی نا سلیمان بن معاذ عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس قال خشیئت سووہ ان یتلقہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لا تطلقنی وامسکنی واجعل یومی لعائشۃ ففعل فنزلت فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر فلما اصطلحا علیہ من شیء فهو جائز
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۳۶۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ آخری آیت یہ نازل ہوئی ”یستفتونک قل اللہ یتفیکم فی الکلالۃ“..... الآیة۔

۲۸۳۶۔ حدثنا عبد بن حمید نا ابونعیم نا مالک بن مغول عن ابی السفر عن البراء قال اجزایۃ نزلت او اخر شیء انزل یستفتونک قل اللہ یتفیکم فی الکلالۃ

یہ حدیث حسن ہے اور ابوسفر کا نام سعید بن احمد ہے بعض انہیں ابن نجیحہ ثوری کہتے ہیں۔

۲۸۳۷۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس آیت کی تفسیر کیا ہے ”یستفتونک قل اللہ یتفیکم“..... الآیة آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے لئے وہ آیت کافی ہے جو گرمیوں میں نازل ہوئی۔ ❶

۲۸۳۷۔ حدثنا عبد بن حمید نا احمد نا یونس عن ابن بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن البراء قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ یستفتونک قل اللہ یتفیکم فی الکلالۃ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجزئک آیۃ الصیف

سورۃ مائدہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۸۳۸۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ اگر یہ آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم“..... الآیة (یعنی آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی اور تمہارے لئے دین اسلام ہی کو پسند کیا۔ ہم پر نازل ہوتی تو ہمارے لئے وہ دن عید کا دن ہوتا جس دن یہ نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب

وَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۸۳۸۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفین عن مسعرو غیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من الیہود لعمرو بن الخطاب یا امیر المؤمنین لو علینا انزلت ہذیہ الآیۃ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا لاتخذنا ذلک الیوم عیدنا فقال عمر

❶ یعنی اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ یستفتونک قل اللہ یتفیکم..... الآیة الخاء ۱۷۷۔ بنوی کہتے ہیں کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے لئے جاتے ہوئے نازل ہوئی۔ لہذا اسے آیۃ الصیف یعنی گرمیوں کی آیت کا نام دیا گیا۔ کلالہ کی تفسیر ابواب الفرائض میں گزر چکی ہے۔

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ أَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۳۹۔ عبد بن حمید نا یزید بن ہارون نا حماد
بن سلمة عن عَمَارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَوْ
أَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَيَوْمِ عَرَفَةَ

یہ حدیث ابن عباس کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۴۰۔ حدثنا احمد بن منيع نايزيد بن هارون انا
محمد بن اسحاق عن ابى الزناد عن الاعرج عن
ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يؤمن الرحمن ملائ سحاء لا يغيبها الليل والنهار
قال ارايتكم ما اتفق منذ خلق السموات فانه لم
يغضب ما من يمينه عرشه على الماء بيده الاخرى
الميزان يخفض ويرفع

نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفات کے دن جمعہ کے روز نازل ہوئی۔ (یعنی
یہ تو نازل ہی عید کے دن ہوئی اس لئے اسے عید کا دن بنانے کی
ضرورت ہی نہیں۔)

۲۸۳۹۔ حضرت عمار بن ابوعمار کہتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ آیت
”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ“..... پڑھی تو ان کے پاس ایک یہودی تھا کہنے لگا
کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔
ابن عباس نے جواب دیا کہ جس دن یہ نازل ہوئی اسی دن ہمارے
یہاں دو عیدیں تھیں عرفات کے دن کی اور جمعہ کے دن کی۔

۲۸۴۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا
ہے اور دن و رات میں سے کسی وقت بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا
تم جانتے ہو کہ جب سے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس نے کیا
خرچ کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اس کا
عرش (آسمانوں کو پیدا کرنے کے وقت) سے لے کر اب تک پانی پر
ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک میزان ہے جسے وہ جھکا تا اور
بلند کرتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس آیت کی تفسیر ہے۔ ”وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل
يداه مبسوطتان“..... الآية (یعنی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے (یعنی ہمیں کچھ نہیں دیتا) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول پر لعنت ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ
کرتا ہے۔)

۲۸۴۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا مسلم بن ابراهيم
نا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله
بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله

۲۸۴۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی پہلے حفاظت کی
جاتی تھی پھر یہ آیت نازل ہوئی ”والله يعصمك“..... الآية
(یعنی لوگوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے) اور آپ ﷺ

• یعنی جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔

نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا: لوگو چلے جاؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى تَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْصِرُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ

یہ حدیث غریب ہے بعض اسے جریری اور وہ عبداللہ بن شقیق سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں۔

۲۸۴۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بنو اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو علماء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیئے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی۔ یہ اس لئے تھا کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تکیہ لگائے ہوئے اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم لوگ اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے جب تک تم ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے۔

۲۸۴۲۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا يزيد بن هرون انا شريك عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي فنهوتهم علماء هم فلم ينتهوا فجالسواهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فصرَب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وقال لا والدي نفسي بيده حتى تاطروهم اطرا

عبداللہ بن عبدالرحمن، یزید سے اور وہ سفیان ثوری سے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور محمد بن مسلم بن ابی وضاح سے بھی علی بن یزید کے حوالے سے منقول ہے وہ ابو عبیدہ سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً اسی کی مانند نقل کرتے ہیں جب کہ بعض ابو عبیدہ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۸۴۳۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب بنو اسرائیل کے ایمان میں کمی آگئی تو ان میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے روکتا۔ پھر دوسرے دن اگر وہ باز نہ آتا تو اسے نہیں روکتا اور اس کا اس گناہ کا ارتکاب اس روکنے والے کو اس کے ساتھ اٹھنے اور کھانے پینے سے نہ روکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیئے ان کے متعلق قرآن نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "لعن الذين كفروا من بني اسرائيل"..... الآية (یعنی بنو اسرائیل میں سے کفار پر داؤد اور عیسیٰ

۲۸۴۳۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى ناسفين عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني اسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغنللم يمنعه مآراى منه أكيله، وشرهيه، وخليطه، فصرَب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على

کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔) یہ سزا انہیں اس لئے دی گئی کہ یہ لوگ گناہ کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیات ”لو کانوا یؤمنون“ سے آخر تک پڑھیں۔ (ترجمہ: اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہوتے اور اس پر بھی ایمان لاتے جو اس نبی پر نازل کیا گیا تو کبھی ان گناہ گاروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔) راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تکلیف لگائے بیٹھے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے پھر فرمایا: تم لوگ بھی عذاب الہی سے اس وقت تک نجات نہیں پاسکتے جب تک ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی طرف بخوبی مائل نہ کر دو گے۔

محمد بن یسار بھی ابوداؤد سے وہ محمد بن مسلم بن ابی وضاح سے وہ علی بن یزید سے وہ عبیدہ سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت

ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۸۴۴- حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں جب گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کے لئے پریشان پھرنے لگتا ہوں اور میری شہوت غالب ہو جاتی ہے لہذا میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِرُوا حُرْمًا“..... (یعنی اے ایمان والو! اللہ کی حلال کی ہوئی حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ حلال اور عمدہ رزق میں سے کھاؤ۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے عثمان بن سعد کی سند کے علاوہ اور سند سے بھی روایت کرتے ہیں لیکن یہ مرسل ہے اور اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں۔ پھر خالد حذاء بھی عکرمہ سے یہی مرسل نقل کرتے ہیں۔

۲۸۴۵- حضرت عمر بن خطابؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ! ہمارے لئے شراب کا صاف صاف حکم بیان فرما۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ“..... (یعنی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ انہیں گناہ بھی بڑا ہے اور ان کے فائدے بھی ہیں۔ اور گناہ فائدوں سے بہت بڑا ہے) پھر عمرؓ کو بلایا گیا اور یہ آیت سنائی گئی۔ پھر

لِسَانَ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَقَرَأَ حَتَّىٰ بَلَغَ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ لَأَحْتَىٰ تَأْخُذُوا عَلَيَّ يَدِي الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا

۲۸۴۴- حدثنا ابو حفص عمرو بن علي نا ابو عاصم نا عثمان بن سعد نا عكرمة عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلموا مما رزقكم الله حلالا طيبا

۲۸۴۵- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن يوسف نا اسراييل نا ابواسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب انه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في البقرة يسئالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير الاية فدعى عمر فقراة عليه قال اللهم بين لنا في

انہوں نے دوبارہ وہی دعا کی تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ الآية (یعنی اے
 ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ) پھر عمرؓ کو بلا کر یہ
 آیت سنائی گئی۔ لیکن انہوں نے اس مرتبہ بھی وہی دعا کی اور پھر سورہ
 مادہ کی یہ آیت نازل ہوئی ”انما يريد الشيطان“ الآية (یعنی
 شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے عداوت اور بغض ڈالنا
 چاہتا ہے اس کی چاہت ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک
 رکھے کیا اب تم لوگ باز رہو گے) پھر عمرؓ کو بلا یا گیا اور یہ آیت پڑھ کر
 سنائی گئی تو فرمایا: ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے۔

الْحَمْرُ بَيَانٌ شِفَاءٍ فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي النَّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ فَدَعَىٰ عُمَرُ
 فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانٌ
 شِفَاءٌ فَنَزَلَتْ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَدَعَىٰ عُمَرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ
 فَقَالَ أَنْتَهَيْنَا أَنْتَهَيْنَا

یہ حدیث اسرائیل سے بھی مرسلہ منقول ہے۔ محمد بن علاء، وکیع سے وہ اسرائیل سے وہ ابواسحاق سے اور وہ ابو میسرہ سے نقل
 کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے کہا: یا اللہ ہمارے لئے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما اور پھر اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۸۳۶۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ میں سے ایک شخص تحریم خمر سے
 پہلے فوت ہو گیا۔ جب شراب حرام کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے
 ساتھیوں کا کیا ہوگا وہ لوگ تو شراب پیتے ہوئے مرے تھے۔ پھر یہ
 آیت نازل ہوئی ”لیس علی الذین امنوا“ الآية (جو لوگ
 ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان پر ایسی چیزوں میں کوئی گناہ نہیں جو
 انہوں نے حرمت سے پہلے کھائیں بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہے،
 ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔

۲۸۴۶۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبید اللہ بن موسیٰ
 عن اسرائیل عن أبی إسحاق عن البراء قال مات
 رجل من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل
 أن تحرم الخمر فلما حرمت الخمر قال رجال
 کیف بأصحابنا وقد ماتوا یشربون الخمر فنزلت
 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما
 طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات

یہ حدیث حسن ہے اسے شعبہ بھی ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار یہ حدیث محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ
 ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ براء بن عازبؓ نے فرمایا: صحابہ کرامؓ میں سے کئی آدمی اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے
 چنانچہ جب حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ راوی کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔

۲۸۴۷۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہؓ
 نے ان لوگوں کے متعلق آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا جو شراب پیتے
 ہوئے فوت ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ”لیس علی
 الذین“ الآية۔

۲۸۴۷۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبد العزیز بن ابی
 رزمة عن اسرائیل عن سماک عن عکرمہ عن ابن
 عباس قال قالوا یارسول اللہ اراکت الذین ماتوا
 وهم یشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر فنزلت
 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما
 طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۴۸۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”لیس علی الدین“..... الآیة نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تم بھی انہی میں ہو۔

۲۸۴۸۔ حدثنا سفیان بن وکیع نا خالد بن مخلد عن علی بن مسهر عن الاعمش عن ابراهیم عن علقمة عن عبد اللہ قال لما نزلت لیس علی الدین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت منهم
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۴۹۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً“..... الآیة اتری (ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لئے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے بشرط یہ کہ اس کے سفر کی طاقت رکھتا ہو) تو صحابہؓ نے پوچھا کہ کیا ہر سال یا رسول اللہ! آپ ﷺ خاموش رہے۔ لوگوں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو فرمایا: نہیں۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا..... الآیة۔ اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہوں۔“

۲۸۴۹۔ حدثنا ابوسعید نا منصور بن وردان عن علی بن عبدالاعلی عن ابيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

۲۸۵۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فلاں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ..... الآیة۔“

۲۸۵۰۔ حدثنا محمد بن معمر ابو عبد الله البصرى نا روح بن عباد نا شعبة اخبرنى موسى بن انس قال سمعت..... أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبى قال أبوك فلان قال فنزلت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۵۱۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ“..... (آیہ یعنی اے ایمان والو! تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا) جب کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو قریب

۲۸۵۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ وَنَهَيْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي

ہے کہ سب کے سب اللہ کے عتاب کے زمرے میں آجائیں۔ ❶
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
 النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ
 أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے گی راوی اسے اسماعیل بن خالد سے اسی کی مانند مروفا نقل کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات اسماعیل سے
 وہ قیس سے اور وہ ابو بکرؓ سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔

۲۸۵۲۔ حضرت ابوامیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں ابو ثعلبہ خشنیؓ کے پاس
 گیا اور پوچھا کہ آپ اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: کون سی
 آیت؟ میں نے عرض کیا: ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ“
 الآية۔ فرمایا: جان لو کہ میں نے اس کی تفسیر بڑے علم رکھنے والے
 سے پوچھی تھی میں نے آنحضرت ﷺ سے اس کی تفسیر پوچھی تو فرمایا:
 بلکہ نیک اعمال کا حکم دو اور برائی سے منع کرو یہاں تک کہ تم ایسا خیال
 دیکھو جس کی اطاعت کی جائے، ہوئے نفسانی کی اتباع کی جانے
 لگے، دنیا کو آخرت پر مقدم کیا جانے لگے اور ہر شخص اپنی رائے کو پسند
 کرنے لگے تو تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو چھوڑ دو اس لئے کہ تمہارے بعد
 ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا اس طرح ہوگا جیسے چنگاری
 ہاتھ میں لینا۔ اس زمانے میں سنت پر عمل کرنے والے شخص کو تم جیسے
 پچاس آدمیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ
 عتبہ کے علاوہ دوسرے راوی یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہؓ نے
 عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر یا ان میں
 سے پچاس کے برابر؟ فرمایا: تم میں سے۔

۲۸۵۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ ثنا عبد الله
 بن المبارك نا عقبه بن ابى حكيم نا عمرو بن جارية
 اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال آتيت أبا ثعلبة
 الخشنى فقلت له، كيف تصنع فى هذه الآية قال آية
 آية قلت قوله، تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت
 عنها خبيراً سألت عنها رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال بل اتعمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر
 حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة
 وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك
 ودع العوام فإن من ورآئكم أئاماً الصبر فيهن مثل
 القبض على الحمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين
 رجلاً يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن المبارك
 وزادنى غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين مناً
 أو منهم قال لا بل أجر خمسين رجلاً منكم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۵۳۔ حضرت تمیم داریؓ اس آیت ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ
 بَيْنَكُمْ“ الآية (یعنی اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی مرنے
 لگے تو اس کی وصیت کے لئے دو گواہوں کی گواہی معتبر ہے) کے متعلق
 کہتے ہیں کہ اس سے میرے اور عدی بن بداء کے علاوہ وہ سب لوگ
 بری ہو گئے۔ یہ دونوں اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے اور شام آتے
 جاتے رہتے تھے ایک مرتبہ وہ دونوں تجارت کے لئے شام گئے تو بنو سہم

۲۸۵۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
 الْحِرَانِي نا محمد بن سلمة الحمراني نا محمد بن
 اسحاق عن ابى النصر عن باذان مولى ام هانى عن
 ابى عباس عن تميم الدارى فى هذه الآية يا أيها
 الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
 قال برئ الناس منها غيرى وغير عدي بن بداء

❶ اس حدیث کی تفسیر پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

وَكَانَا نَصْرَانِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
فَاتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتَيْهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلَى لَبْنِي
سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ بِتِجَارَةٍ وَمَعَهُ جَامٌ
مِنْ فِضَّةٍ يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عَظُمُ تِجَارَتِهِ فَمَرَضَ
فَأَوْطَى إِلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَبْلِغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ قَالَ
تَمِيمٌ فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِالْفِ
دِرْهِمِ ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَاءٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا إِلَى
أَهْلِهِ رَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَقَدَّ الْجَامَ فَسَأَلُونَا
عَنْهُ فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ قَالَ
تَمِيمٌ فَلَمَّا اسْتَلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ تَأَمَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاتَيْتُ
أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبْرَ وَأَدَيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِائَةِ
دِرْهِمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا فَاتُوا بِهِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ
يَجِدُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يَعْظُمُ بِهِ عَلَى أَهْلِ
دِينِهِ فَحَلَفَ فَانزَلَ اللَّهُ بِآيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً
بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يَحَافُوا
أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ
وَرَجُلٌ آخَرٌ فَحَلَفَا فَتَرَعَتِ الْخَمْسُ مِائَةَ دِرْهِمٍ مِنْ
عَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ

مولیٰ بدیل بن ابی مریم ان کے پاس تجارت کی غرض سے آیا۔ ان کے
پاس چاندی کا ایک جام تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ پیالہ بادشاہ کی خدمت میں
پیش کرے وہ اس کے مال میں بڑی چیز تھی۔ پھر وہ بیمار ہو گیا اور دونوں
کو وصیت کی اس کا ترکہ اس کے گھر والوں کو پہنچادیں۔ تمیم کہتے ہیں:
جب وہ مر گیا تو ہم نے وہ جام ایک ہزار درہم کے بدلے میں فروخت
کر دیا اور رقم میں نے اور عدی بن بداء نے آپس میں تقسیم کر لی۔ جب
ہم واپس آئے تو اس کے گھر والوں کو اس کی چیزیں لوٹادیں ان لوگوں
نے جام نہیں پایا تو ہم سے اس کے متعلق پوچھا۔ ہم نے جواب دیا کہ
اس نے یہی کچھ چھوڑا تھا اور ہمیں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں
دی۔ تمیم کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کی آمد کے بعد میں مسلمان
ہو گیا تو اس گناہ کا خوف دل میں اٹھا اور میں اس کے گھر والوں کے
پاس گیا انہیں قصہ سنایا اور پانچ سو درہم ادا کر دیئے پھر انہیں بتایا کہ
میرے ساتھی کے پاس بھی اتنی ہی رقم ہے۔ وہ لوگ عدی کو لے کر
آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے گواہ
طلب کئے جو کہ ان کے پاس نہیں تھے پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ
عدی سے اس کے دین کی عظیم ترین چیز کی قسم لیں اس نے قسم کھالی اور
پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ
سے ”ان ترد ایمان بعد ایمانہم“ تک۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور
ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ پیالہ بدیل کے پاس تھا اور
عدی جھوٹا ہے تو عدی بن بداء سے پانچ سو درہم چھین لئے گئے۔

یہ حدیث غریب ہے اس کی سند صحیح نہیں۔ محمد بن اسحاق سے نقل کرنے والے راوی ابو نصر کا نام محمد بن سائب کلبی ہے۔ علماء
نے ان سے احادیث نقل کرنا ترک کر دیا ہے۔ تفسیر میں مشہور کلبی یہی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ محمد بن سائب کی کنیت ابو نصر ہے ہم
سالم بن ابی نصر کی ام ہانی کے مولیٰ ابوصالح سے منقول کوئی حدیث نہیں جانتے۔ اس روایت سے ابن عباس سے مختصراً تھوڑی سی حدیث
منقول ہے۔

۲۸۵۴۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک شخص تمیم داری
اور عدی بن بداء کے ساتھ نکلا اور ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں
تھا۔ جب وہ دونوں اس کا مال لے کر آئے تو اس میں سے سونے کے
جزاؤ والا چاندی کا پیالہ غائب پایا گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے تمیم اور

۲۸۵۴۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم
عن ابن ابى زائدة عن محمد بن ابى القاسم عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس
قال خرج رجل من بني سهم مع تميم والداري

عدی کو قسم کھلائی تھوڑے عرصے بعد وہی پیالہ مکہ میں پایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عدی اور تمیم سے خریدا ہے پھر بدیل سہمی کے وارثوں میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور یہ کہ جام ان کے آدمی کا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے متعلق نازل ہوئی۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ“..... الآية ۱

وَعَدِيُّ بْنُ بَدَاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بَتَرَكَتِهِ فَقَدُوا حَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدُوا الْحَامَ بِمَكَّةَ فَقِيلَ اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَا رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَأَنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور وہ ابن ابی زائدہ کی حدیث ہے۔

۲۸۵۵۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ آسمان سے ایسا دسترخوان نازل کیا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لئے نہ رکھیں لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لئے بھی رکھا۔ چنانچہ ان کے چہرے مسخ کر کے بندروں اور خنزیروں کی صورتیں بنا دی گئیں۔

۲۸۵۵۔ حدثنا الحسن بن قزعة البصرى نا سفيان بن حبيب ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت المائدة من السماء حنبراً وحنماً وأمرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدْجِرُوا لِعَدِ فَخَانُوا وَادْخَرُوا وَرَفَعُوا لِعَدِ فَمَسَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

اس حدیث کو ابو عاصم اور کنی راوی سعید بن ابی عروبہ سے وہ قتادہ سے وہ خلاص سے اور وہ عمار سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ ہم اسے حسن بن قزعم کی سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے۔ حمید بن مسعد بھی یہ حدیث سفیان بن حبیب سے اور وہ سعید بن ابی عروبہ سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں اور اس سے زیادہ صحیح ہے۔ مرفوع حدیث کی کوئی اصل نہیں۔

۲۸۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حجت سکھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قول میں اسی کی تعلیم دی ہے کہ ”واذ قال الله يا عيسى ابن مريم“..... الآية (یعنی اور جب اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ہی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ آپ اور آپ کی والدہ کو معبود بنائیں ابو ہریرہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

۲۸۵۶۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجتته، فللقاه الله في قوله، واذ قال يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فللقاه الله سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي

۱۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۱۰۶ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو! اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آچنچے تو تم میں سے اس کی وصیت کے بارے میں دو شخصوں کی گواہی معتبر ہے۔ وہ دو شخص دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا پھر کسی اور قوم کے دو شخص ہیں (اور یہ جب سے کہ تم کسی سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آئے۔ پھر اگر تمہیں شبہ ہو تو انہیں نماز کے بعد روک لو اور پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابتدار بھی ہو تا اور اللہ کی بات کو ہم پویشیدہ نہیں کریں گے اور ایسا کرنے میں سخت گناہگار ہوں گے۔ (مترجم)

بِحَقِّ الْآيَةِ كُلِّهَا

انہیں اس کا جواب اس طرح سکھایا کہ وہ عرض کریں گے
”سبحانک“..... الآیہ (یعنی پاک ہے تیری ذات میں کیسے ان
لوگوں کو ایسی چیز کا حکم دے سکتا ہوں جو میرا حق نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۵۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر آخر
میں نازل ہونے والی سورتیں سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہیں۔
یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آخری نازل
ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔

۲۸۵۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حِي
عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةِ اَنْزَلَتْ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ وَالْفَتْحِ

باب ۱۵۴۷۔ وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

باب ۱۵۴۷۔ سورہ الانعام
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
۲۸۵۸۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے آنحضرت ﷺ سے کہا
کہ ہم آپ ﷺ کو نہیں جھٹلاتے ہم تو اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ ﷺ پر
نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”فانہم
لا یکذبونک“..... الآیہ (یعنی وہ لوگ آپ ﷺ کو نہیں جھٹلاتے
بلکہ ظالم اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔

۲۸۵۸۔ حَدَّثَنَا اَبُو كَرِيْبٍ نَا معاوية بن هشام عن
سفيان عن ابى اسحاق عن ناجية بن كعب عن
عليّ اَن اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا
لَا نَكْذِبُكَ وَلَكِنْ نَكْذِبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ
يُحَدِّثُوْنَ

اخفق بن منصور بھی عبدالرحمن بن مہدی سے وہ سفیان سے وہ ابواسحاق سے وہ ناجیہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ابو جہل نے
آنحضرت ﷺ سے کہا اور اسی کی مانند حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں حضرت علیؓ کا ذکر نہیں۔ یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔

۲۸۵۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَمْرٍو سَفِيَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
دِيْنََارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ اَوْ يَلْبِسُكُمْ
شَيْعًا وَيُذِيْقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ هَاتَانِ اَيْسَرُ

۲۸۵۹۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل
ہوئی ”قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ“..... (ترجمہ: اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے کہ وہ (پروردگار)
اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے تم پر
عذاب بھیج دے (تو آنحضرت ﷺ نے کہا: میں تیرے چہرے کی پناہ
میں آتا ہوں۔ پھر یہ الفاظ نازل ہوئے ”اَوْ يَلْبِسُكُمْ شَيْعًا وَيُذِيْقُ
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ“ (ترجمہ: یا پھر تمہیں گروہ گروہ کر کے سب کو
آپس میں لڑا دے۔ اور ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑائی (کا مزہ) چکھا
دے) جب آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں پہلے والی سے آسان

ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ ”اہون“ فرمایا، یا ”ایسر“۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۶۰۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آنحضرت ﷺ سے اس آیت ”قل هو القادر علی ان یبعث“..... الایۃ کی تفسیر میں فرمایا: کہ جان لو یہ عذاب ابھی تک آیا نہیں بلکہ آنے والا ہے۔

۲۸۶۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نَا إِسْمَاعِيلَ عِيَّاشَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِي عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ نَاوِيْلُهَا بَعْدُ

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۸۶۱۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جب ”ولم یلیسوا ایمانہم بظلم“..... لآیۃ۔ ترجمہ: (جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتحمس نہیں کیا) نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر شاق گزرا۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے یہ ظلم مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی کہ: بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس لئے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔

۲۸۶۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ الْبِمِ تَسْمَعُوا مَا قَال لِقَمَانٍ لِأَبْنِهِ يَا بَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۶۲۔ مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا: ابو عائشہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ا: کہ اگر کوئی شخص کبھی کہ محمد (ﷺ) نے (شب معراج میں) اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”لا تدركه الابصار“..... لآیۃ (یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں البتہ وہ تمام آنکھوں کی قوت باصرہ کا ادراک رکھتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے)۔ پھر فرماتے ہیں۔ ”وما کان لبشر“..... لآیۃ (یعنی کوئی بشر اس سے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے ہی سے بات کر سکتا ہے) راوی کہتے ہیں میں تکبیر لگائے بیٹھا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا: اے ام

۲۸۶۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا إِسْحَاقَ بْنَ يَوْسُفَ الْأَزْرَقِ نَا دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مَتَكِّمًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكُنْتُ مَتَكِّمًا فَحَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجِلِينِي أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدْ

المؤمنین مجھے مہلت دیجئے اور جلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ”ولقد راہ نزلۃ اخری“ (یعنی بے شک محمد ﷺ) نے اسے دوبارہ دیکھا کبیز فرمایا ”ولقد راہ بالافق المبین“ (یعنی بے شک محمد ﷺ) نے اسے آسمان کے کنارے پر واضح دیکھا! حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں نے سب سے پہلے آنحضرت ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: وہ جبرائیل تھے۔ میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں صرف دوبرہ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم نے آسمان وزمین کے درمیان کی پوری جگہ کو گھیر لیا۔ ۲: اور جر نے یہ سوچا کہ محمد ﷺ نے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز چھپالی اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”يَأَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ“..... (یعنی اے رسول جو آپ کے رب نے آپ ﷺ پر نازل کیا ہے اسے پورا پہنچا دیجئے۔ ۳: اور جس نے کہا کہ محمد ﷺ کل کے متعلق جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ“..... (یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی علم نہیں جانتا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مروی بن اجدع کی کنیت ابو عاتشہ ہے۔

۲۸۶۳- حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ چند لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم جس چیز کو قتل کریں اسے کھائیں اور جسے اللہ نے مار دیا ہو اسے نہ کھائیں۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں ”فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“..... (یعنی تم وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو۔)

۲۸۶۳- حدیثنا محمد بن موسیٰ البصری الحرشی نا زیاد بن عبد اللہ البکائی نا عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن عبد اللہ بن عباس قال اثنی ناس النبى صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اناكل ما نقتل ولا ناكل ما يقتل الله فانزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باليه مؤمنين الى قوله وان اطعمتموهم انكم لم مشركون

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ایک اور سند سے بھی ابن عباسؓ سے منقول ہے بعض حضرات اسے عطاء بن سائب سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

• یہاں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کا مارا ہوا یعنی مردار اس لئے نہیں کھاتے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور خود ذبح کیا ہو اس لئے کھاتے ہو کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ پھر انہی آیات میں آگے چل کر فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسے دوسے ڈالتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں۔ لہذا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۲۸۶۳۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جسے ایسے صحیفے کو دیکھنے کی چاہت ہو جس پر محمد (ﷺ) کی مہر ثبت ہو تو یہ آیات پڑھ لے "قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے لعلکم تتقون" تک۔ ترجمہ: اے محمد (ﷺ) کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارا رب نے تم پر حرام فرمایا ہے۔

۲۸۶۴۔ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي نا محمد بن فضيل عن داود الاودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال من سره ان ينظر الى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله لعلكم تتقون

وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو (کیونکہ) ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ اور جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو ہاں البتہ حق پر ہو تو۔ (اللہ) تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ تاکہ تم سمجھو۔ نیز یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں البتہ مستحسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور ناپ تول پورا پورا کرو اور انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اگر تم بات کرو تو انصاف کی کرو خواہ وہ قرا بدار ہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا تاکید احکم اس لئے کرتے ہیں کہ تم یاد رکھو اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے اسی پر چلو دوسری راہوں پر مت چلو کیونکہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید ہی حکم دیا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو (احتیاط کرو) سورہ انعام ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳۔

۲۸۶۵۔ حضرت ابوسعیدؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے "او یاتی بعض آیات ربک" (یعنی یا تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آجائیں) کی تفسیر کے متعلق فرمایا کہ ان نشانوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

۲۸۶۵۔ حدثنا سفیان بن وکیع نا ابی عن ابن ابی لیلی عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالیٰ او یاتی بعض آیات ربک قال طلوع الشمس من مغربها

یہ حدیث غریب ہے۔ بعض حضرات یہ حدیث مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

۲۸۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں نکلنے کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دجال، دابة الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔

۲۸۶۶۔ حدثنا عبد بن حميدنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن ابی حازم عن ابی هريرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث اذا خرجن لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل الآیة الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها او من المغرب یہ حدیث صحیح ہے۔

۲۸۶۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کی بات سچی ہے کہ جب میرا

۲۸۶۷۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی هريرة أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دابة الارض کی تفصیل ابواب حفتہ القیامتہ میں مذکور ہے۔ مترجم۔

بدھ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو پھر اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کے دس گنا نیکیاں لکھ دو لیکن اگر کسی برائی کی نیت کرے تو اسے اس وقت تک نہ لکھو جب تک وہ نہ کہنے لے اور پھر ایک ہی برائی لکھو اور اگر وہ اس برائی کو چھوڑ دے یا کبھی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس برائی پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“ (یعنی جو ایک نیکی لائے گا اس کے لئے دس گنا ثواب ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

یہ حدیث صحیح ہے۔

باب ۱۵۴۸۔ وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۸۶۸۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى قال فساخت الجبل وخر موسى ضعفا

باب ۱۵۴۸۔ سورہ اعراف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲۸۶۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”فلما تجلجى ربه للجبل جعله دكا“ (یعنی جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا) حماد کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی نوک اپنی انگلی پر رکھی اور فرمایا: پھر پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں یہ حدیث عبد الوہاب وراق بھی معاذ بن معاذ سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ثابت سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۸۶۹۔ حضرت مسلم بن یسار چہنیؓ کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی ”واذ اخذ ربك“..... لآیۃ (ترجمہ: اور جب آپ ﷺ کے رب نے انسانوں کی بیٹیوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان پر گواہ کیا اور فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم یہ گواہی اس لئے لے رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو عادل تھے۔) چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد نکالی پھر فرمایا: کہ میں نے انہیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے یہ لوگ

۲۸۶۹۔ حدثنا الانصاري نا معن نا مالك بن انس عن زيد بن ابى انيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من نبي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله

اسی کے لئے عمل کریں گے پھر ہاتھ پھیرا اور اولاد نکال کر فرمایا کہ انہیں میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے یہ اسی کے لئے عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اسے جنت ہی کے اعمال میں لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اہل جنت ہی کے اعمال پر مرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی بندے کو جہنم کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی اسی کے مطابق کام لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل دوزخ ہی کے عمل پر مرتا ہے اور پھر اسے دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ اَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَفِيْمَ الْعَمَلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ اللّٰهُ النَّارَ

یہ حدیث حسن ہے اور مسلم بن یسار کو عمرؓ سے سنا نہیں۔ بعض راوی مسلم اور عمرؓ کے درمیان ایک شخص کو ذکر کرتے ہیں۔

۲۸۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدمؑ کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر انکی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ان کی نسل کی رو جس نکل آئیں۔ پھر ہر انسان کی پیشانی پر نور کی چمک رکھ دی۔ پھر انہیں آدمؑ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے پوچھا: اے رب یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ آپ کی اولاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا: یہ آپ کی اولاد میں سے آخری امتوں کا ایک فرد ہے اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا اے اللہ اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فرمایا: ساٹھ برس، آدمؑ نے کہا اے اللہ اس کی عمر مجھ سے چالیس سال زیادہ کر دیجئے۔ پھر جب آدمؑ کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت آئے۔ آدمؑ نے ان سے پوچھا کہ کیا میری عمر کے چالیس برس باقی نہیں ہیں انہوں نے کہا وہ تو آپ اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر آدمؑ نے انکار کر دیا لہذا ان کی اولاد بھی مکر نے لگی۔ آدم بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔

۲۸۷۰۔ حدثنا عبد بن حمید نا ابو نعیم نا هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة وجعل بين عيني كل انسان منهم ويصا من نور ثم عرضهم على ادم فقال اى رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه ويص ما بين عينيه فقال اى رب من هذا قال هذا رجل من احرار الامم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال اى رب زده من عمري اربعين سنة فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال اولم يبق من عمري اربعون سنة قال اولم تعطها لابنك داود قال فاحمد ادم فاحمدت ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته وخطي

آدم نے غلطی کی لہذا ان کی اولاد بھی غلطی کرنے لگی۔

آدَمُ فَخَطَبَتْ ذُرِّيَّتَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ ہی کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

۲۸۷۱۔ حدثنا محمد بن المثنى نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن بن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها ايليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميت عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وامره

۲۸۷۱۔ حضرت سمرہ بن جندبؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حوا حاملہ ہوئیں تو ایلیس ان کے پاس آنے لگا۔ ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا اس نے کہا کہ بیٹے کا نام عبد الحارث رکھیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ زندہ رہا۔ نیز یہ شیطان کی طرف سے تھا اور اس کے حکم سے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عمر بن ابراہیم کی قنادہ سے روایت سے جانتے ہیں۔ بعض حضرات اسے عبد الصمد سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

باب ۱۵۳۹۔ سورۃ انفال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۸۷۲۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں تلوار لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے مشرکین سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، یا اسی طرح کچھ کہا۔ یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ نہ میرا حق ہے نہ تمہارا۔ میں نے دل میں سوچا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایسے شخص کو مل جائے جو میرے جیسی آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو پھر میرے پاس آپ ﷺ کا قاصد آیا اور کہا کہ تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی اس وقت یہ میری نہیں تھی لیکن اب میری ہو گئی ہے لہذا یہ تمہاری ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی ”یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِنْفَالِ“..... (یعنی یہ آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ نیز اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔“

باب ۲۸۴۹۔ وَمِنْ سُورَةِ الْاِنْفَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۸۷۲۔ حدثنا ابو كريب نا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مضعب بن سعد قال لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدرى من المشركين او نحو هذا هب لى هذا السيف فقال هذا ليس لى ولا لك فقلت عسى ان يعطى هذا من لا يبلى بلائى فجاى نبي الرسول انك سالتنى وليس لى وانه قد صار لى وهو لك قال فنزلت يسألونك عن الانفال الآية

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے سہاک بھی مصعب سے روایت کرتے ہیں اور اس باب میں عبادہ بن صامت سے بھی روایت ہے۔

۲۸۷۳۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کفار کے لشکر کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار کی تعداد میں تھے جب کہ آپ

۲۸۷۳۔ حدثنا محمد بن بشار نا عمر بن يونس اليمامى نا عكرمة بن عمار نا ابو زميل ثنى عبد الله

ﷺ کے ساتھ تین سو دن اور چند آدمی تھے۔ پھر آپ ﷺ نے قبلے کی طرف منہ کی اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کو پکارنے لگے۔ "اے اللہ وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا تھا پورا کر دے۔ اے اللہ! اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ اتنی دیر تک قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ آپ ﷺ کی چادر شانوں سے گر گئی۔ پھر ابو بکرؓ آئے اور چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈال دی پھر پیچھے سے آپ ﷺ کو لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ﷺ کا اپنے رب کے سامنے عرض کرنا کافی ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ "اذتستغيثون ربكم".....
 لآية (جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ جو سلسلہ وار چلے آئیں گے) پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں سے مدد کی۔
 یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عکرمہ بن عمار کی ابو زمیل سے روایت سے جانتے ہیں۔ ابو زمیل کا نام سماک حنفی ہے یہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔

۲۸۷۴۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له عليك العير ليس دونها شئ قال فناداه وهو في وثاقه لا يصلح وقال لانا لله وعدك احدى الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك قال صدقت
 یہ حدیث حسن ہے۔

۲۸۷۵۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لئے دو امان کی چیزیں نازل کی ہیں "وما كان الله يستغفرون" تک (۱۔ ایک یہ آپ ﷺ کی موجودگی میں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ۲۔ یہ کہ اگر یہ لوگ مغفرت مانگتے ہوں گے تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔) لہذا جب میں چلا جاؤں گا تو استغفار کو قیامت تک کے لئے چھوڑ جاؤں گا۔

بن عباس ثنی. عمر بن الخطاب قال نظر نبي الله الى المشركين وهم ألف واصحابه، ثلث مائة وبضعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مَدَّ يديه وجعل يهتف بربه اللهم انجز لي وما وعدتني اللهم انك ان تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام لا تعبد في الارض فما زال يهتف بربه ما مَدَّ يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكببيه فاتاه ابو بكر فاخذ رداؤه، فالقاه على منكببيه ثم التزمه، من ورائه وقال يانبي الله كفناك مناشدتك ربك فانه سينجر لك ما وعدك فانزل الله تبارك وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالفي من الملائكة مردفين فامدهم الله بالملائكة

۲۸۷۵۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابن نمير عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن ابي بردة بن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله على امانين لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم

الِاسْتِغْفَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے اور اسماعیل بن ابراہیم ضعیف ہے۔

۲۸۷۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا وكيع عن اسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يُسمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَضَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ آلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرُّمِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ آلا إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ وَتَسْتَكْفُونَ الْمَوْتَةَ فَلَا يُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهُو بِأَسْهَامِهِ

۲۸۷۶۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منبر پر یہ آیت پڑھی "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" (یعنی کافروں کے مقابلے کے لئے جہاں تک ہو سکے ایک قوت تیار کرو۔) پھر تین مرتبہ فرمایا: جان لو کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر فتوحات عطا کرے گا پھر تم لوگ محنت و مشقت سے محفوظ ہو گے۔ لہذا تیر اندازی میں سستی نہ کرنا۔

بعض راوی یہ حدیث اسامہ بن زید سے وہ صالح بن کيسان سے اور وہ عقبہ بن عامر سے نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

صالح بن کيسان نے عقبہ بن عامر کو نہیں پایا۔ ہاں ابن عمر کو پایا ہے۔

۲۸۷۷۔ حدثنا عبد بن حميد اخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجل الغنائم لاحد سود الرء وس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتاكلها قال سليمان الاعمش فمن يقول هذا الا ابوهريرة الا ان فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل ان تجل لهم فانزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم

۲۸۷۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: تم سے پہلے کسی انسان کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کے علاوہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ بدر کے موقع پر وہ لوگ مال غنیمت حلال ہونے سے پہلے ہی اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لولا کتاب"..... لآیۃ۔ (اگر مال غنیمت کو تم لوگوں پر حلال کرنے کا فیصلہ پہلے سے نہ کر لیا گیا ہوتا تو تمہیں اس پر عذاب عظیم دیا جاتا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۷۸۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم بدر وجيء بالاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتقولون في هولاء الاسارى قد كثر في الحديث قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتلن احد منهم الا ببداء او ضرب عنق فقال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله الا سهل بن بيضاء فانى

۲۸۷۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کو لایا گیا تو آپ ﷺ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ تم لوگوں کی ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں طویل قصہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی فدیہ دیے بغیر یا گردن دیے بغیر نہیں چھوٹ سکے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا: سہیل بن بیضاء کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ ﷺ خاموش رہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے خود کو اس دن سے زیادہ کسی دن خوف میں مبتلا نہیں دیکھا کہ خواہ مجھ پر

آسمان سے پتھر برسنے لگیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بھل بن بیضاء کے علاوہ۔ پھر عمرؓ کے قول کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ ماکان لنبیؐ۔ (آیہ (ترجمہ: نبی کی شان کے اذق نہیں کہ ان کے قیدی اس وقت تک زمین پر باقی رہیں کہ اچھی طرح خوزیری نہ کر لیں۔)

سَمِعْتُهُ يُذَكِّرُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا رَأَيْتَنِي فِي يَوْمٍ أَخَوْفَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سُهَيْلُ بْنُ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ يَقُولُ عُمَرُ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى جَنَّتِي يُنَجِّنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ

یہ حدیث حسن ہے اور ابو عبیدہ بن عبد اللہ کا ان کے والد سے سماع ثابت نہیں۔

باب ۱۵۵۰۔ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

باب ۱۵۵۰۔ سوره توبه

۲۸۷۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفانؓ سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال (جو کہ مثنائی ۱ میں سے ہے) کو سورہ براءۃ سے متصل کر دیا ہے جو کہ مبین ۳ میں سے ہے۔ اور ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی۔ پھر تم نے انہیں سبع طویل میں لکھ دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ پر جب زمانہ گزرنا اور گنتی کی سورتیں نازل ہوتیں تو جب کوئی چیز نازل ہوتی تو کاتبوں میں سے کسی کو بلا تے اور اسے کہتے کہ یہ آیات اس سورت میں لکھو جس میں ایسے ایسے مذکور ہے۔ پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں لکھو۔ چنانچہ سورہ انفال مدینے میں شروع ہی کے ایام میں نازل ہوئی اور سورہ براءۃ خری سورتوں میں سے ہے اور اس کا مضمون اس سے مشابہ ہے۔ چنانچہ میں نے گمان کیا کہ یہ اسی کا حصہ ہے اور پھر آنحضرت ﷺ نے وفات تک ہمیں اس کے متعلق نہیں بتایا کہ یہ اس کا حصہ ہے لہذا میں نے ان دونوں کو ملادیا اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور اسی وجہ سے انہیں سبع طویل میں لکھا ہے۔

۲۸۷۹۔ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر بن ابى عدى وسهل بن يوسف قالوا نا عوف بن ابى جميله ثنى يزيد الفارسى عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى انفال وهى من المثنائى والى براءه وهى من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطويل ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هولاء الآيات فى السورة التى يذكرو فيها كذا وكذا فاذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكرو فيها كذا وكذا وكانت انفال من أوائل ما نزلت بالمدينه وكانت براءه من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها

۱ مثنائی وہ سورتیں ہیں جو سو سے زیادہ آیتوں والی سورتوں سے چھوٹی ہیں۔ (مترجم) ۳ مبین سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کی آیات سویا اس سے زیادہ ہیں۔ (مترجم)

فَطَنَنْتُ أَتَّهَا مِنْهَا فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبِينْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف عوفؓ کی روایت سے جانتے ہیں وہ یزید فارسی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عباسؓ سے، اور یزید تابعی ہیں اور بصری ہیں۔ نیز یزید بن ابان رقاشی بصری بھی تابعی ہیں اور یزید فارسی سے چھوٹے ہیں۔ یزید رقاشی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔

۲۸۸۰۔ حضرت عمرو بن احوص فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنے کے بعد نصیحت کی پھر خطبہ دیا اور فرمایا: کون سادان ہے جس کی حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ (تین مرتبہ یہی سوال کیا) لوگوں نے جواب دیا حج اکبر کا دن یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس شہر اور اس مینے میں۔ جان لو کہ کوئی جنایت کرنے والا اپنے علاوہ کسی پر جنایت نہیں کرتا۔ ❶ کوئی والد اپنے بیٹے پر اور کوئی بیٹا اپنے والد پر جنایت نہیں کرتا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز حلال سمجھے، جان لو کہ زمانہ جاہلیت کے سب سود باطل ہیں اور صرف اصل مال ہی حلال ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں البتہ عباس بن عبدالمطلب کا سود اور اصل دونوں معاف ہیں۔ پھر جان لو زمانہ جاہلیت کا ہر خون معاف ہے۔ پہلا خون جسے ہم معاف کرتے اور اس کی قصاص نہیں لیتے حارث بن عبدالمطلب ❷ کا خون ہے۔ وہ قبیلہ بنو لیت کے پاس رضاعت (دودھ پینے) کے لئے بھیجے گئے تھے کہ

۲۸۸۰۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأخص عن شيب بن غرقدة عن الأوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال فإن إيمانكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الأيمن جان إلا على نفسه ولا يحنى والد على ولده ولا ولد على والده إلا إن المسلم أحو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل من نفسه الآ وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله إلا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبدالمطلب كان مسترضعا في بني لبي فقتلته هذيل الآ

❶ یعنی نہ باپ کو بیٹے کے جرم کی سزا دی جاتی ہے اور نہ بیٹے کو باپ کے جرم کی۔ نیز جو شخص کوئی جرم کرتا ہے اس کا عذاب اسی کے لئے ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اپنے اوپر جنایت کر رہا ہے۔ (مترجم) ❷ اس حدیث میں حارث بن عبدالمطلب کے مقتول ہونے کا اور بخاری کی حدیث میں ربیعہ بن حارث کا ذکر ہے اور مشکوٰۃ میں ابن ربیعہ بن حارث کا اور بھی صحیح ہے۔ ظہور کہتے ہیں کہ اس کا نام ایسا تھا اور وہ ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ اسے بنو سعد اور بنو لیت کے درمیان لڑائی کے دوران پتھر لگ گیا تھا جس سے اس کی وفات واقع ہو گئی اور ربیعہ بن حارث صحابی ہیں۔ (مترجم)

انہیں ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ خردار: عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم ان کی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے۔ بجز اس کے کہ اگر وہ کھلی ہوئی ذواہش کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ہلکی مار مارو کہ اس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹنے پائے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں کے لئے بہانے تلاش نہ کرو۔ یہ بھی جان لو کہ جیسے تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے اسی طرح ان کا بھی تم پر حق ہے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ ان کے کھانے اور پہننے کی چیزوں میں ان سے عمدہ سلوک کرو۔

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا آلا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ حَقًّا وَلِنِسَاءٍ كُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَمَا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَاءٍ كُمْ فَلَا يُؤْطَأَنَّ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ آلا وَإِنَّ حَقَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ابواوص، شیب سے روایت کرتے ہیں۔

۲۸۸۱۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے حج اکبر کے متعلق پوچھا کہ یہ کس دن ہے تو فرمایا: نحر (قربانی) کے دن (یعنی دس ذوالحجہ کو)۔

۲۸۸۱۔ حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث نا ابی عن ابیہ عن محمد بن اسحاق عن ابی اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ

۲۸۸۲۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے۔

۲۸۸۲۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابی اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ

یہ حدیث پہلے والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ یہ کئی سندوں سے ابواسحق سے منقول ہے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؑ سے موقوف نقل کرتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ محمد بن اسحاق کے علاوہ کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔

۲۸۸۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے براءت حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بھیجی پھر انہیں بلایا اور فرمایا کہ میرے اہل میں سے کسی شخص کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اسے پہنچائے پھر حضرت علیؑ کو بلایا اور انہیں دی۔ ①

۲۸۸۳۔ حدثنا بندار ناعفان بن مسلم و عبدالصمد قالا ناحماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعا فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجلاً من أهلي فدعا علياً فأعطاه إياه

① اس کی تفصیل توضیح آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث انس کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۲۸۸۴۔ حدثنا محمد بن اسماعیل بن سعد بن سلیمان بن عباد بن العوام نا سفین بن الحسين بن الحكم بن عتيبة عن مقيس بن عمار قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابانكروا امره ان ينادي بهؤلاء الكلمات ثم اتبعه عليا فبينما ابوبكر في بعض الطريق اذ سمع رعاة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى فخرج ابوبكر فرعا فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا علي فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر عليا ان ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي ايام التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الارض اربعة اشهر ولا يحجج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا مؤمن وكان علي ينادي فاذا عبي قام ابوبكر فنادى بها

یہ حدیث ابن عباس کی سند سے حسن غریب ہے۔

۲۸۸۵۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان بن عیینة عن اسحاق بن زید بن مبيع قال سألنا عليا باي شيء بعثت في الحجة قال بعثت باربع ان لا يطوفن بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي عهد فهو الي مدته ومن لم يكن له عهد فاجله اربعة اشهر ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ولا يحتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا

یہ حدیث ابو عیینہ کی ابواسحق سے روایت سے حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری کے بعض ساتھی اسے علی سے نقل کرتے ہیں اور وہ

روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

۲۸۸۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق کو براءت کے کلمات دے کر ❶ بھیجا اور حکم دیا کہ (حج) کے موقع پر ان کلمات کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیں۔ پھر حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا۔ ابھی ابوبکر راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی تو یہ سمجھ کر اچانک نکلے تھے آنحضرت ﷺ تشریف لائے ہیں۔ لیکن دیکھا تو وہ حضرت علی تھے انہوں نے ابوبکر کو آنحضرت ﷺ کا خط دیا اس میں حکم تھا کہ ان کلمات کا اعلان علی کریں۔ ❷ پھر وہ دونوں نکلے اور حج کیا۔ ایام تشریق میں حضرت علی کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ ہر مشرک سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ بری الذمہ ہیں اور تمہارے لئے چار ماہ کی مدت ہے کہ اس مدت میں اس زمین پر گھوم پھر لو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی شخص عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے نیز جنت میں صرف مؤمنین ہی داخل ہوں گے۔ حضرت علی اس کا اعلان کرتے اور جب تھک جاتے تو ابوبکر اس کا اعلان کرنے لگتے۔

۲۸۸۵۔ حضرت زید بن مبیع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا اعلان کرنے کا حکم دے کر حج میں بھیجا گیا تھا؟ فرمایا: چار چیزوں کا۔ ۱۔ بیت اللہ کا کوئی شخص عریاں ہو کر طواف نہ کرے۔ ۲۔ جس کا آنحضرت ﷺ سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت معینہ تک قائم رہے گا اور اگر کوئی مدت متعین نہیں تو اس کی مدت چار ماہ ہے۔ ۳۔ یہ کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوں گے۔ ۴۔ یہ کہ مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد (حج میں) جمع نہیں ہوں گے۔

یہ حدیث ابو عیینہ کی ابواسحق سے روایت سے حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری کے بعض ساتھی اسے علی سے نقل کرتے ہیں اور وہ

روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

❶ ان کلمات سے مراد سورہ براءہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ جن میں حکم دیا گیا کہ کسی مشرک سے صلح نہ کی جائے اور حج میں اعلان کر دو۔ (مترجم) ❷ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر کو یہ اعلان کرنے کے لئے بھیج دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کام کے لئے آپ ﷺ کے گھر والوں میں سے کسی شخص کو جانا چاہئے کیونکہ یہ صلح توڑنے کا اعلان ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علی کو بھیج دیا۔ (مترجم)

۲۸۸۶۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص میں مسجد آنے جانے کی عادت دیکھو اس کے ایمان کی کوئی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ** آیت (اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

ابن ابی عمر، عبد اللہ بن وہب سے وہ عمر بن حارث سے وہ دراج سے وہ ابوسیدؓ سے وہ ابوسعیدؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ **يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ** یعنی مسجد میں آنے کا خیال رکھنا اور حاضر ہونا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابویہیم کا نام سلیمان بن عمرو بن عبد الغنواء ہے اور سلیمان بن یہیم تھے۔ ابوسعیدؓ نے ان کی پرورش کی۔

۲۸۸۷۔ حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ جب **«وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ»** آیت (یعنی جو لوگ چاندی اور سونے کو جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے) نازل ہونے پر ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنے کی تو مذمت آگئی ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو وہی جمع کرتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بہترین مال خدا کو یاد کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور مؤمن بیوی ہے جو اسے اس کے ایمان میں مدد دے۔

یہ حدیث حسن ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ سالم بن ابی جعد کو ثوبان سے سنا نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کسی اور کو صحابی سے سنا ہے۔ فرمایا: ہاں جابر بن عبد اللہ اور انسؓ اور پھر کئی صحابہ کا ذکر کیا۔

۲۸۸۸۔ حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فرمایا: عدی اس بت کو اپنے سے دور کر دو۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو سورہ براءہ کی یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا۔ **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا** آیت۔ (یعنی ان لوگوں نے دینی علماء کو اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرانا شروع کر دیا تھا) پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ لوگ ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال سمجھتے اور اسی طرح ان کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو حرام سمجھتے۔

۲۸۸۶۔ حدثنا ابو كريب نارسيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجداً شهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر

۲۸۸۷۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكتُمون الذهب والفضة قال كُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فتتخذهُ فقال أفضلهُ لسان ذاكِرٌ وقلبٌ شاكِرٌ وزوجة مؤمنة تُعينهُ على إيمانه

۲۸۸۸۔ حدثنا حسين بن يزيد الكوفي نا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن اعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن ابي حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي أطرح عنك هذا الوثن وسمعتهُ يقرأ في سورة براءة **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد السلام بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں اور غطیف بن اعین مشہور ہیں۔

۲۸۸۹۔ حدثنا زياد بن ايوب البغدادي نا عفان بن مسلم انا همام انا ثابتٌ عن أنس أن أبابكرٍ حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأنصرنا تحت قدميه فقال يا أبابكر ما ظنك بالثنتين الله ثالثهما

۲۸۸۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مجھے بتایا کہ میں نے غار میں آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ اگر ان کفار میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا۔ تو ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر ان دو آدمیوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہمام ہی سے منقول ہے۔ پھر اسے حبان بن ہلال اور کئی حضرات ہمام سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۸۹۰۔ حدثنا عبد بن حميد قال ثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس قال سمعتُ عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دُعَي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا، وكذا وكذا يعد أيامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسّم حتى إذا كثرت عليه قال أخرج عني يا عمر إني قد خيرت فأخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم إني لو زدت على السبعين غفر له، لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إلى آخر الآية قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافقٍ ولا قام على قبره حتى قبضه الله

۲۸۹۰۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی (منافقوں کا سردار) مرا تو آنحضرت ﷺ کو اس کی نماز جنازہ کے لئے بلایا گیا آپ ﷺ گئے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ ﷺ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اللہ کا دشمن عبد اللہ بن ابی جس نے فلاں دن اس اس طرح کہا پھر عمرؓ اس کی گستاخوں کے دن گن گن کر بیان کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ آپ ﷺ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ لیکن آپ ﷺ مسکراتے رہے پھر جب میں نے بہت کچھ کہا تو فرمایا: عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے اختیار دیا گیا ہے لہذا میں نے یہ اختیار کیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ "استغفر لهم او لا تستغفر لهم" آپ ان کے لئے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشیں گے) اگر میں جانتا کہ میرے ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر اسے معاف کر دیا جائے گا تو یقیناً ایسا ہی کرتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جنازے کے ساتھ گئے یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا گیا۔ عمرؓ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جرأت پر تعجب ہوا لیکن اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ "ولا تصل على احد منهم" (یعنی اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان پر ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھے) حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے وفات تک نہ کسی منافق کی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۹۱۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی مرثد اس کے بیٹے عبد اللہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اپنا کرتہ مجھے عنایت کر دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو کفن دوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے پھر اس کے لئے استغفار بھی کیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے قمیص دی اور فرمایا: کہ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب آنحضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو عمرؓ نے آپ ﷺ کو کھینچ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لئے استغفار کروں یا نہ کروں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں ”ولا تصل علی احد منہم“..... لآیہ لہذا آپ ﷺ نے ان پر نماز پڑھنی چھوڑ دی۔

۲۸۹۱۔ حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله انا نافع عن ابن عمر قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فاذنوني فلما أراذ أن يصلي جديبه عمر قال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين استغفرلهم أولا تستغفرلهم فصلى عليه فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلوة عليهم .

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۹۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان اس بات پر بحث ہو گئی کہ جو مسجد پہلے دن سے تقویٰ پر بنائی گئی ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ ایک کہنے لگا کہ مسجد قبا ہے اور دوسرا کہنے لگا کہ نہیں وہ مسجد نبوی ﷺ ہے۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ وہ یہی میری مسجد ہے۔

۲۸۹۲۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عمران بن أبي انس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد بن الخدری أنه قال تماری رجلاً فی المسجد الذی أسیس علی التقوی من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدی هذا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوسعید سے اس سند کے علاوہ بھی منقول ہے۔ انیس بن یحییٰ اسے اپنی والدہ سے اور وہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں۔

۲۸۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل قبا کے متعلق نازل ہوئی ”فیہ رجال یحبون“..... الآیہ (اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح طہارت حاصل کرنے کو محبوب جانتے ہیں اور اللہ بھی پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں) راوی کہتے ہیں کہ وہ

۲۸۹۳۔ حدثنا ابو کرب نامعاویہ بن هشام نا یونس بن الحارث عن ابراهیم بن ابی میمونہ عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآیة فی اهل قباء فیہ رجال

• آپ ﷺ نے یہ عبد اللہ (جو عبد اللہ بن ابی کے بیٹے اور مؤمن تھے) کی دلجوئی کے لئے کیا۔ نیز یہ آپ ﷺ کے کمال اخلاق پر بھی دلالت کرتا ہے کہ جس نے اتنی مدت اذیتیں دیں اس کے لئے بھی استغفار کر رہے ہیں۔ اسے کرتہ دے رہے ہیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ (متزجم)

لوگ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس باب میں ابویوبؓ، انسؓ اور محمد بن عبداللہ بن سلامؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۸۹۴۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ تم اپنے والدین کے لئے استغفار کر رہے ہو اور وہ مشرک تھے اس نے جواب دیا کہ کیا ابراہیمؑ نے اپنے مشرک والد کے لئے استغفار نہیں کیا۔ جب میں نے یہ قصہ آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ (یعنی جب نبی اکرم ﷺ اور مؤمنین کے شایان شان نہیں کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں)۔

۲۸۹۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعُ نَا سَعْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْخَيْثَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَلَّتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں سعید بن مسیبؓ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

۲۸۹۵۔ حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک تک ہونے والی تمام جنگوں میں میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک تھا سوائے جنگ بدر کے اور آنحضرت ﷺ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والوں سے ناراض نہیں ہوئے تھے کیونکہ آپ ﷺ قافلے کو لوٹنے کے لئے نکلے تھے کہ ۱ قریش اپنے قافلے کی فریاد پر ان کی مدد کے لئے آگے چنانچہ دونوں لشکر بغیر کسی ارادے کے مقابلے پر آگئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا میری جان کی قسم صحابہؓ کے ساتھ حضور ﷺ کی غزوات میں شرکت کی سب سے عمدہ جگہ بدر ہے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میں لیلۃ العقبہ کی جگہ جنگ بدر میں شریک ہوتا ۲ کیونکہ اس سے ہم اسلام پر مضبوط ہو گئے پھر اس کے بعد میں غزوہ تبوک تک کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا اور یہ آنحضرت ﷺ کی آخری لڑائی ہے۔ آپ نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر لیا۔ اور پھر طویل حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں میں (غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد میری توبہ قبول ہونے کے بعد) ۳ آنحضرت

۲۸۹۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ عَزَاةَ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنِ بَدْرِ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْعَيْرَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُعْتَبِينَ لِعَيْبِهِمْ فَالتَقُوا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَسْرَى إِنْ أَشْرَفَ مَشَاهِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا أَجِبُ إِنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةِ عَزَاةَ وَأَذَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱ اس سے مراد ابوسفیان کی قیادت میں شام سے آنے والا تجارت کا قافلہ ہے جسے لوٹنے کی غرض سے آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ سے نکلے لیکن وہ قافلہ بچ نکلا اور کفار کا ایک ہزار کا لشکر جو اس قافلے کو بچانے کے لئے مکہ سے آیا تھا اس سے بدر کے مقام پر سامنا ہو گیا۔ (مترجم) ۲ یعنی ان کے نزدیک لیلۃ العقبہ میں آنحضرت ﷺ کی بیعت میں شریک ہونا جنگ بدر میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ نیز لیلۃ العقبہ وہ رات ہے جس میں مدینہ کے انصار نے مکہ میں آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے مسلمان آپ ﷺ کے گرد جمع تھے اور آپ ﷺ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا کیونکہ آنحضرت ﷺ جب خوش ہوتے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک اسی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں آیا اور آنحضرت ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کعب بن مالک تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ آج کا دن تمہاری زندگی کے تمام ایام میں سب سے بہتر ہے۔ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کی طرف سے یا آپ ﷺ کی طرف سے۔ فرمایا: بلکہ اللہ کی طرف سے پھر یہ آیات پڑھیں ”لقد تاب اللہ علی النبی“..... الآية (یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر اور مہاجرین و انصار کے حال پر توجہ فرمائی جنہوں نے

النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ قَالَ فَاذْطَلَّقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذًا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنْبِرُ كَأَسْتَنْبَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنْبَرَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَبَشِّرُ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِخَيْرٍ يَوْمَ أَنْتَى عَلَيْكَ مِنْذُ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِكَ فَقَالَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ

۱ حضرت کعب بن مالک صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ قصہ مختصر اس طرح ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لہذا ہم نے سوچا کہ آپ ﷺ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون آپ ﷺ کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ پھر یہ جنگ ایسے دنوں میں ہوئی کہ پھل پک رہے تھے اور سایہ خوب تھا۔ میں اسی میں لگا ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے جنگ میں جانے کی تیاری کر لی۔ میں نے بھی جانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ جب جاؤں گا تیاری کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ روانہ ہو گئے اور میں سوچنے لگا کہ ایک روز میں ان کے ساتھ چالوں گا۔ لیکن میں جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر مدینہ میں جس طرف بھی جاتا تو منافقین سے ملاقات ہوتی یا اہل اعذار سے۔ آنحضرت ﷺ کو میرے شریک نہ ہونے کا پتہ تبوک جا کر چلا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو پہلے تو میں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا اور ہر عاقل سے مشورہ کیا۔ لیکن جب آپ ﷺ پہنچ گئے تو میرا یہ خیال جاتا رہا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ بول کر میں کسی صورت نہیں بچ سکتا اور پکارا ارادہ کیا کہ بیع ہی بولوں گا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ..... اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ میں قوی اور مالدار تھا لیکن پھر بھی شریک نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جان لو کہ یہ بیع کہہ رہا ہے۔ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ پھر لوگوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے تاکہ آنحضرت ﷺ کا استغفار تمہارے لئے کافی ہو جاتا۔ لوگوں کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اب دوبارہ جا کر آپ ﷺ سے جھوٹ بولوں۔ پھر میں نے استفسار کیا تو پتہ چلا کہ دو آدمی اور بھی ہیں جن کا حال میری طرح ہے۔ وہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے اور دونوں ہی نیک اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے تمام لوگوں کو ہم تینوں سے بات کرنے سے منع فرمادیا۔ لوگ ہم سے الگ رہنے لگے۔ یہاں تک کہ زمین ہم پر ٹھک ہو گئی اور اسی طرح پچاس راتیں گزریں۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھے روتے رہتے لیکن چونکہ میں جوان تھا اس لئے ٹھکانے بازاروں میں جاتا۔ لوگوں سے بات کرتا اور کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تو دیکھتا کہ آپ ﷺ کے ہونٹ جواب دینے کے لئے ہلے ہیں یا نہیں۔ آپ ﷺ کے قریب نماز پڑھتا اور کن اکھیوں سے دیکھتا۔ پھر جب میں نماز میں مشغول ہوجاتا تو آپ ﷺ میری طرف دیکھتے، لیکن جب میں دیکھتا تو کسی اور طرف دیکھنے لگتے۔ اسی اثناء میں بادشاہ غسان کی طرف سے پیغام ملا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں بہت انعام و اکرام سے نوازاؤں گا۔ میں نے وہ خط جلا دیا۔ پھر چالیس روز بعد ایک قاصد آنحضرت ﷺ کی طرف سے پیغام لایا کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں۔ چنانچہ میں نے اسے میکے بھیج دیا۔ میرے ان دو ساتھیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ لیکن بعد میں ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کے پاس رہنے کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ بہت بوزھے تھے بشرطیکہ وہ ان سے صحبت نہ کریں۔ پھر اس حال میں دس راتیں اور گزریں پھر ایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھی اور کوٹھے پر تھا کہ کسی اعلان کرنے والے نے سلع کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر مجھے خوشخبری دی کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ پھر جس شخص نے آ کر مجھ سے پہلے یہ خوشخبری سنائی میں نے اپنے کپڑے اتار کر پہنا دیئے۔ پھر میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ (باقی قصہ حدیث مذکور میں) (مترجم)

ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا جب ان کے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ ترنزل پیدا ہو گیا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی اور وہ بلاشبہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں) کعب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے متعلق نازل ہوئی "اتقوا اللہ وکونوا"..... الآية (یعنی اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ رہو) پھر کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ)! میری توجہ میں سے ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی راہ میں صدقے کے طور پر دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے لئے غزوہ خیبر میں سے ملنے والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد مجھ پر میری نزدیک اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کیا کہ میں نے اور میرے دونوں ساتھیوں نے آپ ﷺ سے سچ بولا۔ اور جھوٹ بول کر ان لوگوں کی طرح ہلاک نہیں ہو گئے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ نے سچائی میں مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں آزمایا ہوگا۔ میں نے اس کے بعد کبھی قصداً جھوٹ نہیں بولا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔

یہ حدیث اس سند کے علاوہ اور سند سے بھی زہری سے منقول ہے۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک بھی اسے اپنے والد سے اور وہ کعب سے نقل کرتے ہیں اور اس کی سند میں اور بھی نام ہیں یونس بن زید یہ حدیث زہری سے وہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کعب بن مالک سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

۲۸۹۶- حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اہل یمامہ کی لڑائی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا تو عمرؓ بھی وہیں موجود تھے ابو بکرؓ کہنے لگے کہ عمرؓ میرے پاس آئے اور کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے قاریوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری اسی طرح قتل ہوئے تو امت کے ہاتھ سے بہت سا قرآن نہ جاتا رہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: میں کیسے وہ کام کروں جو آنحضرت ﷺ نے نہیں کیا۔ عمرؓ نے عرض کیا: اللہ کی قسم اس میں خیر ہے وہ بار بار مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس چیز کے لئے کھول دیا جس کے لئے عمرؓ کا کھولا تھا اور میں بھی یہ کام انہی کی طرح مناسب سمجھنے لگا۔ زیدؓ کہتے ہیں کہ پھر ابو بکرؓ نے فرمایا: کہ تم ایک عقلمند جوان ہو اور ہم تمہیں کسی چیز میں مجہم

بہم رءُ وُف رَحِيمٍ قَالَ وَفِينَا أَنْزَلْتَ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَخْلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ، أَنَا وَصَاحِبَائِي وَلَا نَكُونُ كَذِبْنَا فَهَلْ كُنَّا كَمَا هَلَكْنَا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصَّدَقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ لِلْكَذِبَةِ بَعْدَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ

۲۸۹۶- حدثنا محمد بن بشارنا عبد الرحمن بن مهدي نا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق ان زيدا بن ثابت قال بعثت الي ابو بكر الصديق مقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ان عمر قد اتاني فقال ان القتل قد استحر بقرآء القرآن يوم اليمامة واني لا اخشى ان استحر القتل بالقرآء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير واني اري ان تأمر بجمع القرآن قال ابو بكر لعمر كيف افعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعي في ذلك حتى شرح الله صدرى للذي

نہیں پاتے پھر تم آنحضرت ﷺ کے کاتب بھی ہو لہذا تم ہی یہ کام کرو۔ زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو اس سے آسان ہوتا۔ میں نے کہا آپ لوگ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو آنحضرت ﷺ نے نہیں کیا۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم یہی بہتر ہے پھر وہ دونوں مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں بھی یہی مناسب سمجھنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پھر میں قرآن جمع کرنے میں لگ گیا۔ چنانچہ میں قرآن کو ایسے پرچے، کھجور کے پتے اور لحاف یعنی پتھر وغیرہ سے جمع کرتا جن پر قرآن لکھا گیا تھا پھر اسی طرح میں لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن جمع کرتا یہاں تک کہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ خزیمہ بن ثابت سے لیا۔ وہ یہاں آیت ہیں "لقد جاءكم رسول من انفسكم"..... الاية آخر آیت تک (یعنی تم لوگوں کے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ جنہیں تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہاری منفعت کے بہت خواہش مند رہتے ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۸۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حدیفہؓ حضرت عثمان بن عفانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اہل عراق کے ساتھ مل کر آذر بیجان اور آرمینیہ کی فتح میں اہل شام سے لڑ رہے تھے۔ پھر حدیفہؓ نے لوگوں کے درمیان قرآن میں اختلاف دیکھا تو حضرت عثمانؓ سے کہا کہ اس امت کی اس سے پہلے خبر لیجئے کہ یہ لوگ قرآن کے متعلق اختلاف کرنے لگیں جیسے کہ یہود و نصاریٰ میں اختلاف ہوا۔ چنانچہ انہوں نے حصہ کو پیغام بھیجا کہ وہ انہیں مصحف بھیج دیں تاکہ اس سے دوسرے نسخوں میں نقل کیا جاسکے۔ پھر ہم آپ کو وہ مصحف واپس کر دیں گے۔ حضرت حصہؓ نے وہ مصحف انہیں بھیج دیا اور انہوں نے زید بن ثابتؓ، سعید بن عاصؓ، عبدالرحمن بن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن زبیر کو مکلف کیا کہ اس مصحف کو اور مصاحف میں نقل کریں۔ پھر تینوں قریشی

شَرَحَ لَهُ، صَدْرُ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَأَنْتَهُمْكَ قَدْ كُنْتَ نَكُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَتَسْبَعُ الْقُرْآنَ قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ قَلَمٌ يَزُلُّ يَرَا جَعْنِي فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ، صَدْرُهُمَا صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَتَسْبَعُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ، مِنَ الرَّقَاعِ وَالْعُسْبِ وَاللِّحَافِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ وَصُدُورَ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ إِحْرَ سُورَةِ بَرَاءَةَ مَعَ خَزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

۲۸۹۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس ان حديفة قدم على عثمان بن عفان وكان يعازي اهل الشام في فتح ارمينية واذربيجان مع اهل العراق فرأى حديفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان يا امير المؤمنين اذرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فارسل الى حفصة ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصحف ثم تردّها اليك وارسلت حفصة الى عثمان بن عفان بالصحف فارسل عثمان الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ
 الزُّبَيْرِ أَنَّ نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ
 لِلرُّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةَ مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ
 ثَابِتٍ فَأَكْتَبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ
 حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عَثْمَانُ
 إِلَى كُلِّ أَقْبَى بِمُصْحَفٍ مِّنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي
 نَسَخُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ
 زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِّنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ
 كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقْرَأُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
 عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ
 فَأَلْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي
 خُزَيْمَةَ فَالْحَقَّتْهَا فِي سُورَتِهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاخْتَلَفُوا
 يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوتِ فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ
 التَّابُوتُ وَقَالَ زَيْدُ التَّابُوتِ فَرَفَعَ اخْتِلَافَهُمْ إِلَى
 عَثْمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ
 قُرَيْشٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
 نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَعَزَلُ
 عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ
 لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيدُ زَيْدُ
 بْنُ ثَابِتٍ وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَا أَهْلَ
 الْعِرَاقِ اكْتُمُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَعَلُّوْهَا
 فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَنْ يُعْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَالْقَوْلُ بِاللَّهِ بِالْمَصَاحِفِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَّغَنِي أَنَّ ذَلِكَ
 كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ بْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِّنْ أَقْضَلِ
 أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں۔

حضرات سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم میں اور زید بن ثابت میں
 اختلاف ہو جائے تو پھر قریش کی زبان میں لکھو۔ کیونکہ یہ انہی کی زبان
 میں نازل ہوا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس مصحف کوئی مصاحف
 میں نقل کر دیا اور پھر علاقے میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ زہری کہتے ہیں
 کہ خارجہ بن زید نے مجھ سے زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ سورہ
 احزاب کی یہ آیت تم ہو گئی جو میں آنحضرت ﷺ سے سنا کرتا تھا کہ
 ”من المؤمنین رجال صدقوا“..... الآية میں نے اسے تلاش کیا
 تو خزیمہ بن ثابت یا ابو خزیمہ کے پاس مل گئی۔ چنانچہ میں نے اسے اس
 کی سورت کے ساتھ ملا دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان لوگوں
 میں لفظ ”تابوت“ اور ”تابوہ“ میں بھی اختلاف ہوا۔ زید تابوہ کہتے
 تھے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عثمانؓ کے پاس گئے تو فرمایا کہ ”تابوت“
 لکھو کیونکہ یہ قریش کی زبان میں اتر ہے۔ زہری عبید اللہ بن عبد اللہ
 بن عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ زید کا قرآن لکھنا ناگوار
 گزرا اور انہوں نے فرمایا: مسلمانو! مجھے قرآن لکھنے سے معزول کیا
 جا رہا ہے اور ایسے شخص کو یہ کام سونپنا جا رہا ہے جو اللہ کی قسم اس وقت کافر
 کی پیٹھ میں تھا جب میں اسلام لایا۔ ان کی اس شخص سے مراد زید بن
 ثابت ہیں۔ اس لئے عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: اے عراق والو تم
 اپنے قرآن چھپالو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی چیز
 چھپائے گا وہ قیامت..... کے دن اسے لے کر اللہ کے سامنے حاضر
 ہوگا (لہذا تم اپنے اپنے مصاحف لے کر اللہ سے ملاقات کرنا) زہری
 کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی یہ بات بڑے
 بڑے صحابہ کو بھی ناگوار گزری۔

باب ۱۵۵۱۔ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۸۹۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا ألم يبعض ووجهنا وينجيننا من النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه

باب ۱۵۵۱۔ سورہ یونس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۸۹۸۔ حضرت صہیب آنحضرت ﷺ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں ”للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ“ (یعنی جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اور اس پر زیادہ) کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ایک وعدہ کر رکھا ہے وہ اب اسے پورا کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہرے روشن کر کے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر کے (اپنا وعدہ پورا نہیں کر دیا، اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: پھر (خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہونے والا) پردہ ہٹا دیا جائے گا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز انہیں عطا نہیں کی ہوگی کہ وہ اس کی طرف دیکھیں۔

یہ حدیث کئی راوی حماد بن سلمہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں سلیمان بن مغیرہ بھی یہی حدیث ثابت سے اور وہ عبد الرحمن سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں اس میں صہیب کے آنحضرت ﷺ سے روایت کرنے کا ذکر نہیں۔

۲۸۹۹۔ ایک مصری شخص سے منقول ہے کہ انہوں نے ابو درداء سے اس آیت ”لهم البشرى فى الحياة الدنيا“ کی تفسیر پوچھی۔ (ترجمہ: ان کے لئے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے) انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس کی تفسیر آنحضرت ﷺ سے پوچھی ہے مجھ سے کسی نے اس کے متعلق نہیں پوچھا، اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تم پہلے شخص ہو جس نے اس کی تفسیر پوچھی ہے۔ اس بشارت سے مراد مؤمن کا نیک خواب ہے جو دیکھتایا اسے دکھایا جاتا ہے۔

۲۸۹۹۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء بن یسار عن رجل من اهل مصر قال سألت ابا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى فى الحياة الدنيا قال ما سألتني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما سألتني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرويا الصالحة يراها المسلم أو ترى له

ابن عمر بھی سفیان سے وہ عبد العزیز سے وہ ابوصالح ثمان سے وہ عطاء بن یسار سے وہ ایک مصری شخص سے اور وہ ابو درداء سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ احمد سے حماد بن زید سے وہ عاصم سے وہ ابوصالح سے وہ ابو درداء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عطاء بن یسار سے روایت نہیں اور اس باب میں عبادہ بن صامت سے بھی روایت ہے۔

۲۹۰۰۔ حضرت ابن عباس آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تو کہنے لگا کہ ”میں ایمان

۲۹۰۰۔ حدثنا عبد بن حميد نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن

مَهْرَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَعْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَقَالَ جِبْرِئِيلُ يَا مُحَمَّدُ لَوْرَأَيْتَنِي وَأَنَا أَخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۰۱۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی نا خالد بن الحارث نا شعبة قال اخبرنی عدی بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان جبرئيل جعل يدس في في فرعون الطين خشية ان يقول لا اله الا الله فيرحمه الله او خشية ان يرحمه

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۰۵۰۲۔ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۰۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن يعلى عن بن عطاء عن وكيع بن حذيس عن عمة ابي رزين قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه، كان في عماء ما تحتها، هواء وما فوقه، هواء وخلق عرشه، على الماء قال احمد قال يزيد العماء اى ليس معه شئ

حماد بن سلمہ بھی اس سند کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ کعب بن حدس سے روایت ہے جب کہ شعبہ، ابو عوانہ اور ہشیم و کعب بن عدس کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۰۳۔ حدثنا ابو كريب نا ابو معاوية عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى يملى ورتما قال يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم

لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔“ جبرائیل نے فرمایا: کاش اے محمد (ﷺ) آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اس کے منہ میں سمندر کا کچھ دھونس رہا تھا تا کہ (اس کے اس قول کی وجہ سے) اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے۔

۲۹۰۱۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل فرعون کے منہ میں مٹی ڈالتے تھے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے سکے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کر دیں۔ یا فرمایا کہ اللہ کے اس پر رحم کرنے کے اندیشے کی وجہ سے۔

باب ۱۵۵۲۔ سورۃ ہود۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۰۲۔ حضرت ابو رزینؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: غلاء میں تھا اس کے اوپر اور پھر اس نے اپنا عرش پانی پر پیدا کیا۔ احمد کہتے ہیں کہ یزید ”عماء“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔

حماد بن سلمہ بھی اس سند کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ کعب بن حدس سے روایت ہے جب کہ شعبہ، ابو عوانہ اور ہشیم و کعب بن عدس کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۰۳۔ حضرت ابو موسیٰؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فرصت دیتے ہیں (کبھی آپ ﷺ یہی بھی ”یمیل“ کی جگہ ”یمیل“ کا لفظ بیان فرماتے تھے) یہاں تک کہ جب اسے پکڑتے ہیں تو پھر ہرگز نہیں چھوڑتے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت

یُفْلِتُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ
طَالِمَةُ الْآيَةِ
پڑھی ”وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ“..... الآية (ترجمہ: اس کی پکڑ ایسی
ہی ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم ہستی والوں کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ بڑی
سخت اور دردناک ہوتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابواسامہ بھی یزید سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے ”یہیملی“ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔
ابراہیم یہ حدیث ابواسامہ سے وہ یزید بن عبداللہ سے وہ اپنے دادا سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے
ہیں۔ اور ”یہیملی“ کا لفظ بیان کرتے ہیں۔

۲۹۰۴۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”فَمِنْهُمْ
شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ“ نازل ہوئی تو میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا
ہم عمل اس چیز کے لئے کرتے ہیں جو لکھی جا چکی ہے یا ابھی نہیں لکھی
گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایسی چیز کے لئے جس سے فراغت
حاصل کی جا چکی ہے اور اسے لکھا جا چکا ہے۔ لیکن ہر شخص کے لئے وہی
آسان ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔

۲۹۰۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي
هو عبد الملك بن عمرو قال نا سليمان بن سفيان عن
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب
قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سالت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يانبي الله فعلى
مانعمل على شئيه قد فرغ منه او على شئيه لم يفرغ
منه قال بل على شئيه قد فرغ منه وجرئت به الاقلام
يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبدالملک کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۰۵۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خدمت اقدس ﷺ میں
حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے شہر کے کنارے ایک عورت
سے بوس و کنار کر لی اور جماع کے علاوہ سب کچھ کیا۔ اب میں آپ
کے سامنے حاضر ہوں میرے بارے میں فیصلہ دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے
اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ چھپایا تھا۔ لہذا تمہیں بھی چاہئے تھا
اسے پردے میں ہی رہنے دیتے۔ آنحضرت ﷺ نے اسے کوئی جواب
نہیں دیا تو وہ شخص چل دیا۔ پھر آپ ﷺ نے کسی کو بھیج کر اسے بلوایا اور
یہ آیات پڑھیں ”اقم الصلوة طرفی“..... الآية (یعنی دن کے
دونوں کناروں) (صبح و شام، اور رات کے وقت نماز قائم کر۔ اس لئے
کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے
لئے ہے) ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اس شخص کے لئے
خاص ہے؟ فرمایا: بلکہ تمام لوگوں کے لئے۔

۲۹۰۵۔ حدثنا قتيبة نا ابو الاحوص عن سماك بن
حرب عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
لنبي عالحت امرأة في اقصا المدينة واني اصبت
منها مادون ان امسها وانا هذا فاقض في ما شئت
فقال له عمر لقد سترتك الله لو سترت على نفسك
فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله عليه
وسلم رجلا فدعا فتلا عليه اقم الصلوة طرفي
النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات
ذلك ذكري للذاكرين الآية فقال رجل من القوم
هدا له خاصة قال بل للناس كافة

● اس سے مراد تقدیر ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسرائیل بھی سماک سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ سماک، ابراہیم سے وہ انسود سے اور وہ عبداللہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ پھر سفیان ثوری بھی سماک سے وہ ابراہیم سے وہ عبدالرحمن سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل حدیث بیان کرتے ہیں یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ پھر محمد بن یحییٰ نسیابوری بھی یہ حدیث سفیان ثوری سے وہ اعمش اور سماک سے وہ دونوں ابراہیم سے وہ عبدالرحمن بن یزید سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ نیز محمود بن غیلان، فضل بن موسیٰ سے وہ سفیان سے وہ سماک سے وہ عبدالرحمن بن یزید سے وہ عبداللہ بن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں وہ اس سند میں سفیان کی اعمش سے روایت کا ذکر نہیں کرتے۔ سلیمان تمیمی یہ حدیث ابو عثمان نہدی سے وہ ابن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۰۶۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا جو کہ حرام تھا۔ پھر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا کفارہ پوچھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”اقم الصلوٰۃ طرفی النهار“..... الا یہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ حکم صرف میرے لئے ہے؟ فرمایا: تمہارے لئے بھی اور میری امت میں سے ہر اس شخص کے لئے جو اس پر عمل کرے۔

۲۹۰۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن ابن مسعود أنّ رجلاً أصاب من امرأة قبله حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها نزلت أقم الصلوة طرفي النهار وزلفاً من الليل الآية فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله فقال لك ولمن عمل بها من أمي
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۰۷۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے ملے جس سے اس کی جان پہچان نہ ہو اور پھر وہ اس کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر وہ کام کرے جو کوئی شخص اپنی بیوی سے کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”اقم الصلوٰۃ طرفی النهار“..... الا یہ پھر آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ حکم اس شخص کے لئے خاص ہے یا تمام مومنوں کے لئے عام ہے؟ فرمایا: بلکہ تمام مومنوں کے لئے عام ہے۔

۲۹۰۷۔ حدثنا عبد بن حميد نا حسين بن الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئاً إلا قد أتى هو إليها إلا إنه لم يجامعها قال فأنزل الله أقم الصلوة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فامرته أن يتوضأ ويصلي قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ اس لئے کہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے حضرت معاذ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ معاذ کی وفات حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوئی اور جب حضرت عمرؓ شہید ہوئے تو عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ چھ برس کے تھے وہ عمرؓ سے روایت کرتے ہیں اور انہیں دیکھا بھی ہے۔ شعبہ یہ حدیث عبدالملک بن عمیر سے وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔

۲۹۰۸- حضرت ابو یسرؓ کہتے ہیں کہ ایک عورت مجھ سے کھجوریں خریدنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ گھر میں اس سے اچھی کھجوریں ہیں جب وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کی طرف جھکا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو فرمایا: اپنا گناہ چھپاؤ، تو بہ کرو اور کسی کے سامنے ذکر نہ کرو۔ لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں عمرؓ کے پاس گیا اور ان کے سامنے قصہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا۔ تو میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری بات بتائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیا۔ یہاں تک کہ اس نے آرزو کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا اور اسے گمان ہوا کہ وہ دو زنجیوں میں سے ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے سر جھکا لیا اور کافی دیر تک اسی طرح رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”اقم الصلوٰۃ طرفی النهار“..... الآیۃ۔ ابو یسرؓ کہتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اس شخص کے لئے خاص حکم ہے یا سب کے لئے عام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ حکم سب کے لئے ہے۔

۲۹۰۸- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا يزيد بن هارون نا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال اتتني امرأة تنبأح تمرًا فقلت إن في البيت تمرًا أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدًا فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدًا فلم أصبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخلفت غازیاً فی سبیل الله فی أهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم یکن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً حتى أوجى إليه أقم الصلوٰۃ طرفی النهار وزلفاً من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرى للذاکرین قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه یارسول الله الهدا خاصة أم للناس عامة قال بل للناس عامة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے قیس بن ربیع کو کبج وغیرہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ شریک یہی حدیث عثمان بن عبد اللہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں اور اس باب میں ابو امامہؓ، وائلہ بن اسحقؓ اور انس بن مالکؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو یسر کا نام کعب بن عمرو ہے۔

۱۵۵۳- سورہ یوسف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۹۰۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ پھر فرمایا کہ جتنی مدت یوسف قید میں رہے اگر میں رہتا تو قاصد کے آنے پر بادشاہ کی دعوت قبول کر لیتا ۵ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”فلما جاءه الرسول“..... الآیۃ (ترجمہ: جب (یوسف

وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۰۹- حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي نا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم قال

۵ یعنی یوسف نے قید خانے سے نکلنے میں جلدی نہیں کی، یہ ان کے صبر کی انتہاء ہے تاکہ ان کی برکت اچھی ثابت ہو جائے۔ واللہ اعلم (مترجم)

کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے میرا رب ان عورتوں کے فریب کو اچھی طرح جانتا ہے (پھر آپ ﷺ نے فرمایا: لو ط پر اللہ کی رحمت ہو وہ تمنا کرتے تھے کہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر کسی قوم کی طرف انہی میں سے نبی بنا کر بھیجا۔

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّحْنِ مَا لَبِثْتُ يُوسُفُ ثُمَّ جَاءَ نَبِيَّ
الرَّسُولُ أَحَبْتُ ثُمَّ قَرَأَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ
ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ قَالَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي
إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ فَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي
ذُرْوَةِ قَوْمِهِ

ابو کریب یہ حدیث عمدہ اور عبدالرحیم سے وہ محمد بن یزید سے اور وہ فضل بن موسیٰ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں "مابعث اللہ بعدہ نبیًّا الا فی ثروة من قومه" لیکن معنی ایک ہی ہیں جب کہ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ثروہ کے معنی کثرت و قوت کے ہیں۔ یہ حدیث فضل بن موسیٰ کی روایت سے زیادہ صحیح اور حسن ہے۔

۱۵۵۲۔ سورہ رعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۱۰۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: اے ابوقاسم ﷺ میں رعد کے متعلق بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادل ہیں اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ فرمایا: یہ اس کی ڈانٹ ہے وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ حکم کے مطابق چلیں۔ وہ کہنے لگے: آپ ﷺ نے سچ فرمایا۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اسرائیل (یعقوب) نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں عرق النساء کا مرض ہو گیا تھا اور انہوں نے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز مناسب نہیں پائی۔ اس لئے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ نے سچ کہا۔

وَمِنْ سُورَةِ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۱۰۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اننا ابو نعیم
عن عبد الله بن الوليد وكان يكون في بني عجل
عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبیر عن ابن
عباس قال اقبلت يهود يهود إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقالوا يا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما هو قال
ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق
من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا
فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجرة بالسحاب
إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت
فقالوا فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه قال
اشككى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم
الإبل والبانها فلذلك حرمها قالوا صدقت

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۹۱۱۔ حضرت ابو ہریرہ نے آنحضرت ﷺ سے "ونفضل بعضها" الآية (ترجمہ: ہم بعض پھلوں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اس سے مراد ردی کھجوریں

۲۹۱۱۔ حدثنا محمود بن خدش البغدادي نا
سيف بن محمد الثوري عن الاعمش عن ابي
صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

اور عمدہ کھجوریں ہیں یا پھر بیٹھا اور کڑوا مراد ہے۔

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُفِّضَ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ قَالَ الدَّقْلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحَلْوُ وَالْحَامِضُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس روایت کو زید بن ابیہ نے بھی اعمش سے اسی کے مثل نقل کیا ہے۔ سیف بن محمد، عمار بن محمد کے بھائی ہیں اور عماران سے ثقہ ہیں۔ یہ امام ثوری کے بھانجے ہیں۔

۱۵۵۵۔ سورۃ ابراہیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۱۲۔ شعب بن حجاب حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا گیا اس میں کھجیاں بھی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مثل کلمة طيبة“..... (یعنی اچھی بات اچھے درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں اور اپنے رب کی اجازت سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔) پھر فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے پھر یہ آیت پڑھی ”ومثل کلمة خبيثة“..... (اور بری بات کی مثال خبیث درخت کی سی ہے۔ جس کی جڑ زمین کی اوپری سطح پر ہی ہے اور یہ بالکل مضبوط نہیں) پھر فرمایا کہ اس سے مراد تمہ ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ اِبْرٰهِيْمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۱۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا ابو الوليد نا حماد ابن سلمة عن شعيب بن الحباب عن انس بن مالك قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة داخلت من فوق الارض مالها من قرار قال هي الحنظلة

تقیہ، ابو بکر بن حجاب سے وہ اپنے والد سے اور وہ انسؓ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں اور اس میں ابو عالیہ کا قول بھی نہیں۔ اور یہ اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے ان کے علاوہ بھی کئی راوی اسے موقوفاً یعنی حضرت انسؓ کا قول نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوع کیا ہو۔ پھر معمر، حماد بن زید اور کئی راوی بھی اسے مرفوع نہیں کرتے۔ نیز احمد بن عبدہ بھی حماد بن زید سے وہ شعب بن حجاب سے اور وہ انسؓ سے شعب بن حجاب ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے۔ ❶

راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو عالیہ کو سنائی تو فرمایا: صحیح اور صحیح فرمایا۔ ۲۹۱۳۔ حضرت براءؓ اس آیت ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا“..... (یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قول محکم کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی) کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ قبر میں ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

قَالَ فَاخْبِرْتُ بِذَلِكَ اَبَا الْعَالِيَةِ فَقَالَ صَدَقَ وَاَحْسَنَ ۲۹۱۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود نا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد ابن عبيدة يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بئس الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة قال في القبر اذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك

❶ یعنی یہ تفسیر حضرت انسؓ ہی کی طرف سے ہے نہ کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۱۴۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے آیت ”یوم تبدل الارض“..... الایة (ترجمہ: جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا) کے متعلق آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پل صراط پر۔

۲۹۱۴۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفین عن داود بن ابی ہند عن الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ يَكُونُ النَّاسُ؟ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے نقل کی گئی ہے۔

سورہ ۱۵۵۶۔ سورہ حجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۱۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی وہ بہت حسین بلکہ حسین ترین لوگوں میں سے تھی۔ بعض لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے جب کہ بعض پچھلی صفوں کی طرف آتے کہ اسے دیکھ سکیں چنانچہ جب رکوع کرتے تو اپنی بظلوں کے نیچے سے دیکھتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”ولقد علمنا المستقدمین منکم“..... الایة (یعنی ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو آگے جاتے ہیں اور انہیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔)

سُورَةُ الْحَجَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۱۵۔ حدثنا قتيبة نا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن لا يراها ويستأجر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا رجع نظر تحت أبطيه فانزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم
جعفر بن سليمان یہ حدیث عمرو بن مالک سے وہ ابوجوزاء سے اسی طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ابن عباسؓ کا ذکر نہیں اور یہ

نوح کی حدیث سے صحت کے زیادہ قریب ہے۔

۲۹۱۶۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائیں گے یا فرمایا امت محمد ﷺ پر۔

۲۹۱۶۔ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَبَّتِهِمْ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ قَالَ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

یہ حدیث غریب ہے۔

۲۹۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورہ فاتحہ: ام القرآن (قرآن کی ماں)، ام الکتاب اور سبع مثنائی (دہرائی ہوئی سات آیتیں) ہے۔

۲۹۱۷۔ حدثنا عبد بن حميد نا ابو علي الحنفي عن ابن ابی ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم

الْقُرْآنِ وَأُمِّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابی بن کعبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ اور یہی سبع مثانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لئے وہی چیز ہے جو وہ مانگے گا۔

۲۹۱۸۔ حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد بن حميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل

قیمہ، عبدالعزیز بن محمد سے وہ علاء بن عبدالرحمن سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تو ابھی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن محمد کی حدیث اس سے زیادہ طویل اور مکمل ہے۔ نیز عبدالحمید بن جعفر کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی راوی علاء بن عبدالرحمن سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۹۱۹۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ ۱ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ان فی ذلک“..... (الآیة یعنی یقیناً) اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو خدا داد صلاحیتوں کی بناء پر (نشانہ ہی کرنے والے ہیں۔

۲۹۱۹۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا احمد بن ابی احمد بن ابی الطیب نا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتعوسمين

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں بعض علماء اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ متوسمین کے معنی فراست والوں کے ہیں۔

۲۹۲۰۔ حضرت انس بن مالکؓ ”لنسا لنهم اجمعين عما كانوا يعملون.“ (ترجمہ: یعنی ہم تمام لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق لازمًا سوال کریں گے) کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ توحید ”لا اله الا الله“ ہے۔

۲۹۲۰۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا المعتمر عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لنسا لنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال عن قول لا اله الا الله

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف لیث بن ابی سلیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن ادریس بھی یہ حدیث لیث بن ابی سلیم سے وہ بشر سے اور وہ انس بن مالکؓ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں۔

۱۰ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی فراست عطا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے احوال کرامت وغیرہ کی وجہ سے جان جاتے ہیں یا پھر اس فراست سے مراد تجربہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

سُورَةُ النَّحْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۲۱- حدثنا عبد بن حميد نا علي بن عاصم عن يحيى البكار ثنى عبد الله بن عمر قال سمعتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّجَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ يَتَفَقَّهُ ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُحْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الْآيَةَ كُلَّهَا

۱۵۵۷- سورة النحل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۲۱- حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: زوال کے بعد ظہر سے پہلے چار کعتیں پڑھنے کا اجر تہجد کی نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت (کائنات کی) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”یتفقو ظلالہ عن الیمین و الشمائیل“ الآیة (پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے ”کیا لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں اور وہ نہایت عاجز ہیں۔“)

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف علی بن عاصم کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۲۲- حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن انس عن ابي العالية قال ثنى ابي بن كعب قال لما كان يوم أُحُدِ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلًا وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ مِنْهُمْ حَمْرَةٌ فَمَثَلُوا بِهِمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَتَرَبَّيْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ لَأَقْرِيضَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً

۲۹۲۲- حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں انصار کے چونسٹھ اور مہاجرین کے چھ آدمی شہید ہوئے۔ جن میں حمزہؓ بھی شامل ہیں۔ کفار نے ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے تھے۔ انصار کہنے لگے کہ اگر پھر کسی دن ہماری ان سے ٹڈ بھڑ ہوئی تو ہم اس سے دگنے آدمیوں کے ناک کان وغیرہ کاٹیں گے لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”وان عاقبتهم فعاقبوا“..... الآیة (ترجمہ: اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں اچھی بات ہے) چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ آج کے بعد قریش کا نام نہیں رہے گا۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے فرمایا: چار آدمیوں کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرو۔

یہ حدیث ابی بن کعب کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۲۳- حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن

۱۵۵۸- سورة بني اسرائيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۲۳- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب مجھے معراج کے لئے لے جایا گیا۔ تو میری موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔

راوی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور میرا خیال ہے کہ فرمایا: موسیٰ کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے گویا کہ وہ شنوہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور آنحضرت ﷺ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: وہ میانہ قد اور سرخ ہیں گویا کہ ابھی دیراس یعنی حمام سے نکلے ہیں۔ پھر میں نے ابراہیم کو دیکھا۔ میں ان کی اولاد سے بہت مشابہ ہوں۔ پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ میں نے دودھ لیا اور پی لیا۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کے راستے پر چلایا گیا یا فرمایا کہ فطرت کو پہنچے کیونکہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ (ﷺ) کی امت گمراہ ہو جاتی۔

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ أُسْرَى بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ حَسْبَتْهُ قَالَ مُضْطَرِبُ الرَّجُلِ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى قَالَ فَنَعْتَهُ قَالَ رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَأَنَا أَشْبَهُهُ وَوَلِدِهِ بِهِ قَالَ وَافْتِيتُ بِإِنَائَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِي هُدَيْتَ لِلْفِطْرَةِ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۲۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ کے لئے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ اس نے شوشی کی توجریل نے فرمایا: کیا تو محمد (ﷺ) کے ساتھ ایسی شوشی کر رہا ہے آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزیز سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینا آ گیا۔

۲۹۲۴۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا عبدالرزاق نا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بالبراق ليلة أسرى به ملحماً مسرجاً فاستصعب عليه فقال له جبرئيل بمحمدٍ تفعل هذا وما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارقض عرقاً

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۲۵۔ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (شب معراج) کو ہم جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے انہیں اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور پھر براق کو اس سے باندھا۔

۲۹۲۵۔ حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي نا ابوتيميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ جِبْرِئِيلُ بِأَصْبِعِهِ فَحَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ وَشَدَّ بِهِ الْبَرَّاقَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۹۲۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں ایک پتھر پر کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ چنانچہ میں اسے دیکھتے ہوئے انہیں اس کی نشانیاں بتانے لگا۔

۲۹۲۶۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَبْتَنِي قُرَيْشٌ قُيِّمَتْ فِي الْحَجَرِ فَجَلَّتْ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ

فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مالک بن صعصعہ، ابوسعید، ابن عباس، ابو ذر اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔

۲۹۲۷۔ حضرت ابن عباس، ارشاد باری تعالیٰ ”وما جعلنا الرؤيا“..... الاية (ترجمہ: ہم نے آپ ﷺ کو جو خواب دکھایا وہ لوگوں کو پرکھنے کے لئے تھا) کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس خواب سے مراد شب معراج کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا بیت المقدس تک جانا اور آنکھ سے دیکھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مذکور ملعون درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے۔

۲۹۲۷۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسرى به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ ”وقرآن الفجر“..... الاية (ترجمہ: اور صبح کی نماز بھی بے شک صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے) کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا اس پر رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

۲۹۲۸۔ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي نا أبي عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا تشهدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علی بن مسہر سے اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہ، اور ابوسعید سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۲۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت ”یوم ندعوا كل اناس بامامهم“..... الاية (یعنی جس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا) کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک شخص کو بلا کر نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا بدن ساٹھ گز لمبا کر دیا جائے گا پھر اس کا چہرہ روشن کر کے اس کے سر پر موتیوں کا ایک تاج پہنایا جائے گا جو چمک رہا ہوگا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا تو اسے دور ہی سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نعمتیں عطا فرما اور ہمارے لئے اس میں برکت دے۔ یہاں تک کہ وہ آئے گا اور ان سے کہے گا کہ تم میں سے ہر شخص کے لئے ایسے انعام کی خوشخبری ہے۔ لیکن کافر کا منہ سیاہ ہوگا اور اس کا جسم ساٹھ گز تک بڑھا دیا جائے گا جیسے آدم کا تہ وجسم تھا۔ پھر اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا جسے اس کے دوست دیکھیں گے تو کہیں گے: ہم اس کے شر سے اللہ کی

۲۹۲۹۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا عبيد الله بن موسى عن اسراييل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعوا كل أناس بامامهم قال يدعى أحدهم ويعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون ذراعًا ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلأ لًا فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعد فيقولون اللهم آتينا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه، ويمد له في جسمه ستون ذراعًا على صورة آدم ويلبس تاجًا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم

پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چیز نہ دینا۔ اور جب وہ ان کے پاس جائے گا تو کہیں گے یا اللہ اسے ہم سے دور کر دے۔ وہ کہے گا۔ اللہ تمہیں دور کرے تم میں سے ہر شخص کے لئے اسی کے مثل ہے۔

لَا تَأْتِنَا بِهِذَا قَالَ فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ آخِرُهُ فَيَقُولُ
أَبْعَدَكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلَ هَذَا

یہ حدیث حسن غریب ہے اور سدی کا نام اسماعیل بن عبدالرحمن ہے۔

۲۹۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ”عسیٰ ان یبعثک ان ربک مقاما محمودا“ (یعنی عنقریب آپ ﷺ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا) کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس سے مراد شفاعت ہے۔

۲۹۳۰۔ حدثنا ابو کریب ناوکیع عن داود بن یزید الزعافر عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عسیٰ ان یتبعک ربک مقاما محمودا وسئل عنها قال ہی الشفاعۃ

یہ حدیث حسن ہے اور داؤد زعفرانی: داؤد اودی ہیں یہ عبداللہ بن ادریس کے چچا ہیں۔

۲۹۳۱۔ حضرت ابوسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ (بت) پتھر نصب تھے چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی چھتری انہیں مارنا شروع کر دیا۔ کبھی راوی ایک لکڑی کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ (آپ ﷺ انہیں مارتے اور) کہتے کہ ”جاء الحق“..... آخر حدیث تک۔ (یعنی حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور اسے بھاگنا ہی تھا۔ اب کبھی باطل لوٹ کر نہیں آئے گا۔

۲۹۳۱۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابن ابی نحیح عن ابن ابی نحیح عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگة عام الفتح وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطعنها بمحصرة فی یدہ ورتما قال بعود ویقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وما یبدئ الباطل وما یعیئ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۹۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں تھے پھر ہجرت کا حکم دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی ”وقل رب ادخلنی“..... الآیة (یعنی اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے بخوبی لے جائیے اور بخوبی پہنچائیے اور اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو۔)

۲۹۳۲۔ حدثنا احمد بن منیع نا جریر عن قابوس بن ابی ظبیان عن ابیہ عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمگة ثم امر بالهجرة فنزلت علیہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۳۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم اس کے متعلق آنحضرت ﷺ سے پوچھیں انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھیں۔ چنانچہ جب انہوں نے پوچھا تو یہ آیات نازل ہوئیں ”ویستلونک عن

۲۹۳۳۔ حدثنا قتیبہ نا یحیی بن زکریا بن ابی زائدة عن داود بن ابی ہند عن عکرمہ عن ابن عباس قال قالت قریش لیهود اعطونا شیئا نسأل عنہ هذا الرجل فقال سلوه عن الروح فسألوه عن

الرُّوحُ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
قَالُوا أُوْتِينَا عِلْمًا كَبِيرًا أُوْتِينَا التَّوْرَةَ وَمَنْ أُوْتِيَ التَّوْرَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَأَنْزَلْتَ قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ
مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

”الروح“..... الآیة (یعنی یہ لوگ آپ ﷺ سے روح کے متعلق پوچھتے
ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے کم سے ہے۔ اور اس کے متعلق تمہیں
صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے) وہ کہنے لگے ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے
ہمیں تو راہِ وحی گئی ہے اور جسے تو ریت ٹٹی اسے بہت کچھ دیا گیا۔ اس پر
یہ آیت نازل ہوئی ”قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد
البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدداً“
(یعنی آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے
سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے
سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس سمندر کی طرح اور سمندر بھی اس کی مدد
کے لئے لے آئیں۔“

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۹۳۴۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ
مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا آپ ﷺ کھجور کی ایک ٹہنی پر ٹیک
لگائے ہوئے چل رہے تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت پر سے گزر
ہوا۔ بعض کہنے لگے کہ ان سے کچھ پوچھنا چاہئے جب کہ دوسرے کہنے
لگے کہ مت سوال کرو کیونکہ وہ ایسا جواب دیں گے جو تمہیں برا لگے گا۔
لیکن انہوں نے آپ ﷺ سے روح کے متعلق سوال کر دیا تو آپ ﷺ
ایک گھڑی تک کھڑے رہے پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں سمجھ گیا
کہ آپ ﷺ کی طرف وحی کی جارہی ہے۔ یہاں تک کہ وحی کے آثار
ختم ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”الروح من امر ربی“..... الآیة
یعنی روح میرے رب کے حکم سے ہے۔

۲۹۳۴۔ حدثنا علی بن خشرم نا عیسیٰ بن یونس
عن الاعمش عن ابراهیم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّمُ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ
مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
لَا تَسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوا
يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَعَرَفْتُ
أَنَّهُ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۳۵۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت
کے دن لوگ تین اصناف میں منقسم ہو کر جمع ہوں گے۔ پیدل، سوار اور
چہروں پر گھسٹتے ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! چہروں پر کیسے چلیں گے؟
فرمایا: جس نے انہیں پیروں پر چلایا وہ انہیں سروں پر چلائے پر بھی
قادر ہے۔ جان لو کہ وہ اپنے منہ سے ہی ہر بلندی اور کانٹے سے بچ کر
چلیں گے۔

۲۹۳۵۔ حدثنا عبد بن حمید نا الحسن بن موسیٰ
وسلیمان بن حرب قال نا حماد بن سلمة عن علی
بن زید عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسر الناس يوم
القيامة ثلاثة أصناف صنفاً ممشاةً وصنفاً ركباناً
وصنفاً على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف

يَمْشُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ قَالَ إِنْ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَىٰ
أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَمَا
إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِيُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكَةٍ

یہ حدیث حسن ہے اسے ابن طاووس اپنے والد سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۳۶۔ حضرت امیر بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ پیدل، سوار اور چہروں کے بل گھسٹتے ہوئے اکٹھے کئے جاؤ گے۔

۲۹۳۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم محشورون رجالا وركباناً وتجرؤون على وجوهكم

یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۳۷۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی فرماتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا انہیں نبی مت کہو اگر انہوں نے سن لیا تو خوشی سے ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں آئے اور آنحضرت ﷺ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی ”ولقد اتينا موسى تسع ايات“..... الآية۔ (ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کیں) آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہ ہیں۔ ۱۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ۲۔ زنا نہ کرو۔ ۳۔ چوری مت کرو۔ ۴۔ جادو مت کرو۔ ۵۔ کسی بری شخص کو تمہم کر کے سلطان کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کرے۔ ۶۔ سو خواری نہ کرو۔ ۷۔ کسی پاکباز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ ۸۔ دشمنوں سے مقابلے کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرو اور شعبہ کو شک ہے کہ نوبی بات یہ تھی کہ یہودیوں کے لئے خاص حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ وہ دونوں آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پیر جو منے لگے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نبی ہیں آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگے کہ داؤد نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں سے ہو۔ ہمیں ڈیپے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہودی ہمیں قتل نہ کریں۔

۲۹۳۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا يزيد بن هارون وابوداؤد وابوالوليد اللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله قال لا تقل له نبي فإنه إن يسمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين فاتيا النبي فسألاه عن قول الله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرکوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا بيريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفزوا من الزحف شك شعبة وعليكم اليهود خاصة الا تعتدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه قالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تسلموا قالوا إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي وإننا نخاف أن أسلمنا أن تقتلنا اليهود

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۳۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ”ولا تجهر بصلاحتک“

۲۹۳۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا سليمان بن داؤد

عن شعبة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر ولم یذکر عن ابن عباس وهشیم عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها قال نزلت بمکة کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشرکون ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتک فیسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابک بأن تسمعهم حتی یأخذوا عنک القرآن

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۳۹۔ حدثنا احمد بن منیع نا هشیم نا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلاً قال نزلت ورسول الله صلی الله علیه وسلم محتف بمکة وكان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشرکون إذا سمعوا شتموا القرآن ومن جاء به فقال الله تعالی لینیہ ولا تجهر بصلاتک ائی بقرأتک فیسلم المشرکون فیسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابک وابتغ بین ذلك سبیلاً

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۴۰۔ حدثنا ابن ابی عمیرنا سفین عن مسعر عن عاصم بن ابی النجود عن زبیر بن حبیش قال قلت لحذیفہ بن الیمان أصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیت المقدس قال لا قلت بلی قال أنت تقول ذلك یا أصلع ہم تقول ذلك بالقرآن بینی وبینک القرآن فقال حذیفہ من احتج بالقرآن فقد أفلح قال سفیان یقول قد احتج وربما قال قد أفلح فقال سبحان الذی أسرى بعبدہ لیلاً من المسجد

..... الآية (یعنی نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھے اور نہ ہی پست آواز سے) مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ ﷺ اگر بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو مشرکین قرآن کو اس کے نازل کرنے والے اور اسے لانے والے کو گالیاں دینے لگتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہ قرآن اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ مشرکین قرآن اس کے نازل کرنے والے اور منزل علیہ کو گالیاں دینے لگیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ صحابہ سن نہ سکیں۔ یعنی اتنی آواز پر پڑھئے کہ آپ ﷺ سے قرآن سیکھ سکیں۔

۲۹۳۹۔ حضرت ابن عباسؓ "ولا تجهر بصلاتک"..... الآية کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آنحضرت ﷺ مکہ میں چھپ چھپا کر دعوت دیتے تھے اور صحابہؓ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے چنانچہ مشرکین جب قرآن سنتے تو اسے اور اس کے لانے والے کو گالیاں دینے لگتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (ﷺ) کو حکم دیا کہ اتنی بلند آواز سے مت پڑھئے کہ مشرکین سنیں اور اسے گالیاں دیں اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھئے کہ صحابہ سن نہ سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے۔ (یعنی درمیانی آواز سے پڑھئے۔)

۲۹۴۰۔ حضرت زبیر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن الیمانؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا: گنجے تم ہاں کہتے ہو تو تمہاری کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا: قرآن، اور میرے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ حذیفہؓ نے فرمایا: جس نے قرآن سے دلیل لی وہ کامیاب ہو گیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ کبھی راوی یہ بھی کہتے تھے کہ جس نے دلیل قرآن سے لی واقعی اس نے دلیل پیش کی۔ پھر حذیفہؓ نے یہ آیت پڑھی: "سبحان الذی اسرى"..... الآية (یعنی پاک ہے وہ ذات

جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی) اور پوچھا کہ کیا اس میں کہیں ہے کہ آپ ﷺ نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا: اگر آپ ﷺ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہوتی تو تم لوگوں پر بھی بیت المقدس میں نماز پڑھنا واجب ہو جاتا۔ ❶ جیسے کہ مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے۔ حدیث فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک لمبی پیٹھ والا جانور لایا گیا اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر ہوتی اور پھر وہ دونوں جنت، دوزخ اور آخرت کے متعلق ہونے والے وعدوں کی چیزیں دیکھنے تک اس کی پیٹھ سے نہیں اترے پھر واپس ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بیت المقدس میں باندھ دیا تھا۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا وہ بھاگ جاتا؟ جب کہ اسے عالم الغیب والشہادہ نے آنحضرت ﷺ کے لئے مسخر کر دیا تھا۔

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ أَفْتَرَاهُ صَلَّى فِيهِ قُلْتُ لَأَقَالَ لَوْ صَلَّى فِيهِ لَكُنَيْتَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ فِيهِ كَمَا كُنَيْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ حَدِيثُهُ قَدْ أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍ طَوِيلَةَ الظَّهْرِ مَمْدُودَةٍ هَكَذَا خَطْوُهُ مَدَّ بَصْرَهُ فَمَا زَايَلًا ظَهَرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعَدَ الْأَجْرَةَ أَجْمَعَ ثُمَّ رَجَعَ عَوْدَهُمَا عَلَى بَدَنَيْهِمَا قَالَ وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ لَمَّا لَيْفَرُ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۴۱- حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ میں ان (انعامات پر) فخر نہیں کرتا۔ پھر اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا اور آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ میرے ہی لئے (بعثت کے وقت) سب سے پہلے زمین شق ہوگی۔ پھر فرمایا: لوگ تین مرتبہ سخت گھبراہٹ میں ہتلا ہوں گے۔ چنانچہ آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا (میں سفارش نہیں کر سکتا) نوح کے پاس جاؤ وہ ان کے پاس جا کر یہی عرض کریں گے وہ جواب دیں گے میں نے اہل زمین کے لئے بددعا کی تھی جس سے انہیں ہلاک کر دیا گیا تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ وہ حضرت

۲۹۴۱- حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن علی بن زید بن جدعان عن ابی نصرۃ عن ابی سعید بالخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد ادم یوم القیامۃ ولا فخر ویدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومعید ادم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر قال فیفرع الناس ثلثة فرعات فیاتون ادم فیقولون انت ابونا ادم فاشفع لنا الی ربک فیقول انی اذنبت ذنبا اہبطت منه الی الارض ولکن ایتوا نوحا فیاتون نوحا فیقول انی دعوت علی اهل الارض دعوة فاهلکوا ولکن اذهبوا الی ابراہیم فیاتون ابراہیم فیقول انی کذبت ثلث کذبات ثم

❶ حضرت حدیث نے آنحضرت ﷺ کے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا انکار کیا ہے۔ لیکن بہت سی احادیث اس کے اثبات پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ان احادیث کو حضرت حدیث کی حدیث پر ترجیح دی جائے گی کیونکہ یہ احادیث مثبت ہیں اور حضرت حدیث کی حدیث ثانی ہے۔ باقی رہ گیا قول کہ اگر حضرت محمد ﷺ وہاں نماز پڑھتے تو وہاں نماز پڑھنا واجب ہو جاتی۔ اگر اس سے نماز پڑھنا فرض ہو جانا مراد ہے تو یہ صحیح نہیں اور اگر فضیلت مراد ہے تو وہ مشروع بھی ہے اور احادیث میں اس کی فضیلت صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَاحِلٌ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ وَلَكِنْ إِيْتُوا مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا وَلَكِنْ إِيْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ إِيْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْحَنَةِ فَأَقْعُقُهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي وَيُرَجَّبُونَ بِي فَيَقُولُونَ مَرَحِبًا فَأَجْرُ سَاجِدًا فَيَلْهَمُنِي اللَّهُ مِنَ النَّبَاءِ وَالْحَمْدِ فَيَقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ وَقُلْ يُسْمَعُ لِقَوْلِكَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ سُفْيَانٌ لَيْسَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَخَذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْحَنَةِ فَأَقْعُقُهَا

ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے..... (میں سفارش نہیں کر سکتا) پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا ان کا مقصد صرف دین کی تائید تھا۔ حضرت ابراہیم لوگوں کو موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا میری عبادت کی گئی لہذا تم لوگ محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ابن جدعان، حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اور اسے کھٹکھاؤں گا۔ پوچھا جائے گا: کون ہے؟ کہا جائے گا کہ محمد (ﷺ) ہیں پھر وہ میرے لئے دروازہ کھولیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثناء بیان کرنے کے لئے الفاظ سکھائیں گے۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے تو قبول کی جائے گی اور اگر کچھ کہو گے تو سنا جائے گا۔ اور یہی مقام محمود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”عسلی ان یبعثک“..... (الایۃ یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کریں گے) حضرت سفیان کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اور اسے کھٹکھاؤں گا۔

یہ حدیث حسن ہے بعض راوی اسے ابو نضرہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے مکمل روایت کرتے ہیں۔

سورۃ کہف ۱۵۵۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۴۲۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن عمرو بن دينار عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَ الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبُ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

۲۹۴۲۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے عرض کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ بنو اسرائیل والے موسیٰ وہ نہیں جن کا حضرت کے ساتھ بھی ایک قصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے ابی بن کعبؓ کو آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ موسیٰ بنو اسرائیل کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے

تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا: میرے پاس! تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ کیوں علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا: اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زمبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو جہاں وہ کھوجائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زمبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیئے۔ یہاں تک ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زمبیل میں ہی کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا۔ جب کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی کے لئے یہ چیز تعجب خیز ہو گئی اور پھر دونوں اٹھ کر باقی دن ورات چلتے رہے موسیٰ کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا: دیکھئے جب ہم ٹیلے پر پھڑپھڑے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ فرمانے لگے وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانیوں پر واپس لوٹے۔ سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی ٹیلے کے پاس آب حیات کا چشمہ ہے اگر کسی مردہ کو اس کا پانی پہنچے تو زندہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس میں مچھلی کا کچھ حصہ وہ کھا چکے تھے جب اس پر پانی کے قطرے گرے تو وہ زندہ ہو گئی وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے اسی ٹیلے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک شخص اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے ہوئے ہے موسیٰ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اس سر زمین پر سلام کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں موسیٰ ہوں۔ کہنے لگے: بنو اسرائیل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوسَى حَاطِبِيًّا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَيُّ رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَالَ لَهُ الْاِحْوَالُ حَوْتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقَدُ الْحَوْتَ فَهُوَ نَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَجَعَلَ مُوسَى حَوْتًا فِي مِكْتَلٍ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُمَشِيَانِ حَتَّى إِذَا آتَى الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحَوْتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَاَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحَوْتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا وَنَسِيَ صَاحِبَ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا عَدَاءُ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَتَيْتُ نَسِيَتِ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يُفَصِّلُ الْآثَارَهُمَا قَالَ سَفِيَانٌ يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ لَا يُصِيبُ مَاءٌ هَا مِيتًا إِلَّا عَاشَ قَالَ وَكَانَ الْحَوْتُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَمَّا قَطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ قَالَ فَفَصَّلَا آثَارَهُمَا حَتَّى آتَى الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًى عَلَيْهِ بَثُوبٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ أَنَّى بَارِضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمَكَ اللَّهُ لَأَعْلَمَهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ

کے موسیٰ؟ جواب دیا: ہاں۔ پھر فرمایا: اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کچھ آپ کو سکھایا ہے جو میرے پاس نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی کچھ علم سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی آپ اپنے علم مفید میں سے کچھ سکھائیں وہ کہنے لگے کہ آپ سے میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں ہو سکے گا اور پھر آپ ایسی چیز پر کس طرح صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے گا جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ اور حضرت ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو انہوں نے حضرت کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھالیا۔ حضرت نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیر دیا موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور تم نے ان کی کشتی خراب کر دی اور اس میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگ غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑی بھاری بات کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے آپ میری بھول چوک پر میری گرفت نہ کیجئے اور اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالئے۔ پھر وہ کشتی سے اترے ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھکادے کر لڑکے کو قتل کر دیا۔ کہنے موسیٰ آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا آپ نے بڑی بے جا حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے کہا تھا تاکہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ لھئے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار مل گئی جو گرنے ہی والی

تُعَلِّمِن مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الْحِضْرُ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْحِضْرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُمَا أَنْ يَحْمِلُوَهَا فَعَرَفُوَا الْحِضْرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمِدَ الْحِضْرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَابِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَعْتَ شَيْعًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ وَإِذَا غَلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَآخَذَ الْحِضْرُ بِرَأْسِهِ فَافْتَتَلَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جَعْتَ شَيْعًا نَكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ دَاسَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ يَقُولُ سَائِلٌ فَقَالَ الْحِضْرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ آتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّقُونَا وَلَمْ يُطْعَمُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَلْتِكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبْرًا حَتَّى يَقْضَىٰ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُولَى كَانَتْ مِنْ مُوسَى نَسِيَانًا قَالَ وَجَاءَ

عَصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَفَرَ فِي
الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعَلِمْتُكَ مِنْ
عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْرَأُ
وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا
وَكَانَ يَفْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا

تھی۔ حضرت نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ کہنے لگے
ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی
اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی
اجرت لے سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا
ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں
کر سکتے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ، اللہ
ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب
خبریں سننے کو ملتیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ موسیٰ نے پہلا سوال
تو بھول کر کیا تھا۔ اور پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ
کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت نے موسیٰ سے فرمایا: میرے اور
آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے
دریا سے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ آیت اس قرأت میں
پڑھتے تھے "وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ
غَضَبًا" اور یہ آیت اس طرح پڑھتے۔ "وَامَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا"

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ابوالفتح ہمدانی، سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس سے وہ ابی بن کعب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل
کرتے ہیں۔ زہری بھی عبید اللہ سے وہ ابن عباس سے وہ ابی بن کعب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو مزاحم سمرقندی کہتے
ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک صحیح صرف اس نیت سے کیا کہ سفیان سے یہ حدیث سنوں وہ اس حدیث میں
ایک چیز بیان کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن دینار سے حدیث نقل کی جبکہ اس سے پہلے جب میں نے ان سے یہ حدیث سنی تو
انہوں نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔

۲۹۴۳۔ حضرت ابی بن کعب آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ
جس لڑکے کو حضرت نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا۔

۲۹۴۳۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی نا ابوقتیبة
سلم بن قتیبة نا عبد الجبار بن عباس عن ابي
اسحاق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس عن ابي
بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام
الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۹۴۴۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خضر کا
نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بحر زین پر بیٹھے تو ان کے نیچے سے
ہری بھری ہو گئی۔

۲۹۴۴۔ حدثنا يحيى بن موسى نا عبدالرزاق نا
معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمى الخضر

لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بِيضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ حَضِرًا
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۹۴۵۔ حدثنا محمد بن بشار وغير واحد المعنى
واحد واللفظ لمحمد بن بشار قالوا نا هشام بن
عبد الملك نا ابو عوانة عن قتادة عن ابي رافع عن
حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
في السد قال يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا
يحفرونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحرقونه
غدا قال فيعيده الله كما شيد ما كان حتى اذا بلغ
مذتهم واراذا الله ان يعيظهم على الناس قال الذي
عليهم ارجعوا فستحرقونه غدا انشاء الله واستنى
قال فيرجعون فيحذونه كهينة حين تركوه
فيحرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه
ويقر الناس منهم فيرمون بسهامهم الى السماء
فترجع مخصبة بالدماء فيقولون قهرنا من في
الارض وعلونا من في السماء فسوة وعلوا فيبعث
الله عليهم نقفا في افضائهم فيهلكون قال فولدئ
نفس محمد بيده ان دواب الارض تسمن وتبطر
وتشكر شكرا من لحويمهم

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے اس طرح صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۹۴۶۔ حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا نا
محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر
قال اخبرني ابي عن ابن مينا عن ابي سعيد بن ابي
فضالة الانصاري وكان من الصحابة قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الله
الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من

۱ یا جوج ماجوج کی تفصیل ابواب صفۃ القیامتہ میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

۲۹۴۵۔ حضرت ابورافعؓ، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول
اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ یا جوج ماجوج ۱ اس دیوار کو روزانہ کھودتے
ہیں جب وہ اس میں سوراخ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا
کہتا ہے کہ چلو باقی کل کھود لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے بھی زیادہ
مضبوط کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ
چاہیں گے کہ انہیں لوگوں پر مسلط کریں تو ان کا حاکم کہے گا کہ چلو باقی
کل کھود لینا اور ساتھ انشاء اللہ بھی کہے گا۔ اس طرح جب وہ دوسرے
دن آئیں گے تو اسے اسی طرح پائیں گے جس طرح انہوں نے
چھوڑی تھی اور پھر اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے پانی
پنی کر ختم کر دیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے۔ پھر وہ آسمان کی
طرف تیر چلائیں گے جو خون میں لت پت ان کے پاس واپس آئے گا
اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی دبا لیا اور آسمان والے پر
بھی چڑھائی کر دی۔ ان کا یہ قول ان کے دل کی سختی اور غرور کی وجہ سے
ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کینڑا پیدا کر دیں گے جس سے
وہ سب مرجائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا
کرموئے ہو جائیں گے اور منگتے پھریں گے نیز ان کا گوشت کھانے پر
اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں گے۔

۲۹۴۶۔ حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے اور
جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئے گا تو ایک اعلان
کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا اور اس
میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ اپنا ثواب اسی غیر اللہ ہی سے
لے لے (جسے اس نے شریک کیا تھا) کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرکاء کی

كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِ عَمَلِهِ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن بکر کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۴۷۔ حدثنا جعفر بن محمد بن فضیل
الجزری وغير واحد قالوا نا صفوان بن صالح نا
الولید بن مسلم عن یزید بن یوسف الصنعانی عن
مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَهُمَا قَالَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ

۲۹۴۷۔ حضرت ابودرداءؓ آنحضرت ﷺ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں ”وكان تحته كنز لهما“ (یعنی جو دیوار حضرت خضر نے صحیح کی تھی اس کے نیچے ان دونوں کے لئے خزانہ تھا) کہ آپ ﷺ نے فرمایا خزانے سے مراد سونا چاندی ہے۔

حسن بن علی خلال بھی صفوان بن صالح سے وہ ولید بن مسلم سے وہ یزید بن یوسف صنعانی سے وہ یزید بن یزید بن جابر سے اور وہ مکحول سے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۵۶۰۔ سورہ مریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۴۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے نجران کے نصاریٰ کے پاس بھیجا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ آیت اس طرح نہیں پڑھتے ”یا اِخْتِ هَارُونَ“..... (الآیة یعنی مریم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن) جب کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان ایک طویل مدت کا فاصلہ ہے۔ مجھے اس بات کا جواب نہیں آیا تو جب میں آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو اس کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ سابقہ انبیاء کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرتے تھے۔ ①

۲۹۴۸۔ حدثنا ابوسعید الاشج ابوموسى محمد بن المثنى قالنا ابن ادریس عن ابیه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ فَقَالُوا لِي أَلَسْتُمْ تَقْرءُونَ يَا أَخْتِ هَرُونَ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى مَا كَانَ فَلَمْ أَدْرِمَا أَحَبَّهُمْ فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْمُونَ بِأَنْبِيَاءِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن ادریس کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۴۹۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وانذرهم يوم الحسرة“..... (الآیة اے نبی انہیں حسرت کے دن سے ڈرادیتے) اور فرمایا: موت کو چستکبری بھیڑ کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان کی دیوار پر کھڑا

۲۹۴۹۔ حدثنا احمد بن منيع نا النضر بن اسمعيل ابوالمغيرة عن الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالْخُدْرِيِّ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قَالَ يُؤْتِي بِالْمَوْتِ

① یعنی یہ ہارون، مریم ہی کے بھائی ہیں اور وہ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے۔ یعنی دونوں الگ الگ ہیں۔ (مترجم)

کر کے کہا جائے گا۔ کہ اے جنت والو! وہ سراٹھا کر دیکھیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو! وہ بھی سراٹھا کر دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہاں پھر اسے زنج کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لئے حیات ابدی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ خوشی کے مارے مر جاتے۔ اسی طرح اگر دوزخ والوں کے لئے بھی اس میں ہمیشہ رہنا نہ لکھ دیا ہوتا تو وہ غم کی شدت کی وجہ سے مر جاتے۔

كَانَهُ، كَبَشَّ أَمْلَحَ حَتَّى يُوَفَّفَ عَلَى السُّورِيِّينَ الْحِنَةَ وَالنَّارَ فَيَقَالُ أَهْلُ الْحِنَةِ فَيَشْرَبُونَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَبُونَ فَيَقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ فَيَضَعُ فَيَذْبَحُ فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ الْحِنَةِ الْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا فَرَحًا وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا تَرَحًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۵۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شب معراج میں جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے اور میں کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔

۲۹۵۰۔ حدثنا احمد بن منيع بن منيع نا الحسين ابن محمد نا شيان عن قتادة في قوله وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابوسعیدؓ بھی آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ سعید بن ابی عمرو، ابوہام اور کئی حضرات بھی قادی سے وہ انسؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے شب معراج کے متعلق طویل حدیث نقل کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ حدیث اسی سے اختصار کے طور پر بیان کی گئی ہے۔

۲۹۵۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جبرائیلؑ سے پوچھا کہ آپ ہمارے پاس اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”وما ننزل الا بامر ربك“..... الا یہ (یعنی ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ ہمارے سامنے اور پیچھے جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔)

۲۹۵۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا يعلى بن عبيد نا عمر بن زري عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرئيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت هذه الآية وما ننزل إلا بامر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۲۹۵۲۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ ”وان منكم الا واردة“..... الا یہ (یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر سے نہ گزرے) تو فرمایا: کہ مجھ سے ابن مسعودؓ نے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگ دوزخ سے گزریں گے اور اپنے اعمال کے مطابق اس سے دور ہوں گے چنانچہ پہلا گروہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ دوسرا گروہ ہوا

۱۹۵۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردة فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلّمح البرق ثم كالريح ثم

کَحْضُرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّكِبِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدَّ الرَّجُلُ ثُمَّ كَمَشِيهِ

کی طرح پھر گھوڑے کی رفتار سے پھر اونٹ کے سوار کی طرح پھر کسی بھاگنے کی طرح اور آخر میں چلنے والے کی طرح۔

یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ اسے سدی سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

۲۹۵۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا شعبة عن سدى عن مرة قال عن عبد الله بن مسعود وإن منكم الا وادها“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم سے گزریں گے اور پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے دور ہوتے جائیں گے۔

۲۹۵۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ”وان منكم الا وادها“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم سے گزریں گے اور پھر اپنے اعمال کے مطابق اس سے دور ہوتے جائیں گے۔

محمد بن بشار بھی عبدالرحمن سے وہ شعبہ سے اور وہ سدی سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو بتایا کہ اسرائیل، سدی سے مرہ کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی یہ حدیث سدی سے مرفوعاً سنی ہے اور قصداً سے مرفوعاً نہیں کرتا۔

۲۹۵۴۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ فرماتا: اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں پھر وہ آسمان والوں میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے ”ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل“..... الآية (یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے رحمن مقرب (لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔) اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل سے کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں اور وہ آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس سے بغض پیدا کر دیا جاتا ہے۔

۲۹۵۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں پھر وہ آسمان والوں میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے ”ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل“..... الآية (یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے رحمن مقرب (لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔) اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل سے کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں اور وہ آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس سے بغض پیدا کر دیا جاتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار بھی اپنے والد سے وہ ابوصالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۹۵۵۔ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن الاعمش عن ابى الضحى عن مسروق قال سمعتُ حبابَ بنِ الأرتِ يقولُ جئتُ العاصَ بنَ وائلِ السهميِّ أنقاصاهُ حقاً لى عندهُ؛ فقال لا أعطيك حتى تكفرَ بمحمدٍ فقلتُ لا حتى تموتَ حتى تبعثَ قال وإني

۲۹۵۵۔ حضرت حباب بن ارتؓ کہتے ہیں کہ میں عاص بن وائل سے اپنا حق لینے کے لئے گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب کہ تم محمد (ﷺ) سے کفر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر کر دوبارہ زندہ کر دیئے جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا میں نے کہا:

ہاں۔ کہنے لگا وہاں میری اولاد و مال ہوگا لہذا میں وہیں تمہارا حق ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا..... الْآيَةِ (یعنی کیا آپ ﷺ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے مال و اولاد عطا کیا جائے گا۔

لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا
وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ آفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا
وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا الْآيَةِ

ہنا بھی ابو معاویہ سے اور وہ اعمش سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۶۱۔ سورہ طہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۵۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ خبیر سے مدینہ لوٹے تو رات میں چلے ہوئے نیندا آگئی۔ آپ ﷺ نے اونٹ بٹھائے اور سو گئے۔ پھر فرمایا: کہ بلال! آج رات ہمارے لئے ہوشیار ہونا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بلالؓ نے نماز پڑھی اور اپنے کجاوے سے ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر ان کی آنکھوں میں نیند غالب آگئی اور پھر ان میں سے کوئی بھی نہ جاگ سکا اور سب سے پہلے جا گئے والے آنحضرت ﷺ ہی تھے۔ فرمایا: بلال! یہ کیا ہوا؟ بلالؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان میری روح کو بھی اسی (نیند) نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ ﷺ کی روح کو پکڑا تھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: چلو اونٹوں کو لے کر چلو پھر تھوڑا آگے جا کر اونٹ دوبارہ بٹھائے اور وضو کر کے اسی طرح نماز پڑھی جیسے اس کے وقت میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”اقم الصلوٰۃ لذکری“..... الْآيَةِ (یعنی نماز کو میری یاد کے لئے پڑھو۔)

۲۹۵۶۔ حدثنا محمود بن غیلان نا النضر بن سہیل نا صالح بن ابی الاحضر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ قال لما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبیر اسری حتی ادرکہ الکری اناخ فعرس ثم قال یا بلال اکلنا لنا اللیلۃ قال فصلی بلال ثم تساند الی راجتہ مستقبل الفجر فقلنتہ عنینا فنام فلم یتقیظ احد منہم وکان اولہم استیقاظا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای بلال فقال بلال یا بئی انت یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتادوا ثم اناخ فتوصا فاقام الصلوۃ ثم صلی مثل صلوتہ فی الوقت فی تمکث ثم قال اقم الصلوۃ لذکری

یہ حدیث غیر محفوظ ہے اسے کئی حفاظ حدیث زہری سے وہ سعید بن مسیب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہؓ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ صالح بن ابی احضر حدیث میں ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان اور کچھ راوی انہیں حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

۱۵۶۲۔ سورہ انبیاء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۵۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے سامنے بیٹھا اور عرض کیا کہ میرے غلام مجھ سے جھوٹ بولتے، خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں لہذا میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا

وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَنْبِیَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۵۷۔ حدثنا مجاہد بن موسیٰ البغدادی والفضل بن سهل الاعرج وغير واحد قالوا نا عبدالرحمن بن غزوان ابونوح نا اللیث بن سعد

ہوں مجھے بتائیے کہ میرا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائے گا اگر سزا ان کے جرموں کے مطابق ہوئی تو تم اور وہ برابر ہو گئے نہ ان کا تم پر حق رہا اور نہ تمہارا ان پر اور اگر تمہاری سزا کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت کا باعث ہوگا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرموں سے تجاوز کر گئی تو تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر وہ شخص روتا چلاتا ہوا وہاں سے ایک طرف ہو کر رویا اور چلاتا رہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ونضع الموازين القسط“..... الایة (یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ان کے اور اپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ انہیں آزاد کر دوں۔ میں آپ ﷺ کو گواہ بنا کر ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔

عن مالك بن انس عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رجلاً قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واشتمهم واضربهم فكيف انا منهم قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كافاً لالك ولا عليك وان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتصر لهم منك الفضل قال فتتضح الرجل فجعل يبكي وبهتفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً الاية فقال رسول الله ما اجلدني ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم اشهدك انهم احرار كلهم

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمن بن غزوان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۵۸۔ حضرت ابوسعیدؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے کافراں کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے اس میں چالیس برس تک گرتا رہے گا۔

۲۹۵۸۔ حدثنا عبد بن حميدنا الحسين بن موسى نا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهدى فيه الكافر اربعين خريفاً قبل ان يبلغ قعره

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۵۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت ابراہیم نے صرف تین جھوٹ بولے تھے ایک یہ کہ کافروں سے کہا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے دوسرا جب انہوں نے (اپنی بیوی) سارہ کو بہن بتایا، اور تیسرا جب ان سے بتوں کو توڑنے والے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ ان کے بڑے کا کام ہے۔

۲۹۵۹۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي ثنى ابي نا محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم في شيء قط الا في ثلاث قوله ايني سقيم ولم يكن سقيماً وقوله لسارة اختي وقوله بل فعله كبيرهم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۶۰۔ حدیثنا محمود بن غیلان نا وکیع و وہب بن جریر و ابوداؤد قالوا نا شعبة عن المعيرة بن النعمان عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ عُرَاةٌ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِحَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤَخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمْ بَعْدَكَ فَيَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ الْآيَةُ فَيَقَالَ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

۲۹۶۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: تم لوگ قیامت کے روز ننگے اور غیر محتون اکٹھے کئے جاؤ گے پھر یہ آیت پڑھی ”کما بدأنا اول“..... الآیة (یعنی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے) پھر فرمایا کہ جس کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہوں گے۔ پھر میرے بعض امتیوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ آپؐ نہیں جانتے آپؐ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ پھر میں اللہ کے نیک بندے (عیسیٰ) کی طرح عرض کروں گا ”و کنت علیہم شہیداً“..... الآیة (یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا ان کے حال سے واقف تھا اور جب آپؐ نے مجھے اٹھالیا تو آپؐ ہی ان کے نگہبان تھے اور آپؐ ان کا حال اچھی طرح جانتے ہیں لہذا اگر آپؐ انہیں عذاب دیں تو یہ آپؐ ہی کے بندے ہیں اور اگر بخش دیں تو آپؐ زبردست ہیں حکمت والے ہیں) پھر کہا جائے گا کہ آپؐ نے جس دن سے انہیں چھوڑا تھا اسی دن سے مرتد ہو گئے تھے۔

محمد بن بشر، محمد بن جعفر سے اور وہ مغیرہ بن نعمان سے اسی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری مغیرہ بن نعمان سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۵۶۳۔ سورہ حج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۶۱۔ حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ انْ زَلْزَلَةُ“..... سے ”ولكن عذاب الله شديد“ تک۔ (یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس روز تم لوگ اسے دیکھو گے اس دن تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی اور تمہیں لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہے

وَمِنْ سُورَةِ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۶۱۔ حدیثنا ابن ابی عمر نا سفیان بن عیینة عن ابن جدعان عن الحسن بن عمران بن حصین أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ قَالَ اتَّذَرُونَ أَيْ يَوْمَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ لِأَدَمِ ابْعَثْ

ہی سخت چیز) تو آپ ﷺ سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے کہ دوزخ کے لئے لشکر تیار کرو۔ وہ عرض کریں گے: یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے (۹۹۹) نوسون نانوے آدمی دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ مسلمان یہ سن کر رونے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قربت اختیار کرو اور سیدھی راہ اختیار کرو اس لئے کہ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا۔ لہذا نبی سے دوزخ کی گنتی پوری کی جائے گی اگر پوری ہوگی تو ٹھیک ورنہ منافقین سے پوری کی جائے گی پھر پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے گوشت کا وہ ککڑا جو کسی جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یا پھر جیسے کسی اونٹ کے پہلے میں ایک تل۔ پھر فرمایا: مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی تعداد ہو۔ اس پر تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو گے۔ اس پر بھی سب نے تکبیر کہی۔ پھر فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو۔ صحابہ نے پھر تکبیر کہی۔ پھر راوی کہتے ہیں معلوم نہیں آپ ﷺ نے دو تہائی کہا یا نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حسن سے عمران بن حصین کے حوالے سے مرویاً منقول ہے۔

۲۹۶۲۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ صحابہ آگے پیچھے ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے بلند آواز سے یہ دو آیتیں پڑھیں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم“ سے ”وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ“ تک۔ جب صحابہ نے آپ ﷺ کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ آپ کوئی بات کہنے والے ہیں لہذا اپنی سواریوں کو دوڑا کر (آگے آگئے) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کو پکاریں گے وہ جواب دیں گے تو فرمائیں گے کہ اے آدم جہنم کے لئے لشکر تیار کرو۔ وہ کہیں گے۔ اے اللہ! وہ کون سا لشکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ہزار آدمیوں

بُعَثَ النَّارِ قَالَ يَارَبِّ وَمَا بُعِثَ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْمُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَاَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُبُوءَةً قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُؤَخِّدُ الْعَدُوَّ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا كَمَلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأَمَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا قَالَ وَلَا أُدْرِي قَالَ الثَّلَاثِينَ أَمْ لَا

۲۹۶۲۔ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيدنا هشام بن ابى عبد الله عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الايتين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم الى قوله ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا انه عند قول يقوله فقال هل تدرؤن اى يوم ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال ذلك يوم ينادى الله فيه ادم

میں سے نوسونانوے دوزخی اور ایک جنتی ہے۔ اس بات سے لوگ مایوس ہو گئے یہاں تک کہ کوئی مسکرا بھی نہیں سکا۔ چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو غمگین دیکھا تو فرمایا: عمل کرو اور بشارت دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے تمہارے ساتھ دو مخلوقیں ایسی ہوں گی جو جس کسی کے ساتھ مل جائیں ان کی تعداد زیادہ کر دیں گی ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے جو شخص بنو آدم اور اولاد ابلیس سے مر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں سے تھوڑا سا غم ہلکا ہوا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: عمل کرو اور بشارت دو کیونکہ تمہاری دوسری امتوں کے مقابلے میں تعداد صرف اتنی ہے جیسے کسی اونٹ کے پہلو میں تل یا کسی جانور کے ہاتھ کا اندر کا گوشت۔

فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ، فَيَقُولُ يَا أَدَمُ ابْعَثْ بَعَثَ النَّارِ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارِ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تَسْعُ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَسَسُ الْقَوْمُ حَتَّى مَا يَبْدُوا بِضَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ قَالَ ااعْمَلُوا وَأَبشُرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثُرَتَا يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ قَالَ فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ قَالَ ااعْمَلُوا وَأَبشُرُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ سَأَلْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۶۲۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ کا نام اس لئے بیت العتیق ۱ رکھا گیا کہ وہاں کوئی ظالم آج تک غالب نہیں آسکا۔

۲۹۶۳۔ حدثنا محمد بن اسمعيل وغير واحد قالوا نا عبد الله بن صالح قال ثنى الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عمرو بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ زہری اسے آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ ترمذی بھی لیث سے وہ زہری سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۲۹۶۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کو مکہ سے نکالا گیا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا: ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے یہ ہلاک ہو جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”اذن للذين يقاتلون“ الآية (جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہیں (مسلمان) اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر اچھی طرح قادر ہے۔)

۲۹۶۴۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فانزل الله تعالى اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على

۱۔ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں۔ (مترجم)

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآيَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ
سَيَكُونُ قِتَالٌ

یہ حدیث حسن ہے کئی راوی اسے سفیان سے وہ اعمش سے وہ مسلم بطین سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسل نقل کرتے ہیں اس میں ابن عباس سے روایت نہیں۔

وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵۶۴۔ سورۃ المؤمنون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۶۵۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کے پاس شہید کی مکھی کی طرح گنگناہٹ محسوس ہوتی۔ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی تو ہم آپ ﷺ کے پاس ایک گھڑی تک رہے۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ ﷺ نے قبلے کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ بلند کئے اور یہ دعا کی ”اللہم زدنا“..... الحدیث (ترجمہ: اے اللہ ہمیں اور زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں عطا کر محروم نہ کر، ہمیں غالب کر مغلوب نہ کر، ہمیں بھی راضی کر اور خود بھی ہم سے راضی ہو) پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی دس آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا پھر (سورۃ المؤمنون کی پہلی دس آیات پڑھیں۔ ”قد افلح المؤمنون“..... الخ۔

۲۹۶۵۔ حدثنا عبد الرحمن بن عبد القاری قال سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ كانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدًّا وَيَبِيَّ النَّحْلِ فَإَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّنْتَنَا سَاعَةً فَسَرَرَى عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُنْهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَائْتِرْنَا وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضِ عَنَّا ثُمَّ قَالَ أَنْزَلَ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى حَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ

محمد بن ابان، عبدالرزاق سے وہ یونس بن سلیم سے وہ یونس بن زید سے اور وہ زہری سے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث سے صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور بھی احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور اسحاق بن ابراہیم سے وہ عبدالرزاق سے وہ یونس بن سلیم سے وہ یونس بن زید سے اور وہ زہری سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس نے یہ عبدالرزاق سے سنی وہ اس میں یونس بن زید کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض حضرات ان کا ذکر نہیں کرتے۔ جن احادیث میں یونس بن زید کا ذکر ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ عبدالرزاق بھی کبھی یونس کا ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔

۲۹۶۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ربیع بنت نصر اپنے بیٹے حارثہ بن سراقہ کے جنگ بدر میں شہید ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہیں نبی تیرا گناہ جس کا پتہ نہ چل سکا کہ کس نے مارا۔ ربیع نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے حارثہ کے متعلق بتائیے اگر خیر سے ہے تو ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں اور اگر ایسا نہیں تو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی

۲۹۶۶۔ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادۃ عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان أبؤها حارثة بن سراقه كان أصيب يوم بدر أصابه سهم عرَبٍ فأتت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت أخبريني عن حارثة لئن كان أصاب خيرًا

ﷺ نے فرمایا: ام حارثہ جنت میں کئی باغ ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ فردوس جنت کی بلند زمین ہے اور یہ درمیان میں ہے اور سب سے افضل ہے۔

أَحْتَسَبْتُ وَصَبْرْتُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبِ الْخَيْرَ اجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ يَا مَ حَارِثَةُ إِنَّهَا جَنَّاتٌ فِي جَنَّةٍ وَإِنْ أَبْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى وَالْفِرْدَوْسُ رِبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا

یہ حدیث انسؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

۲۹۶۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا ”والذین یؤتوں ما“..... الآیة (اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل اپنے رب کے پاس جانے کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں) اور عرض کیا یہ لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ فرمایا: نہیں صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے، صدقہ دیتے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا وہی لوگ ہیں جو اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور ان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔

۲۹۶۷۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان نا مالک بن مغول عن عبدالرحمن بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة أ هم الذين يشربون الخمر ويسرفون قال لا يا بنت الصديق ولكن هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

یہ حدیث عبدالرحمن بن سعید بن ابوحازم سے وہ ابوہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۶۸۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”وهم فيها كالحون“ (یعنی اس میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے) کی تفسیر میں فرمایا: آگ اسے اس طرح بھون دے گی کہ اس کا اوپر کا ہونٹ سبز کر مر کے بیچ تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف سے لگنے لگے گا۔

۲۹۶۸۔ حدثنا سويد بن نصرنا عبد الله عن سعيد ابن يزيد ابی شجاع عن ابی الهيثم عن ابی سعيد الخدری عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترجح شفته السفلى حتى تضرب سرتة

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۵۶۵۔ سورہ نور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۶۹۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام مرثد ابن ابی مرثد تھا وہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ پہنچایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام

سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۶۹۔ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن عبادة عن عبد الله بن الاخنس قال اخبرني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدته قال كان رجل يقال له

عناق تھا وہ اس کی دوست تھی۔ مرشد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا۔ مرشد کہتے ہیں کہ میں (مکہ) آیا اور ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ چاندنی رات تھی کہ اتنے میں عناق آئی اور دیوار کے ساتھ میرے سائے کی سایہ کی دیکھ لیا۔ جب میرے قریب پہنچی تو پہچان گئی اور کہنے لگی تم مرشد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرشد ہوں۔ کہنے لگی اصلاح و مرجبا (خوش آمدید) آج کی رات ہمارے یہاں قیام کرو۔ کہتے ہیں: میں نے کہا عناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے زور سے کہا: خیسے والو! یہ آدمی تمہارے قیدیوں کو لے جاتا ہے۔ چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے دوڑے میں (خندمہ) ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر ایک غار دیکھا اور اس میں گھس گیا وہ لوگ آئے اور میرے سر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پیشاب بھی کیا جو میرے سر پر پڑنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر میں بھی اپنے ساتھی کے پاس گیا اور اسے اٹھایا وہ کافی بھاری تھا۔ میں اسے لے کر اذخر کے مقام تک پہنچا پھر اس کی زنجیریں توڑیں اور اسے پیٹھ پر لا دیا وہ مجھے تھکا دیتا تھا یہاں تک کہ میں مدینہ میں، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں عناق سے نکاح کروں گا۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں ”الزانی لا ینکح“..... الآية (ترجمہ: زانی، زانیہ مشرک کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کرتا۔ اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی زانی یا مشرک کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کرتا اور آپ ﷺ نے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو۔

مَرْنَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِي بِهِمُ الْمَدِينَةَ قَالَ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أَسْرَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ فَجَعَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقَمَّرَةٍ قَالَ فَجَاءَتْ عَنَاقٌ فَأَبْصَرْتُ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيَّ عَرَفْتُ فَقَالَتْ مَرْنَدُ فَقُلْتُ مَرْنَدُ فَقَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللَّهُ الزَّانَا قَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاءَ كُمْ فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةَ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى غَارٍ أَوْ كَهْفٍ فَدَخَلْتُ فَجَاءَتْ وَأَحْتَى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي وَعَمَاهُمْ اللَّهُ عَنِّي قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَبِيلًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَذْحَرِ فَفَكَلْتُ عَنْهُ أَكْبَلَهُ، فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِينُنِي حَتَّى قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا فَمَا مَسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَلَا تَنْكِحُهَا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۹۷۰۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے کسی نے لعان کرنے والے مرد و عورت کا حکم پوچھا کہ کیا انہیں الگ کر دیا جائے؟ میں جواب نہ دے سکا تو اٹھا اور عبد اللہ بن عمر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اجازت چاہی تو کہا گیا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری آواز سن لی تھی کہنے لگے ابن جبیر آ جاؤ تم کسی کام ہی سے آئے ہو گے۔ میں داخل ہو گیا وہ

۲۹۷۰۔ حدثنا هناد نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئل عن المتلاعنين في اماره مصعب بن الزبير ايفرق بينهما فما دريت ما قول فقمت من مكاني الى منزل عبد الله بن عمر فاستاذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل

مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ
 بَرْدَعَةٌ رَجُلٌ لَهُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ
 أَيْفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ
 سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنُ فَلَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا
 رَأَى إِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَضُنُّعُ إِنْ تَكَلَّمَ
 تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ
 فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا
 كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 إِنَّ الَّذِي سَأَلْتِكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ
 فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يُرْمَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ حَتَّى حَتَمَ الْآيَاتِ قَالَ قَدَعَا الرَّجُلُ
 فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعظَهُ، وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ، إِنْ عَذَابُ
 الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ
 بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ نَشِئْتُ بِالْمَرْأَةِ وَوَعظَهَا
 وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ
 الْآخِرَةِ فَقَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ فَبَدَأَ
 بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لِمَنْ
 الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
 الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَشِئْتُ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
 بِاللَّهِ أَنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
 عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

کجاوے کے نیچے بچھایا جانے والا ٹاٹ بچھا کر اس پر لیٹے ہوئے
 تھے۔ میں نے عرض کیا: ابو عبد الرحمن کیا لعان کرنے والوں کے درمیان
 تفریق کر دی جاتی ہے۔ کہنے لگے سبحان اللہ! ہاں اور جس نے سب
 سے پہلے یہ مسئلہ پوچھا وہ فلاں بن فلاں ہیں وہ آنحضرت ﷺ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص اپنی
 بیوی کو برائی (بے حیائی/زنا) کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔ اگر وہ
 بولے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر خاموش رہے تو بھی بہت
 بڑی چیز پر خاموش رہے۔ آپ ﷺ خاموش رہے اسے کوئی جواب نہیں
 دیا۔ اس کے بعد (تھوڑے دنوں بعد) وہ دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا
 کہ میں نے آپ ﷺ سے جس چیز کے متعلق پوچھا تھا میں اس میں مبتلا
 ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل
 فرمائیں۔ "والذین یرمون ازواجہم"..... الخ۔ (ترجمہ: اور جو
 لوگ اپنی بیویوں پر (زنا کی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے
 علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر
 کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر
 اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے اس صورت میں سزا مل سکتی ہے کہ
 وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے پھر پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر
 یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو) پھر آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو بلایا
 اور یہ آیات پڑھ کر سنانے کے بعد اسے نصیحت کی، سمجھایا بچھایا اور بتایا
 کہ دنیاوی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ
 کہنے لگا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ
 بھیجا میں نے اس پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی پھر آپ ﷺ عورت کی طرف
 مڑے اور اسے بھی اسی طرح سمجھایا بچھایا لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ
 اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میرا شوہر
 سچا نہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے مرد سے شروع کیا اور اس نے چار
 شہادتیں دیں کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر
 اللہ کی لعنت، پھر عورت نے بھی چار شہادتیں دیں کہ وہ جھوٹا ہے اور اگر
 وہ سچا ہو تو اس پر (عورت پر) اللہ کا غضب ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں پہلے بن سعد سے بھی روایت ہے۔

۲۹۷۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا تو گواہ پیش کرو یا پھر تم پر حد جاری کی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا کہ اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھرے۔ لیکن آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ یا پھر تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے۔ ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مجبوت کیا میں یقیناً سچا ہوں اور میرے متعلق ایسی آیات نازل ہوں گی جو میری پیٹھ کو حد سے نجات دلائیں گی چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں ”والذین یرمون ازواجہم..... سے ان کان من الصادقین“ آنحضرت ﷺ نے یہ آیات پڑھیں اور ان دونوں کو بلوایا۔ وہ دونوں آئے اور کھڑے ہو کر گواہی دی تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جھوٹا ہے کیا تم دونوں میں سے کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور گواہی دی۔ جب وہ پانچویں گواہی دینے لگی کہ (اگر اس کا شوہر سچا ہو تو اس (عورت) پر اللہ کا عذاب نازل ہو) تو لوگوں نے کہا کہ یہ گواہی اللہ کے غضب کو لازم کر دے گی۔ چنانچہ وہ ہچکچائی اور ذلت کی وجہ سے سر جھکا لیا یہاں تک کہ ہم لوگ سمجھے کہ یہ اپنی گواہی سے لوٹ کر (زنا کا اقرار کر لے گی) لیکن وہ کہنے لگی: میں اپنی قوم کو سارا دن رسوا نہیں کروں گی اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دیکھو اگر یہ ایسا بچہ پیدا کرے جس کی آنکھیں سیاہ، کولھے موٹے اور رانیں موٹی ہوں تو وہ شریک بن سماء کا نطفہ ہے (ولد زنا ہے) پھر ایسا ہی ہوا اور آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعان کا حکم نہ نازل ہو چکا ہوتا تو میرا اور اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا (یعنی حد جاری کرتے۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عباد بن منصور بھی حدیث عکرمہ سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں ایوب بھی اسے عکرمہ سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرسل ہے۔

۲۹۷۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے متعلق لوگوں میں

۲۹۷۱۔ حدثنا بندار نا محمد بن ابی عدی نا هشام بن حسان قال ثنی عکرمہ عن ابن عباس ان ہلال بن امیہ قدف امراته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک بن سحماء بن سحماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینة والاحد فی ظہرک قال فقال ہلال اذا رای احدنا رجلاً علی امراته ایلتمس البینة فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول البینة والاحد فی ظہرک قال فقال ہلال والذی بعثک بالحق انه لصادق ولینزلن فی امری ما یرئ ظہری من الحد فنزل والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادہ احدہم اربع شہادات باللہ انه لمن الصادقین فقرأ الی ان بلغ والخاصة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین قال فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الیہما فجاء فقام ہلال فشهد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فهل منکما تائب ثم قامت فشہدت فلما کانت عند الخامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین قالوا لہا انہا موجهة فقال ابن عباس فتلکات ونکست حتی ظننا ان سترجع فقالت لا افضح قومی سائر الیوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر وها فان جاءت به اکحل العینین سابق الیتیم خذلج الساقین فهو لشریک بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ما مضی من کتاب اللہ لکان لنا ولہا شان

۲۹۷۲۔ حدثنا محمد بن غیلان نا ابواسامة عن

تذکرہ ہونے لگا جس کی مجھے بالکل خبر نہ تھی تو رسول اکرم ﷺ میرے متعلق خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ شہادتیں پڑھنے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ لوگو مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ ہی وہ میری عدم موجودگی میں کبھی میرے گھر میں داخل ہوا پھر وہ ہر سفر میں میرے ساتھ شریک رہا ہے۔ اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گردنیں اتار دوں۔ قبیلہ خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا (حسان بن ثابتؓ کی والدہ ان کی برادری سے تعلق رکھتی تھیں) اور (سعد سے) کہنے لگا: اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد ہی میں اوس و خزرج کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہو گیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا۔ اسی روز شام کے وقت میں ام مسطح کے ساتھ کسی کام کے لئے نکلی۔ (چلتے ہوئے) ام مسطح کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگیں مسطح ہلاک ہو میں نے ان سے کہا کہ کیا بات؟ ہے آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوس رہی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں (تھوڑی دیر بعد) پھر ٹھکر کھائی اور مسطح کی ہلاکت کی بددعا کی میں نے دوبارہ ان سے پوچھا لیکن اس مرتبہ بھی وہ خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لئے بددعا کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم میں اسے تمہاری وجہ سے ہی کوس رہی ہوں۔ میں نے پوچھا میرے متعلق کس وجہ سے؟ اس پر انہوں نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہی بات ہے؟ کہنے لگیں: ہاں۔ اللہ کی قسم میں واپس لوٹ گئی۔ اور جس کام کے لئے نکلی تھی اس کی ذرا سی بھی حاجت باقی نہ رہی۔ اور پھر مجھے بخار ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے میرے والد کے گھر بھیج دیجئے۔ آپ ﷺ نے میرے ساتھ ایک غلام کو بھیج دیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ام رومانؓ (حضرت عائشہؓ کی والدہ) نیچے ہیں اور ابو بکرؓ اوپر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ (والدہ نے) پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ میں نے ان کے سامنے پورا قصہ بیان کیا

ہشام بن عروہ قال أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَظِيئًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنْاسِ ابْنِوَا أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَأَبْنُوا بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غَبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ فَقَالَ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتُ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كَانُوا مِنْ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ تُضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونُ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرْتُ فَقَالَ تِعْسَ مِسْطَحٍ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ أُمَّ تَسْبِيْنِ ابْنِكَ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تِعْسَ مِسْطَحٍ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ أُمَّ أَتَسْبِيْنِ ابْنِكَ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ تِعْسَ مِسْطَحٍ فَانْتَهَرْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ أُمَّ تَسْبِيْنِ ابْنِكَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسْبَهُ، إِلَّا فَبِكَ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرْتُ لِي الْحَدِيثَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَكَانَ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ، لَمْ أَخْرُجْ لَأَجْدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَوَعَيْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السَّفَلِ وَأَبُو بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَقَالَتْ مَا جَاءَ بِكَ يَا بِنْتِ قَالَتْ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي فَقَالَتْ يَا بِنْتِ حَقِّفِي عَلَيْكَ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ

اور بتایا کہ اس کا لوگوں میں چرچا ہو چکا ہے انہیں بھی اس سے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں بیٹی گھبراننا نہیں اس لئے کہ اللہ کی قسم کوئی خوبصورت عورت ایسی نہیں جس سے اس کی سوکنوں کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر محبت کرتا ہو اور وہ (سوکنیں) اس سے حسد نہ کریں اور اس کے متعلق باتیں نہ بنائی جائیں یعنی انہیں وہ اذیت نہیں پہنچی جو مجھے ہوئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا میرے والد بھی یہ بات جانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق پوچھا تو بتایا کہ ہاں آپ ﷺ بھی یہ بات جانتے ہیں اس پر میں اور زیادہ مطمئن ہو گئی اور رونے لگی۔ ابو بکرؓ نے میرے رونے کی آواز سنی تو نیچے تشریف لائے اور میری والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اسے اپنے متعلق پھیلنے والی بات کا علم ہو گیا ہے۔ لہذا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابو بکرؓ نے فرمایا: بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ میں واپس آ گئی تو رسول اللہ ﷺ میرے گھر تشریف لائے اور میری خادمہ سے میرے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا: اللہ کی قسم مجھے ان میں کسی عیب کا علم نہیں اتنا ضرور ہے کہ وہ سو جایا کرتی تھیں اور بکری اندر داخل ہو کر آٹا کھا جایا کرتی تھی۔ (راوی کو شک ہے کہ خمیر تھا کہا، یا عجمینتھا) اس پر بعض صحابہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سچ بولو یہاں تک کہ بعض نے اسے برا بھلا بھی کہا۔ وہ کہنے لگی: سبحان اللہ! اللہ کی قسم میں ان کے متعلق اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار خالص اور سرخ سونے کو پہچانتا ہے۔ پھر اس شخص کو بھی یہ بات پتہ چل گئی جو تم کیا گیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ سبحان اللہ: اللہ کی قسم۔ میں نے کبھی کسی عورت کا ستر مشکف نہیں کیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے وہ ابھی میرے پاس ہی تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آنحضرت ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ میرے والدین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: اے عائشہ اگر تم برائی کے قریب گئی ہو یا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی

لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرٌ إِلَّا حَسَدَنَهَا وَقِيلَ فِيهَا فَاذَا هِيَ لَمْ يُلْغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي قَالَتْ قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي مَا شَانُهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الذُّيْ ذُكِرَ مِنْ شَانِهَا فَوَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ أَقَسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَنِيَّةُ إِلَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِكَ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِي وَسَأَلَ عَنِّي نَحَادِمَتِي فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَُا كَانَتْ تَرْفُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلُ حَمِيرَتَهَا أَوْ عَجِينَتَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدِقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّانِعُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ فَبَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ ابْنِي قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقِيلَ شَهِدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبُو آيٍ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا عِنْدِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَ أَبُو آيٍ عَنِّي وَشِمَالِي فَتَشْهَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتُ قَارِفٌ سُوءٍ أَوْ ظَلِمْتُ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ قَالَتْ وَقَدْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحِييُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكَرَ شَيْئًا وَوَعَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتْتُ إِلَى أَبِي فَقُلْتُ أَحِبُّهُ قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ فَالْتَفَتْتُ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ أَحِبُّهُ قَالَتْ أَقُولُ مَاذَا قَالَتْ

فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَا تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَنْتَبْتُ عَلَيْهِ
بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ
أَفْعَلْ وَاللَّهِ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ
لِي لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأَشْرَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَلَئِنْ قُلْتُ إِنِّي قَدْ
فَعَلْتُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ
بِهَا عَلَى نَفْسِهَا وَاللَّهِ إِنِّي مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا
قَالَتْ وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقِدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا
أَبَايُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ
عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ وَأَنْزَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَنَّا فَرَفَعَ عَنْهُ وَرَأَيْتُ
لَا تَبِينُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسُحُ حَبِيبَهُ، وَيَقُولُ
أَبِشْرِي يَا عَائِشَةُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءً نِكَ قَالَتْ فَكُنْتُ
أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبَوَايَ قَوْمِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ
لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ، وَلَا أَحْمَدُكُمْ
وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءً تَبَى لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ
فَمَا انْكُرْتُمُوهُ وَلَا غَيْرْتُمُوهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَقُولُ أَمَا
زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا
خَيْرًا وَأَمَا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ وَكَانَ
الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مُسْطَعٌ وَحَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَكَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي
تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتْ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ
أَنْ لَا يَنْفَعَ مُسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ
وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ أَنْ
يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يَعْنِي مُسْطَحًا إِلَى قَوْلِهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى
وَاللَّهُ يَأْرَبْنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَلَهُ بِمَا كَانَ
يَصْنَعُ

توبہ قبول کرتے ہیں۔ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت آئی
اور دروازے میں بیٹھ گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ
اس عورت کی موجودگی میں یہ بات کرتے ہوئے شرما تے نہیں غرض
آنحضرت ﷺ نے وعظ و نصیحت کی تو میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی
اور عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں کیا
کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے جواب
دینے کے لئے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب ان دونوں نے کوئی
جواب نہیں دیا تو میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان
کرنے کے بعد کہا: اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ حضرات
سے یہ کہوں کہ میں اس فعل کی مرتکب نہیں ہوئی تب بھی یہ بات مجھے
کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لئے کہ یہ بات تم لوگوں کے سامنے
کہی جا چکی ہے اور تمہارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے اور اگر میں یہ
کہوں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے نہیں
کیا ”تو تم لوگ کہو گے کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اللہ کی قسم
میں تمہارے اور اپنے متعلق کوئی مثل نہیں جانتی پھر میں نے یعقوبؓ کا
نام لیتا جا ہا تو میرے ذہن میں نہیں آیا اتنا ہی آیا کہ وہ ابو یوسفؓ ہیں
(یعنی میرا قصہ بھی انہی کی طرح ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو
کھونے کے بعد فرمایا) ”فصبر جميل“..... الآية (ترجمہ: صبر ہی
بہت ہے اور جس طرح تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ مددگار ہے)
فرماتی ہیں کہ پھر اسی وقت آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہوئی اور ہم لوگ
خاموش ہو گئے۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے آنحضرت
ﷺ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دیکھے آپ ﷺ اپنی پیشانی سے پسینہ
پونچھتے ہوئے فرمانے لگے۔ عائشہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے
تمہاری پاکیزگی اور برکت نازل فرمادی ہے۔ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں
کہ میں بہت غصے میں تھی کہ میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ اٹھ اور
کھڑی ہو جاؤ (یعنی آنحضرت ﷺ کا شکر یہ ادا کرو) میں نے کہا نہیں
اللہ کی قسم نہ میں آپ ﷺ کا شکر یہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا۔
بلکہ اللہ رب العزت کا شکر یہ ادا کروں گی اور اس کی ہی تعریف کروں
گی جس نے میری برکت نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو میرے متعلق یہ

بات سن کر نہ اس کا انکار کیا اور نہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ زینب بن جحش کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیداری کی وجہ سے بچالیا اور اس نے اس موقع پر اچھی بات ہی کہی۔ لیکن ان کی بہن حمزہ برباد ہونے والوں کے ساتھ برباد ہو گئیں۔ اس تہمت کو پھیلانے والوں میں مسطح، حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن ابی شامل تھے۔ عبد اللہ بن ابی (منافق) ہی شوشے چھوڑتا اور خبریں جمع کرتا اور اس میں اسی کا زیادہ ہاتھ تھا۔ حمزہ بھی اس کے شریک کار تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکرؓ نے قسم کھائی کہ اب مسطح کو کبھی فائدہ نہ پہنچائیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی ”وَلَا يَأْتِلُ اُولُو الْفَضْلِ“..... الآية (ترجمہ: اہل فضل اور رزق میں کشادگی رکھنے والے قسم نہ کھائیں) (اس سے مراد ابو بکرؓ ہیں) کہ قرابت داروں، مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے (اس سے مراد مسطح ہیں) یہاں تک کہ فرمایا: اَلَا تَحِبُّونَ..... الآية (ترجمہ: کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دیں اور وہ بہت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں) اس پر ابو بکرؓ نے فرمایا: کیوں نہیں اے اللہ! اللہ کی قسم ہم تیری مغفرت ہی چاہتے ہیں اور پھر مسطح کو پہلے کی طرح ہی دینے لگے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے یونس بن یزید، معمر اور کئی راوی یہ حدیث زہری سے وہ عروہ بن زبیر سے وہ سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص لیشی اور عبید اللہ بن عبد اللہ سے اور یہ سب حضرات حضرت عائشہؓ سے عروہ کی حدیث سے زیادہ مکمل اور لمبی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر بندار بھی ابن عدی سے وہ محمد بن اسحاق سے وہ عبد اللہ بن ابی بکرؓ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب میری برأت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ آیات تلاوت کیں پھر نیچے تشریف لائے اور دو مردوں اور ایک عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۶۶۔ سورہ فرقان کی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۳۔ حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ

وَمِنْ سُوْرَةِ الْفُرْقٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۳۔ حدیثنا بندارنا عبد الرحمن بن مہدی نا سفیان عن واصل عن ابی وائل عن عمرو بن شرجبیل عن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال

قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا: یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔

یہ حدیث حسن ہے۔ بندار سے عبدالرحمن سے وہ سفیان سے وہ منصور اور اعمش سے وہ ابووائل سے وہ عمرو بن شرحبیل سے وہ عبداللہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۷۴۔ حدثنا عبد بن حميد نا سعيد بن الربيع ابو زيد نا شعبة عن واصل الاحدب عن أبي وايل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك وأن تزني بحليلة جارك قال وتلا هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً

۲۹۷۴۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا: تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اپنی اولاد کو اس لئے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے لگے یا تمہارے کھانے میں نہ کھانے لگے اور یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”والذين لا يدعون“..... الآية (ترجمہ: (رحمان کے بندے) وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے اور وہ لوگ اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے نیز زنا نہیں کرتے اور جو شخص یہ کام کرے گا اسے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں ذلیل ہو کر رہے گا۔

سفیان کی منصور اور اعمش سے منقول حدیث شعبہ کی واصل نے مروی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ واصل کی سند میں ایک شخص زیادہ مذکور ہے۔ محمد بن ثنی بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ واصل سے وہ ابووائل سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہوئے عمرو بن شرحبیل کا ذکر نہیں کرتے۔

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۵۔ حدثنا ابو الیث احمد بن المقدم العجلي نا محمد بن عبد الرحمن اطفاوی نا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتک الاقربین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفيّة بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنو عبد المطلب میں تم لوگوں کے لئے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے مال میں سے جو تم چاہو طلب کر سکتے ہو۔

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۵۔ حدثنا ابو الیث احمد بن المقدم العجلي نا محمد بن عبد الرحمن اطفاوی نا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتک الاقربین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفيّة بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بنی عبد المطلب انی لا املك لکم من الله شیئاً سلونی

مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کچھ اور کئی راوی بھی یہ حدیث ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں اس باب میں علیؓ اور عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۹۷۶۔ حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني زكريا بن عدی ناعبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَأْمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَأْمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيِّ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَأْمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَأْمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اتَّقِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ لَأَأْمَلِكُ لَكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَسَابِلَهَا بِيَلَابِهَا

۲۹۷۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب ”وانذر عشیرتک“..... الآية نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے قریش کو جمع کیا۔ اور خصوصی اور عمومی طور پر سب کو نصیحت کی۔ فرمایا: اے قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ میں تم لوگوں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں نفع یا تکلیف کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے بنو عبد مناف خود کو دوزخ سے بچاؤ میں تم لوگوں کے لئے اللہ کے سامنے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے بنو قصی بنو عبد المطلب اور فاطمہ بنت محمد (ﷺ) کو پکار کر اسی طرح فرمایا: اور فاطمہ نے فرمایا۔ تمہاری قربت کا مجھ پر حق ہے میں اس حق کو دنیا ہی میں پورا کر دوں گا۔ باقی رہی آخرت تو اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ علی بن حجر یہ حدیث شعیب سے وہ عبد الملک سے وہ موسیٰ بن طلحہ سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور یہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔

۲۹۷۷۔ حدثنا عبد الله بن ابی زیاد نا ابو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال ثنی الأشعري قال لما نزل وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعِيهِ فِي أُذُنِيهِ فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ يَا صَبَا حَاهُ

۲۹۷۷۔ حضرت اشعریؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”وانذر عشیرتک“..... الآية نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور آواز کو بلند کر کے فرمایا: اے بنو عبد مناف ڈرو (اللہ کے عذاب سے)۔ ①

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بعض راوی اسے عوف سے وہ قسامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت زیادہ صحیح ہے اس میں ابو موسیٰ کا ذکر نہیں۔

① عرب کا یہ دستور ہے کہ اگر کسی چیز سے ڈرنا مقصود ہو تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ”یا صبا حاہ“ واللہ اعلم۔ (مترجم)

۱۵۶۸۔ سورہ النمل کی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: دلبیۃ الارض نکلے گا۔ تو اس کے پاس حضرت سلیمانؑ کی مہر اور حضرت موسیٰؑ کا عصا ہوگا۔ جس سے وہ مؤمن کے چہرے پر لکیر کھینچے گا جس سے اس کا چہرہ چمکنے لگے گا اور کافر کے ناک پر حضرت سلیمانؑ کی مہر سے مہر لگا دے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ایک خوان پر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو کافر اور مؤمن کہہ کر پکاریں گے۔ (یعنی دونوں میں تفریق ہو جائے گی۔)

یہ حدیث حسن ہے اسے ابو ہریرہؓ اس کے علاوہ اور سند سے بھی دلبیۃ الارض کے بیان میں نقل کرتے ہیں اور اس باب میں ابوامامہؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۵۶۹۔ سورہ القصص کی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا (ابوطالب) سے فرمایا: "لا الہ الا اللہ" کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے متعلق ایمان کی گواہی دے سکوں۔ وہ کہنے لگے اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ (ابوطالب) نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "انک لا تھدی"..... الایۃ (ترجمہ: اے محمد ﷺ) آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف یزید بن کیمان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۷۰۔ سورہ العنکبوت کی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۸۰۔ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق چار آیتیں نازل ہوئیں پھر قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے

سُورَةُ النَّمْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۸۔ حدثنا عبد بن حمید نا روح بن عبادۃ عن حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن اوس بن خالد عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتحلو وجه المؤمن وتختم انف الكافر بالخاتم حتى ان اهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يامؤمن ويقول هذا ياكافر

سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۷۹۔ حدثنا بندارنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال ثنى ابو حازم الاشجعي عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرہ قل لا الہ الا اللہ اشهد لك بها يوم القيامة قال لولا ان تعيرني قریش انما يحمله عليه الحزق لا فررت بها عليك فانزل اللہ انك لا تهدي من احببت ولكن اللہ يهدي من يشاء

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۸۰۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال نامحمد بن جعفر نا شعبه عن سماك بن حرب

نیکی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ جب تک مر نہ جاؤں یا پھر تم دوبارہ کفر نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب انہیں کچھ کھلانا ہوتا تو منہ کھول کر کھلایا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ”ووصینا الانسان بوالدیه“..... الآیة (اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اگر وہ چاہیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریف کرو جس کے متعلق کوئی علم نہیں تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔)

قال سمعت مصعب بن سعد یحدث عن ابیه عن سعد قال انزلت فی اربع آیات فذكر قصة وقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شحروا فإها فنزلت هذه الآية ووصینا الإنسان بوالدیه حسناً وإن جاهدك لتشرك بی الآیة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۸۱۔ حضرت ام ہانیٰ آنحضرت ﷺ سے اس آیت ”وتاتون فی نادیکم المنکر“ (یعنی تم اپنی مخلوقوں میں منکرات کا ارتکاب کرتے ہو) کی تفسیر میں نقل کرتی ہیں کہ وہ لوگ زمین والوں پر کنکریاں پھینکتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

۲۹۸۱۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابواسامة وعبدالله بن بکرا السهمی عن حاتم بن ابی صغیرة عن سماک عن ابی صالح عن أم هانئ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وتاتون فی نادیکم المنکر قال كانوا یخلفون أهل الأرض ویسخرون منهم

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف حاتم بن ابی صغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ سماک سے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۷۱۔ سورۃ روم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۹۸۲۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے تو مؤمنوں کو یہ چیز اچھی لگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”الم غلبت الروم“..... الآیة (یعنی روم غالب آ گئے) چنانچہ مؤمنین اہل روم کے فارس پر غالب ہو جانے پر خوش ہو گئے۔

سُورَةُ الرَّوْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۸۲۔ حدثنا نصر بن علی الجهضمی نا المعتمر بن سلیمان عن ابیه عن سلیمان الاعمش عن عطیة عن ابی سعید قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم علی فارس فاعجب ذلك المؤمنین فنزلت الم غلبت الروم الی قوله یفرح المؤمنون بنصر اللہ ففرح المؤمنون بظهور الروم علی فارس

یہ سند اس سند سے غریب ہے۔ نصر بن علی ”غلبت الروم“ ہی پڑھتے ہیں۔

۲۹۸۳۔ حضرت ابن عباسؓ ارشاد باری تعالیٰ ”الم غلبت الروم“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ ”غلبت اور غلبت“ مشرکین اہل فارس کی رومیوں پر برتری سے خوش ہوتے

۲۹۸۳۔ حدثنا الحسین بن حرث نا معاویة بن عمرو عن ابی اسحاق الفزازی عن سفیان عن حبیب بن ابی حمزة عن سعید بن جبیر عن ابن

عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الْمَغْلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى
الْأَرْضِ قَالَ غَلِبَتْ وَعَلَيْتُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ
يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ
وَأَبَائُهُمْ أَهْلُ الْأَوْتَانِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ
يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ
لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَعْلَبُونَ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ
فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا
كَذًا وَكَذَا وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذًا وَكَذَا فَجَعَلَ
أَجَلَ خَمْسِ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْجَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ قَالَ أَرَأَهُ
الْعَشْرَ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَالْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ قَالَ ثُمَّ
ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ قَالَ فَلِلَّيْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى الْمَغْلِبَتِ
الرُّومُ إِلَى قَوْلِهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ قَالَ
سُفْيَانٌ سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف سفیان کی روایت سے جانتے ہیں وہ حبیب بن ابی عمرو سے روایت کرتے ہیں۔

۲۹۸۴۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثني نا
محمد بن خالد بن عثمة ثني عبدالله بن
عبدالرحمن الحمحي ثني ابن شهاب الزهري عن
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لا يبي بكر في مناحبة الم
غلبت الروم الا احتطت يا ابا بكر فان البضع ما بين
ثلث الى تسع

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے زہری عبید اللہ سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

۲۹۸۵۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا اسمعيل بن
ابى اويس ثني ابن ابى الزناد عن عروة بن زبير عن
نيار بن مكرم قال لما نزلت الم غلبت
الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم

تھے کیونکہ وہ دونوں بت پرست تھے جب کہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی
غالب ہو جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ لوگوں نے اس کا ابو بکر سے
تذکرہ کیا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا۔ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا: عنقریب رومی غالب ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابو بکر
نے مشرکین سے اس کا ذکر کیا تو کہنے لگے ہمارے اور اپنے درمیان
ایک مدت مقرر کر لو اور اگر اس مدت میں ہم غالب ہوں تو تم ہمیں اتنا
اتنا دو گے اور اگر تم لوگ (اہل روم) پر غالب ہو گے تو ہم تمہیں اتنا اتنا
دیں گے۔ چنانچہ پانچ برس کی مدت متعین کر دی گئی لیکن اس مدت میں
اہل روم غالب نہ ہوئے۔ جب اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا گیا
تو آپ ﷺ نے ابو بکر سے فرمایا: تم نے زیادہ مدت کیوں نہ ٹھہرائی۔
راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے دس کے قریب کہا۔
سعید کہتے ہیں بضع دس سے کم کو کہتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ
اس کے بعد روم، اہل فارس پر غالب آ گئے۔ ”الم غلبت الروم“
..... الآیة سے یہی مراد ہے سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اہل
روم غزوہ بدر کے دن غالب ہوئے۔

۲۹۸۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ابو بکر
سے فرمایا کہ ابو بکر تم نے شرط لگانے میں ”الم غلبت الروم“ الآیة
کی احتیاط کیوں نہیں کی حالانکہ بضع تین سے نو تک کو کہتے ہیں۔

۲۹۸۵۔ حضرت نیار بن مكرم سلمی کہتے ہیں کہ جب ”الم غلبت
الروم“..... الآیة نازل ہوئی تو اہل فارس، اہل روم پر غالب تھے اور
مسلمان اہل فارس کو مغلوب دیکھنے کے خواہش مند تھے اس لئے کہ
رومی اہل کتاب تھے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُجِبُونَ
ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَفِي
ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ
بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَكَانَتْ
قَرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ لَيْسُوا
بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيمَانَ بِيَعْتِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ
الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِالصِّدِّيقِ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ
الَّتِي غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ قَالَ نَاسٌ مِنْ قَرَيْشٍ
لِأَبِي بَكْرٍ فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ
الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِي بَضْعِ سِنِينَ أَفَلَا نَرَاهُنكَ
عَلَى ذَلِكَ قَالَ بَلَى وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرَّهَانِ
فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرَّهَانَ وَقَالُوا
لِأَبِي بَكْرٍ كَمْ تَجْعَلُ الْبِضْعَ ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ
سِنِينَ فَسَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ
فَسَمُّوا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ قَالَ فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِينَ
قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا
دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةَ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ
فَعَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ
قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي بَضْعِ سِنِينَ قَالَ وَأَسْلَمَ
عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمن بن ابی زناد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۷۲۔ سورۃ لقمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۸۶۔ حضرت ابو امامہؓ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فرمایا:
گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت نہ کیا کرو، اور نہ انہیں گانا سکھایا
کرو۔ نیز (یہ بھی جان لو کہ) ان کی تجارت میں بہتری نہیں پھر ان کی

سُورَةُ لُقْمَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۸۶۔ حدثنا قتيبة بن بكر بن مضر عن عبيد الله بن
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن
عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قیمت بھی حرام ہے۔ اور یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے ”ومن الناس من يشتري“..... الآية (یعنی بعض ایسے بھی ہیں جو کھیل کی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔)

قَالَ لَا تَتَّبِعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوا هُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةِ فِيهِنَّ وَتَمْتَنَهُنَّ حَرَامٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

یہ حدیث غریب ہے اور اسے قاسم، ابوامامہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قاسم ثقہ اور علی بن یزید ضعیف ہیں۔

۲۵۷۳۔ سورہ سجده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۸۷۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ”تتجافى جنوبهم“..... الآية (یعنی ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں) اس نماز کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی جسے عتمہؓ کہا جاتا ہے۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۹۸۸۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين مالا عيّن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتصديق ذلك فى كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۲۹۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اکرم ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسا انعام (جنت) تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے متعلق سنا اور نہ کسی کے دل میں ان چیزوں کا خیال آیا۔ اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ارشاد ہے ”فلا تعلم نفس“..... الآية (کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے لئے چھپا کر رکھا گیا ہے اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔)

۲۹۸۹۔ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن مطرف بن طريف و عبد الملك هو ابن ابجر سمعا الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبه على المنبر يرفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى سأل ربه فقال أى رب أى أهل الجنة أدنى منزلة قال رجلاً يأتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۸۹۔ شععی کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہؓ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب جنتیوں میں سے سب سے کم درجے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ شخص جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ کیسے داخل ہو جاؤں۔ سب لوگوں نے اپنے لئے گھرا اور اپنی اپنی لینے کی چیزیں لے لی ہیں۔

اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ (مترجم)

اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں وہ کچھ عطا کر دیا جائے جو دنیا میں ایک بادشاہ کے پاس ہوا کرتا تھا؟ وہ کہے گا۔ ہاں میں راضی ہوں پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لئے یہ اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل ہے۔ وہ کہے گا اے ربّاً میں راضی ہو گیا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لئے یہ سب کچھ اور اس سے دس گناہ زیادہ ہے وہ عرض کرے گا اے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا جائے گا کہ اس ساتھ ساتھ ہر وہ چیز بھی جو تیرا جی چاہے اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔

لَهُ، اُدْخُلُ فَيَقُولُ كَيْفَ اَدْخُلُ الْحَنَّةَ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَاَحَدُوا اَحَدًا تَهُمْ قَالَ فَيَقَالَ لَهُ اَتَرْضَى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ مَا كَانَ لِلْمَلِكِ مِنْ مُلْكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ نَعَمْ اَى رَبِّ رَضِيْتُ فَيَقَالَ لَهُ فَاِنْ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ فَيَقُولُ رَضِيْتُ اَى رَبِّ فَيَقَالَ لَهُ فَاِنْ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةَ امْثَالِهِ فَيَقُولُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ يَارَبِّ فَيَقَالَ لَهُ فَاِنْ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض یہ حدیث شععی سے اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

سورۃ الاحزاب ۱۵۷۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۹۰۔ ابو ظبیان کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ”ما جعل اللہ لرجل“..... (یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دودل نہیں بنائے) انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ کوئی چیز بھول گئے چنانچہ منافقین جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہنے لگے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ ان کے دودل ہیں۔ ایک تمہارے ساتھ اور ایک کسی اور کے ساتھ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”ما جعل اللہ“.....

سُورَةُ الْاِحْزَابِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۹۹۰۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا صاعد الحراني نا زهير نا قابوس بن ابي ظبيان ان اباہ حدثہ قال قلنا لابن عباس آیت قول اللہ عزوجل ما جعل اللہ لرجل من قلبين في حوفه ما عني بذلك قال قام نبي اللہ صلى اللہ عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطر فقال المنافقون يصلون معه الا ترى ان له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فانزل اللہ ما جعل اللہ لرجل من قلبين في حوفه

عبد بن حمید بھی احمد بن یونس سے اور وہ زہیر سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۹۱۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور یہ بات ان پر بہت گراں گزری۔ کہنے لگے کہ پہلی جنگ جس میں آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے میں نہ جاسکا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے کسی جنگ میں شریک کریں تو دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ کہنے سے ڈر گئے۔ پھر آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے جو ایک سال بعد ہوئی۔ وہاں راستے میں انہیں

۲۹۹۱۔ حدثنا احمد بن محمد نا عبد الله بن المبارك نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال قال عمي انس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فكبر عليه فقال اول مشهد قد شهدته رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم غبت عنه اما واللہ لئن اراني اللہ مشهدا مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ليرين اللہ

سعد بن معاذؓ ملے تو فرمایا: اے ابو عمرو (انس) کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: واہ واہ میں احد میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیئے گئے ان کے جسم پر چوٹ، نیزے اور تیروں کے اسی سے زیادہ زخم تھے۔ میری پھوپھی ربیع بنت نضر کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش صرف پوروں کی وجہ سے پہچان سکی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ”رجال صدقوا“..... الآية (ترجمہ: یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنا کام پورا کر چکے ہیں اور بعض انتظار میں ہیں۔ نیز انہوں نے اپنے اقرار کو بدلانا نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۹۲۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو کہنے لگے کہ پہلی جنگ جو آنحضرت ﷺ نے کی میں اس میں شامل نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع دیں تو دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جنگ احد ہوئی تو مسلمان شکست کھا گئے اور اس موقع پر انہوں نے کہا: اے اللہ میں تجھ سے اس بلا سے پناہ مانگتا ہوں جسے یہ مشرک لائے ہیں اور صحابہ کے نفل پر معذرت چاہتا ہوں پھر آگے بڑھے تو سعد سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا: بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن (سعد کہتے ہیں) میں وہ نہ کر سکا جو انہوں نے کیا۔ ان کے جسم پر اسی سے زیادہ زخم تھے۔ جن میں تلوار کی مار، نیزے کے کچوے اور تیر کے لگنے کے نشانات شامل ہیں ہم کہا کرتے تھے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق ہی یہ آیت نازل ہوئی ”فمنہم من قضیٰ نحبہ“..... الآية یزید کہتے ہیں کہ اس سے مراد پوری آیت ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے انس بن مالک کے چچا کا نام انس بن نضر ہے۔

۲۹۹۳۔ حضرت موسیٰ بن طلحہؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہؓ کے ہاں گیا تو انہوں نے فرمایا: کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنا کام کر چکے ہیں۔

مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍ وَآيْنَ قَالَ وَاهَا الرِّيحُ الْجَنَّةَ أَجْذَهَا دُونَ أُحُدٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَوُجِدَ فِي حَسَدِهِ بَضْعٌ وَتَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةِ وَطْعَنَةٍ وَرَمِيَةٍ قَالَتْ عَمَّتِي الرِّبِيعُ بِنْتُ نَضْرٍ فَمَا عَرَفْتُ أَحْيَى إِلَّا بِنَائِهِ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

۲۹۹۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا يزيد بن هارون نا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ غَيْبٌ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّ اللَّهَ أَشْهَدَنِي قِتَالًا لِلْمُشْرِكِينَ لِيرِيَنَّ اللَّهُ كَيْفَ أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ وَأَبِهَ هَوْلًا يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ وَاعْتَدِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوْلًا يَعْنِي أَصْحَابَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٌ قَالَ يَا أَحْيَى مَا فَعَلْتَ أَنَا مَعَكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ فَوُجِدَ فِيهِ بَضْعًا وَتَمَانِينَ بَيْنَ ضَرْبَةِ بِسِيفٍ وَطْعَنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمِيَةٍ بِسَهْمٍ وَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ قَالَ يَزِيدٌ يَعْنِي الْآيَةَ

۲۹۹۳۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصرى نا عمرو بن عاصم عن اسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فقال ألا ابشرك قلت بلى قال سمعت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے معاویہ سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسے موسیٰ بن طلحہ بھی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۹۴۔ حضرت طلحہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک اعرابی سے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھو کہ جو لوگ اپنا کام کر چکے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ یہ سوال پوچھنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ وہ حضرات آپ ﷺ کی توقیر کرتے اور آپ ﷺ سے ڈرتے تھے جب اعرابی نے آپ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اس نے تیسری مرتبہ یہی پوچھا تو بھی آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا میرے بدن پر سبز کپڑے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سوال کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنا کام کر چکے ہیں۔

۲۹۹۴۔ حدثنا ابو كريب نا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لإعرابي جاهل سلته عن من قضى نحبته من هو وكانوا لا يجترءون على مسألته يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إنني إطلعت من باب المسجد وعلى ثياب خضر فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبته قال الأعرابي أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ممن قضى نحبته

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف یونس بن بکیر کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۹۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ کو اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ ﷺ نے مجھ سے ابتداء کی اور فرمایا: عائشہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ میرے ماں باپ کبھی مجھے آپ ﷺ سے علیحدگی کا حکم نہیں دیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "ياايها النبي قل لازواجك..... الآية ترجمہ: اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں (طلاق دے کر) اچھی طرح رخصت کروں اور اگر اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوں کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں کس چیز کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر دوسری ازواج نے

۲۹۹۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأيي فقال يا عائشة اني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرى أبويك قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنيات منكن أجرا عظيما قلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله، والدار الآخرة وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت

بھی اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا تھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی اسے عروہ سے اور وہ ام المؤمنینؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۹۶۔ حضرت عمر بن ابوسلمہ جو آنحضرت ﷺ کے ریب ہیں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”انما یرید اللہ لیذهب“..... الآیة (ترجمہ: اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم لوگوں سے نجاست کو دور کر دیں) تو آپ ﷺ ام سلمہؓ کے گھر میں تھے۔ آپ ﷺ نے فاطمہؓ، حسنؓ اور حسینؓ کو بلوایا اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی۔ علیؓ آپ ﷺ کے پیچھے تھے پھر ان پر بھی چادر ڈال دی اور عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گناہ کی نجاست دور کر دے اور ان کو بخوبی پاک کر دے۔ ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ (یعنی چادر میں آنے کا ارادہ کیا) آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنی جگہ رہو تو خیر پر ہو۔

۲۹۹۶۔ حدثنا قتیبة نا محمد بن سلیمان بن الاصبهانی عن یحیی بن عبید عن عطاء بن أبی رباح عن عمر بن أبی سلمة ریب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآیة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا فی بیت ام سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسینا فجللهم بکساء وعلی خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس واطهرهم تطهیرا قالت ام سلمة وانا معهم یا نبی اللہ قال انت علی مکانک وانت علی خیر

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ عطاء سے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۹۷۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی چھ ما تک یہ عادت رہی کہ جب فجر کی نماز کے لئے نکلتے تو حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے فرماتے: اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گناہ کی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔

۲۹۹۷۔ حدثنا عبد بن حمید نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة نا علی بن زید عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمة ستة اشهر اذا خرج لصلاة الفجر یقول یا اهل البیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی حضرت عائشہؓ سے روایت سے جانتے ہیں وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں اس باب میں ابوہریرہؓ، معقل بن یسار اور ام سلمہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۹۹۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ وحی میں سے کچھ چھپاتے ہوتے تو یہ آیت ضرور چھپاتے ”واذنقول للذی الخ۔ (یعنی اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے اور اللہ سے ڈرے۔ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے۔ جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے جسے ا

۲۹۹۸۔ حدثنا علی بن حجر نا داود بن الزبرقان عن داود بن ابی ہند عن الشعمی عن عائشة قالت لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من الوحي لکنتم هذه الآیة واذ تقول للذی انعم اللہ یعنی علیہ بالإسلام وانعمت علیہ یعنی بالعتق فاعتقته أمسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی

ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے جب کہ خدا ہی سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے اس کا آپ ﷺ سے نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکیں اور خدا کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا) اللہ کے انعام سے مراد اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے انعام سے مراد نہیں آزاد کرنا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ نے زید کی بیوی سے (ان کی طلاق کے بعد) نکاح کیا تو لوگ کہنے لگے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”ماکان محمد اباً احد من رجالکم“..... الاذیۃ (یعنی محمد ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں) جب زید چھوٹے تھے تو آنحضرت ﷺ نے انہیں منتمی بنایا تھا پھر وہ آپ ہی کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ جوان ہو گئے اور لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”ادعوہم لابائہم.....“ (یعنی منتمی (منہ بولے بیٹے کو) ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی عدل کی بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں) یعنی انہیں اس طرح پکارا کرو فلاں شخص فلاں کا دوست ہے اور فلاں، فلاں کا بھائی ہے اور اقسط عند اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی عدل کی بات ہے۔

فِي نَفْسِكَ مَا لِلَّهِ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْنَاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ بِنُ مُحَمَّدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَلَانَ مَوْلَى فَلَانَ وَقَلَانَ أَخُو فَلَانَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ يَعْنِي أَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ

یہ حدیث داؤد بن ابی ہند سے منقول ہے وہ شععی سے وہ مسروق سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فرمایا: اگر رسول اکرم ﷺ وحی سے کچھ چھپاتے تو یقیناً یہ آیت چھپاتے ”و اذ تقول للذی“..... الاذیۃ۔ وہ اس حدیث کو طول کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ حدیث مذکور عبداللہ بن وضاح کوئی بھی عبداللہ بن ادریس سے وہ داؤد بن ابی ہند سے وہ شععی سے وہ مسروق سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ وحی سے کچھ چھپاتے تو یہ آیت ہی چھپاتے ”واذ تقول للذی“..... الاذیۃ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۹۹۹۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہؓ کو زید بن محمد (ﷺ) ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ”ادعوہم لابائہم ہواقسط عند اللہ“ (یعنی انہیں

۲۹۹۹۔ حدثنا قتيبة بن يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقیبة عن سالیمة عن ابی عمر قال ما کُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَنْزَلَ

الْقُرْآنُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

ان کے اصلی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے۔)

۳۰۰۰۔ حدثنا الحسن بن قزعة البصرى نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم قال ما كان..... ليعيش له فيكم ولد ذكر

۳۰۰۰۔ حضرت عامر شعبيؓ "ماکان محمد"..... الآیة کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کا کوئی بیٹا تم لوگوں میں زندہ نہیں رہا۔

۳۰۰۱۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا محمد بن كثير عن حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية

۳۰۰۱۔ حضرت ام عمارہ انصاریؓ، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ سب سے چیزیں مردوں کے لئے ہیں اور قرآن میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "ان المسلمين والمسلمات"..... الآیة۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۰۰۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا محمد بن الفضل نا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها قال فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سموات

۳۰۰۲۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "فلما قضى زيد منها"..... الآیة (یعنی پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ ﷺ سے اس کا نکاح کر دیا) نازل ہوئی تو زینب دوسری ازواج پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے عزیزوں نے کیا جب کہ میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے کیا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۰۳۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبيد الله بن موسى عن اسرا تيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعدرتني ثم أنزل الله إنا أحللتنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما آفأه الله عليك وبنيت عمك وبنات عماتك وبنيت خالك وبنيت خالاتك اللاتي هاجرن معك الآية قالت فلم أكن أجل له لاني لم

۳۰۰۳۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے معذوری ظاہر کر دی۔ آپ ﷺ نے میرا عذر قبول کر لیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی "انا احللتنا لك ازواجك"..... الآیة (ترجمہ: اے نبی! ہم نے آپ کے لئے آپ ﷺ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں اور عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلا دی ہیں۔ نیز آپ کے چچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالوں کا بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔) ام ہانی فرماتے

أَهَاجِرُ كُنْتُ مِنَ الطَّلَقَاءِ

ہیں کہ اس طرح میں آپ ﷺ کے لئے حلال نہیں رہی کیونکہ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی اور ان لوگوں میں سے تھی جو فحش مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صدی کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۰۰۴۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ”وَتَخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ“ لآیہ۔ زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئی۔ ① زید (ان کے شوہر) آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کی شکایت کی اور طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی بیوی کو پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔

۳۰۰۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيّٰ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَتَخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا لِلَّهِ مُبْدِيهِ فِي شَانِ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو فَنَهَىٰ بِطَلْقِهَا فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۰۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو ہجرت کرنے والی اور مومن عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ“ لآیہ (یعنی اس کے بعد آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ ہی یہ درست ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ ان کا حسن آپ ﷺ کو اچھا معلوم ہو مگر جو آپ ﷺ کو مملوکہ (ہو) نیز مومن جوان عورتیں حلال کیں اور وہ ایمان والی عورت جس نے خود کو آپ ﷺ کے سپرد کر دیا۔ پھر اسلام کے علاوہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والی عورت کو حرام کیا اور پھر فرمایا: (جو شخص ایمان (لانے سے) انکار کرے گا اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے) نیز فرمایا: ”يَأْيُهَا النَّبِيُّ أَنَا أَحْلَلْنَا“ لآیہ (یعنی اے نبی ﷺ ہم نے آپ کے لئے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں نیز وہ عورتیں بھی جو آپ کی ملکیت میں (بطور باندیاں) ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت

۳۰۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ نَا رُوحٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَئِنْ تَبَدَّلَ بَيْنَهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَأَحَلَّ اللَّهُ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ وَقَالَ يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ آتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ مَا سِوَا ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ

① اس آیت کا معنی یہ ہے کہ (آپ جو بات اپنے دل میں چھپا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں) اور وہ بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دل میں تھا کہ اگر زید نے انہیں طلاق دے دی تو آپ ان کی دلجوئی کے لئے ان سے نکاح کر لیں گے۔ لیکن چونکہ زید آپ ﷺ کے سختی تھے، لہذا شرم کی وجہ سے یہ بات زبان مبارک پر نہ لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کیونکہ وہ حق بات سے نہیں شرماتا۔

میں دلویا ہے پھر آپ کے چچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالادوں کی وہ بیٹیاں بھی حلال ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی۔ نیز وہ مسلمان عورت بھی جس نے خود کو بلا عوض پیغمبر کے سپرد کر دیا بشرط یہ کہ پیغمبر اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ سب (احکام) آپ ﷺ کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں دوسرے مومنوں کے لئے نہیں) اور اس کے علاوہ عورتوں کی تمام اقسام حرام کر دیں۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف عبدالحمید بن بہرام ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ احمد بن حسن، احمد بن ظہیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبدالحمید بن بہرام کی حوشب سے منقول احادیث میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳۰۰۶۔ حضرت عائشہ عمراتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وفات تک آپ کے لئے تمام عورتیں حلال ہو گئی تھیں۔

۳۰۰۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَاسِيفِيَانُ عَنْ عُمَرَ عَنَ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُجِلَّ لَهُ النِّسَاءُ۔

۳۰۰۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ سہاگ رات گزاری اور مجھے کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لوگ کھا چکے اور جانے کے لئے نکل گئے تو آنحضرت ﷺ اٹھ کر حضرت عائشہ کے گھر کی طرف چل دیئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہوئے ہیں لہذا واپس ہوئے۔ اس پر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ“ الآية۔ (اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک آپ ﷺ تم لوگوں کو کھانے کی دعوت نہ دیں نہ یہ کہ تم اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔)

۳۰۰۷۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ مِحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ نَا أَبِي عَنُ بِيَانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ قَوْمًا إِلَى الطَّعَامِ فَلَمَّا أَكَلُوا وَخَرَجُوا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطَلِقًا قَبْلَ بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَأَى رَجُلَانِ جَالِسَيْنِ فَأَنْصَرَفَ رَاجِعًا فَقَامَ الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ نَبَأَ يَهَُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَدَّكُمْ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس میں ایک قصہ ہے۔ ثابت یہی حدیث انس سے طوالت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

۳۰۰۸۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ ایک بیوی کے دروازے پر تشریف لے گئے جس کے ساتھ سہاگ رات منائی تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے پاس ایک گروہ کو پایا تو واپس تشریف لے گئے اپنا کوئی کام کیا پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ لہذا پھر چلے گئے اور اپنا کوئی کام کر کے دوبارہ تشریف لائے اس مرتبہ لوگ جا چکے تھے۔ انس

۳۰۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا إِسْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بَابَ امْرَأَةٍ عَرَّسَ بِهَا فَاذًا عِنْدَهَا قَوْمٌ فَأَنْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَاحْتَسَسَ ثُمَّ رَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ فَأَنْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوا قَالَ

فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ داخل ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر ابوطحہ سے کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس بارے میں کچھ نازل ہوا ہوگا انس کہتے ہیں کہ پھر پردے کے متعلق آیت نازل ہوئی۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور عمرو بن سعید کو اصلح کہتے ہیں۔

۳۰۰۹۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ایک بیوی سے نکاح کیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے تو میری والدہ نے صیص بنایا اور اسے کسی پتھر کے پیالہ میں ڈال کر مجھے دیا اور کہا کہ اسے آنحضرت ﷺ کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتی اور عرض کرتی ہیں کہ ہماری طرف سے یہ آپ ﷺ کے لئے بہت تھوڑا ہے یا رسول اللہ! انس فرماتے ہیں کہ میں اسے لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور والدہ کا سلام پہنچایا اور وہ بات بھی عرض کر دی جو انہوں نے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے رکھ دو پھر مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ اور جو جو تمہیں ملے ان کو بھی بلاؤ۔ میں گیا اور جن جن کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا انہیں بھی اور جو مجھے مل گئے انہیں بھی بلا کر لے آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہوں گے۔ فرمایا: تین سو کے قریب ہوں گے۔ انس فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ وہ برتن لاؤ۔ اتنے میں وہ سب لوگ داخل ہو گئے یہاں تک کہ دالان اور کمرہ بھر گیا۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ دس دس آدمیوں کا حلقہ بنالیں اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ انس فرماتے ہیں کہ ان سب نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ پھر ایک جماعت نکل گئی اور دوسری آگئی یہاں تک کہ سب نے کھالیا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ انس (برتن) اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا تو معلوم نہیں اب زیادہ بھاری تھا یا جب میں نے لا کر رکھا تھا تب۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر کئی لوگ وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے آنحضرت ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ اور آپ ﷺ کی بیوی بھی دیوار کی طرف رخ کئے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ پر ان کا اس طرح بیٹھے رہنا گراں گزر رہا لہذا آپ ﷺ نکلے اور تمام

فَدَخَلَ وَأَرْخَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَقَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْحِجَابِ

۳۰۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بِنِ سَعِيْدِنَا جَعْفَرُ بِنِ سَلِيْمَانَ الضَّبْعِيُّ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ سَمْعَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا نَسُّ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ بَعَثْتَ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا مِنْ لَدُنِّي قَلِيلٌ قَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ فَمَسَّمِي رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِي وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءٌ ثَلَاثَ مِائَةٍ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَسُّ هَاتِ بِالتَّوْرِ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةَ وَالْحُجْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ وَلِيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى آكَلُوا كُلَّهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي يَا نَسُّ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفٌ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّبَةٌ وَجَهَّهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتَقَلَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَلَّمَ عَلَيَّ نِسَاءً ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَرَجَعُ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقَلُوا
عَلَيْهِ فَايْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرَحَى السِّتْرَ وَدَخَلَ
وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبُثْ إِلَّا بَسِيرًا حَتَّى
خَرَجَ عَلَيَّ وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ بِأَيْهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْحَعْدُ
قَالَ أَنَسٌ أَنَا أَحَدْتُ النَّاسَ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَةِ وَحُجِبَ
نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ازواج مطہرات کے حجروں پر گئے اور سلام کر کے واپس تشریف لے
آئے۔ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو
سمجھ گئے کہ آپ ﷺ پر ان کا بیٹھنا گراں گزرا ہے۔ لہذا جلدی سے
سب دروازے سے باہر چلے گئے پھر آپ ﷺ تشریف لائے اور پردہ
ڈال کر اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر
گزری تھی کہ آپ ﷺ واپس میرے پاس آئے اور یہ آیات نازل
ہوئیں اور آپ ﷺ نے باہر جا کر لوگوں کو یہ آیات سنائیں ”يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ..... الآية (ترجمہ: اے
ایمان والو نبی کے گھروں میں اس وقت تک مت جایا کرو جب تک
تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے (وہ بھی) اس طرح کہ اس کی
تیاری کے منتظر نہ رہو۔ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ اور کھالینے
کے بعد اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور باتوں میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہا کرو کیونکہ یہ
نبی ﷺ) کو ناگوار گزرتا ہے وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف
بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتے اور جب تم ان (ازواج مطہرات) سے
کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے
دلوں کو پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر تمہارے لئے جائز نہیں کہ
رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤ۔ نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ﷺ کے بعد
آپ ﷺ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت
بڑی بات ہے بعد کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا یہ آیات سب سے
پہلے مجھے پہنچیں اور ازواج مطہرات اسی دن سے پردہ کرنے لگیں۔

یہ حدیث حسن صحیح اور جعد، عثمان کے صاحبزادے ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عثمان بصری ہے۔ محدثین
کے نزدیک ثقہ ہیں۔ یونس بن عبید اور حماد بن زید ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

۳۰۱۰۔ حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت ﷺ ہمارے پاس تشریف
لائے۔ بشیر بن سعد نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ
ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے ہم کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ ﷺ
خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش یہ سوال نہ پوچھا ہوتا۔
پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس طرح پڑھا کرو۔ اللهم سے حمید

۳۰۱۰۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا
معن نا مالك بن انس عن نعيم بن عبد الله
المجمران محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري
هو عبد الله بن زيد الذي كان ارى النداء بالصلوة
اخبره عن ابي مسعود بالانصاري انه قال اتانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد

مجید تک۔ پھر فرمایا: کہ سلام اسی طرح ہے جس طرح تم (التحیات میں) جان ہی چکے ہو۔

بُنْ عِبَادَةَ فَقَالَ لَهُ، بِشَيْرٍ بُنْ سَعِيدٌ أَمَرْنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

اس باب میں علی بن حمید، کعب بن عجرہ، طلحہ بن عبید اللہ، ابوسعید، زید بن خارجه، اور بریدہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ زید بن

خارجہ کو ابن جاریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: موسیٰ بہت حیوادالے اور پردہ پوش تھے۔ ان کی شرم کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تکلیف پہنچائی وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اپنے بدن کو اس لئے ڈھانپے رکھتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے۔ یا تو برص یا نصیبے بڑے ہیں یا پھر کوئی اور آفت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ حضرت موسیٰ کو اس عیب سے بری کریں چنانچہ موسیٰ ایک مرتبہ کیلئے غسل کے لئے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب نہا کر فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لئے پتھر کی طرف آئے لیکن پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ نے اپنا عصا لیا اور اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہنے لگے اے پتھر میرے کپڑے یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو نکاد کھینچ لیا کہ وہ صورت شکل میں سب سے خوبصورت ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا اور پتھر بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑے لے لئے اور پہن کر عصا سے اسے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم ان کی مار سے پتھر پر تین یا چار نشان پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے ”يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا“ (یعنی اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں

۳۰۱۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن و محمد و خلاص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام كان رجلا حيا سيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه فاذاه من اذاه من بني اسرائيل فقالوا ما يستير هذا التستر الا من عيب بجلده اما برص واما اورة واما افة وان الله اراد ان يبرئه مما قالو وان موسى خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل على ثيابه ليأخذها وان الحجر عدا بثوبه فاخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى الى ملا من بني اسرائيل فراوه عريانا احسن الناس خلقا وبراء مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فاخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر لندبا من اثر عصاه ثلاثا اواربعا ارحمسا فذلك قوله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها

اس سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ ہی کے واسطے سے منقول ہے۔

سُورَةُ السَّبَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا نَا
ابو اسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال ثني
أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُسَيْبٍ بِالْمُرَادِيِّ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلَا أَقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ فَأَذِنَ لِي
فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَرَنِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِّي
مَا فَعَلَ الْغَطَفِيُّ فَأُخْبِرْتَنِي قَدْ سِرْتُ قَالَ فَارْسَلْ فِي
أَثَرِي فَرَدَدْنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ
ادْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ
فَلَا تَعَجَلْ حَتَّى أُحَدِّثَ إِلَيْكَ قَالَ وَأَنْزَلَ فِي سَبَا
مَا أَنْزَلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا سَبَا أَرْضٌ
أَوْ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وُلِدَ
عَشْرَةَ مِنْ الْعَرَبِ فَتَيَّمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةً وَتَشَاءُ مِ مِنْهُمْ
أَرْبَعَةً فَمَا الَّذِينَ تَشَاءُ مُوًّا فَلَحْمٌ وَجَذَامٌ وَغَسَّانٌ
وَعَامِلَةٌ وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَأَمَّنُونَ فَلَا زُدُّوْا الْأَشْعَرُونَ
وَحَمِيمٌ وَكِنْدَةٌ وَمَذْحَجٌ وَأَنْمَارٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَا أَنْمَارٌ قَالَ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَنَعَمٌ وَبُحَيْلَةٌ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۰۱۳۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍا سَفِيَانٌ عَنْ عَمْرٍو
عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا ضَرَبَتْ

۱۵۷۵۔ سوره سبأ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۱۲۔ حضرت عروہ بن مسیبؓ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا میں اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے جنگ نہ کروں جو اسلام سے منہ موڑیں؟ آپ ﷺ نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور مجھے اپنی قوم کا امیر بنا دیا۔ پھر جب میں آپ ﷺ کے پاس سے نکلا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ عطفی نے کیا کیا؟ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے مجھے واپس بلوایا۔ جب میں آپ ﷺ کے پاس پہنچا تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو جو لوگ اسلام لے آئیں انہیں قبول کر لو اور جو نہ لائیں ان کے متعلق جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں دوسرا حکم دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ سبأ کی کیفیت اس وقت تک نازل ہو چکی تھی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! یہ سبأ کیا ہے؟ کوئی عورت ہے یا کوئی زمین؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہ زمین اور نہ عورت بلکہ یہ عرب کا ایک آدمی ہے جس کے دس بیٹے تھے جن میں سے چھ کو (اس نے) مبارک جانا اور چار کو منحوس، جنہیں منحوس جانا وہ یہ ہیں۔ لحم، جذام، غسان اور عاملہ اور جنہیں مبارک جانا وہ یہ ہیں۔ ازد، اشعری، حمیم، کندہ مذحج اور انمار۔ ایک شخص نے پوچھا: انمار کون سا قبیلہ ہے؟ فرمایا: جس سے خنعم اور بحیلہ ہیں۔

۳۰۱۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی حکم سناتے ہیں تو فرشتے گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے پر مارتے ہیں۔ جس سے ایک زنجیر پتھر پر کھڑکانے کی سی آواز

۱۔ سبأ کی اولاد یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس تیرہ نبی بھیجے اور بہت نعمتیں دیں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت قبول نہیں کی۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور سب سے بڑا اور عالی شان ہے اور شیطان اوپر تلے جمع ہو جاتے ہیں (تا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن سکیں۔)

الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضَعَانَا لِقَوْلِهِ كَانَتْهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَاذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ وَالشَّيْطَانُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۱۴۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک تارہ ٹوٹا جس سے روشنی ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ زمانہ جاہلیت میں اگر ایسا ہوتا تھا تو کیا کہا کرتے تھے؟ عرض کیا گیا: ہم کہتے تھے کہ یا تو کوئی بڑا آدمی مرے گا یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمارے رب اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو حاملین عرش تسبیح کرتے ہیں پھر اس آسمان والے فرشتے جو اس کے قریب ہیں۔ پھر جو اس کے قریب ہیں۔ یہاں تک کہ تسبیح کا شور اس آسمان تک پہنچتا ہے پھر چھٹے آسمان والے فرشتے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں بتاتے ہیں اور پھر ہریچے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے آسمان والوں تک پہنچتی ہے اور شیاطین اچک کر یہ خبر سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہیں مارا جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں (غیب کی خبروں کے دعویداروں) کو آ کر بتاتے ہیں۔ پھر وہ جو بات اسی طرح بتاتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے لیکن وہ تحریف بھی کرتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی۔

۳۰۱۴۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي نا عبد الاعلى نامعمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من اصحابه اذ رمى بنجم فاستنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية اذ رايتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم او يولد عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يرمى به لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه ونعالى اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح الى هذه السماء ثم سأل اهل السماء السادسة اهل السماء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخبرونهم ثم يستخبر اهل سماء حتى يبلغ الخبر الى اهل السماء الدنيا وتختطف الشيطان السمع فيرمون فيقذفونه الى اولياءهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق لكنهم يحرقون ويزيدون

ابن عباسؓ سے اور وہ کئی انصاری

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زہری سے بھی منقول ہے وہ علی بن حسین سے

حضرات سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۵۷۶۔ سورہ فاطر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة فاطر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۱۵۔ حضرت ابو سعید خدریؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں 'ثم

۳۰۱۵۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثني

اور ثنا الكتاب..... الآية (یعنی پھر ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو وارث کیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اختیار کیا چنانچہ ان میں سے بعض اپنے لئے ظالم بھی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو متوسط ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں) کہ یہ سب برابر ہیں اور سب جنتی ہیں۔

ومحمد بن بشار قالانا محمد بن جعفر نا شعبة عن الوليد بن العيزارانه سَمِعَ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ آيَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ قَالَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْحَنَّةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

سورة يس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة يسین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۱۶۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلمہ مدینہ کے کنارے آباد تھے ان کی چاہت تھی کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ”انا نحن نحی الموتی“..... الآية (یعنی یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہم وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جنہیں لوگ آگے بھیجتے یا پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں) اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے اعمال لکھے جاتے ہیں اس لئے منتقل نہ ہو۔

۳۰۱۶۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطی نا اسحق ابن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن ابي سفيان عن ابي نصره عن ابي سعيد بالحدری قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فارادوا النقلة الى قرب المسجد فنزلت هذه الآية انا نحن نحی الموتی ونكتب ما قدموا واثارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثاركم تكتب فلا تتفولوا

یہ حدیث ثوری کی روایت سے حسن غریب ہے اور ابوسفیان: طرف سعدي ہیں۔

۳۰۱۷۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں داخل ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے۔ تو فرمایا کہ اے ابوذر تو جانتا ہے کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے اور گویا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے طلوع ہو اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ ذلک مستقر لها..... الآية (یعنی وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے) اور یہ عبد اللہ کی قرأت ہے۔

۳۰۱۷۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اباذر اتدرى اين تذهب هذه قال قلت لله ورسوله اعلم قال فانها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكانها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطبع من مغربها قال ثم قرء وذلك مستقر لها قال وذلك في قراءة عبد الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ الصَّافَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۱۸۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا المعتمر بن سليمان نا ليث بن ابى سليم عن بشر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دافع دعا الى شىء الا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه وان دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله عز وجل وفتوهم انهم مسئولون مالكم لاتناصرون

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۰۱۹۔ حدثنا على بن حجر نا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن ابي العالیة عن ابي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون قال عشرون ألفا

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۰۲۰۔ حدثنا محمد بن المثني نا محمد بن خالد بن عثمة نا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقيين قال حام وسام ويافت بالفاء

۱۵۷۸۔ سورۃ صافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۱۸۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شرک یا فحور وغیرہ کی دعوت دینے والا ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اسے روکا نہ جائے اور اس پر اس کا وبال نہ پڑے وہ (جسے دعوت دی گئی) کسی قیمت پر اس سے الگ نہیں ہوگا۔ اگرچہ کسی ایک شخص نے دوسرے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہو۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وقفوہم“..... الایۃ (یعنی انہیں کھڑا کروان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ سے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

۳۰۱۹۔ حضرت ابی بن کعب نے آنحضرت ﷺ سے ”وارسلناه الی مائة الف“..... الایۃ (یعنی ہم نے انہیں (یونس کو) ایک لاکھ آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ) کی تفسیر پوچھی کہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بیس ہزار۔

۳۰۲۰۔ حضرت سمرہؓ: ”وجعلنا ذریئہ ہم“..... الایۃ (یعنی ہم نے نوحؑ ہی کی اولاد کو باقی رکھا) کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نوحؑ کے تین بیٹے تھے حام، سام اور یافث۔

امام ترمذی کہتے ہیں یافث بھی کہا جاتا ہے یافث بھی اور یافث بھی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف سعید بن بشر کی

روایت سے جانتے ہیں۔

۳۰۲۱۔ حضرت سمرہؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ سام عرب کا باپ، حام حبشیوں کا اور یافث رومیوں کا باپ ہے۔

۳۰۲۱۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابی عروبة عن قتادة عن الحسن بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام

أَبُو الْعَرَبِ وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ

سُورَةُ صَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵۷۹۔ سورہ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۲۲۔ حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد
المعنى واحد قالنا ابو احمد نا سفيان عن
الاعمش عن يحيى قال عبدهو ابن عبّاد عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس قال مرّص أبو طالب فجاّء ته
قريش وّجاّء ه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي
طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كى يمنعه قال
وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ماتريد من
قومك قال أريد منهم كلمة تدبّن لهم بها العرب
وتؤدّبى إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال
كلمة واحدة فقال ياعم قولوا لا إله الا الله فقالوا
إلهها واحدة ما سمعنا بهذا فى الملة الا حرة ان هذا
الا اختلاق قال فنزل فيهم القرآن ص والقرآن ذى
الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق إلى قوله
ما سمعنا بهذا فى الملة الا حرة ان هذا الا اختلاق

۳۰۲۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب بیمار ہوئے تو
قریش اور آنحضرت ﷺ ان کے پاس گئے۔ ابوطالب کے پاس ایک
ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل، آنحضرت ﷺ کو وہاں بیٹھنے سے
منع کرنے کے لئے اٹھا اور لوگوں نے ابوطالب سے رسول اللہ ﷺ کی
شکایت کی۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ بھتیجے اپنی قوم سے
کیا چاہتے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک کلمہ
کہنے لگیں اگر یہ لوگ میری اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو عرب پر حاکم
ہو جائیں گے اور عجمیوں سے جزیہ وصول کریں گے۔ ابوطالب نے
پوچھا: ایک ہی کلمہ؟ فرمایا: ہاں ایک ہی کلمہ۔ چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے
وہ سب کہنے لگے کیا ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرنے لگیں ہم نے تو
کسی پچھلے مذہب میں یہ بات نہیں سنی، بس یہ من گھڑت ہے۔ راوی
کہتے ہیں کہ پھر ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ”ص والقرآن ذی
ذی الذکر“..... ”ان هذا الاختلاق“ تک (ترجمہ: قرآن کی
قسم ہے جو نصیحت سے ہر ہے بلکہ یہ کفار تعصب اور مخالفت میں ہیں۔
ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ جنہوں نے بڑی
ہائے پکار کی لیکن وہ وقت خلاصی کا نہیں تھا۔ اور ان کفار نے اس بات پر
تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا وہ کہنے لگے یہ شخص
جھوٹا جادوگر ہے کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے
دیا؟ واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے پھر ان کفار کے سردار کہتے ہیں کہ
اپنے معبودوں پر قائم رہو اور (اسی طرح) چلتے رہو یہ کوئی مطلب کی
بات ہے ہم نے تو یہ بات کسی پچھلے مذہب میں نہیں سنی، ہونہ ہو یہ
گھڑی ہوئی بات ہے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۲۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج
رات (خواب میں) میرا رب میرے پاس اپنی بہترین صورت میں

۳۰۲۳۔ حدثنا بندارنا يحيى بن سعيد عن سفيان
عن الاعمش نحو هذا لحدیث وقال يحيى بن

آیا۔ (راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خواب کا لفظ بھی فرمایا) اور پوچھا کہ محمد ﷺ کیا تم جانتے ہو مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی یا فرمایا اپنی ہنسی میں محسوس کی چنانچہ میں جان گیا کہ آسمان و زمین میں کیا ہے۔ پھر پوچھا محمد ﷺ کیا جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ کفاروں میں اور کفارہ مسجد میں نماز کے بعد ظہر نا، جماعت کے لئے پیدل چلنا اور تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ جس نے یہ عمل کئے وہ خیر ہی کے ساتھ زندہ رہا اور خیر کے ساتھ مرانیز وہ گناہوں سے اس طرح پاک رہا گویا کہ اسی دن اس کی ماں نے جنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ محمد ﷺ) جب تم نماز پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھا کرو ”اللهم انی اسئلك“..... سے غیر مفتون تک (یعنی اے اللہ میں تجھ سے نیک کام (کی توفیق) مانگتا ہوں اور یہ کہ (مجھے) برے کام سے دور رکھ، مسکینوں کی محبت (میرے دل میں) پیدا کر اور اگر تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے اس سے بچا کر اپنے پاس بلا لے) پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اور درجات یہ ہیں۔ سلام کو رواج دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نمازیں پڑھنا۔

عمارة حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في احسن صورة قال احسبه قال في منام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملائكة الاعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي اوقال في نحري فعلمت ما في السموات وما في الارض قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملائكة الاعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المسجد بعد الصلوة والمشي على الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيبته كيوم ولدته امه وقال يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسئلك ففعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون قال والدراجات افساء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس نيام

کچھ راوی ابو قلابہ اور ابن عباس کے درمیان ایک شخص کا اضافہ کرتے ہیں۔ قنادہ، ابو قلابہ سے وہ خالد سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس میرا پروردگار بہترین صورت میں آیا اور فرمایا کہ اے محمد ﷺ) میں نے عرض کیا: حاضر ہوں یا رب اور تیری فرمانبرداری کے لئے مستعد ہوں۔ فرمایا: مقرب فرشتے کس چیز کے متعلق جھگڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے رب مجھے علم نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور مشرق و مغرب کے متعلق جان گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس میں جھگڑتے ہیں؟ عرض کیا درجات اور کفارات میں، جماعتوں کی طرف پیدل چلنے میں، تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو کرنے میں اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے۔ جو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا خیریت سے زندہ رہے گا۔ اور خیر پر مرے گا نیز اپنے گناہوں سے اس طرح پاک رہے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ معاذ بن جبل بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند طویل حدیث نقل کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں سو گیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا تو میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا: الحمدیث۔

سُورَةُ زُمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۲۴۔ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبداللہ بن الزبیر قال لما نزلت ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تحتصمون قال الزبیر یارسول اللہ اتکرر علینا الخصومة بعد الذی کان بیننا فی الدنیا قال نعم فقال ان الامر اذا لشدید یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۵۸۰۔ سورہ زمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۲۳۔ حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ جب ”انکم یوم القیامة عند ربکم“..... (یعنی پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے) نازل ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا دنیا میں جھگڑنے کے بعد دوبارہ آخرت میں بھی ہم لوگ جھگڑیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ زبیر کہنے لگے: پھر تو کام بہت مشکل ہے۔

۳۰۲۵۔ حدثنا عبد بن حمید نا جان بن ہلال وسلیمان بن حرب وحجاج بن منہال قالوا نا حماد بن سلمة عن ثابت عن شہر بن حوشب عن أسماء بنت زبید قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ یاعباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً ولا ینالی یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ثابت کی روایت سے جانتے ہیں وہ شہر بن حوشب سے روایت کرتے ہیں۔

۳۰۲۵۔ حضرت اسماء بنت زبیر فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا۔ ”یا عباد الذین“..... آخر حدیث تک (یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی (گناہ کئے) وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں کیونکہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔

۳۰۲۶۔ حدثنا بندار نا یحیی بن سعید نا سفیان قال ثنی منصور وسلیمان الاعمش عن ابراہیم عن عییدة عن عبداللہ قال جاء یهودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد ان اللہ یمسک السموات علی اصبع والحبال علی اصبع والارضین علی اصبع والخلایق علی اصبع ثم یقول انا الملک قال فضجک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ قال وما قدر واللہ حق قدرہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بندار سے بخئی سے وہ فضیل بن عیاض سے وہ منصور سے وہ ابراہیم سے وہ عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ہنسنا تعجب اور تصدیق کی وجہ سے تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۲۶۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر دیگر مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بات پر آنحضرت ﷺ ہنسنے یہاں تک کہ کلیاں تک ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا: ”وما قدر واللہ حق قدرہ“ (یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کا حق ہے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے بندار سے بخئی سے وہ فضیل بن عیاض سے وہ منصور سے وہ ابراہیم سے وہ عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ہنسنا تعجب اور تصدیق کی وجہ سے تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۲۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک یہودی کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا: اے یہودی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا: اے ابو قاسم آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اس (انگلی) پر، زمین کو اس پر، پانی کو اس پر، پہاڑوں کو اس پر اور ساری مخلوق کو اس پر رکھتا ہے اور محمد بن صلت ابو جعفر نے پہلے اپنی چھنگلیا سے بالترتیب اشارہ کیا یہاں تک کہ انگوٹھے تک پہنچ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”وما قدر واللہ حق قدرہ“..... الآية۔

۳۰۲۷۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن الصلت نا ابو كدينة عن عطاء بن السائب عن ابي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي حدثنا فقال كيف تقول يا ابا القاسم اذا وضع الله السموات على ذه والارضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار محمد بن الصلت ابو جعفر بخصره اولاً ثم تابع حتى بلغ الابهام فانزل الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ابو کدینہ کا نام یحییٰ بن مہلب ہے۔ میں نے امام بخاری کو یہ حدیث حسن بن شجاع سے محمد بن صلت کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے سنا۔

۳۰۲۸۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں کس طرح آرام کروں جب کہ صور پونکتے والے نے صور منہ کو لگا لیا ہے۔ وہ اپنی پیشانی جھکائے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ پھونکے۔ مسلمانوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کیا کہیں (اس وقت) آپ ﷺ نے فرمایا: کہو ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو کلنا علی اللہ ربنا“ یعنی اللہ ہمیں کافی ہے وہ بہترین وکیل ہے ہم اپنے رب اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں کبھی آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔

۳۰۲۸۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن مطرف عن عطية العوفی عن ابي سعيد الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ینفخ فینفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل توكلنا على الله ربنا وربما قال على الله توكلنا

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۰۲۹۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے پوچھا: یا رسول اللہ! صور کیا ہے؟ فرمایا: ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔

۳۰۲۹۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم نا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال قال اعرابي يا رسول الله ما الصور قال قرن ینفخ فيه

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف سلیمان تمیمی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۰۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہا: اللہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں سے

۳۰۳۰۔ حدثنا ابو كريب نا عبدة بن سليمان نا محمد بن عمرو نا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال

يَهُودِيٌّ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى
عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَصَكَ
بِهَا وَجْهَهُ، قَالَ تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَأَذَاهُمْ
فِيَامٍ يَنْظُرُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُوسَى
أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ
قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَنَى اللَّهُ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ
يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۳۱۔ حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد
قالوا نا عبدالرزاق نا الثوري نا ابواسحاق ان الاعرج
حدثه عن ابي سعيد وابي هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تحيو
فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا
وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان
تعموا فلا تباؤا ابدا فذلك قوله تعالى وتلك
الجنة التي اوردتموها بما كنتم تعملون

ابن مبارک وغیرہ یہ حدیث زہری سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

۳۰۳۲۔ حدثنا سويد بن نصر نا عبدالله بن
المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن ابي
عمرة عن مجاهد قال قال ابن عباس انه قال

پسند کر لیا اس پر ایک انصاری نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے منہ پر ٹھانچہ مار
دیا اور کہا کہ تم آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہو۔ (پھر وہ
دونوں آنحضرت ﷺ کے پاس آئے) تو آپ ﷺ نے یہ آیت
پڑھی ”ونفخ فی الصور“..... الآیة (یعنی جب صور پھونکا جائے گا
تو آسمانوں اور زمین کے تمام لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے مگر جس کو خدا
چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعتاً سب کے
سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے) اس موقع پر سب سے
پہلے سر اٹھانے والا میں ہوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایہ پکڑے
ہوئے ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا وہ مستثنیٰ لوگوں میں
سے تھے۔ ❶ اور جو شخص یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں وہ
جھوٹ بولتا ہے۔ ❷

۳۰۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں
کہ (جنت میں) ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے
لئے زندگی ہے تم کبھی نہیں مرو گے، تمہارے لئے تندرستی ہے تم کبھی بیمار
نہیں ہو گے، تمہارے لئے جوانی ہے تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، اور تم
لوگوں کے لئے نعمتیں ہیں تم کبھی تکلیف نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس
ارشاد سے یہی مراد ہے ”وتلك الجنة التي“..... الآیة (یعنی
وہی جنت جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے وارث ہوئے)

۳۰۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ نے مجاہد سے پوچھا کہ جانتے ہو جہنم کتنی
وسیع ہے؟ مجاہد کہتے ہیں: میں نے کہا: نہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: اللہ
کی قسم تم نہیں جانتے۔ مجھے حضرت عائشہؓ نے بتایا کہ انہوں نے

❶ وہ اس بے ہوشی سے مستثنیٰ ہوں گے، سے مراد یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ دنیا میں ایک مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں، لہذا آخرت میں بے ہوش نہیں ہوں گے اس سے
حضرت موسیٰ کی آنحضرت ﷺ پر فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے۔ جبکہ آنحضرت ﷺ کے فضائل کہیں زیادہ ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم) ❷
اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آنحضرت ﷺ کو حضرت یونسؑ سے افضل جانے۔ تو یہ غلط ہے۔ اس لئے نبوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ دوسرا
صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو حضرت یونسؑ سے افضل جانے۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا کسی نبی سے افضل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

آنحضرت ﷺ سے ”والارض جميعا“.....الایة (یعنی ساری زمین قیامت کے دن اس پروردگار کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے دائیں ہاتھ میں) فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم کے بل پر۔

اس حدیث میں ایک قصہ ہے اور یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۱۵۸۱۔ سورہ مومن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۳۳۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دعائیں تو عبادت ہے پھر یہ آیت پڑھی ”وقال ربکم ادعونی“.....الایة (یعنی تمہارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے دعا کرو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ جو لوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے) یعنی دعا مانگنے میں عاجز ہوتے ہیں۔

۱۵۸۲۔ سورہ سجدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۳۴۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس تین آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دو قریشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قریشی تھا۔ قریشی مولے اور کم سمجھ تھے۔ ان (تینوں) میں سے ایک نے کہا: تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ دوسرا کہنے لگا اگر زور سے بولیں تو سنتا ہے اور اگر آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا: اگر زور سے سنتا ہے تو آہستہ بھی سنتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”وما کنتم تستترون“.....الایة (یعنی اور تم اس بات سے تو خود کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں لیکن تم اس خیال میں رہے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں اور تمہارے اس

آتدری ماسعة جهنم قلت لاقال اجل والله ماتدری حدتنتی عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على حسر جهنم

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۳۳۔ حدثنا بندارنا عبدالرحمن بن مهدی نا سفین عن منصور والاعمش عن ذر عن یسیع الحضرمی عن النعمان بن بشیر قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول الدعاء هو العبادة ثم قال وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۳۴۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن منصور عن مجاهد عن ابی معمر عن ابن مسعود قال احتصم عند البیت ثلاثة نفر قرشیان و ثقفی او ثقفیان و قرشی فلیل ففیه قلوبهم کثیر شحم بطونهم فقال احدہم اترون الله یسمع ما نقول فقال الآخر یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخصینا وقال الآخر ان کان یسمع اذا جہرنا فهو یسمع اذا اخصینا فانزل الله عزوجل وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم

گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں برباد کر دیا پھر تم خسارے میں پڑ گئے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۳۵۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن
عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال
عبد الله كنت مستترا باستار الكعبة فجاء ثلثة نفر
كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه
ثقفيان او ثقفى وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم
افهمه فقال احدهم اترون ان الله يسمع كلامنا هذا
فقال الاخرنا اذا رفعنا اصواتنا سمعه واذا لم نرفع
اصواتنا لم يسمعه فقال الاخر ان سمع منه شيئا
سمعه كله قال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى
الله عليه وسلم فانزل الله وما كنتم تستترون ان
يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم
الى قوله فاصبحتم من الخاسرين

۳۰۳۵۔ حضرت عبدالرحمن بن يزيد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا کہ تین شخص آئے جن کے پیٹ زیادہ چربی والے اور دل کم سمجھ والے تھے۔ ایک قریشی اور دوس کے داماد ثقفی تھے یا ایک ثقفی اور دوس کے داماد قریشی تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں کچھ بات کی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ پھر ایک کہنے لگا کیا خیال ہے کیا اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات سن رہا ہے؟ دوسرا کہنے لگا اگر ہم اپنی آواز بلند کریں تو سنتا ہے اور اگر پست کریں تو نہیں سنتا تیسرا کہنے لگا اگر وہ تھوڑا سن سکتا ہے تو پورا سنتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی ”وما کنتم تستترون ان یشهد“..... سے ”خاسرین“ تک۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اسے محمود بن غیلان نے وکیع سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے وہب بن ربیعہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔

۳۰۳۶۔ حدثنا ابو جعفر عمر بن علی بن الفلاس
ثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة نا سهيل بن ابى حزم
القطعي نا ثابت البناني عن انس بن مالك ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ان الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر
اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

۳۰۳۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ان الذين قالوا ربنا الله“..... الآية (یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور پھر اس پر قائم رہے) اور فرمایا: بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی اور پھر منکر ہو گئے چنانچہ جو شخص اسی پر مراہہ قائم رہا۔)

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو زرہ کہتے ہیں کہ عفان نے عمرو بن علی سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔

۱۵۸۳۔ سورہ شوریٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۳۷۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ ”قل“

۳۰۳۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن

لا اسئلکم“..... لایة (یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے دعوت اسلام پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر حق قرابت) کی تفسیر کیا ہے؟ سعید بن جبیر نے فرمایا: اہل قرابت سے مراد آل محمد (ﷺ) ہے۔ ابن عباس کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ عرب کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں رسول اللہ ﷺ کی قرابت نہ ہو۔ چنانچہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ہاں البتہ تم لوگ اس قرابت کی وجہ سے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ (آپس میں) حسن سلوک کرو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

۳۰۳۸۔ قبیلہ بنو مرہ کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ گیا تو مجھے بلال بن ابو بردہ کے حال کے متعلق بتایا گیا میں نے کہا کہ اس میں عبرت ہے۔ میں ان کے پاس گیا وہ اپنے اسی گھر میں قید تھے جو انہوں نے بنوایا تھا۔ اذیتیں پہنچانے اور مار پیٹ کی وجہ سے ان کی شکل و صورت بدل گئی تھی اور ان کے بدن پر ایک پرانا چھتھرا (کپڑا) تھا۔ میں نے کہا: الحمد للہ اے بلال میں نے تمہیں دیکھا کہ تم ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے غبار نہ ہوتے ہوئے بھی ناک پکڑ کر گزرا کرتے تھے اور آج اس حال میں ہو۔ کہنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا: ابن عباد ہوں اور بنو مرہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا: کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں شاید اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں نفع پہنچائیں۔ میں نے کہا: سنائیے۔ فرمایا: ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی کو کوئی تکلیف یا چوٹ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اور جو (گناہ) اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ”وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت“..... لایة (یعنی تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔

جعفرنا شعبة عن عبدالمک بن ميسرة قال سمعت طائوسا قال قال سئل ابن عباس عن هذه الآية قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودة في القربى فقال سعيد بن جبیر قربي ال محمد فقال ابن عباس اعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة

۳۰۳۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا عمرو بن عاصم نا عبیداللہ بن الواع قال ثنی شیخ من بنی مرہ قال قدمت الکوفة فاخبرت عن بلال بن ابي بردة فقلت ان فيه لمعتبرا فاتيتہ وهو محبوبس في داره لتي قد كان بنی قال واذا كل شئ منه قد تغير من العذاب والضرب واذا هو في قشاش فقلت الحمد لله يا بلال لقد رايتك وانت تمر بنا تمسك بانفك من غير غبار وانت في حالك هذه اليوم فقال من انت فقلت من بنی مرہ ابن عباد فقال الا اجدتک حديثا عسى الله ان ينفعك به قلت هات قال ثنا ابو بردة عن ابيه ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها او دونها الا بدنب وما يعفو الله عنه اكثر قال وقرأ وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۳۹۔ حدثنا عبد بن حميد نا محمد بن بشر العبدی و يعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الحدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ماضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون

۱۵۸۴۔ سورہ زخرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۳۹۔ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک ان میں جھگڑا نہیں شروع ہو جاتا پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”ما ضربوه لک الا جدلا“ (یعنی ان لوگوں نے جو یہ آپ ﷺ سے بیان کیا ہے محض جھگڑنے کی غرض سے بلکہ یہ ہی جھگڑا لو)۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف حجاج بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں اور حجاج ثقہ اور مقارب الحدیث ہیں نیز ابوغالب کا نام مزدور ہے۔

نام مزدور ہے۔

سُورَةُ الدُّخَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۴۰۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الملك بن ابراهيم الجندی نا شعبة عن الاعمش ومنصور سمعا ابا الضحى يُحدِّث عن مسروق قال جاء رجل الى عبد الله فقال ان قاصا يقض يقول انه يخرج من الارض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار و يأخذ المؤمن كهيئة الزكام قال ففضب وكان متكئا فجلس ثم قال اذا سئل احدكم عما يعلم فليقل به قال منصور فليخبر به واذا سئل عما لا يعلم فليقل الله اعلم فان من علم الرجل اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله اعلم فان الله قال لنبية قل ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى قريشا استعصوا عليه قال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم سنة فاحصت كل شي حتى

۱۵۸۵۔ سورہ دخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۴۰۔ مسروق کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک واعظ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے قریب زمین میں سے ایسا دھواں نکلے گا کہ اس سے کافروں کے کان بند ہو جائیں گے اور مومنوں کو زکام سا ہو جائے گا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں پر عبد اللہ غصے ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے (پہلے تکیہ لگائے بیٹھے تھے) اور فرمایا: اگر کسی سے ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کے پاس علم ہو تو بیان کرے یا فرمایا بتا دے اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی انسان کا علم ہے کہ جو چیز نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں کہے کہ ”اللہ اعلم“ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اجرت نہیں مانگتا اور میں اپنے پاس سے بات بنانے والا نہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ قریش میرا کہنا نہیں مانتے تو دعا کی کہ یا اللہ ان پر یوسف کے زمانے کی طرح سات سال کا قحط نازل کر۔ چنانچہ قحط آیا، اور سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہاں تک کہ کھالیں اور مردار کھانے لگے

اعمش یا منصور کہتے ہیں کہ ہڈیاں بھی کھانے لگے۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ پھر زمین سے ایک دھواں نکلنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ابوسفیان آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی کہ آپ ﷺ کی قوم ہلاک ہوگئی ہے۔ ”یوم تاتنی السماء بدخان مبین“..... الآیة (یعنی جس دن آسمان کھلا دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے) منصور کہتے ہیں یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ (وہ لوگ دعا کریں گے) ”ربنا اکشف عنا العذاب“..... الآیة (یعنی اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے) کیونکہ قیامت کا عذاب تو دور نہیں کیا جائے گا۔ (یعنی یہ آیت بھی عبداللہؓ کے قول کی تائید کرتی ہے) عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ بطشہ، لزام اور دخان کے عذاب گزر چکے ہیں۔ اعمش یا منصور کہتے ہیں کہ چاند کا پھٹنا بھی گزر گیا۔ اور پھر ان دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ روم کا غالب ہونا بھی گزر گیا۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ لزام سے مراد جنگ بدر کے موقع پر جو لوگ قتل ہوئے، وہ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۴۱۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مؤمن کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک سے اس کے نیک عمل اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب وہ مرجاتا ہے تو دونوں اس کی موت پر روتے ہیں۔ چنانچہ کفار کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”فما بکت علیہم السماء“..... الآیة (یعنی نہ ان پر آسمان رو دیا نہ زمین اور نہ ہی وہ مہلت پانے والے تھے۔)

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور موسیٰ بن عبیدہ اور یزید قاشی ضعیف ہیں۔

۱۵۸۶۔ سورۃ الاحقاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۴۲۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے بھتیجے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلامؓ حضرت عثمانؓ کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ عبداللہ کہنے لگے آپ کی مدد کے لئے۔ حضرت عثمانؓ نے حکم دیا کہ

اَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَقَالَ اَحَدُهُمَا الْعِظَامَ قَالَ
وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ قَالَ فَاَتَاهُ
اَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَاذْعُ اللّٰهُ لَهُمْ
قَالَ فَهَذَا لِقَوْلِهِ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
يُغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيمٌ قَالَ مَنْصُورٌ هَذَا لِقَوْلِهِ
رَبَّنَا اَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ
الْاٰخِرَةِ قَالَ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَالْدُّخَانُ وَقَالَ
اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْاٰخِرُ الرُّومُ

۳۰۴۱۔ حدثنا الحسين بن حريث ناوكيع عن
موسى بن عبدة عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
مؤمن الا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب
ينزل منه رزقه فاذا مات بكيا عليه فذلك قوله فما
بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين

سُورَةُ الْاَحْقَافِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۴۲۔ حدثنا علي بن سعيد الكندي نا ابو محياة
عن عبد الملك بن عمير عن ابن اخي عبد الله بن
سلام قال لما اريد عثمان جاء عبد الله بن سلام
فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرتك

● اس سے مراد غزوہ بدر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”یوم نبطش البطشة الكبرى“ (ترجمہ: جس دن ہم ان کی سخت پکڑ کریں گے)۔ واللہ اعلم (مترجم)

آپ جائیں اور لوگوں کو مجھ سے دور رکھیں کیونکہ آپ کا باہر رہنا میرے لئے اندر رہنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ عبد اللہ بن سلام باہر نکلے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں زمانہ جاہلیت میں میرا یہ نام تھا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے میرا نام عبد اللہ رکھا اور میرے بارے میں کئی آیات نازل ہوئیں چنانچہ ”وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ“..... الآية (یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اسی کے مثل گواہی دی اور ایمان لایا) (لیکن تم لوگوں نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے) اور ”كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ“ (یعنی اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے) یہ دونوں آیتیں میرے ہی بارے میں نازل ہوئیں۔ (اور جان لو) کہ تم سے اللہ کی ایک تلوار چھپی ہوئی ہے اور فرشتے تمہارے اس شہر میں جس میں تمہارے نبی رہے پڑوسی ہیں۔ لہذا تم لوگ اس شخص (عثمان) کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو فرشتے تمہارا پڑوس چھوڑ دیں گے اور تم لوگوں پر اللہ کی وہ تلوار نکل آئے گی جو چھپی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد قیامت تک میان میں نہیں ڈالی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ اس پر لوگ کہنے لگے کہ اس یہودی ۱ اور عثمان دنوں کو قتل کر دو۔

قَالَ اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّي فَإِنَّكَ حَارِجٌ حَيْرَلِي مِنْكَ دَاجِلٌ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَلَامٍ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَاؤُ فَسَمَّا نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اللَّهِ فَتَزَلَّتْ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتْ فِي شَهْدِ شَاهِدٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَنَزَلَتْ فِي كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ إِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا مَّعْمُودًا عَنْكُمْ وَإِنَّ الْمَلْفِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ نَبِيُّكُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَوَاللَّهِ إِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطْرُدَنَّ جِيْرَانَكُمْ الْمَلْبِكَةَ وَلَتُسَلِّطَنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالُوا اقْتُلُوا الْيَهُودِيَّ وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ

یہ حدیث غریب ہے اسے شعیب بن صفوان بھی عبد الملک بن عمیر سے وہ ابن محمد بن عبد اللہ بن سلام سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن سلام سے نقل کرتے ہیں۔

۳۰۴۳۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بادل دیکھتے تو اندر آتے اور باہر جاتے پھر جب بارش ہونے لگتی تو خوش ہو جاتے۔ میں نے آپ ﷺ سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا: معلوم نہیں شاید یہ اسی طرح ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فلما راؤه عارضاً مستقبل“..... الآية (یعنی جب ان لوگوں (قوم عاد) نے ابر کو اپنے کھیتوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر برسے والے ہیں۔) ۱

۳۰۴۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَحِيلَةً أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا رَأَوْه عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا أُوْدِيَتْهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا

۱ حضرت عبد اللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو سب یہودیوں سے پہلے ایمان لائے۔ (مترجم) ۱ یعنی آنحضرت ﷺ خوف میں جلا پھرتے تھے کہیں یہودیوں کا عذاب نہ ہو جیسا کہ قوم عاد پر آیا تھا۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۴۴۔ حدثنا علی بن حجر نا اسمعیل بن ابراهیم عن داود عن الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَا بِنِ مَسْعُودٍ هَلْ صَحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْحَجِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَالَ مَا صَحَبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلَكِنْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتَبِلْ اسْتَطِيرَ مَا فَعَلَ بِهِ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا وَكَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ إِذَا نَحْنُ بِهِ يُحِبِّي مِنْ قِبَلِ جِرَاءٍ قَالَ فَذَكَرُوا لِي وَاللَّهِ كَانُوا فِيهِ قَالَ فَقَالَ أَنَا نَبِيٌّ دَاعِيَ الْحَجِّ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَانطَلَقَ فَأَرَانَا أَثَارَهُمْ وَأَثَارَ نِيرَانِهِمْ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَ سَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْحَزِيرَةِ فَقَالَ كُلُّ عَظِيمٍ لَمْ يُذَكِّرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمَا كَانَ لَحْمًا وَ كُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْتَةٍ عَلَفَتْ لَدَوَائِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادَا إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۴۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أستغفر الله في اليوم سبعين مرة

۳۰۴۴۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ جس رات جن آئے تھے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ مکہ میں آنحضرت ﷺ گم ہو گئے ہم لوگ سمجھے کہ شاید کسی نے آپ ﷺ کو پکڑ لیا ہے یا کوئی انہیں لے گیا ہے وہ رات بہت بری گزری جب صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ صبح ہی صبح غار حراء کی طرف سے آرہے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے اپنی گھبراہٹ بیان کی تو فرمایا کہ میرے پاس ایک جن مجھے بلانے کے لئے آیا تھا۔ میں وہاں چلا گیا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ ﷺ ہمیں لے گئے اور ان کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے پھر جنوں نے آنحضرت ﷺ سے توشہ مانگا وہ کسی جزیرے کے رہنے والے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہارے لئے ہوگی اور خوب گوشت لگا ہوا ہوگا۔ اور ہر اونٹ کی ٹینگیاں اور گور تمہارے جانوروں کا چارہ ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ہڈی اور گور سے استنجا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ ❶

۱۵۸۷۔ سورہ محمد ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۴۵۔ حضرت ابو ہریرہ، "واستغفر لذنبك"..... الآية (یعنی اپنے گناہوں اور مومن مردوں و عورتوں کے لئے مغفرت مانگئے) کے متعلق آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو۱۰۰ مرتبہ مغفرت مانگتا ہوں۔ محمد بن عمر بھی یہ حدیث ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔

❶ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اس رات کے متعلق متعارض احادیث منقول ہیں۔ جن کا مفہوم یہ ہے کہ جن میں ان کے موجود ہونے کا ذکر ہے وہ صرف باعتبار آپ ﷺ کے ساتھ جانے کے ہیں کیونکہ وہ صحیح جن میں حاضر نہیں ہوئے تھے لہذا کئی روایات میں کہتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ تو دور ہی بیٹھے رہے۔ یعنی جانا نہ جانا برابر تھا۔ پھر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا ہے کہ ایک میں وہ موجود ہوں اور دوسرے میں نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

۳۰۴۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وان تتولوا یستبدل قوماً“..... الایة (یعنی اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری جگہ کون لوگ آئیں گے؟ آپ ﷺ نے سلمانؓ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کی قوم یہ اور اس کی قوم۔

۳۰۴۶۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبد الرزاق نا شیخ من اهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی ہریرة قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الایة یوماً وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یكونوا امثالکم قالوا ومن یتبدل بنا قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکب سلمان ثم قال هذا وقومه هذا وقومه

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں کلام ہے۔ عبدالرحمن بن جعفر بھی یہ حدیث علاء بن عبدالرحمن سے روایت کرتے ہیں۔

۳۰۴۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ روگردانی کریں گے تو وہ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا وہ کون لوگ ہیں جو ہماری طرح نہیں ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ سلمانؓ آنحضرت ﷺ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے سلمانؓ کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ اور اس کے ساتھی۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ایمان ثریا (بلند ستارہ) میں بھی لگتا ہوتا تو اہل فارس میں سے چند لوگ اسے لے آتے۔

۳۰۴۷۔ حدثنا علی بن حجر نا اسمعیل بن جعفر نا عبد اللہ بن جعفر بن نجیح عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی ہریرة قال قال ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارسول اللہ من هؤلاء الذین ذکر اللہ ان تولینا استبدلوا بنا ثم لا یكونوا امثالنا قال وكان سلمان یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ سلمان وقال هذا واصحابه والذی نفسی بیده لو كان الایمان منوطاً بالثریا لتنا وله رجال من فارس

عبداللہ بن جعفر بن نجیح، علی بن مدینی کے والد ہیں۔ علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر سے بہت کچھ روایت کرتے ہیں پھر علی یہی حدیث اسماعیل بن جعفر سے اور وہ عبداللہ بن جعفر بن نجیح سے نقل کرتے ہیں۔

سورہ فتح ۱۵۸۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۳۰۴۸۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے کچھ کہا۔ آپ ﷺ چپ رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا تو اس مرتبہ بھی آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے اپنے اونٹ کو چلایا اور ایک کنارے ہو گیا۔ پھر (اپنے آپ سے) کہنے لگے اے ابن خطاب تیری ماں تجھ پر رونے تو نے آنحضرت ﷺ (ﷺ) کو تین مرتبہ سوال

سورۃ الفتح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۴۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عثمة نا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابیه قال سمعت عمر بن الخطاب یقول کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت ثم کلمته فسکت فحرکت راجلتی فتتحیت فقلت نکلتک

کر کے شک کیا اور کسی مرتبہ بھی آپ ﷺ نے جواب نہ دیا تو اسی لائق ہے کہ تیرے متعلق قرآن نازل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ کہ کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے بلا رہا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابن خطاب آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی جو میرے نزدیک ان سب چیزوں سے پیاری ہے جن پر سورج نکلتا ہے اور وہ یہ ہے۔ ”انا فتحنا لک فتحاً مبیناً“ (یعنی بے شک ہم نے آپ ﷺ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔)

أُمِّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُكَلِّمُكَ مَا أَخْلَقَكَ بَانَ يُنَزَّلَ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ فَمَا نُثَبِتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةً مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۰۴۹۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی ”لیغفر لک اللہ“..... الآية (ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے) تو آپ ﷺ حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ مجھے زمین پر موجود ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے عرض کیا یہ خوشگوار بات مبارک ہو یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے متعلق تو بتا دیا لیکن معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”لیدخل المؤمنین والمؤمنات..... سے فوزاً عظیماً“ تک۔ (تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہرین جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

۳۰۴۹۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقالوا هنيئاً مريئاً يا رسول الله لقد بين لك الله ما إذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزاً عظيماً

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مجمع بن جاریہ سے بھی روایت ہے۔

۳۰۵۰۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ تعمیم کے پہاڑ سے آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی طرف اسی کا فر نکلے۔ صبح کی نماز کا وقت تھا وہ لوگ چاہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کو قتل کر دیں لیکن سب کے سب پکڑے گئے اور آنحضرت ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”و هو الذي كف ايديهم“..... الآية (یعنی وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے تم سے اور تمہارے ان سے ہاتھ روک دیئے۔

۳۰۵۰۔ حدثنا عبد بن حمید قال ثنی سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن ثمانين هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلوة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا أحدى فأعفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله وهو الذي كف ايديهم عنكم وَايْدِيكُمْ عَنْهُمْ الآية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۵۱۔ حدثنا الحسن بن فرعة البصری نا سفیان بن حبیب عن شعبة عن ثوير عن ابيه عن الطفیل بن ابي بن كعب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآذَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۳۰۵۱۔ حضرت ابی بن کعبؓ، آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ "و الزمهم كلمة التقوى" (ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا) میں کلمہ تقویٰ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف حسن بن قزح کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ میں نے ابوزرعہ سے اسی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی اسے اسی سند سے مرفوع جانا۔

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵۸۹۔ سورہ حجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۵۲۔ حدثنا محمد بن المثنى نا مؤمل بن اسماعيل نانا فع بن عمر بن جميل الجمحي قال ثنا ابن ابي مليكة قال ثنى عبد الله بن الزبير ان الأفرع بن حابس قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمِلْ عَلِيَّ قَوْمَهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا تَسْتَعْمِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي فَقَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ قَالَ فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمَعْ كَلَامُهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ

۳۰۵۲۔ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انہیں ان کی قوم پر عامل مقرر کر دیجئے اور عمرؓ کہنے لگے کہ انہیں عامل نہ بنائیے۔ چنانچہ دونوں میں تکرار ہو گئی یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئیں۔ ابوبکرؓ عمرؓ سے کہنے لگے کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے وہ کہنے لگے نہیں میری قطعاً یہ نیت نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ..... الْآيَةَ (یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول اللہ ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو) راوی کہتے ہیں کہ پھر عمرؓ کا یہ حال تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ سے کوئی بات کرتے تو ان کی آواز اس وقت سنائی نہ دیتی جب تک سمجھا کر بات نہ کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ زبیر نے اپنے دادا ابوبکرؓ کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اسے ابن ابی ملیکہ سے مرسل نقل کرتے ہوئے عبد اللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔

۳۰۵۳۔ حدثنا ابوعمار الحسين ابن جريث نا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي إسحاق عني البراء بن عازب في قوله إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ

۳۰۵۳۔ حضرت براء بن عازبؓ "ان الذين ينادونك..... الْآيَةَ (یعنی جو لوگ آپ ﷺ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں) کا سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میری تعریف عزت اور میری

ذمت ذلت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شان تو اللہ کی ہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ دَمِي شَيْنٌ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۵۴۔ حضرت ابو جہیرہ بن ضحاک فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص
کے دو دو تین تین نام ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض ناموں سے پکارا جانا
وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”ولا تتنازروا
باللقاب“ (یعنی ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔)

۳۰۵۴۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلف نا بشر
بن المفضل عن داود بن ابى هند عن الشَّعْبِيِّ عَنْ
أَبِي جَبْرِةَ بْنِ الصَّحَّاحِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَكْحُو
لَهُ الْإِسْمَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَيُدْعَى بِبَعْضِهَا فَعَسَى أَنْ
يُكْرَهُ قَالَ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَتَنَازَرُوا بِالْأَلْقَابِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ابو سلمہ، بشر بن مفضل سے وہ داؤد بن ابی ہند سے وہ اشعشی سے وہ ابو جہیرہ بن ضحاک سے اسی کی مانند
نقل کرتے ہیں۔ ابو جہیرہ، ثابت بن ضحاک انصاری کے بھائی ہیں۔

۳۰۵۵۔ حضرت ابو نصرہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے یہ آیت
پڑھی ”واعلموا ان فيكم رسول الله“..... الآية (یعنی جان لو
کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر
آپ ﷺ ان میں تمہارا کہنا نامیں تو تم لوگوں کو بڑا ضرر پہنچے۔ اور فرمایا:
یہ آیت تمہارے نبی ﷺ پر اس وقت نازل کی گئی۔ جب کہ تمہارے
ائمہ اور اس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام آپ ﷺ کے ساتھ تھے
کہ اگر آنحضرت ﷺ بہت سی چیزوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگیں
تو تم لوگ مضرت میں پڑ جاؤ گے تو آج تم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔

۳۰۵۵۔ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر
عن المستمر بن الريان عن أبي نصره قَالَ قَرَأَ
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ
يُؤَلِّحِي إِلَيْهِ وَخِيَارُ أُمَّتِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ
الْأَمْرِ لَعَنِتُوا فَكَيْفَ بِكُمْ الْيَوْمَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے مستر بن ربیع کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں۔

۳۰۵۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر
آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو!
اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کا فخر اور اپنے آباؤ اجداد کی وجہ
سے تکبر کرنا دور کر دیا ہے۔ اب لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ
کے نزدیک نیک، متقی اور کریم ہے۔ دوسرا وہ جو اللہ کے نزدیک بدکار،
بد بخت اور ذلیل ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
آدم کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ“..... الآية (یعنی اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک
مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنایا

۳۰۵۶۔ حدثنا علي بن حجر نا عبد الله بن
جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة
فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية
الجاهلية وتعاطفها بابآئها فالناس رجلان رجل
برئ نقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله
والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله

اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے دانے اور خبر رکھنے والے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے عبد اللہ بن دینار کی ابن عمرؓ سے روایت کے متعلق صرف اسی سند سے جانتے ہیں عبد اللہ بن جعفر ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن معین اور کئی راوی انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ یہ علی بن مدینی کے والد ہیں۔ اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۰۵۷۔ حدثنا الفضل بن سهل البغدادي الاعرج وغير واحد قالوا نا يونس بن محمد عن سلام بن ابى مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى

۳۰۵۷۔ حضرت سمرةؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسب مال اور کرم تقویٰ ہے۔

یہ حدیث سمرة کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف سلام بن ابی مطیع کی روایت سے جانتے ہیں۔

سُورَةُ ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵۹۰۔ سورَةُ ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۵۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا يونس بن محمد نا شيبان عن قتادة نا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول جهنم تقول هل من مزيد حتى يصع فيها رب العزة قلتم فتقول قط قط وعزتك ويروى بعضها الى بعض

۳۰۵۸۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ (یعنی اور ہے تو لاؤ) اور اس وقت تک اسی طرح (هل من مزید) کہتی رہے گی جب تک اللہ رب العزت اس میں اپنا قدم نہیں رکھیں گے قدم رکھتے ہی وہ کہنے لگے گی۔ تیری عزت کی قسم ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور پھر ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

سُورَةُ الدَّارِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵۹۱۔ سورَةُ الدَّارِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۵۹۔ حدثنا ابن ابى عمير نا سفيان عن سلام عن عاصم بن ابى النجود عن ابى وايل عن رجل من ربيعة قال قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد فقلت اعوذ بالله ان اكون مثل وافد عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد قال

۳۰۵۹۔ حضرت ابو وائل قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں مدینہ آیا تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں قوم عاد کے قاصد کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ قوم عاد کا قاصد کیسا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اچھے واقف کار سے آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب قوم عاد پر قحط پڑا تو

قیل (ایک شخص کا نام) کو بھیجا گیا وہ بکر بن معاویہ کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے اسے شراب پلائی اور دو (مشہور) بانڈیاں اس کے سامنے گانے لگیں پھر وہ مہرہ کے پہاڑوں کا ارادہ کر کے نکلا اور چل دیا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میں کسی بیماری کے علاج یا کسی قیدی کو چھڑانے کے لئے نہیں آیا کہ میں فدیہ دوں۔ لہذا تو اپنے بندے کو جو پلانا ہو پلا۔ ساتھ ہی ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا اس طرح وہ بکر بن معاویہ کے شراب پلانے کا شکر یہ ادا کرتا تھا۔ پھر اس کے لئے کئی بدلیاں آئیں جن میں سے اس نے ایک کالی بدلی پسند کی پھر کہا گیا کہ جلی ہوئی راگھ لے لو جو قوم عاد کے کسی فرد کو نہ چھوڑے گی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قوم عاد پر صرف اس انگٹھی کے حلقے کے برابر ہوا چھوڑی گئی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ اِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ..... (الآیہ) اور جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے اس طرح کر دیتی جیسے گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔)

یہ حدیث کئی راوی سلام ابو منذر سے وہ عاصم بن ابی الجود سے وہ ابوداؤد سے اور وہ حارث بن حسان سے نقل کرتے ہیں۔ انہیں حارث بن یزید بھی کہتے ہیں۔

- ۳۰۶۰۔ حضرت حارث بن یزید بکری کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور مسجد میں گیا وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور کالے لہجہ لہرا رہے تھے اور بلال تلوار لٹکائے آنحضرت ﷺ کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا: لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ، عمرو بن عاص کو کسی علاقے میں بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر سفیان بن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ حارث بن یزید کو حارث بن حسان بھی کہتے ہیں۔

۱۵۹۲۔ سورہ طور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۶۱۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ستاروں کے بعد (یعنی فجر سے پہلے) دو سنتیں اور سجود (مغرب) کے

فَقُلْتُ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتُ اِنْ عَادَلَمَا اَفْجَطْتُ
بَعَثْتُ قَيْلًا فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْحَمْرَ
وَعَنَتَهُ الْجَرَادَ تَانِ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ
اللّٰهُمَّ اِنِّي لَمِ اَتِكَ لِمَرِيضٍ فَاَدَاوِيْهِ وَلَا لِاسِيْرٍ فَاَدِيْهِ
فَاسْقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيْهِ وَاَسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ
مُعَاوِيَةَ يَشْكُرُكَ الْحَمْرُ الَّذِي سَقَاهُ فَرَفَعَ لَهُ
سَحَابَاتٍ فَقِيلَ لَهُ: اَخْتَرَا احْلَهُنَّ فَاخْتَارَ السُّوْدَاءَ
مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ: خُذْهَا رَمَادًا رَمْدًا لَا تَنْدُرَ مِنْ عَادٍ
اَحَدًا وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ اِلَّا قَدْرٌ
هَذِهِ الْحَلَقَةُ يُعْنِي حَلَقَةَ الْحَاتِمِ ثُمَّ قرءَ اِذَا ارْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيْمَ مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ الْاَيَةُ

۳۰۶۰۔ حدثنا عبد بن حميد نا زيد بن حباب نا
سلام بن سليمان النحوي ابو المنذر نا عاصم بن ابي
النجدود عن ابي وايل عن الحارث بن يزيد البكري قال
قمت المدينة فدخلت المسجد فاذا هو غاص
بالناس واذا رايات سود تخفق واذا بلال متقلد
السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت ما شان الناس قالوا يريدون ان يعت عمرو بن
العاص وجهها فذكر الحديث بطوله نحو ما من حديث
سفيان بن عيينة بمعناه ويقال له الحارث بن حسان

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۶۱۔ حدثنا ابو هشام الرفاعي نا ابو فضيل عن
شدین بن کرب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَادْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
بعد بھی دو رکعت سنتیں ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمد بن فضل کی روایت سے اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ وہ رشدین بن کریب سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ محمد اور رشدین بن کریب میں سے کون زیادہ ثقہ ہے؟ تو فرمایا: دونوں ایک جیسے ہی ہیں لیکن محمد میرے نزدیک زیادہ راجح ہیں۔ پھر میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن رشدین میرے نزدیک زیادہ راجح ہیں۔

سورۃ نجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّجْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۶۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے (یعنی شب معراج میں) اور منہلی سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف زمین سے چڑھا اور اس سے زمین کی طرف اتر جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تین ایسی چیزیں عطا کیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیں۔ آپ ﷺ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ کی امت کے سارے کبیرہ گناہ بخش دیئے گئے بشرط یہ کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں پھر ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی ”اذیغشی السدرۃ ما یغشی“ (جب اس سدرۃ المنتہیٰ کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں) اور فرمایا کہ سدرہ چھٹے آسمان پر ہے سفیان کہتے ہیں کہ وہ پلٹنے والی چیز سونے کے پروانے تھے اور پھر ہاتھ ہلا کر بتایا کہ اس طرح اڑ رہے تھے۔ مالک بن مغول کے علاوہ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ وہ مخلوق کے علم کی انتہاء ہے اس کے بعد کوئی کسی چیز کے متعلق نہیں جانتا۔

۳۰۶۲۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يخرج من الأرض وما ينزل من فوق فأعطاه الله عندها ثلاثاً لم يعطهن نبياً كان قبله فرضت عليه الصلوة خمسا وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لأمته المصحفات ما لم يشرکوا بالله شيئاً قال ابن مسعود اذ یغشی السدرۃ ما یغشی قال السدرۃ فی السماء السادسة قال سفیان فرأش من ذهب وأشار سفیان بيده فأرعدھا وقال غیر مالک بن مغول إليها ينتهى علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۶۳۔ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش سے ”فکان قاب“..... الآية (یعنی پھر اور نزدیک آیا اور دو کمانون کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم) کی تفسیر پوچھی تو فرمایا: ابن مسعود نے مجھے

۳۰۶۳۔ حدثنا احمد بن منيع بن عباد بن العوام نا الشيباني قال سألت زر بن حبیش عن قوله عز وجل فکان قاب قوسين أو أدنى فقال أخبر ابن مسعود

سدرۃ: بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منہلی کے معنی انتہاء کی جگہ کے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ چنانچہ جو بھی احکام و اوزان قیاسی آتے ہیں وہ پہلے اس تک پہنچتے ہیں اور پھر زمین پر آتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے چھ سو پر ہیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرَائِيلَ وَلَهُ
سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۰۶۴۔ شعی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی عرفات میں کعبہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے (ابن عباس) کعبہ سے کوئی بات پوچھی تو وہ بکیر کہنے لگے یہاں تک کہ ان کی آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: ہم بنو ہاشم ہیں۔ کعبہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور دیدار کو محمد ﷺ اور موسیٰ پر تقسیم کیا۔ چنانچہ موسیٰ سے اللہ نے دو مرتبہ کلام کیا اور محمد ﷺ نے اللہ کا دو مرتبہ دیدار کیا۔ مسروق کہتے ہیں میں ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا آنحضرت ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ فرمانے لگیں کہ تم نے ایسی بات کی ہے جس پر میرا (جسم کا) رواں کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: تامل کیجئے اور پھر یہ آیت پڑھی۔ ”لقد رای من آیات“..... الایة (یعنی آنحضرت ﷺ نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے) فرمانے لگیں: تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے وہ تو جبرائیل ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا آپ ﷺ نے کوئی ایسی چیز (امت سے) چھپائی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ان پانچ چیزوں کا علم ہے جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے ”ان اللہ عنده علم الساعة“..... الایة (یعنی بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی بارش برساتا اور وہی جانتا ہے کہ رجم میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا“.....) تو وہ شخص جھوٹ باندھتا ہے۔ ہاں البتہ آنحضرت ﷺ نے جبرائیل کو دیکھا ہے اور انہیں بھی ان کی اصلی صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اور ایک مرتبہ جیاد کے مقام پر کہ ان کے چھ سو پر ہیں جنہوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا ہے۔

۳۰۶۴۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سُفیان عن مُجالِدٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ
عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبْتَهُ الْجَبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبٌ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيِيهِ
وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ
وَرَأَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ فَدَخَلْتُ عَلَيَّ
عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، فَقَالَ لَقَدْ
تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي قُلْتُ رَوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى فَقَالَتْ أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ
إِنَّمَا هُوَ جِبْرَائِيلُ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، أَوْ
كَلَّمَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ فَقَدْ
أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرَائِيلَ لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ
إِلَّا مَرَّتَيْنِ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ
سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ

داؤد بن ابی نہدیجی ابو ہند سے وہ شعی سے وہ مسروق سے وہ عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی حدیث کی مانند نقل کرتے

ہیں۔ یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث سے چھوٹی ہے۔

۳۰۶۵۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے مجھے کہا کہ محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ”لا تدرکہ آیۃ“ (یعنی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی.....) ابن عباسؓ کہنے لگے تیرا استیانس ہو یہ تو جب ہے کہ وہ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے بلکہ محمد ﷺ نے تو اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔

۳۰۶۵۔ حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفی نا یحییٰ کثیر العنبری نا سالم بن جعفر عن الحكم بن ابان عن عکرمۃ عن ابن عباس قال رای مُحَمَّدَ رَبِّهِ، قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ قَالَ وَيَحْكُ ذَاكَ إِذَا تَحَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، وَقَدْ رَأَى مُحَمَّدَ رَبِّهِ مَرَّتَيْنِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۰۶۶۔ حضرت ابن عباسؓ ”ولقد رآه نزلة“..... الخ (یعنی انہوں نے اسے ایک اور مرتبہ بھی سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی پھر دونوں کے درمیان دو کمانون کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا) ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔

۳۰۶۶۔ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی نا ابی نا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابن عباس فی قولِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عِبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۰۶۷۔ حضرت ابن عباسؓ ”ما کذب الفؤاد ما رأی“ (یعنی دل نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا ہے۔

۳۰۶۷۔ حدثنا عبد بن حمیدنا عبد الرزاق وابن ابی رزما وابونعیم عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن عکرمۃ عن ابن عباس قال ما کذب الفؤاد ما رأی قال رآه بقلبه

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۰۶۸۔ حضرت عبداللہ بن شقینؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوذرؓ سے عرض کیا کہ اگر میں آنحضرت ﷺ کو پاتا تو آپ ﷺ سے ایک سوال پوچھتا۔ ابوذرؓ نے پوچھا کہ کیا پوچھتے؟ کہنے لگے: پوچھتا کہ کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے آپ ﷺ سے پوچھا تھا آپ ﷺ نے جواب دیا: وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔

۳۰۶۸۔ حدثنا محمود بن غیلان ناوکیع ویزید بن ہارون عن یزید بن ابراہیم التستری عن قتادة عن عبد اللہ بن شقیق قال قلت لابی ذر لو ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لساألته فقال عما کنت تسأله قلت اسأله هل رای مُحَمَّدَ رَبِّهِ، فقال قد سألته فقال نور انی اراه

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۰۶۹۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ”ما کذب الفؤاد“.....

۳۰۶۹۔ حدثنا عبد بن حمیدنا عبید اللہ بن ابی

الآیة کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبرائیل کو ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو ان کے وجود نے آسمان و زمین کا احاطہ کر لیا تھا۔

رزمة عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى فقال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل فى حلة من رفرف قد ملاما مابين السماء والأرض
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۷۰۔ حضرت ابن عباسؓ "الذین یجتنبون کبائر الاثم".....
الآیة (یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں اور بے حیالی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ) اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا اللہ اگر تو بخشا ہے تو سب گناہ بخش دے تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔

۳۰۷۰۔ حدثنا احمد بن عثمان ابو عثمان البصرى نا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس الذین یجتنبون کبائر الاثم والقوا حش إلا اللمم قال النبى صلى الله عليه وسلم ان تغفر اللهم تغفر حمادا اى عبد لك لا العما
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف زکریا بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

سورۃ القمر ۱۵۹۳۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۳۰۷۱۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے کہ (آپ ﷺ کے معجزے سے) چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس پار اور دوسرا اس پار۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہم سے فرمایا: گواہ رہنا۔ یعنی آنحضرت ﷺ اس سے یہ مراد لیا کرتے تھے "اقتربت الساعة"..... الآیة (ترجمہ: قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔)

سُورَةُ الْقَمَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۷۱۔ حدثنا على بن حجرنا على بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمني فانشق القمر فلققتين فلققة من وراء الحبل وقلقة ذوته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا يعنى اقتربت الساعة وانشق القمر
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۷۲۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اکرم ﷺ سے معجزہ طلب کیا تو چاند مکہ میں دو مرتبہ پھٹا (دو ٹکڑے ہوا) پھر یہ آیات "اقتربت الساعة" سے "محر مستمر" تک نازل ہوئیں (یعنی قیامت نزدیک آگئی اور چاند شق ہو گیا اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا

۳۰۷۲۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت آية اقتربت الساعة وانشق القمر الى قوله سحر مستمر

● کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لئے اس آیت میں بشارت ہے کہ اس کے مغاثر معاف کر دیئے جائیں گے واللہ اعلم (مترجم)

(جاتا ہے۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۷۳۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: گواہ رہنا۔

۳۰۷۳۔ حدثنا ابن ابی عمیرنا سفین عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشهدوا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۷۴۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ عہد نبوی ﷺ میں چاند پھٹا تو آپ ﷺ نے ہمیں گواہ ٹھہرایا۔

۳۰۷۴۔ حدثنا محمود بن غیلان نا ابو داؤد عن شعبۃ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عمر قال انفلق القمر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشهدوا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۷۵۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ عہد نبوی ﷺ میں چاند شق ہوا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا اس پہاڑ پر۔ اس پر کفار کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو سب لوگوں پر تھوڑی جادو کر سکے گا۔ ❶

۳۰۷۵۔ حدثنا عبد بن حمید نا محمد بن کثیرنا سلیمان بن کثیر عن حصین عن محمد بن جبیر بن مطعم قال انشق القمر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صار فرقتین علی هذا الجبل وعلی هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن سحرنا فما یستطیع ان یسحر الناس کلهم

یہ حدیث بعض حضرات حصین سے وہ جبیر سے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا جبیر بن مطعم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۰۷۶۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مشرکین تقدیر کے متعلق جھگڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی ”یوم یسحبون“..... الایہ (یعنی جس دن یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے عذاب کا مزا چکھو ہم نے ہر چیز تقدیر کے مطابق پیدا کی ہے۔

۳۰۷۶۔ حدثنا ابو کریب و ابو بکر بندار قالا ثنا وکیع عن سفیان عن زیاد بن اسمعیل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومی عن ابی ہریرہ قال جاء مشرکوا قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر فنزلت یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

❶ پھر کفار نے ان لوگوں سے بھی پوچھا جو ان دنوں سفر میں گئے ہوئے تھے کہ کیا چاند شق ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اس معجزے کی گواہی دی۔ (مترجم)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۷۷۔ حدثنا عبدالرحمن بن واقد ابو مسلم نا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن محمد بن المنكدر عن جابر قال خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا إِلَىٰ اٰخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتَهَا عَلَىٰ الْحِجْرِ لَيْلَةَ الْحِجْرِ فَكَانُوا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ فَبَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوا لَا بَشِيْءٌ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

۱۵۹۵۔ سورہ رحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۷۷۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ صحابہ کی طرف آئے اور سورہ رحمن شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی صحابہ چپ رہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے یہ سورت جنوں کے ساتھ پڑھی تھی تو ان لوگوں نے تم سے بہتر جواب دیا چنانچہ جب میں ”فبای آلاء.....“ الآية پڑھتا تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ زبیر بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن زبیر کا خیال ہے کہ زبیر بن محمد وہ نہیں ہیں جو شام کی طرف گئے ہیں اور اہل عراق ان سے روایت کرتے ہیں بلکہ شاید یہ کوئی اور ہیں۔ اولوگوں نے ان کا نام بدل دیا ہے کیونکہ لوگ ان سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شام کے لوگ زبیر بن محمد سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں اور اہل عراق ان میں سے ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو صحت کے قریب ہوتی ہیں۔

سُورَةُ الْوٰقِعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۷۸۔ حدثنا ابو کریب نا عبدة بن سلیمان وعبدالرحیم بن سلیمان عن محمد بن عمرو قال نا ابوسلمة عن ابی هريرة قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم یقول اللّٰه اعددت لعیبادی الصّٰلِحِیْنَ مَا لَا عِیْنَ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَرٍ فَاَقْرءُ وَاِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ اَعْیُنٍ جَزَاءًۢ مَا كَانُوا یَعْمَلُوْنَ وَفِی الْحَنَّةِ شَجْرٌ یَّسِیرُ الرَّاِکِبِ فِی ظِلِّهَا مِائَةٌ عَامٍ لَا یَقْطَعُهَا وَاَقْرءُ وَاِنْ شِئْتُمْ وَظَلِّ مَمْدُوْدٌ وَمَوْضِعٌ سَوِیٌّ فِی الْحَنَّةِ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیْهَا وَاَقْرءُ وَاِنْ شِئْتُمْ فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَاَدْخِلَ الْحَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

۱۵۹۶۔ سورہ واقعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۷۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی چیز (جنت) تیار کی ہے۔ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے (اس کے متعلق) سنا ہے اور نہ کسی انسان کے ذل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ”فلا تعلم نفس“..... الآية (یعنی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا چیز تیار کی گئی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے) اور جنت میں ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے میں چلنے لگے تو سو سال تک چلنے کے باوجود بھی اسے طے نہ کر سکے۔ اگر چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ”وظل ممدود“ (یعنی طویل سایہ ہے) اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور انیس موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے لہذا

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو "فمن زحزح عن النار"..... الآية. یعنی جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سودا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۸۹۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَجْرَةَ يَسِيرُ الرَّابِئُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَأَقْرَأُ وَإِنْ شِئْتُمْ وَظِلٌّ مَمْدُودٌ وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ

۳۰۷۹۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سو سال تک بھی چلتا رہے تو طے نہ کر سکے۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو "وظل ممدود وماء مسكوب" (یعنی اور ان کے لئے لمبا لمبا سایہ اور چلتا ہوا پانی ہوگا۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۳۰۸۰۔ حدثنا ابو كريب نا رشيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ قَالَ إِرْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَسِيرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ

۳۰۸۰۔ حضرت ابوسعیدؓ آنحضرت ﷺ سے "وقرش مرفوعه" (یعنی جنتیوں کے لئے اونچے بچھو۔ نے ہوں گے) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی بلندی ایسی ہوگی جیسے زمین سے آسمان اور دونوں کے درمیان کا فاصلہ پانچ سو برس کا ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف رشیدین کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء اس بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درجات ہیں۔ یعنی ہر دور جوں کے درمیان آسمان و زمین کے مابین سا فاصلہ ہے۔

۳۰۸۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا الحسين بن محمد نا اسرائيل عن عبدالا علي عن ابى عبد الرحمن عن عليّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ قَالَ شُكْرُكُمْ تَقُولُونَ مُطْرَنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا

۳۰۸۱۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: "وتجعلون رزقكم"..... الآية (یعنی تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو) پھر فرمایا: یعنی اپنے رزق کا شکر تکذیب کے ساتھ کرتے ہو کہ فلاں ستارے وغیرہ کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سفیان بھی عبد اللہ الاعلیٰ سے یہی حدیث اسی سند سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

۳۰۸۲۔ حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً قَالَ إِنَّ مِنْ

۳۰۸۲۔ حضرت انسؓ "إنا أنشأناهن"..... الآية (یعنی ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بتایا ہے) کی تفسیر میں رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ خاص طور پر بنائی جانے والی عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں بوڑھی، عمش، اور مص ۵ تھیں۔

۵ عمش کے معنی چندھا ہونے کے آتے ہیں۔ (مترجم) ۵ زمص سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کی آنکھوں سے کچھ بہتا رہتا ہے۔ (مترجم)

الْمُنشَاتِ اللَّائِي كُنْ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمَشَارُ مُضَا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف موسیٰ بن عبیدہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ موسیٰ بن عبیدہ اور یزید بن ابان رقاشی دونوں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

۳۰۸۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا: مجھے سورہ ہود واقعہ، مسلمات، عم یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔

۳۰۸۳۔ حدثنا ابو کریب نا معاویة بن هشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن عکرمة عن ابن عباس قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبانی هود والواقعة والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ابن عباس کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ علی بن صالحؒ بھی یہ حدیث ابو اسحاق سے اور وہ ابو جحیفہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ پھر کوئی راوی ابو اسحاق سے ابو میسرہ کے حوالے سے تھوڑی سی حدیث مسلا نقل کرتے ہیں۔

۱۵۹۷۔ سورہ حدید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۸۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آگئے۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ رقیع یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی ہے اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا: کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا: کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ رقیع یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی ہے اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا: کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۸۴۔ حدثنا عبد بن حمید و غیر واحد المعنی و احد قالوا نا یونس بن محمد نا شیبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثت الحسن عن ابی هريرة قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس واصحابه اذ اتی علیہم سحاب فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرؤن ما هذا قالوا اللہ ورسوله اعلم قال هذا العنان هذیم روايا الارض يسوقه اللہ الى قوم لا يشكرونه ولا يدعونہ ثم قال هل تدرؤن ما فوقکم قالوا اللہ ورسوله اعلم قال فانها الرقیع سقف محفوظ وموج مکفوف ثم قال هل تدرؤن کم بینکم و بیننا قالوا اللہ ورسوله اعلم قال بینکم و بیننا خمس مائة سنة ثم قال هل تدرؤن ما فوق ذلك قالوا اللہ ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائین ما بینہما مسيرة خمس مائة عام حتی عد سبع سموات ما بین کل سمائین ما بین السماء والارض ثم قال هل تدرؤن ما فوق ذلك

قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدًا مَبِينٌ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا لَدَيْ تَحْتِكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا إِلَّا رِضٌ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا لَدَيْ تَحْتِ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَيْتُمْ بِجَبَلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا: کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اس سے اوپر دو آسمان ہیں جن کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اسی طرح سات آسمان گوائے اور بتایا کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان آسمان وزمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ زمین ہے۔ پھر پوچھا: معلوم ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور رسول ﷺ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کے نیچے دوسری زمین ہے اس کے اور اس کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے سات زمیں گوائیں۔ اور بتایا کہ ہر دو کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تم لوگ نیچے کی زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور یہ آیت پڑھی ”ہو الاول والآخر والظاهر“ الآية (یعنی وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے ہے اور وہی ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔)

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ایوب، یونس بن عبید اور علی بن یزید سے منقول ہے کہ حسن نے ابو ہریرہ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ بعض علماء اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس رسی کا اللہ کا علم، اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچے گی۔ کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور حکومت ہر جگہ ہے اور وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی کتاب میں بتایا ہے۔

۱۵۹۸۔ سورہ مجادلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۸۵۔ حضرت سلمہ بن صحز انصاریؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد ہوں جسے عورتوں سے جماع کی (وہ طاقت) عطا کی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ جب رمضان آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۸۵۔ حدثنا عبد بن حميد والحسن بن علي الحلواني المعنى واحد قالانا يزيد بن هارون انا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء

لیا تاکہ ① رمضان ٹھیک سے گزر جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رات کو جماع شروع کروں اور دن ہو جائے اور میں اسے چھوڑ بھی نہ سکوں۔ ایک رات وہ میری خدمت کر رہی تھی کہ اس کی کوئی چیز منکشف ہوگئی پھر میں نے اس کے ساتھ جماع کیا اور صبح ہوئی تو اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں بتا کر کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو تاکہ میں آپ ﷺ کو اپنے اس فعل کے متعلق بتاؤں۔ وہ کہنے لگے: نہیں اللہ کی قسم ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے متعلق قرآن نازل ہو یا رسول اللہ ﷺ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر عار باقی رہے۔ لہذا تم خود جا کر جو مناسب ہو عرض کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نکل کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے (قصہ سننے کے بعد) فرمایا: کیا تم ہی نے ایسا کیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ اسی طرح پوچھا تو میں نے عرض کیا جی ہاں اور یہ میں حاضر ہوں مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجئے میں اس پر صبر کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا: ایک غلام آزاد کرو۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا اور عرض کیا کہ: اس اللہ کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا سوائے اپنی اس گردن کے میں کسی اور کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا: تو پھر دو مہینے متواتر روزے رکھو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ مصیبت بھی تو روزوں ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ فرمایا: پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ عرض کیا: یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہم خود آج رات بھوکے رہے ہمارے پاس رات کا کھانا نہیں تھا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ: بنور ریق سے زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ تمہیں دے اور پھر اس میں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ پھر جو بیچ جائے اسے اپنے اور عیال پر خرچ کر لو۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے پاس تنگی اور بری تجویز پائی جبکہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کشادگی اور برکت۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ مجھے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔

عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جَمَاعِ النِّسَاءِ مَالًا يُؤْتِي غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَطَاهَرْتُ مِنْ أَمْرَائِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقَا مَنِ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلِي فَاتَّبَعْتُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدِمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَّتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبْرِي فَقُلْتُ إِنظَلِقُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ، بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يُنْزَلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلَكِنْ أَذْهَبَ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَّلَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، خَبْرِي فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتَ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتَ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتَ أَنَا بِذَاكَ وَهَآ أَنَا ذَا فَامْضِ فِي حُكْمِ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِدَالِكَ قَالَ أَعْيُوقُ رَقَبَةً قَالَ فَضْرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي فَقُلْتُ لَا وَالْغَيْبِ بَعْنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ فَضَمُّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي الْإِنْفِي الصِّيَامِ قَالَ فَاطْعِمُ سِتِّينَ مُسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِي بَعْنَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ حُسْنِي مَالْنَا عَشَاءً قَالَ إِذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ، فَلْيُدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعِمُ عَنْكَ مِنْهَا وَسَقَا سِتِّينَ مُسْكِينًا ثُمَّ اسْتَعِينِ بِسَاتِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَوَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضَّبِيقَ وَسَوْءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ

① یعنی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ (مترجم)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَاتَةَ وَأَمْرِي
بِصَدَقَتِكُمْ فَأَذْفَعُوهَا إِلَيَّ فَذْفَعُوهَا إِلَيَّ

یہ حدیث حسن ہے۔ امام بخاری کے نزدیک سلیمان بن یسار نے سلمہ بن صحر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ سلمہ بن صحر کو سلمان بن صحر بھی کہتے ہیں۔ اس باب میں خولہ بن ثعلبہ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۳۰۸۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے پاس آیا اور کہا: السام علیکم (یعنی تم پر موت آئے) صحابہ نے اسے جواب دیا تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ! اس نے سلام کیا ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لائے تو آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تم نے السام علیکم کہا اس نے بتایا کہ ہاں السام علیکم کہا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اہل کتاب میں سے جو بھی سلام کرے اسے یہ جواب دیا کرو کہ ”علیک ما قلت“ (یعنی جو تو نے کہا تجھ ہی پر ہو) پھر یہ آیت پڑھی ”واذا جاءك حيوك“..... الآية۔ (یعنی جب وہ لوگ اہل کتاب آپ ﷺ کے پاس آتے ہیں تو آپ ﷺ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ ﷺ کو سلام نہیں کیا اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس طرح کہنے پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔)

۳۰۸۶۔ حدثنا عبد بن حميدنا يونس عن شيبان عن قتادة نا انس بن مالك ان يهوديا اتى على نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال السام عليكم فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرؤن ما قال هذا قالوا الله ورسوله اعلم سلم يانبي الله قال لا ولكنه قال كذا وكذا ردوه علي فردوه فقال قلت السام عليكم قال نعم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اذاسلم عليكم احد من اهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت قال واذا جاءك حيوك بما لم يحيك به الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۸۷۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ..... الآية“ (یعنی اے ایمان والو! جب تم رسول ﷺ سے سرگوشی کیا کرو تو اپنی سرگوشی پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے) نازل ہوئی! رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے مشورہ لیا کہ صدقہ کی کتنی مقدار مقرر کیا جائے۔ ایک دینار؟ میں نے عرض کیا: لوگ ایک دینار نہیں دے سکیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نصف دینار۔ عرض کیا: آدھا بھی نہیں دے سکیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر کتنا مقرر کیا جائے؟ میں نے عرض کیا: ایک جو۔ فرمایا: تم تو بہت کمی کرنے والے ہو۔ اس پر یہ آیت

۳۰۸۷۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم نا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن ابى الجعد عن علي ابن علقمة الانماري عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدتموا بين يدي نحولكم صدقة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما تراه دينار قلت لا يطيقونه قال فبصفت دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال انك لرهيد قال فنزلت اشفقتم ان

نازل ہوئی "ا ا شفقتم ان تقدموا"..... الآية (یعنی کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے خیرات دینے سے ڈر گئے۔ چنانچہ جب تم نہ کر سکتے تو اللہ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی لہذا تم نماز کے پابند رہو..... الخ) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس امت پر تخفیف کر دی (یعنی یہ منسوخ ہو گیا۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور ایک جو سے مراد جو کے برابر سونا ہے۔

سورۃ الحشر ۱۵۹۹۔ سورۃ حشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۸۸۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو نضیر کے کھجور کے درختوں کو کاٹ کر جلا دیا۔ اس مقام کا نام بویرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "ما قطعتم من لينة او ترکتموها"..... الآية (یعنی جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ خدا ہی کے حکم کے موافق ہے اور تاکہ وہ کافروں کو ذلیل کرے۔)

۳۰۸۹۔ حضرت ابن عباسؓ "ما قطعتم من لينة او ترکتموها"..... الآية کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لينة: کھجور کا درخت ہے اور "ولیحزى الفاسقين" سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان (یہودیوں) کو ان کے قلعوں سے اتار دیا پھر جب ان کے درختوں کے کاٹنے کا حکم ہوا تو ان کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم نے کچھ درخت کاٹے ہیں اور کچھ چھوڑ دیئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا جو درخت ہم نے کاٹے ہیں ان کا ثابا عث ثواب اور جو چھوڑ دیئے ہیں ان پر عذاب ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ما قطعتم من لينة"..... الآية.

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض اسے حفص بن غیاث سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسل نقل کرتے ہوئے ابن عباسؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم سے اسے عبداللہ بن عبدالرحمن نے ہارون بن معاویہ کے حوالے سے انہوں نے حفص سے انہوں نے حبیب بن ابو عمرہ سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ حدیث مجھ ہی سے سنی ہے۔

تَقْلُدُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ الْآيَةِ قَالَ فِيهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۸۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ النَّالِیْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَیْنَةٍ أَوْ تَرَکْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلٰی اَصْوُلِهَا فَمَا بَدَانَ اللّٰهُ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِیْنَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۸۹۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ نَاعِفَانَ نَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ نَا حَبِیْبِ بْنِ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَیْنَةٍ أَوْ تَرَکْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلٰی اَصْوُلِهَا قَالَ اللَّیْنَةُ النَّحْلَةُ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِیْنَ قَالَ اسْتَنْزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ قَالَ وَ اَمْرُوْا بِقَطْعِ النَّحْلِ فَحَكَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَکْنَا بَعْضًا فَلَنَسَا لَنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ اَجْرِ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَکْنَا مِنْ وُزْرِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَیْنَةٍ أَوْ تَرَکْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلٰی اَصْوُلِهَا الْآیَةُ

۳۰۹۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس ایک مہمان آیا تو اس کے پاس صرف اتنا ہی کھانا تھا کہ خود کھا سکے اور بچوں کو کھلا سکے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور چراغ گل کر کے جو کچھ ہے مہمان کے آگے رکھ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“..... (ترجمہ: اور وہ اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔)

۳۰۹۰۔ حدثنا ابو كريب ناو كيع عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رجلا من الانصاريات به ضيف فلم يكن عنده الا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية واطفي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية ويؤتروا على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سورہ ممتحنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۱۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے، زبیرؓ اور مقداد بن اسودؓ کو حکم دیا کہ روضہ خاخ کے مقام پر جاؤ وہاں ایک عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط اس سے لے کر میرے پاس لاؤ۔ ہم لوگ نکلے۔ ہمارے گھوڑے دوڑ لگاتے ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر پہنچے تو ہمیں وہ عورت مل گئی ہم نے کہا کہ خط دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہم نے کہا: تم خط نکالو ورنہ کپڑے اتا دو۔ اس پر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا اور ہم وہ خط لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کو لکھا گیا تھا۔ جس میں اس نے آنحضرت ﷺ کے کسی راز کا ذکر کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے متعلق جلدی نہ کریں۔ میں ایسا شخص ہوں کہ قریش سے ملا ہوا ہوں اور ان میں سے نہیں ہوں۔ آپ ﷺ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے اقارب مکہ میں ہیں جو ان کے اہل و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونکہ میرا ان سے کوئی نسب کا تعلق نہیں لہذا میں نے سوچا کہ ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے اقارب کی حمایت کریں۔ اور یہ کام میں نے کفر و ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا۔ اور نہ ہی کفر سے راضی ہو کر کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا ہے حضرت عمرؓ نے عرض کر

سُورَةُ الْمُتَحِنَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۱۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية عن عبيدالله بن ابي رافع قال سمعت علي بن ابي طالب يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الاسود فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فان بها ضعيقة معها كتاب فخذوه منها فاتوني به فخرجنا تتعادي بنا خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا نحن بالطعينة فقلنا اخرجي الكتاب او لتلقين الثياب قال فاخرجته من عقاصها قال فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو من حاطب بن ابي بلتعہ الى اناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله اني كنت امرأ ملصقا في قریش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهليهم واموالهم بمكة فاحببت اذ قاتني ذلك من نسب فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما

یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور فرمایا: کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي“..... (الایۃ) (یعنی اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ راوی عمرو کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع کو دیکھا ہے وہ حضرت علیؑ کے کاتب تھے۔

فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضَى بِالْكُفْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَيَّ أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالَ اإِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ وَفِيهِ أَنْزَلْتُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ السُّورَةَ قَالَ عُمَرُ وَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عمرو اور جابر بن عبد اللہ سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ کئی حضرات یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ پھر ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے بھی حضرت علی بن ابی طالبؑ کے حوالے سے اسی کے مثل منقول ہے۔ بعض حضرات یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت سے کہا کہ خط نکال ورنہ ہم تجھے ننگا کریں گے۔

۳۰۹۲۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْلِحْ جَانِكَ الْمُؤْمِنَاتِ يَا بَعْنَكَ عَلِيٌّ اِن لَّيَشْرُكُنَّ“..... (الایۃ) (یعنی اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ ﷺ کے پاس آئیں کہ ان چیزوں پر آپ سے بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد دلائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بنا لیں اور مشروع باتوں میں آپ ﷺ کے خلاف نہیں کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے) معمر کہتے ہیں کہ ابن طاؤس نے مجھے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک نے ان عورتوں کے علاوہ جو آپ کی ملکیت میں تھیں کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔

۳۰۹۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِيدٍ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِالْأَيَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْأَيَّةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۹۳۔ حضرت ام سلمہؓ انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ وہ معروف کیا چیز ہے جس میں ہمارے

۳۰۹۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِيدٍ نَا ابْنُ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ

لئے آپ ﷺ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہی ہے کہ تم نوحہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں قبیلے کی عورتیں میرے بچے کی وفات پر میرے ساتھ نوحہ میں شریک تھیں لہذا ان کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ آپ ﷺ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تو اجازت دے دی کہ ان کے احسان کا بدلہ دے دوں۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی پر نوحہ نہیں کیا اور عورتوں میں سے میرے علاوہ ایسی کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے بیعت کی ہو اور پھر نوحہ بھی کیا ہو۔

حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيكَ فِيهِ قَالَ لَا تَنْحُنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي فُلَانَ قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِي وَلَا يُدْلِي مِنْ قَضَائِهِمْ قَالِي عَلَى فَعَاتِبَتِهِ مِرَارًا فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِمْ فَلَمْ أَنْحُ بَعْدَ قَضَائِهِمْ وَلَا غَيْرَهُ حَتَّى السَّاعَةِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ام عطیہ سے بھی روایت ہے۔ عبد اللہ بن حمید کہتے ہیں کہ ام سلمہ انصاریہ کا نام اسماء بنت یزید بن سکن ہے۔

۱۶۰۱۔ سورۃ الصف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۳۔ حضرت عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے تو وہی کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں ”سبح لله ما فی السموات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ..... (آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔) عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے ہمیں یہ سورت پڑھ کر سنائی اور ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عبد اللہ بن سلامؓ نے یہ سورت پڑھی۔ یحییٰ کہتے ہیں پھر ابوسلمہ نے ہمارے سامنے تلاوت کی، ابن کثیر کے سامنے اوزاعی نے اور عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ابن کثیر نے پڑھ کر سنائی۔

وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۴۔ حدیثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن انا محمد بن کثیر عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن عبد اللہ بن سلام قال فعدنا نفرًا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداكرنا فقلنا لو نعلم أي الاعمال احب إلى الله لعملناه فانزل الله سبحانه لله ما فی السموات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ يَحْيَى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ

محمد بن کثیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ابن مبارک، اوزاعی سے وہ یحییٰ بن کثیر سے وہ ہلال بن ابی میمونہ سے وہ عطاء سے اور وہ عبد اللہ بن سلام سے یا ابوسلمہ کے واسطے سے عبد اللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم بھی یہ حدیث اوزاعی سے محمد بن کثیر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۵۔ حدثنا علی بن حجرانا عبد اللہ بن جعفر ثنی (قال) ثوربن یزید الدلیلی عن ابی الغیث عن ابی ہریرة قال کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ اُنزِلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلَّاهَا فَلَمَّا بَلَغَ وَاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِیْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمُهُ قَالَ وَسَلَّمَ اِنَّا قَالِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلٰی سَلْمَانَ فَقَالَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ بِالْثُرَيَّا لَتَنَا وَلَهُ رِحَالٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ

۱۶۰۲۔ سورہ جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۵۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آنحضرت ﷺ کے پاس تھے۔ آپ ﷺ نے اس کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے ”واخیرین منهم لما یلحقواہم“ (یعنی اور دوسروں کے لئے بھی جو ان میں سے ہونے والے ہیں اور ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے) تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جو اب تک ہم میں شامل نہیں ہوئے؟ آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک سلمان پر رکھا اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ایمان ثریا (ستارہ) میں بھی ہوتا تو ان میں سے چند لوگ اسے حاصل کر لیتے۔

یہ حدیث غریب ہے اور عبد اللہ بن جعفر، علی بن مدینی کے والد ہیں۔ یحییٰ بن معین انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ یہ حدیث اور سند سے بھی رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے نیز ابو غیث کا نام سالم ہے وہ عبد اللہ بن مطیع کے مولیٰ ہیں۔ ثور بن زید مدنی اور ثور بن یزید شامی ہیں۔

۳۰۹۶۔ حدثنا احمد بن منیع نا ہشیم نا حصین عن ابی سفیان عن جابر قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعة قائما اذ قدمت عیر المدینة فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لم یبق منهم الا اثنا عشر رجلا فیہم ابوبکر وعمر فنزلت هذه الآية واذا راوا تجارة اولھو دانفضوا الیھا

۳۰۹۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ کا ایک قافلہ آیا۔ صحابہ اس کی طرف دوڑ پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے جن میں ابوبکرؓ و عمرؓ بھی تھے اور یہ آیت نازل ہوئی ”واذا راوا تجارة اولھو“ (یعنی اور اگر وہ لوگ کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لئے نکھر جاتے ہیں اور آپ ﷺ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ﷺ فرمادیتے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور اللہ سب سے اچھا روزی دینے والا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن مطیع اسے ہشیم سے وہ حصین سے وہ سالم بن ابی جعد سے وہ جابر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۰۳۔ سورہ منافقون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۷۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا

سُورَةُ الْمُنَافِقِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۰۹۷۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبید اللہ بن

موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فارتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فحلفوا ما قالوا فكدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته فاصابني شيء لم يصيبني شيء قط مثله فجلست في البيت فقال عمي ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فانزل الله اذا جاءك المنافقون فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال ان الله قد صدقك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۹۸۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي سعيد الازدى عن زيد بن ارقم قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معنا انا من الاعراب فكننا نبتدر الماء وكان الاعراب يسبقونا اليه فسبق اعرابي اصحابه فيسبق الاعراب فيملا الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطح عليه حتى يحيى اصحابه فاني رجل من الانصار اعرابي فارخى زمام ناقته لتسرب فاني ان يدعه فانتزع قباض الماء فرقع الاعراب خشية فضرب بها رأس الانصاري فشجه فاني عبد الله بن ابي رأس المنافقين فاخبره وكان من اصحابه فغضب عبد الله بن ابي ثم قال لا تنفقوا

کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ یہاں تک کہ وہ آپ ﷺ کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اور اگر ہم مدینہ واپس آئے تو عزت دار لوگ ذلیل لوگوں (یعنی صحابہ و مہاجرین) کو نکال دیں گے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ تک یہ بات پہنچادی۔ اس پر آپ نے مجھے بلوا کر پوچھا۔ میں نے پوری بات بیان کی تو عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا انہوں نے آ کر قسم کھائی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھے جھٹلایا اور ان کو سچا تسلیم کر لیا۔ مجھے اس کا اتنا دکھ ہوا کہ زندگی میں کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا۔ میں گھر میں بیٹھ گیا تو چچا کہنے لگے کہ تم یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تمہیں جھٹلا دیں اور تمہ سے خفا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی: ”اذ جاءك المنافقون“..... الخ پھر آپ ﷺ نے مجھے بلوایا اور یہ سورت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے۔

۳۰۹۸۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ جنگ کے لئے گئے ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی بھی تھے۔ ہم لوگ تیزی سے پانی کی طرف دوڑے دیہاتی ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور ایک دیہاتی نے پہنچ کر حوض بھرا اور اس کے گرد پتھر لگا کر اس پر چڑا ڈال دیا۔ (تاکہ کوئی اور پانی نہ لے سکے) صرف اس کے ساتھی ہی وہاں آئیں۔ ایک انصاری اس کے پاس گیا اور اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی تاکہ وہ پانی پی لے۔ لیکن دیہاتی نے انکار کر دیا۔ اس پر انصاری نے پانی کی روک ہٹادی (تاکہ پانی بہ جائے) اس دیہاتی نے ایک لکڑی اٹھائی اور انصاری کے سر پر مار دی جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے پاس آیا یہ قصہ سن کر عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے چلے جائیں۔ یعنی دیہاتی

لوگ۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھانے کے وقت حاضر ہو کر رہے تھے۔ عبد اللہ بن ابی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کھانا اس وقت لے کر جایا کرو جب یہ لوگ جا چکیں۔ تاکہ صرف وہ اور ان کے ساتھی ہی کھا سکیں پھر کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو چاہئے کہ ذلیل لوگوں (یعنی اعراب) کو وہاں سے نکال دیں زید کہتے ہیں کہ میں اس وقت آنحضرت ﷺ کے پیچھے سوار تھا میں نے عبد اللہ کی بات سن لی اور پھر پچھا کو بتادی۔ چچا نے رسول اللہ ﷺ کو۔ اور آپ ﷺ نے عبد اللہ کو بلوایا تو اس نے آ کر قسم کھا کر اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ نہیں کہا۔ زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے سچا سمجھ کر مجھے جھٹلادیا۔ پھر میرے پچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تم سے ناراض ہوں اور آپ ﷺ اور مسلمان تمہیں جھٹلا دیں۔ کہتے ہیں مجھ پر اس کا اتنا رنج طاری ہوا کہ کسی اور کو نہ ہوا ہوگا۔ پھر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ سر جھکائے چل رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرا کان کھینچ کر میرے سامنے ہنسنے لگے۔ مجھے اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری بھی ملتی تو بھی میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوا پھر ابو بکرؓ مجھے ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا: کچھ فرمایا تو نہیں بس میرا کان ملا اور ہنسنے لگے۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: تمہیں بشارت ہو۔ پھر عمرؓ مجھ سے ملے انہوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور میں نے بھی وہی جواب دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے سورہ منافقون پڑھی۔

عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ
يَعْنِي الْأَعْرَابَ وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا انْفَضُّوا
مَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَأَتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَاكُلْ هُوَ
وَمَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيُخْرِجِ الْأَعْرَابَ مِنْكُمْ الْأَذَلَّ قَالَ زَيْدٌ وَأَنَا رَدُّفُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
فَأَخْبَرْتُ عَمِّي فَأَنْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَارْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَحَلَفَ وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي قَالَ فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ فَقَالَ
مَا أَرَدْتُ إِلَيَّ أَنْ مَقْتِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ
الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيَّ أَحَدٌ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَدْ
خَفِضْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِهِ فَمَا
كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
لِحِقْنِي فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا قَالَ لِي شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي
وَضَحِكَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَبَشِرْ ثُمَّ لِحِقْنِي عُمَرُ
فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۰۹۹۔ حکم بن عتیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب قرظی سے چالیس سال پہلے زید بن ارقم کے حوالے سے یہ حدیث سنی کہ عبد اللہ بن ابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں کے عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں

۳۰۹۹۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن ابی عدی قال ابانا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب بن القرظي منذ اربعين سنة يحدث عن زيد بن ارقم ان عبد الله بن ابي قال

رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور یہ بات بتائی تو عبد اللہ نے قسم کھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس پر میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس جھوٹ بولنے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ میں گھر آیا اور غمگین و حزين ہو کر سو گیا۔ پھر آپ ﷺ میرے پاس تشریف لائے یا میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا: اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کی ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی: ”ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ“..... الاية (یعنی ان لوگوں پر خرچ مت کرو..... الخ)

فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَحَلَفَ مَا قَالَهُ، فَلَا مَنِي قَوْمِي فَقَالُوا مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذِهِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ وَنَمْتُ كَيْبِيَا حَزِينًا فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ آتَيْتُهُ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ قَالَ فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُسُوا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۰۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے۔ اس میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھتکار دیا۔ اس پر مہاجر کہنے لگے اے مہاجر وادرا انصاری انصاری کو پکارنے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے جب یہ سنا تو فرمایا۔ کیا بات ہے یہ جاہلیت کی پکار کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھتکار دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: (زمانہ جاہلیت کی اس عادت) کو چھوڑ دو یہ بری چیز ہے یہ بات عبد اللہ بن ابی نے سنی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا ہے؟ جب ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں کے معززین، ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ عمرؓ فرمانے لگے: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جانے دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد (ﷺ) اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ عبد اللہ بن عمروؓ کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ اس پر عبد اللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ تم ذلیل اور رسول اللہ ﷺ معزز ہیں پھر اس نے اقرار کیا۔

۳۱۰۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن عمرو بن دینار سمع جابر بن عبد اللہ یقول کنا فی غزاة قال سفیان یرون انها غزوة بنی المصطلق فکسع رجل من المهاجرین رجلاً من الأنصار یا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا رجل من المهاجرین کسع رجلاً من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتبئة فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أوقد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعراب منها الأذل فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا نقلب حتى تفرأناك الذليل و رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۰۱۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج بیت اللہ کے لئے جاسکے یا اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو لیکن وہ

۳۱۰۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا جعفر بن عون انا ابو حباب الكلبي عن الضحاک بن مزاحم عن ابن

سج کرے اور نہ زکوٰۃ دے تو موت کے وقت اس کی تمنا ہوگی کہ کاش میں واپس دنیا میں چلا جاؤں۔ ایک شخص نے عرض کیا: ابن عباس اللہ سے ڈرو۔ لوٹنے کی تمنا تو کفار کریں گے۔ فرمایا میں تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھتا ہوں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھیں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتِينَ فَصَاعِدًا فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالْبَعِيرُ“..... سے آخر سورت تک (یعنی اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں خیرات وغیرہ دے دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا اور جب کسی کی (مدت ختم ہو جاتی ہے) اور اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ ہرگز اسے مہلت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی اچھی طرح خبر ہے) اس شخص نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ فرمایا: اگر دو سو درہم یا اس سے زیادہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ فرمایا: توشہ اور سواری ہونے پر۔

عبد بن حمدا سے عبد الرزاق سے وہ ثوری سے وہ یحییٰ بن ابی جیہ سے وہ شحاک سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ اور کئی راوی بھی یہ حدیث ابو خباب سے وہ شحاک سے اور وہ ابن عباس سے اسی طرح انہی کا قول نقل کرتے ہیں اور عبد الرزاق کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے اور ابو خباب کا نام یحییٰ ہے وہ حدیث میں قوی نہیں۔

سورہ تغابن ۱۶۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۲۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْزُوجُوا حَتَّىٰ تَمْلِكُوا مِنْ مَّا كَفَرْتُمْ“ (یعنی اے ایمان والو! تمہاری اولاد اور بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں) فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لائے تھے اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوں لیکن انہیں ان کی بیویوں اور اولاد نے روک دیا۔ چنانچہ جب وہ لوگ مدینہ آئے تو دیکھا کہ لوگ دین کو کافی سمجھنے لگے ہیں تو چاہا کہ ان کو سزا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۳۰۲۔ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا اسرائيل نا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول

فرمائی اور حکم دیا کہ ان سے ہوشیار رہو۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا آتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَوْ النَّاسَ قَدْ فَفَهُوا فِي الدِّينِ هُمَا أَنْ يُعَا فَبُوهُم فَاَنْزَلَ اللَّهُ بِأَيُّهَا الدِّينَ أَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ الْآيَةَ .
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۰۵۔ سورہ تحریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۳۰۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ عمرؓ سے ان دو عورتوں کے متعلق پوچھوں کہ ازواجِ مطہرات میں سے وہ کون ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ”ان تتوبنا الی اللہ“.....
الآیة (یعنی اے دونوں بیویو! اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں) یہاں تک کہ عمرؓ نے حج کیا میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ پھر میں نے برتن سے ان کو وضو کرانے کے لئے پانی ڈالنا شروع کیا اور اسی دوران ان سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنینؓ وہ دو بیویاں کون سی ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمانے لگے تعجب ہے ابن عباسؓ کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ عمرؓ کو یہ برا لگا لیکن انہوں نے چھپایا نہیں اور فرمایا: وہ عائشہؓ اور حفصہؓ ہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ پھر قصہ سنانے لگے کہ ہم قریش والے عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے جب ہم لوگ مدینہ آئے تو ایسے لوگوں سے ملے جن کی عورتیں ان پر غالب رہتی تھیں۔ اس وجہ سے ہماری عورتیں بھی ان سے عادتیں سیکھنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی کو غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی مجھے یہ بہت ناگوار گزارا وہ کہنے لگی تمہیں کیوں ناگوار گزارا ہے اللہ کی قسم ازواجِ مطہرات بھی رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتی ہیں اور دن سے رات تک آپ ﷺ سے (بات کرنا) ترک کر دیتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس نے ایسا کیا وہ تو نقصان میں رہے گی۔ میں قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ عوالی کے مقام پر رہائش پذیر تھا۔ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا۔ میں اور وہ باری باری آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اور ایک دن میں اور دونوں ایک دوسرے کو

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۰۳۔ حدثنا عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس قال لم ازل حريصا ان اسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله ان تتوبنا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فصبت عليه من الإداوة فتوضأ فقلت يا امير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله ان تتوبنا الى الله فقد صغت قلوبكما فقال لي واعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري وكرة والله ما سأله عنه ولم يكتمه فقال لي هي عائشة وحفصة قال ثم انشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قریش تغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساء هم فطفوق نساء نا يتعلمن من نساء هم فتغضبت يوماعلى امرأتى فاذا هي تراجعني فأنكرت ان تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك فوالله ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لايراجعنه وتهجره احد هن اليوم الى الليل قال فقلت في نفسي قد حابت من فعل ذلك منهن وحسرت قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الانصار كنا نتناوب

وحی وغیرہ کے متعلق بتایا کرتے تھے ہم لوگوں میں (ان دنوں) اس بات کا چرچا تھا کہ غسان ہم لوگوں سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن میرا بڑوسی آیا اور رات کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نکلا تو کہنے لگا کہ ایک بڑی بات ہو گئی ہے میں نے کہا کیا ہوا، کیا غسان آ گیا ہے؟ کہنے لگا: نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حفصہ ناکام اور محروم ہو گئی۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور کپڑے وغیرہ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ جب حفصہ کے ہاں پہنچا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ آنحضرت ﷺ اس جھروکے میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر میں ایک کالے لڑکے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے عمر کے لئے اجازت مانگو وہ اندر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ منبر کے گرد چند آدمی بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہی سوچ غالب ہوئی تو دوبارہ اس لڑکے کو اجازت لینے کے لئے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر وہی جواب دیا۔ میں دوبارہ مسجد کی طرف آ گیا۔ لیکن اس مرتبہ اور شدت سے اس فکر کا غلبہ ہوا اور میں پھر لڑکے کے پاس آیا اور اسے اجازت لینے کے لئے بھیجا۔ اس مرتبہ بھی اس نے واپس آ کر وہی جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانے کے لئے مڑا تو دفعۃً اس لڑکے نے مجھے پکارا اور کہا کہ اندر چلے جاؤ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں داخل ہوا تو رسول اکرم ﷺ ایک چٹائی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ جس کے نشانات آنحضرت ﷺ کے دونوں جانب واضح تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! دیکھئے ہم قریش والے عورتوں پر غالب رہتے تھے پھر جب ہم مدینہ آ گئے تو ہم ایسی قوم سے ملے جن کی عورتیں ان پر حاوی ہوتی ہیں اور ان کی عادتیں ہماری عورتیں بھی سیکھ لگیں چنانچہ میں ایک مرتبہ اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی۔ مجھے بہت

النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنْزَلَ يَوْمًا فَأْتِيَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَحْدِثُ أَنَّ غَسَّانَ تَعْبَلُ الْحَيْلَ لِتَغْزُونَا قَالَ فَجَاءَ نَبِيُّ يَوْمًا عِشَاءً فَضْرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ أَغْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ؛ قَالَ قُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَاثِبًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَّدْتُ عَلَى نَيْبِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا مُعْتَرِلٍ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غَلَامًا أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ؛ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْغَلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ؛ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْضًا فَجَلَسْتُ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْغَلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ قَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ؛ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغَلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ أَدْخُلْ فَقَدْ أَدِنُ لَكَ قَالَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِيٌّ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ آثَرَهُ؛ فِي حَبْنِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاءُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُ نَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ

برائے تو کہنے لگی کہ تمہیں کیوں برا لگتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کی بیویاں بھی آپ ﷺ کو جواب دیتی ہیں۔ اور ایسی بھی ہیں جو پورا پورا دن آنحضرت ﷺ سے خوار رہتی ہیں۔ عمر نے عرض کیا کہ پھر میں نے حصہ سے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں اور ہم میں سے ایسی بھی ہیں جو دن سے رات تک آپ ﷺ سے خفا رہتی ہیں میں نے کہا بے شک تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ برباد ہوگئی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کہ رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے اس پر رسول اکرم ﷺ مسکرائے۔ عمر نے عرض کیا کہ میں نے حصہ سے کہا کہ تم آنحضرت ﷺ کے سامنے کبھی مت بولنا، ان سے کوئی چیز مت مانگنا۔ تمہیں جو چیز چاہئے ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو اور اس خیال میں مت رہو کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اکرم ﷺ کو زیادہ محبوب ہے (یعنی اس کی برابری نہ کر) اس مرتبہ رسول اکرم ﷺ دوبارہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں بیٹھا رہوں فرمایا: ہاں۔ کہتے ہیں پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھر میں تین کھالوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ ﷺ کی امت پر کشادگی (وعمت رزق) کرے۔ اس نے فارس اور روم کو اس کی عبادت نہ کرنے کے باوجود خوب مال دیا ہے۔ اس مرتبہ آنحضرت ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب کیا تم ابھی تک شک میں ہو وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا اور آپ ﷺ کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے حضرت عائشہؓ کے حوالے سے بتایا کہ جب انیس ۲۹ دن گزرے تو رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور مجھ ہی سے ابتداء کی اور فرمایا: عائشہؓ میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِي كَمَا كُنْتُمْ تُرَاجِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ مَا تَتْلُونَ فِي الْأَمْثَلِ إِذْ نزلت“

تُرَاجِعُونَ فَانْكُرْتُ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَا تَنْكُرُ فَوَاللَّهِ إِنْ أَرَوَّاجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْنَهُ وَتَهَجَّرُهُ؛ إِحْدَهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ قُلْتُ لِحَفْصَةَ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَتَهَجَّرُهُ؛ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَخَسِرَتْ أَنَا مَنْ إِحْدَلَكُنَّ أَنْ يُغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِيُغْضِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكْتَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِّبِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغْرَنَكَ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَتِكَ أَوْ سَمَّ مِنْكَ وَأَحَبَّ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْنِسْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْبَةَ ثَلَاثَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَيَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ؛ فَاسْتَوَى جَالِسًا قَالَ فِي شَيْءٍ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبًا تَهُمُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ وَكَانَ أَقْسَمُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيَّ نِسَائِهِ شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَحَعَلَ لَهُ؛ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَنِي قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ شَيْئًا فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْ مِرِّي أَبِيكَ قَالَتْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِي كَمَا كُنْتُمْ تُرَاجِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ مَا تَتْلُونَ فِي الْأَمْثَلِ إِذْ نزلت“

تکمن“..... الآية (یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع دے کر بخوبی رخصت کر دوں اور اگر اللہ، اس کے رسول ﷺ اور عالم آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک کرداروں کے لئے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ (اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے رسول اللہ ﷺ) کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیں گے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اس میں والدین سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اللہ، اس کے رسول ﷺ اور عالم آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے بتایا کہ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دوسری بیویوں کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ ﷺ کو اختیار کیا ہے آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا ہے نہ کہ مشقت میں ڈالنے کے لئے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور کئی سندوں سے ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

۱۶۰۶۔ سورہ قلم کی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۴۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو عطاء بن ابی رباح سے ملاقات کی تو عرض کیا: اے ابو محمد! ہمارے ہاں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا: میری ایک مرتبہ ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ اور اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

۱۶۰۷۔ سورہ حاقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۵۔ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہ کی

لَا تُخْبِرُ أَزْوَاجَكَ أَنِّي أَخْتَرْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ مُبَلِّغًا وَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَبِّتًا

وَمِنْ سُورَةِ ن وَالْقَلَمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۴۔ حدثنا يحيى بن موسى نا أبو داود الطيالسي نا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إننا ساء عندنا يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عباد بن الصامت فقال نبي أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد وفي الحديث قصة

یہ حدیث ابن عباسؓ کی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

سُورَةُ الْحَاقَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۵۔ حدثنا عبد بن حميدنا عبد الرحمن بن

ایک جماعت بطحاء کے مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدلی گزری لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں یہ بادل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اور مزین عرض کیا جی ہاں مزین۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اور عنان بھی۔ عرض کیا جی ہاں عنان بھی۔ پھر پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آسمان وزمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے۔ فرمایا: ان دونوں میں اکہتر ۷۱، بہتر ۷۲ یا تہتر ۷۳ برس کا فرق ہے۔ پھر اس سے اوپر کا آسمان بھی اسی دور ہے۔ اور اسی طرح ساتویں آسمان گنوائے پھر فرمایا: ساتویں آسمان پر ایک سمندر ہے اس کے نچلے اور اوپر کے کناروں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا۔ اس کے اوپر آٹھ فرشتے ہیں جو پہاڑی بکروں کی طرح ہیں۔ ان کے کھروں اور ٹخنوں کا درمیانی فاصلہ بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے اور ان کی پیٹھ پر عرش ہے اس کے نچلے اور اوپر کی کنارے کے درمیان بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے اور اس کے اوپر اللہ ہے۔

سعد عن عمرو بن ابی قیس عن سماک بن حرب عن عبد اللہ بن عمیرة عن الأحنف بن قیس عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا فی البطحاء فی عصابة و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فیہم اذمرت علیہم سحابة فنظروا الیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما اسم ہذہ قالوا نعم ہذا السحاب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمزن قالوا والمزن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعنان قالوا والعنان ثم قال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون کم بعد ما بین السماء والأرض قالوا لا واللہ ما ندري قال فان بعد ما بینہما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك عدد هن سبع سموات كذلك ثم قال فوق السماء السابعة بحر بین أعلاه وأسفله كما بین السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بین أظلافہن ورؤسہن مثل ما بین سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بین أسفله وأعلاه مثل ما بین السماء إلى السماء واللہ فوق ذلك

عبد بن حمید، یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن سعد حج کے لئے کیوں نہیں جاتے تاکہ لوگ ان سے یہ حدیث سن سکیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ولید بن ابی ثور بھی سماک سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں یہ مرفوع ہے پھر شریک بھی سلمک سے اس کا کچھ حصہ موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن سعد رازی سے یحییٰ بن موسیٰ عبد الرحمن بن سعد رازی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بخارا میں ایک شخص کو دیکھا جو خنجر پر سوار تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ رسول اللہ ﷺ نے اسے پہنایا ہے۔

۱۶۰۸۔ سورہ معارج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۶۔ حضرت ابوسعیدؓ اس آیت ”یوم تكون السماء کالمهل“ (یعنی جس دن آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا) کی تفسیر

وَمِنْ سُورَةِ سَالَ سَائِلٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۶۔ حدیثنا ابو کریب نارشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابی السمع عن ابی

آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مہل ۱ سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر جائے گی۔

۱۶۰۹۔ سورہ الجن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ جنوں کو دیکھا اور نہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار جانے کے لئے نکلے تو شیطانوں اور وحی کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا اور ان پر شعلے برسنے لگے۔ اس پر شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم سے آسمان کی خبریں روک دی گئی ہیں اور شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کسی نئے حکم کی وجہ سے ہے لہذا تم لوگ مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سے خبریں روک دی گئی ہیں وہ نکلے تو جو لوگ تہامہ کی طرف جا رہے تھے وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس نخلہ کے مقام پر پہنچے۔ آپ ﷺ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ اس جگہ فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہی چیز ہے جو تم لوگوں تک خبریں پہنچنے سے روک رہی ہے پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے۔ اے قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی ”قل اوحی الی انہ استمع“ (یعنی آپ ﷺ کہنے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتاتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور

الْهَيْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالْمَهْلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرُوءُهُ وَجْهَهُ فِيهِ

سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۰۷۔ حدثنا عبد بن حميد ثنا ابوالوليد نا ابو عوانة عن ابى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشيطان وبين خبير السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم قالوا حيل بيننا وبين خبير السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما حال بيننا وبين خبير السماء إلا من حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبير السماء قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبير السماء فانصرف أولئك نفر الذي توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخله عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبير السماء قال فهنا لك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا

۱۰ امام ترمذی سے اس حدیث کو اس سورت کی تفسیر میں ذکر کرنے میں تسامح ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں مہل کا لفظ آسمان کی صفت بیان کرنے کے لئے مذکور ہے۔ جبکہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس مہل کی کیفیت بیان فرمائی ہے جو جنہم میں کفار کو پلائی جائے گی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ”کالمہل

یشوی الوجوه“ (سورہ کہف: ۲۹)

اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قول ہی نازل کر دیا۔ پھر اسی سند سے ابن عباس ہی سے منقول ہے کہ یہ بھی جنوں کا ہی قول تھا ”وانہ لما قام عبد اللہ يدعوه“..... الاية کہتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے لگے تو صحابہ بھی پڑھنے لگے پھر جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو صحابہ بھی سجدہ کرتے اور جب آپ ﷺ رکوع کرتے تو صحابہ بھی کرتے۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کی اطاعت پر تعجب ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگے۔ ”لما قام عبد اللہ“..... الاية (یعنی جب خدا کا خاص بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے لگتے ہیں۔)

عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوْحِي إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَال لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ بِصَلْوَتِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ قَالَ تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۰۸۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے تاکہ وحی کی باتیں سن سکیں چنانچہ ایک کلمہ سن کر نوبڑا ہادیے۔ لہذا جو بات سنی ہوتی وہ تو بچ ہو جاتی اور جو زیادہ کرتے جھوٹی ہو جاتی۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ بیخود ہوئے تو ان کی بیٹھک چھن گئی۔ انہوں نے ابلیس سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے انہیں تاروں سے بھی نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا کہ یہ کسی نئے حادثے کی وجہ سے ہوا ہے جو زمین پر وقوع پذیر ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنے لشکر بھیجے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو شاید مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ چنانچہ واپس آئے اور اس سے ملاقات کر کے بتایا۔ وہ کہنے لگا یہی نیا واقعہ ہے جو زمین پر ہوا ہے۔

۳۱۰۸۔ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا اسرائيل نا ابو اسحق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً فآما الكلمة فتكون حقاً وآما زادوه فيكون باطلاً فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثاً مقاعدتهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوداً فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي بين جبلين أراه قال بمكة فلقوه فأخبروه فقال هذا الحديث الذي حدث في الأرض

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۱۰۔ سورہ مدثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ سُورَةِ الْمَدَّثِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۰۹۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو وحی کے متعلق بتاتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں چلا جا رہا

۳۱۰۹۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن

تھا کہ آسمان سے ایک آواز آتی سنا دی میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا۔ وہ آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور لوٹ آیا پھر میں نے کہا کہ مجھے کبل اوڑھاؤ۔ پھر مجھے کبل اوڑھا دیا گیا اور یہ آیات نازل ہوئیں ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ سے ”وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ“ تک (ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو۔)

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَجَرَاءٍ جَالِسٌ عَلَيَّ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ رُغْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي فَدَثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ فَمَ فَأَنْزِلْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے یحییٰ بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے بھی نقل کرتے ہیں۔

۳۱۱۰۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ دوزخی کو اس پر ستر برس میں چڑھایا جائے گا اور پھر دکھیل دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔

۳۱۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي حَمِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّعُودُ جَبَلٌ مِّنْ نَّارٍ يُصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمَّ يُهَوَىٰ بِهِ كَذَلِكَ أَبَدًا

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ابن ابیہیہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ عطیہ نے بھی ابوسعیدؓ سے موقوفاً

نقل کیا ہے۔

۳۱۱۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ چند یہودیوں نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی کو معلوم ہے کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں؟ صحابہؓ نے فرمایا، ہمیں علم نہیں لیکن ہم پوچھیں گے پھر ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، اور عرض کیا: اے محمد (ﷺ) آپ ﷺ کے صحابہ آج بار گئے فرمایا: کس طرح؟ کہنے لگا کہ یہودیوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا نبی جانتا ہے کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا وہ قوم ہار گئی جس سے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا جو وہ نہیں جانتے؟ (اس میں تو ہار نے والی کوئی بات نہیں) بلکہ یہودیوں نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ اللہ کا دیدار کرایئے۔ اللہ کے ان دشمنوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ اور وہ میدہ ہے۔ پھر جب وہ لوگ آئے تو آپ ﷺ سے پوچھنے لگے کہ جہنم

۳۱۱۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ عَنْ مَجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ لِأَنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيِّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالُوا لَا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ غَلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَيَمَا غَلِبُوا قَالَ سَأَلَهُمْ يَهُودُ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيِّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ فَمَا قَالُوا قَالَ قَالُوا لَا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا قَالَ أَفَغَلِبَ قَوْمٌ سَأَلُوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا لَا نَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا لَكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا أَرْنَا اللَّهُ جَهْرَةً عَلَيَّ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ إِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَنْ تَرْبَةِ الْحَنَّةِ وَهِيَ الدَّرْمُكَ فَلَمَّا جَاءَ وَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ

هَكَذَا فِي مَرَّةٍ عَشْرَةً وَفِي مَرَّةٍ تِسْعٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَبُّهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَسَكَنُوا هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالُوا حُبْرَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبْرُ مِنَ الدَّرَمِكِ

کے کتنے خزانچی ہیں۔ آپ ﷺ نے ہاتھوں سے دو مرتبہ اشارہ کیا ایک مرتبہ دس انگلیوں سے اور ایک مرتبہ نو انگلیوں سے (یعنی ۱۹) کہنے لگے ہاں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کا ہے کی ہے؟ وہ چند لمحے چپ رہے اور پھر کہنے لگے کہ اے ابوقاسم روٹی کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میدے کی روٹی ہے۔

اس حدیث کی ہم صرف مجالد کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۱۱۲۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزْرَانِيُّ زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ أَنَا سَهِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُطَيْبِيُّ وَهُوَ أَحْوَحُ حَزْمِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ الْقُطَيْبِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُعِيذَ بِهِ الْأَيَةُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتَّقِيَ فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهًا فَإِنَّا أَهْلٌ

۳۱۱۲۔ حضرت انس بن مالکؓ رسول اکرم ﷺ سے اس آیت ”ہو اهل التقوى“..... الآية کی تفسیر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لائق ہوں کہ بندے مجھ سے ڈریں چنانچہ جو مجھ سے ڈرا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہرایا تو میں اس کا اہل ہوں کہ اسے معاف کر دوں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے سہیل محدثین کے نزدیک قوی نہیں اور انہوں نے یہ حدیث ثابت سے نقل کی ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۱۳۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍَا سَفِيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفْتَيْهِ وَحَرَّكَ سَفِيَانَ شَفْتَيْهِ

۳۱۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوتا تو اپنی زبان ہلاتے تاکہ اسے یاد کر لیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”لا تَحْرِكْ بِهِ“..... الآية (اے پیغمبر آپ قرآن پر اپنی زبان نہ بلایا کیجئے۔ تاکہ اسے جلدی جلدی لیں اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے) چنانچہ راوی اپنے ہونٹ ہلا کر بتاتے اور سفیان نے بھی اپنے ہونٹ ہلا کر بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح بلایا کرتے تھے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید قطان سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری موسیٰ بن ابی عائشہؓ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

۳۱۱۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ ثَنِي شَبَابَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

۳۱۱۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ادنیٰ درجے کا جنتی بھی اپنے بانگوں، بیویوں، خادموں اور تختوں کو ایک برس کی مسافت سے دیکھ سکے گا۔ اور ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبے

والادہ ہوگا جو اللہ رب العزت کا صبح و شام دیدار کرے گا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیات پڑھیں۔ ”وجوه يومئذ ناضرة“..... (یعنی اس روز سب چہرے بارونق ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔)

مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ جَنَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرَرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهِ غُدُوَّةَ عَشِيَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

یہ حدیث غریب ہے اسے کئی لوگ اسرائیل سے اسی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ عبد الملک بن جبر نے اسے ثور کے حوالے سے بن عمر کا قول نقل کیا ہے۔ پھر اجمعی نے بھی اسے سفیان سے انہوں نے ثور سے انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عمر سے انہی کا قول نقل کیا ہے اور اس سند میں ثوری کے علاوہ کسی نے مجاہد کا ذکر نہیں کیا۔

۱۶۱۲۔ سورہ عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۱۵۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ عبس عبد اللہ بن ام مکتوم (ناہیا صحابی) کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے دین کا راستہ بتائیے۔ آپ ﷺ کے پاس اس وقت زعماء مشرکین میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آپ ﷺ اس سے باتیں کرتے رہے اور عبد اللہ سے اعراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا: کیا میری بات میں کوئی مضائقہ ہے؟ فرمایا: نہیں اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۱۵۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى قال ثنى ابى قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انزل عبس وتولى فى ابن ام مكتوم بالاعلمى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله ارشدنى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول اتراى مما اقول باسا فيقول لا فى هذا انزل

یہ حدیث غریب ہے بعض اسے ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ عبس عبد اللہ بن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سند میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں۔

۳۱۱۶۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھایا جائے گا۔ ایک عورت نے پوچھا کہ کیا سب ایک دوسرے کا ستر دیکھیں گے؟ فرمایا: اے فلاں عورت ”لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه“..... (یعنی اس روز) ان میں سے ہر ایک ایسا مشغول ہوگا کہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکے گا۔)

۳۱۱۶۔ حدثنا عبد بن حميدنا محمد بن الفضل نا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا فقالت امرأة ابيصير اويراى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عباس سے منقول ہے۔

۱۶۱۳۔ سورہ تکویر کی تفسیر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۱۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قیامت کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ یہ تین سورتیں پڑھ لے۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ اشقاق۔

۱۶۱۴۔ سورہ مطففین بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۱۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اگر اسے ترک کر دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو سیاہی بڑھادی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور یہی وہ ”ران“ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ”کلا بل ران“..... الایۃ (یعنی ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے) میں کیا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۱۹۔ حضرت ابن عمرؓ، ”یوم یقوم الناس“..... الایۃ (یعنی جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس روز لوگ اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ ان کے آدھے کان تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔

ہنا دیہ حدیث عیسیٰ بن یونس سے وہ ابن عون سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے آنحضرت ﷺ کے حوالے سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۱۷۔ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبری نا عبد الرزاق نا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعانی قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت

وَمِنْ سُورَةِ وَيْلٍ لِلْمُطَفِّفِينَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۱۸۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اخطأ اخطأ اخطأ في قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

۳۱۱۹۔ حدثنا يحيى بن درست البصرى نا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح الى انصاف اذا نهم

وَمِنْ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۰۔ حدثنا عبد بن حميد انا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحسب هلك قلت يارسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول فاما من اوتي كتابه يمينه الى قوله يسيرا قال ذلك العرض

۱۶۱۵۔ سورة انشقاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۰۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ کر لی گئی وہ برباد ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ”فأما من اوتى كتابه..... الآية“ (یعنی جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔) آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو صرف نیکوں کا پیش ہونا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن ابان اور کئی راوی بھی عبد الوہاب ثقفی سے وہ ایوب سے وہ ابن ابی ملیکہ سے وہ عائشہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔

۳۱۲۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کا حساب کیا گیا وہ عذاب میں پڑ گیا۔

۳۱۲۱۔ حدثنا محمد بن عبيد الهمداني نا علي ابن ابي بكر عن همام عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب

یہ حدیث قنادہ کی روایت سے غریب ہے وہ انسؓ سے روایت کرتے ہیں ہم اسے صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔

وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۲۔ حدثنا عبد بن حميدنا روح بن عبادہ وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجاب الله له ولا يستعبد من شيء الا اعاده الله منه

۱۶۱۶۔ سورة بروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یوم موعود قیامت کا دن، یوم مشہود و عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ سورج اس سے افضل (جمعہ سے) کسی دن میں نہ طلوع ہوا اور نہ غروب۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مؤمن اس وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیتے ہیں۔

اس حدیث کو ہم صرف موسیٰ بن عبیدہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ یحییٰ بن سعید وغیرہ کے نزدیک حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں جب کہ شعبہ، سفیان ثوری اور کئی ائمہ موسیٰ بن عبیدہ سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر بھی قرآن بن تمام اسدی سے اور وہ موسیٰ بن عبیدہ سے اسی سند سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ موسیٰ بن عبیدہ زیدی کی کنیت ابو عبد الرزاق ہے۔ ان پر یحییٰ بن سعید قطان وغیرہ نے حافظے کی وجہ سے اعتراض کیا ہے۔

۳۱۲۳۔ حدثنا محمود بن غیلان وعبد بن حمید المعنی واحد قالنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن صُهیب قال کان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ تَحْرُكُ شَفْتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ إِنْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أُعْجِبَ بِأَمْتِهِ فَقَامَ مَنْ يَقُومُ لِهَوْلَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيْرٌ هُمْ بَيْنَ أَنْ اتَّقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أَسْلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاخْتَارُوا النِّقْمَةَ فَسَلَطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا قَالَ وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْأَخْرِ قَالَ كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَكْهَنُ لَهُ فَقَالَ الْكَاهِنُ انظُرُوا لِي غُلَامًا فَهَمَّا أَوْ قَالَ فَطِنًا لِقِنًا فَأَعْلَمَهُ عَلِمِي هَذَا فَاتَى أَخَافَ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يُعَلِّمُهُ قَالَ فَانظُرُوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ فَأَمْرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ وَ أَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمئِذٍ مُسْلِمِينَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَعْبَدُ اللَّهَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمُكُّ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيَطْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ أَنَّهُ يَكَادُ يَحْضُرُنِي فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ أَيْنَ كُنْتَ فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّكَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ قَالَ فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةُ

۳۱۲۳۔ حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز سے فراغت کے بعد آہستہ آہستہ کچھ پڑھا کرتے تھے (ہمس کے معنی بعض کے نزدیک اس طرح ہونٹ ہلانا ہے کہ ایسا معلوم ہو کہ کوئی بات کر رہے ہیں) آپ ﷺ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ایک نبی کو اپنی امت کی کثرت کا عجب ہوا تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ انہیں اختیار دے دیں کہ یا تو خود پر کسی دشمن کا مسلط ہونا اختیار کریں یا پھر ہلاکت۔ انہوں نے ہلاکت اختیار کی اور ان میں سے ایک ہی دن میں ستر ہزار آدمی مر گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا ایک کاہن تھا وہ اس کو غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ اس کاہن نے کہا کہ میرے لئے ایک سمجھ دار لڑکا تلاش کرو یا کہا کہ ذہین و فطین لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا یہ علم سکھاسکوں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم لوگوں میں سے یہ علم اٹھ جائے اور اس کا جاننے والا کوئی نہ رہے لوگوں نے اس کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق لڑکا تلاش کیا اور اسے کہا کہ روزانہ اس کاہن کے پاس حاضر ہوا کرو۔ اور اس کے پاس آتے جاتے رہا کرو۔ اس نے آنا جانا شروع کر دیا اس کے راستے میں ایک عبادت خانہ تھا جس میں ایک راہب ہوتا تھا عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان دنوں عبادت خانوں کے لوگ مسلمان ہو کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا جب بھی وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے دین کے متعلق باتیں سیکھتا۔ یہاں تک کہ اس راہب نے اسے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس پر اس لڑکے نے راہب کے پاس زیادہ ٹھہرنا شروع کر دیا اور کاہن کے پاس کم۔ کاہن نے اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ لڑکا میرے پاس آئے اس نے راہب کو یہ بات بتائی تو اس نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تمہارے گھر والے پوچھیں کہ کہاں تھے تو تم کہو کہ کاہن کے پاس پوچھے تو کہو کہ گھر تھا۔ وہ اسی طرح کرتا رہا کہ ایک دن اس کا ایک ایسا جماعت پر گزر رہا جنہیں کسی جانور نے روک رکھا تھا بعض کا خیال۔ کہ وہ جانور شیر تھا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ!

راہب کی بات سچ ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اسے قتل کر سکوں۔ پھر اس نے پتھر مار دیا جس سے وہ جانور مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ کہنے لگے کہ اس لڑکے نے۔ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایسا علم سیکھ لیا ہے جو کسی نے نہیں سیکھا یہ بات ایک اندھے نے سنی تو ان سے کہنے لگا کہ اگر تم میری بیٹائی لوٹا دو تو میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گا لڑکا کہنے لگا میں تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ اگر تمہاری آنکھیں تمہیں مل جائیں تو تم اس پر ایمان لے آؤ جس نے تمہاری بیٹائی لوٹائی ہو اس نے حامی بھری تو لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھوں میں بیٹائی آ گئی اس پر وہ ایمان لے آیا۔ جب یہ خیر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے سب کو بلوایا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو مختلف طریقوں سے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے راہب اور اس سابق نابینا شخص میں سے ایک کو آرے سے چمڑا دیا اور دوسرے کو کسی اور طریقے سے قتل کروا دیا۔ پھر لڑکے کے متعلق حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر گردو وہ لوگ اسے اس پہاڑ پر لے گئے اور جب اس جگہ پہنچے جہاں سے اسے گرانا چاہتے تھے تو خود گرنے لگے یہاں تک کہ لڑکے کے علاوہ سب مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس واپس گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ وہ لوگ اسے لے کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو بچالیا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اس وقت قتل نہیں کر سکتے جب تک مجھے باندھ کر تیر نہ چلاؤ اور تیر چلاتے وقت یہ نہ پڑھو ”بسم اللہ رب هذا الغلام“ (یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔) چنانچہ بادشاہ نے اسے باندھنے کا حکم دیا اور تیر چلاتے وقت اسی طرح کہا جس طرح لڑکے نے بتایا تھا۔ جب تیر مارا گیا تو اس نے اپنی کپٹی پر ہاتھ رکھا اور مر گیا لوگ کہنے لگے کہ اس لڑکے نے ایسا علم حاصل کیا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ لہذا ہم سب بھی اسی کے معبود پر ایمان لاتے ہیں۔ (بادشاہ سے کہا گیا) تم تو تین آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا رہے تھے۔ لویہ سارا عالم تمہارا مخالف ہو گیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگوا دی۔ پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ

أَسَدٌ قَالَ فَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجْرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَاسْئَلْكَ أَنْ أَقْتَلَهُ، ثُمَّ رَمَى فَقَتَلَ الدَّيَّانَةَ فَقَالَ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهَا قَالُوا الْغُلَامُ فَفَزِعَ النَّاسُ فَقَالُوا قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ قَالَ فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَقَالَ لَهُ إِنْ أَنْتَ رَدَدْتِ بَصْرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصْرُكَ أَتَوْتُمُنِي بِالذِّئْبِ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصْرَهُ، فَاَمَّنَ الْأَعْمَى فَبَلَغَ الْمَلِكُ أَمْرَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَاتَى بِهِمْ فَقَالَ لَا قَتْلَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَتْلَهُ لَا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ، فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَعْرَقٍ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ، وَقَتَلَ الْأَخْرَجَ بِقَتْلِهِ أُخْرَى ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَالْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ مِنْهُ جَعَلُوا يَتَهَا فُتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ وَيَتَرَدَّدُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الْغُلَامُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَيُلْقُوهُ، فِيهِ فَانْطَلِقُ بِهِ، إِلَى الْبَحْرِ فَغَرِقَ اللَّهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ فَقَالَ الْغُلَامُ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَا تَقْتُلُنِي حَتَّى تَصْلُبْنِي وَتَرْمِينِي وَتَقُولَ إِذْ رَمَيْتَنِي بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصَلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِينَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقِيلَ لِلْمَلِكِ أَحْرَجْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةَ فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ قَالَ فَخَدَّ أَحَدُودًا ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ رَجَعَ عَن دِينِهِ تَرَكْنَاهُ وَمَنْ لَمْ يَرْجِعِ الْفَيْنَاهُ فِي هَذِهِ

جو اپنے نئے دین کو چھوڑ دے گا ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے اور جو اس پر قائم رہے گا ہم اسے آگ میں پھینک دیں گے۔ اس طرح وہ انہیں اس خندق میں ڈالنے لگا (اسی کے متعلق) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”قتل اصحاب الاخذود..... سے العزیز الحمید، تک (ترجمہ: یعنی خندق والے ملعون ہوئے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے۔ جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان کافروں نے مسلمانوں میں اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں پایا تھا کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور حمد کے لائق ہے) راوی کہتے ہیں کہ لڑکا تو دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نعش حضرت عمرؓ کے زمانے میں نکلی تھی اور اس کی انگلی اس وقت بھی اسی طرح اس کی کپٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح اس نے قتل ہوتے وقت رکھی تھی۔

النَّارِ فَجَعَلَ يُلْفِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأَخْدُودِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِذَاتِ الْوُقُودِ حَتَّى بَلَغَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ قَالَ فَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ قَالَ فَيَذْكُرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَصْبَعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۴۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الرحمن بن مهدى نا سفیان عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۵۔ حدثنا ابو جعفر و بن علی نا عبد الرحمن بن مهدى و ابو داود قال نا همام نا قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن

۱۶۱۷۔ سورہ غاشیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۳۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں۔ اگر ان لوگوں نے اس کا اقرار کر لیا تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا اور ان کا حساب اللہ پر ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”انما انت مذکر لست“..... الایة (یعنی آپ ﷺ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ ان پر مسلط نہیں ہیں۔)

۱۶۱۸۔ سورہ فجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۵۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ”والشفع والوتر“ (یعنی جفت اور طاق) کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: اس سے مراد نمازیں ہیں بعض جفت ہیں اور بعض طاق۔

عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قَالَ هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا
شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وَتْرٌ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف قتادہ کی روایت سے جانتے ہیں خالد بن قیس بھی اسے قتادہ ہی سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۱۹۔ سورۃ الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۶۔ حضرت عبداللہ بن زعمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو حضرت صالح کی اونٹنی اور اسے ذبح کرنے والے کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا پھر آپ ﷺ نے ”اذا نبعت اشقاھا“ پڑھا (یعنی جب اس قوم کا سب سے زیادہ بد بخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا) اور فرمایا: ایک بد بخت، شریر اور اپنی قوم کا طاقتور ترین شخص (جو ابو زعمہ کی طرح تھا) اٹھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سوئے بھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے نصیحت فرمائی کہ ٹھٹھ مار کر مت ہنسا کرو۔ اور فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے ہی کئے پر کیوں ہنستا ہے۔

۱۶۲۰۔ سورۃ واللیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۷۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بیچ میں تھے کہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے۔ پھر سر آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تو کیا پھر ہم لوگ اپنے متعلق لکھے گئے پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ جو نیکی والا ہو گا وہ نیک عمل ہی کرے گا اور جو بد بخت ہو گا وہ اسی طرح کے عمل کرے گا۔ فرمایا: نہیں بلکہ عمل کرو۔ ہر ایک کے لئے وہی آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ

وَمِنْ سُورَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۶۔ حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يذكر الناقة والذئ عقرها إذا انبعت أشقها انبعت لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم من ما يفعل

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

وَمِنْ سُورَةِ وَاللَّيْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۲۷۔ حدثنا محمد بن بشارة عبد الرحمن بن مهدى نا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أسلمى عن علي قال كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض فرقع رأسه إلى السماء فقال ما من نفس منقوسة إلا قد كتبت مدخلها فقال القوم يا رسول الله أفلا نتكىل على كتابنا فمن

بنا ہے۔ جو نیک بخت ہے اس کے لئے بھلائی کے کام آسان کر دیئے گئے اور جو بد بخت ہے اس کے لئے برائی کے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیات پڑھیں ”فاما من اعطی“ سے آخر حدیث تک (یعنی جس نے دیا اور اچھی بات کو سچا سمجھا ہم اسے راحت کی چیز کے لئے سامان مہیا کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور لا پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا اسے تکلیف کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے۔)

كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَهُوَ يَعْمَلُ لِلْسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ قَالَ بَلِ اعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قرَأَ فَمَا مِنْ أَعْطَى وَآتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيئَتُهُ لِيُيَسِّرَ وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيئَتُهُ لِلْعُسْرَى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۲۱۔ سورہ ضحیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۲۸۔ حضرت جناب بکلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک غار میں تھا کہ آپ ﷺ کی انگلی سے خون نکل آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو ایک انگلی ہے۔ تجھ سے اللہ کی راہ میں اس تکلیف کی وجہ سے خون نکل آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک آپ ﷺ کے پاس جبرائیل نہ آئے تو مشرکین کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) کو چھوڑ دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”ماودعک ربک“..... (یعنی آپ ﷺ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ دشمنی کی۔)

وَمِنْ سُورَةِ الضُّحَى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۲۸۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین بن عیینة عن الاسود بن قیس عن جندب بن البجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت اصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انت الا اصبع دميت في سبيل الله ما لقيت قال وابطا عليه جبرئيل فقال المشركون قدودع محمد فانزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری اسے اسود بن قیس سے نقل کرتے ہیں۔

۱۶۲۲۔ سورہ الم نشرح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۲۹۔ حضرت انس بن مالک اپنی ہی قوم کے ایک شخص مالک بن صعصعہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہ سوراہا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا کہ ایک شخص کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ دو اور بھی تھے وہ لوگ ایک طشت لائے جس میں زرمز تھا۔ اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں تک کہ۔ قنادر کہتے ہیں: میں نے انس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو فرمایا: پیٹ کے بیچے تک۔ پھر میرے دل کو نکالا اور آب زرمز سے دھونے

وَمِنْ سُورَةِ الْمَنْشُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۲۹۔ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفر وابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلا يقول احد بين الثلاثة فاتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدرى الى كذا وكذا قال قتادة قلت

کے بعد واپس اسی جگہ لگا دیا پھر اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

لَأَنسِ مَا بَعْنِي قَالَ إِلَىٰ أَسْفَلِ بَطْنِي قَالَ فَاسْتَحْرَجَ قَلْبِي فَعَسَلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمٍ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۶۲۳۔ سورہ والتین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والتین پڑھے ”ایس اللہ باحکم الحاکمین“ تک پہنچے تو یہ کہے ”بلی وانا علی ذلک من الشاہدین“ (یعنی میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں)۔

وَمِنْ سُورَةِ وَالتِّينِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن اسمعيل بن امية قال سمعت رجلا بدويا اعرابيا يقول سمعت ابا هريرة يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ اليس الله باحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين

۱۶۲۴۔ سورہ علق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۱۔ حضرت ابن عباسؓ ”سندع الزبانية“ (یعنی ہم بھی، دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد (ﷺ) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن روند دوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اسے دیکھتے ہی پکڑ لیں گے۔

سُورَةُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس سندع الزبانية قال قال ابو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۱۳۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا: کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا۔ (تمیں مرتبہ یہی جملہ دہرایا) آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا۔ وہ کہنے لگا: تم جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کسی کے ہم نشین نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں ”فلیدع نادیه سندع الزبانية“ (یعنی وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے دوستوں کو بلا لیتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔

۳۱۳۲۔ حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج نا ابو خالد الاحمر عن داود بن ابی هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فحاء ابو جهل فقال ألم انهك عن هذا ألم انهك عن هذا ألم انهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزجره فقال ابو جهل انك لتعلم ما بها ناد اكتر مني فانزل الله تبارك وتعالى فلیدع نادیه، سندع الزبانية قال ابن عباس والله

لَوْ دَعَا نَادِيَهُ، لَا تَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

۱۶۲۵۔ سورہ قدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۳۳۔ حضرت یوسف بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علیؓ سے معاویہؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے منہ پر کاکل مل دی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے مجھے الزام مت دو پھر فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے منہ پر بنو امیہ کے لوگ نظر آئے تو آپ ﷺ نے اس کے متعلق پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”انا اعطینک الکوثر“ یعنی اے محمد ﷺ، ہم نے آپ ﷺ کو جنت میں نہر عطا کی ہے پھر یہ سورت نازل ہوئی ”انا انزلناہ فی لیلة القدر“..... الخ (یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ ﷺ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ سب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے) کہ اس میں آپ ﷺ کے بعد بنو امیہ حکومت کریں گے۔ قاسم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت کے دن گئے تو انہیں پورے کے پورے ایک ہزار ماہ پایا۔ نہ ایک دن کم نہ زیادہ۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں بعض اسے قاسم بن فضل سے اور وہ یوسف بن مازن سے نقل کرتے ہیں۔ قاسم بن حدانی کو یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن ثقفی قرار دیتے ہیں۔ اس سند میں یوسف بن سعد مجہول ہیں۔ ہم اسے ان الفاظ سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۱۳۴۔ حضرت زبیر بن حبیشؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر جاگے گا۔ وہ شب قدر کو پالے گا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن (عبد اللہ بن مسعودؓ) کی مغفرت کرے وہ جانتے تھے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور یہ کہ یہ ستائیسویں رات ہے لیکن انہوں نے چاہا کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں پھر انہوں نے قسم کھائی کہ یہ وہی ستائیسویں شب ہے۔ میں نے عرض کیا اے ابومنذر (ابی بن کعبؓ) تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ فرمایا: اس نشانی یا فرمایا: اس علامت کی وجہ سے جو آنحضرت ﷺ نے ہمیں بتائی کہ اس

سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۱۳۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداؤد الطيالسي نا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل الى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سوذت وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبنني رحمك الله فان النبي صلى الله عليه وسلم اري نبي امة على منبره فسأله ذلك فنزلت انا اعطيتك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت انا انزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم فعدذناها فاذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص

۳۱۳۴۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفيان عن عبدة بن ابی لبابة وعاصم سمعا زرين حبيش يقول قلت لابي وابن كعب ان احاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يغفر الله لابي عبد الرحمن لقد علم انها في العشر الاواخر من رمضان وانها ليلة سبع وعشرين ولكنه اراد ان لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشرين قال قلت له باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر قال بالآية التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او بالعلامة ان الشمس تطلع

يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا

دن سورج اس طرح نکلتا ہے کہ اس میں شعاع نہیں ہوتی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ لَمْ يَكُنْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۵۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الرحمن بن مهدى ناسفیان عن المختار بن قلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذلك إبراهيم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۲۶۔ سورۃ بینہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۵۔ حضرت مختار بن قلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح پکارا ”یا خیر البریۃ“ (اے تمام مخلوق سے بہتر) تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

سورة اذا زلزلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۶۔ حدثنا سويد بن نصرانا عبد الله بن المبارك نا سعيد بن ابی ایوب عن یحیی بن ابی سلیمان عن سعید المقبری عن ابی هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو امرأة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا فهذه أخبارها

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۲۷۔ سورۃ زلزال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”یومئذ تحدث اخبارها“ (یعنی اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی) اور فرمایا: جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا: اس کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہر مرد و عورت کے متعلق بتائے گی کہ اس نے اس پر کیا کیا اور کہے گی کہ اس نے اس طرح کیا۔ اس طرح کیا۔

وَمِنْ سُورَةِ الْهٰكُمِ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وهب بن جريرنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشيخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آلهكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي

۱۶۲۸۔ سورۃ تکاثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۳۷۔ حضرت عبد اللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ سورۃ تکاثر پڑھ رہے تھے پھر فرمایا: ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے۔ حالانکہ (اے ابن آدم) تیرا مال تو صرف وہی ہے۔ جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا

یا کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔

مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَلَّفْتَ فَاَمْضَيْتَ
أَوْ أَكَلْتَ فَافْتَيْتَ أَوْ لَيْسَتْ فَابْكَيْتَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۳۸۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے متعلق شک ہی میں تھے یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی ”الہکم التکائر“۔

۳۱۳۸۔ حدثنا ابو کریب نا حکام بن سلم الرازی
عن عمرو بن قیس عن الحجاج عن المنهال بن
عمرو عن زربین حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا زِلْنَا نَشْكُ
فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۱۳۹۔ حضرت زبیر بن عوامؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”ثم لتستلنن“..... (یعنی پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا) تو زبیرؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کون سی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس کھجور اور پانی کے علاوہ ہے کیا؟ فرمایا: یہ نعمتیں عنقریب تمہیں ملیں گی۔

۳۱۳۹۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن زبیر بن العوام قال لما نزلت ثم لتستلنن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۴۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”ثم لتستلنن يومئذ عن النعيم“ تو صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے دو ہی تو چیزیں ہیں پانی اور کھجور۔ پھر ہم سے کن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ نعمتیں عنقریب تمہیں ملیں گی۔

۳۱۴۰۔ حدثنا عبد بن حميد نا احمد بن يونس عن ابی بکر بن عیاش عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتستلنن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسئوفنا على عواتقنا قال إن ذلك سيكون

ابن عیینہ کی محمد بن عمرو سے منقول حدیث (حضرت زبیرؓ کی) میرے نزدیک اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ سفیان بن

عیینہ ابو بکر بن عیاش سے احفظ اور زیادہ صحیح ہیں۔

۳۱۴۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے جسم کی صحت عطا نہیں کی کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا۔

۳۱۴۱۔ حدثنا عبد بن حميد نا شابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاک بن عبد الرحمن بن عزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح

لَكَ جَسْمَكَ وَنُوْ وَيَكُ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ضحاک: ضحاک بن عبدالرحمن بن عزر ب ہیں انہیں ابن عزر م بھی کہتے ہیں۔

۱۶۲۹۔ سورہ کوثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۲۔ حضرت انسؓ سورہ کوثر کی تفسیر میں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے۔

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۲۔ حدثنا عبد بن حمید نا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرًا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۴۳۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ مارا اور اس کی مٹی نکالی، تو وہ منک تھی۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہیٰ آگئی اور میں نے اس کے قریب عظیم نور دیکھا۔

۳۱۴۳۔ حدثنا احمد بن منيع نا سريح بن النعمان انا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله قال ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكًا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورًا عظيمًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے انسؓ سے منقول ہے۔

۳۱۴۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کے دونوں جانب سونے کے خیمے ہیں اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی منک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ مٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

۳۱۴۴۔ حدثنا هناد نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجره على الدرّ والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل

وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۵۔ حدثنا عبد بن حمید نا سلیمان بن داود، عن شعبه عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال کان عمر یسألنی مع أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا بنون مثله قال فقال له عمر إنه من حیث تعلم فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر اللہ والفتح فقلت إنما هو أجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أعلمه آیاه وقرأ السورة إلى آخرها فقال له عمر واللہ ما أعلم منها إلا ما تعلم

۱۶۳۰۔ سورَةُ فَتْحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۵۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر صحابہ کی موجودگی میں مجھ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا: آپ ان سے مسائل پوچھتے ہیں جب کہ یہ ہماری اولاد کے برابر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیوں اس سے پوچھتا ہوں۔ پھر ابن عباس سے ”اذا جاء نصر اللہ والفتح“ (یعنی جب خدا کی مدد اور فتح آپہنچے) کی تفسیر پوچھی تو فرمایا: اس میں رسول اللہ ﷺ کو اللہ کی طرف سے وفات کی خبر دی گئی ہے۔ پھر پوری سورت پڑھی۔ اس پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابو بشر سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس کے یہ الفاظ ہیں ”اتسئلہ ولنا ابن مثله“ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سُورَةُ تَبَّتْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۶۔ حدثنا هناد واحمد بن منيع قالانا ابو معاوية نا الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباهاه فاجتمعت اليه قریش فقال انى نذير لكم بين يدي عذاب شديد ارايتم لو اتى اخبركم ان العدو ممسيبكم او مصيحكم اكنتم تصدقوني فقال ابو لهب الهذا جمعتنا تبالك فانزل اللہ تبارك وتعالى تبَّتْ يَدَا ابي لهب وتبَّتْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۶۳۱۔ سورَةُ لَهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۶۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ صفا پر چڑھے اور پکارنے لگے ”یا صباہاہ“ اس پر قریش آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم تک پہنچنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ابو لہب کہنے لگا۔ کیا تم نے ہمیں اسی لئے جمع کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ”تبَّتْ يَدَا ابي لهب وتبَّتْ“ نازل فرمائی (یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔)

۱ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

۱۶۳۲۔ سورۃ اخلاص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابوسعده وهو الصنعاني عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالیه عن ابي بن كعب ان المشرکین قالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم انساب لنا ربك فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد والسمد الذي لم يلد ولم يولد لانه ليس شئ يولد الا سيموت وليس شئ يموت الا سيورث وان الله لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا احد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شئ ء

۳۱۴۸۔ حضرت ابو عالىہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے معبودوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ چنانچہ جبرائیل سورۃ اخلاص لے کر نازل ہوئے۔ پھر اسی کی مانند حدیث بیان کرتے ہوئے ابی بن کعب کا ذکر نہیں کرتے۔

۳۱۴۸۔ حضرت ابو عالىہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے معبودوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ چنانچہ جبرائیل سورۃ اخلاص لے کر نازل ہوئے۔ پھر اسی کی مانند حدیث بیان کرتے ہوئے ابی بن کعب کا ذکر نہیں کرتے۔

۳۱۴۹۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا: عائشہ اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ یہی اندھیرا کرنے والا ہے۔

یہ حدیث میرے نزدیک گزشتہ حدیث سے زیادہ صحیح ہے ابوسعده محمد بن میسر ہیں۔

۱۶۳۳۔ سورۃ فلق اور ناس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۹۔ حدثنا محمد بن المثنی نا عبد الملك بن عمرو عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشة استعیدی بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب

سُورَةُ الْمُعَوِّذَاتَيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۱۴۹۔ حدثنا محمد بن المثنی نا عبد الملك بن عمرو عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشة استعیدی بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سے کہنے لگے کہ تم جلدی آ گئے میری عمر تو ہزار سال ہے فرمایا: کیوں نہیں۔ لیکن آپ نے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیئے تھے۔ اس پر آدم نے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کی اولاد بھی منکر ہو گئی اور بھول گئے۔ چنانچہ ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس دن سے لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کا حکم ہوا۔

لَهُ، اَدَمُ قَدْ عَجَلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، قَالَ فَمَنْ يَوْمَئِذٍ اَمْرًا بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۲۳۵۔

باب ۱۶۳۵۔

۳۱۵۲۔ حضرت انس بن مالکؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ حرکت کرنے لگی۔ چنانچہ پہاڑ بنائے اور انہیں حکم دیا کہ زمین کو تھامے رہو۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا: اے رب کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے فرمایا: ہاں: لوہا عرض کیا: لوہے سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا: ہاں آگ۔ عرض کیا: اس سے سخت؟ فرمایا: پانی۔ عرض کیا: اس سے سخت۔ فرمایا: ہوا۔ عرض کیا: اس سے سخت..... فرمایا: ہاں اس سے بھی سخت ہے اور وہ ابن آدم ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی ہو۔

۳۱۵۳۔ حدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون انا العوام بن حوشب عن سليمان بن ابي سليمان عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الارض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن ادم تصدق بصدقته يمينه يخفيها من شماله

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے مرفوعاً جانتے ہیں۔

دعاؤں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے

أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب ۱۶۳۶۔ دعا کی فضیلت۔

باب ۱۶۳۶۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

۳۱۵۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں۔

۳۱۵۳۔ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري انا ابوداؤد الطيالسي نا عمران القطان عن قتادة عن سعيد

ابن ابی الحسن عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرّم علی اللہ من الدعاء

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ محمد بن بشار سے عبد الرحمن بن مہدی سے اور وہ عمران قطان سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۳۷۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۶۳۷۔ مِنْهُ

۳۱۵۳۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

۳۱۵۴۔ حدیثنا علی بن حجرانا الولید بن مسلم عن ابن لہیعة عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مع العبادۃ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے صرف ابن لہیعی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۱۵۵۔ حضرت نعمان بن بشیر رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دعائی تو عبادت ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”وقال ربکم ادعونی“..... الا یہ (یعنی تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

۳۱۵۵۔ حدیثنا احمد بن منیع نا مروان بن معاویہ عن الاعمش عن زر عن یسعیع عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یتستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ منصور اور اعمش اسے زر سے نقل کرتے ہیں۔ ہم اسے صرف ذریعی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۶۳۸۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۳۸۔ مِنْهُ

۳۱۵۶۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

۳۱۵۶۔ حدیثنا قتیبہ نا حاتم بن اسماعیل عن ابی الملیح عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم یسأل اللہ یغضب علیہ

وکیچ اور کئی راوی یہ حدیث ابویح سے روایت کرتے ہیں ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے ابو عاصم کے حوالے سے انہوں نے حمید سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

باب ۱۶۳۹۔ ذکر کی فضیلت۔

باب ۱۶۳۹۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ

۳۱۵۷۔ حضرت عبد اللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں اس سے متعلق رہوں۔ فرمایا: تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے

۳۱۵۷۔ حدیثنا ابو کریب نا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح عن عمرو بن قیس عن عبد اللہ بن بسر ان رجلاً قال یا رسول اللہ ان شرائع الإسلام

ذکر سے تر ہے۔

قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ اَتَشَبَثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ
لِسَانَكَ رَطْبًا مَن ذَكَرَ اللَّهَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۶۴۰۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۴۰۔ مِنْهُ

۳۱۵۸۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ فرمایا: اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والوں کا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا: اگر غازی اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کرے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے افضل ہے۔

۳۱۵۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دِرَاجٍ عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اَيُّ الْعِبَادِ اَفْضَلَ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًا اَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف دراج کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۶۴۱۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۴۱۔ مِنْهُ

۳۱۵۹۔ حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک تمہارے بہترین اور پاکیزہ ترین اعمال کے متعلق نہ بتاؤں جن سے تمہارے درجات بلند ترین ہوں گے اور جو تمہارے لئے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں نیز وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! فرمایا: اللہ کا ذکر۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے والے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔

۳۱۵۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيْثٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ هُوَ ابْنُ اَبِي هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ عَنْ اَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَ اَزْكٰهَا عِنْدَ مٰلِكِكُمْ وَ اَرْفَعَهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرِ لَّكُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَ الْوَرَقِ وَ خَيْرِ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذَكَرُ اللّٰهِ قَالَ مَعَاذُ بِنِ حَبِيْلِ مَاشِيْ اُنْحٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مَن ذَكَرَ اللّٰهَ

بعض حضرات یہ حدیث عبد اللہ بن سعید سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں بعض اسے انہی سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۴۲۔ مجلس ذکر کی فضیلت۔

باب ۱۶۴۲۔ مَا جَاءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ

اللّٰهُ مَا لَهُمْ مِّنَ الْفَضْلِ

۳۱۶۰۔ حضرت ابوسعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے نیز ان پر تسکین (تسلی) نازل کر دی

۳۱۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَّانُ عَنْ اَبِي اسْحٰقٍ عَنْ الْاَعْرَابِيِّ مُسْلِمًا اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اَبِي

جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی فرشتوں کے پاس یاد کرتے ہیں۔

هُرَيْرَةَ ۖ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۶۱۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ مسجد آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پوچھا: کیا اسی لئے بیٹھے ہوئے؟ عرض کیا: اللہ کی قسم اسی لئے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے: میں نے تمہیں اس لئے قسم نہیں دی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا ہوں (تم لوگ تو) جانتے ہو کہ میں شدت احتیاط کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ سے بہت کم احادیث نقل کرتا ہوں۔ آپ ﷺ ایک مرتبہ صحابہ کے ایک حلقے کی طرف تشریف لائے اور ان سے بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اس دولت سے نوازا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ کی قسم کیا تم اسی لئے بیٹھے ہوئے؟ عرض کیا: اللہ کی قسم یہی وجہ ہے۔ فرمایا: میں نے تمہیں جھوٹ کے گمان کی وجہ سے قسم نہیں دی جان لو کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہے ہیں۔

۳۱۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا ابْنُ نِعْمَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّخْدِرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَلَا اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَيْنَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِهِ فَقَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ لِتَهْمَةٍ لَكُمْ إِنَّهُ أَنَانِي جِبْرِئِيلُ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابونعامة سعدی کا نام عمرو بن عیسیٰ اور ابو عثمان مہدی

کا عبدالرحمن بن مل ہے۔

باب ۱۶۴۳۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کے متعلق۔

باب ۱۶۴۳۔ مَا جَاءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

۳۱۶۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے تو اس مجلس والے نقصان میں ہیں لہذا اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔

۳۱۶۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي نَا سَفِيَانَ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ نَبِيَّهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ

غَفَرْلَهُمْ

یہ حدیث حسن ہے اور ابو ہریرہؓ سے رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

باب ۱۶۴۴۔ مَا جَاءَ أَنْ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةً

باب ۱۶۴۴۔ مسلمان کی دعا کی قبولیت۔

۳۱۶۳۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا بِن لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بَدْعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِأَيِّمْ أَوْ قَطِيعَةٍ رَجِمَ

۳۱۶۳۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ اگر کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا کر دیتے ہیں یا اس کے برابر کسی برائی کو اس سے دور کر دیتے ہیں بشرط یہ کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحم کے لئے دعا نہ کی ہو۔

اس باب میں ابوسعید اور عبادہ بن صامتؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۱۶۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ بِإِسْنَادٍ مِنْ مَرْزُوقِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ اللَّيْثِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ، عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّجَاءِ

۳۱۶۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہئے کہ راحت کے وقت بکثرت دعا کرے۔

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۱۶۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ نَا مَوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

۳۱۶۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا: افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعا الحمد للہ ہے۔

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ علی بن مدینی اور کئی حضرات یہ حدیث موسیٰ بن ابراہیم ہی سے نقل کرتے ہیں۔

۳۱۶۶۔ حَدَّثَنَا ابُو كَرِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنِ الْبُهَيْيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

۳۱۶۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں اور یہی کا نام عبد اللہ ہے۔

باب ۱۶۴۵۔ مَا جَاءَ أَلِ الدَّاعِيَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

۳۱۶۷۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ نَا ابُو قَطْنٍ
عَنْ حَمَزَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جَبْرِ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا
فَدَعَا لَهُ، يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابوقطن کا نام عمرو بن یثیم ہے۔

باب ۱۶۴۶۔ دَعَاكَ وَتَهَاتَهَاتَا

باب ۱۶۴۶۔ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الدَّعَاءِ

۳۱۶۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
وَأَبِرَاهِيمَ بْنَ يَعْقُوبَ وَغَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا نَا حَمَادُ بْنُ
عَيْسَى الْجَهَنِّيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ الْجَمْحَوِيِّ
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ
يَدَيْهِ فِي الدَّعَاءِ لَمْ يَحْطِطْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا
وَجْهَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ لَمْ يَرُدُّهُمَا
حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

باب ۱۶۴۷۔ دَعَاكَ وَتَهَاتَهَاتَا

۳۱۶۸۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اپنے چہرے پر پھیرے بغیر واپس نہ لوٹاتے۔ محمد بن شیبہؒ اپنی حدیث میں اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حماد بن موسیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں جب کہ وہ قلیل

الحدیث ہیں۔ ان سے کئی راوی روایت کرتے ہیں۔ حنظلہ بن ابوسفیانؒ صحیح ثقہ ہیں۔ یحییٰ بن سعید قطانؒ انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔

باب ۱۶۴۷۔ دَعَاكَ وَتَهَاتَهَاتَا

باب ۱۶۴۷۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَسْتَعْجِلُ فِي دُعَائِهِ

۳۱۶۹۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنَى نَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ
يَعْمَلْ يَقُولُ دَعْوَتٌ فَلَمْ يُسْتَجَبْ

باب ۱۶۴۸۔ صَبْحٌ وَرَشَامٌ كَيْ دَعَاكَ

۳۱۶۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میرے سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو عبید کا نام سعد ہے۔ وہ عبدالرحمن بن ازہر کے مولیٰ ہیں نیز انہیں عبدالرحمن بن عوف کا مولیٰ بھی کہا جا

ہے۔ اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۶۴۸۔ صَبْحٌ وَرَشَامٌ كَيْ دَعَاكَ

باب ۱۶۴۸۔ مَا جَاءَ فِي الدَّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى

۳۱۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابُو دَاوُدَ هُوَ
الطَّيَالَسِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

۳۱۷۰۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں

پہنچا سکتی۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي..... السَّمِيعِ الْعَلِيمِ“ تک (یعنی اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان وزمین کی کوئی چیز ضرور نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے) راوی حدیث ابان کو فالج تھا چنانچہ جو شخص ان سے یہ حدیث سن رہا تھا تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگے کیا دیکھتے ہو حدیث وہی ہے جیسے کہ میں نے بیان کی ہے اور اس (فالج) کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی جس دن یہ ہوا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر کا حکم جاری کریں۔

ابان بن عثمان قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ عَبْدٌ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفُ فَالِجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْظُرُ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَهُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۱۷۱- حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص روزانہ شام کو یہ دعا پڑھے ”رضیت..... سے نبیا“ تک تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے راضی کر دے۔ (ترجمہ: میں اللہ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔)

۳۱۷۱- حدثنا ابو سعيد الاشج نا عقبه بن خالد عن ابى سعد بن سعيد بن المرزبان عن ابى سلمة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً كان حقاً على الله ان يرضيه

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۱۷۲- حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”امسینا“ سے ”عذاب القبر“ تک (یعنی ہم نے اور کائنات نے اللہ کے حکم سے شام کی تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا: کہ بادشاہت اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (اے اللہ) میں تجھ سے اس رات اور اس کے بعد بہتری کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس رات کے شر اور اس کے بعد آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیز میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں پھر جہنم اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں) پھر صبح کے وقت بھی اسی طرح دعا کرتے اور امسینا کی جگہ ”اصبحنا“ فرماتے۔

۳۱۷۲- حدثنا سفيان بن وكيع نا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له اراه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر واذا اصبح قال ذلك ايضاً اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله

شعبہ بھی یہ حدیث ابن مسعود سے اسی سند سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۳۱۷۳۔ حدثنا علي بن حجر نا عبد الله بن جعفرانا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۶۴۹۔ منہ

۳۱۷۴۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود قال ابانا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن ابي هريرة قال قال ابو بكر يا رسول الله مني بشي اقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قلّه إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۵۰۔ منہ

۳۱۷۵۔ حدثنا الحسين بن حريث نا عبدالعزيز بن ابي حازم عن كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك على وأعترف بذنوبي فأغفر لي

۳۱۷۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرو "اللهم بك أصبحنا" سے "اليك المصير" تک (یعنی یا اللہ ہم نے تیرے ہی حکم کے ساتھ صبح کی اور تیرے ہی حکم سے شام کی اور تیرے ہی حکم سے جیتے ہیں اور تیرے ہی حکم سے مریں گے پھر تیری ہی طرف لوٹیں گے) اور جب شام ہو تو یہ دعا پڑھا کرو "اللهم بك أمسينا" سے آخر تک (یعنی اے اللہ تیرے ہی حکم شام کی ہے اسی سے صبح کی تھی۔ اسی سے جیتے اور اسی سے مریں گے پھر تیری طرف ہی اٹھے ہو کر آئیں گے۔)

۱۶۴۹۔ اسی سے متعلق۔

۳۱۷۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے صبح و شام کوئی دعا پڑھنے کا حکم دیجئے فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو "اللهم عالم الغيب....." شکر کہ تک (یعنی اے اللہ اے غیب اور کھلی باتوں کے جاننے والے۔ آسمان و زمین کے پالنے والے، ہر چیز کے مالک اور پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تجھ سے اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔) آپ ﷺ نے فرمایا: اسے صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔

باب ۱۶۵۰۔ اسی کے متعلق۔

۳۱۷۵۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں استغفار کے سردار کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ یہ دعا ہے "اللهم" سے "إلا أنت" تک (یعنی اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے عہد و پیمانہ پر قائم ہوں۔ تجھ سے اپنے کاموں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اپنے اوپر تیرے احسانوں کا اقرار کرتا ہوں نیز اپنے گناہوں کا بھی اعتراف

کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں) پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کو یہ دعا پڑھے گا اور صبح ہونے سے پہلے مرجائے گا تو جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح صبح کے وقت پڑھنے والے کے لئے شام تک۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ، ابن ابزکیؓ اور ابن بربیدہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور

عبدالعزیز بن ابی حازم: زاہد کے بیٹے ہیں۔

باب ۱۶۵۱۔ سوتے وقت پڑھنے والی دعائیں۔

۳۱۷۶۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو اگر تم سوتے وقت پڑھ لو تو اگر تم اس رات مرجاؤ گے تو اسلام پر مرو گے اور اگر صبح ہوگی تو وہ بھی خیر پر ہوگی ”اللہم“ سے ”ارسلت“ تک (یعنی اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور اپنا کام بھی تجھ ہی کو سونپا۔ رغبت کی وجہ سے بھی اور تیرے ڈر سے بھی۔ نیز میں نے اپنی پیٹھ کو تیری ہی پناہ دی کیونکہ تجھ سے بھاگ کر نہ کہیں پناہ ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ میں تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لایا اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر بھی ایمان لایا) براء کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیرے بھیجے ہوئے رسول پر تو آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: تیرے بھیجے ہوئے نبی پر۔

ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ كُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ

باب ۱۶۵۱۔ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

۳۱۷۶۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ سَفِيَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا تَقُولُ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ وَاللَّحَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِّنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ وَنَيْبِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس باب میں رافع بن خدیجؓ سے بھی روایت ہے اور یہ حدیث براء سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ منصور بن معتمر اے سعد سے وہ براء سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب تم سونے کے لئے آؤ اور با وضو ہو تو یہ دعا پڑھو۔

۳۱۷۷۔ حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھے اور پھر اسی رات میں مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم سے ”برسولک“ (یعنی اے اللہ میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا، اپنے کام تجھے سونپ دیئے کیونکہ تیرے عذاب سے بچنے کا تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں) دے

۳۱۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَثْمَانُ بْنُ عَمْرَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ

وَالْحَاحُ ظَهَرِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ
لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَوْ مِنْ بَيْتِكَ وَبِرَسُولِكَ فَإِنْ
مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

یہ حدیث رافع بن خدیج کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۱۷۸۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”الحمد لله“ سے آخر تک (یعنی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں (مخلوق کے شر) سے بچایا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی بچانے والا ہے اور نہ ان کا ٹھکانہ ہے۔

۳۱۷۸۔ حدثنا اسحاق بن منصورنا عفان بن مسلم نا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُودِي

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۵۲۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۶۵۲۔ مِنْهُ

۳۱۷۹۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو سوتے وقت یہ دعائیں مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں یا درخت کے پتوں کے برابر یا (صحراء) عالج کی ریت کے برابر یا دنیا کے ایام کے برابر ہی ہوں ”استغفر الله“ سے ”اتوب اليه“ (یعنی میں اللہ کی مغفرت کا طلب گار ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔)

۳۱۷۹۔ حدثنا صالح بن عبد الله نا ابو معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تِلْكَ مَرَاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن ولید وصافی ہی کی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۶۵۳۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۵۳۔ مِنْهُ

۳۱۸۰۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے ”اللهم“ سے آخر تک (یعنی یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔)

۳۱۸۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن خراش عن حذيفة بن اليمان أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۱۸۱۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو لکھیے بناتے اور یہ دعا کرتے ”رب قنني“ سے

۳۱۸۱۔ حدثنا ابو كريب نا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن يوسف بن ابی اسحاق عن ابیه عن ابی

اسحاق عن ابي بردة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول رب قنني عذابك يوم تبعث عبادك

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ثوری اسے ابواسحاق سے وہ براء سے نقل کرتے ہوئے ابواسحاق اور براء کے درمیان کسی راوی کا ذکر نہیں کرتے۔ شعبہ اسے ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ ابواسحاق سے ابوسعیدہ کے واسطے سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۶۵۴۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۵۴۔ منہ

۳۱۸۲۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سونے لگے تو یہ دعا پڑھا کرے ”اللہم“ سے آخر تک (یعنی اے اللہ! اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے اور اے توراہ، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے۔ میں تجھ سے ہر شر پہنچانے والی چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے اس کے بالوں سے پکڑنے والا ہے تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو سب سے اوپر ہے تجھ سے اوپر کچھ نہیں اور تو ہی باطن میں ہے تجھ سے ماوراء کوئی چیز نہیں (اے اللہ) میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے۔)

۳۱۸۲۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ناعمر بن عون انا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأموننا اذا اخذ احدنا مضبغه ان يقول اللهم رب السموات والارضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بنا صيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۵۵۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۵۵۔ منہ

۳۱۸۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی بستر پر سے اٹھ کر جائے اور پھر دوبارہ لیٹنے لگے تو اسے اپنے تہ بند کے کونے سے (کپڑے سے) جھاڑے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کون سی چیز آئی۔ اور پھر جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے ”باسمک ربی“ سے ”صالحین“ تک۔ (اے میرے رب! میں نے تیرے نام سے کروٹ رکھی اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھاتا ہوں لہذا اگر تو میری جان لے لے تو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دے تو اس کی اس طرح نگہبانی کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی نگہبانی کرتا ہے) اور جب جاگے تو یہ دعا پڑھے ”الحمد لله“ سے آخر تک (یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے

۳۱۸۳۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابن عجلان عن سعید المقبري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم عن فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنيفة ازاره ثلاث مرات فانها لا يدري ما خلفه عليه بعده فاذا اضطجع فليقل باسمك ربتي وضعت جنبي و بك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فاذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في حسدي ورد علي روجي واذن لي بذكره

ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت بخشی، مجھ میں میری روح لوٹا دی اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔

باب ۱۶۵۶۔ جو شخص سوتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرے۔

۳۱۸۳۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے پھر سورہ اخلاص، الفلق اور الناس تینوں سورتیں پڑھ کر ان میں پھونکتے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکتا بدن پر مل لیتے۔ پہلے سر اور چہرے پر پھر جسم کے اگلے حصے پر اور یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔

باب ۱۶۵۶۔ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَنَامِ ۳۱۸۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْمَفْضَلُ بِنِ فَضَالِهٖ عَنِ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْيَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۵۷۔ اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۵۷۔ مِنْهُ

۳۱۸۵۔ حضرت فروہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ نوفل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی چیز سکھائیے کہ میں سوتے وقت پڑھا کروں۔ فرمایا: سورہ کافرون پڑھا کرو۔ کیونکہ اس میں شرک سے براءت ہے۔ شعبہ کبھی ایک مرتبہ پڑھنے کا کہتے اور کبھی نہیں۔

۳۱۸۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ قَالَ ابْنَانَا شُعْبَةُ عَنِ ابِي اسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فَرَوَةَ بِنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أُوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْيَانًا يَقُولُ مَرَّةً وَ أَحْيَانًا لَا يَقُولُهَا

موسیٰ بن حزام بھی صحیحی سے وہ اسرائیل سے وہ ابواسحاق سے وہ فروہ سے اور وہ اپنے والد نوفل سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور پھر اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مذکورہ بالا سے زیادہ صحیح ہے۔ زہیرا سے ابواسحاق سے وہ فروہ سے وہ نوفل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں یہ روایت شعبہ کی روایت سے اشبہ اور اصح ہے۔ ابواسحاق کے ساتھیوں نے اس میں اضطراب کیا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔ عبدالرحمن بن نوفل (فروہ کے بھائی) بھی اسے اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

۳۱۸۶۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سورہ المجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے اس وقت تک نہ سوتے۔

۳۱۸۶۔ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ الْمُحَارَبِيُّ عَنِ لَيْثٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيلَ السُّجْدَةِ وَتَبَارَكَ

ثوری اور کئی راوی اسے اسی طرح ابو زبیر سے وہ جاہل سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ زہیر نے ابو زبیر سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث جاہل سے سنی ہے تو جواب دیا نہیں۔ بلکہ صفوان یا ابن صفوان سے سنی ہے۔ شابہ بھی مغیرہ سے وہ ابو زبیر سے اور وہ جاہل سے لیٹ ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۱۸۷۔ حدثنا صالح بن عبد الله نا حماد بن زيد عن ابى لبيبة قال قالَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ وَيَبْنِي إِسْرَائِيلَ

۳۱۸۷۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سورہ زمر اور سورہ اسراء پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ ابولبابہ کا نام مروان ہے اور وہ عبدالرحمن بن زیاد کے مولیٰ ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے احادیث سنی ہیں اور ان سے حماد بن زید کا سماع ثابت نہیں ہے۔

۳۱۸۸۔ حدثنا علي بن حجرنا بقیة بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن أبي بلال عن العرياض بن سارية أن النبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ وَيَقُولُ فِيهَا آيَةَ خَيْرٍ مِنَ أَلْفِ آيَةٍ

۳۱۸۸۔ حضرت عریاض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اس وقت تک نہ سوتے جب تک سج، بیح اور سبحان سے شروع ہونے والی سورتیں نہ پڑھ لیتے اور فرماتے کہ ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۱۸۹۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد الزبيرى نا سفيان عن الجريري عن ابى العلاء بن الشخير عن رجلٍ من بنى حنظلة قال صحبت شذاد بن أوس في سفرٍ فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتِ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعَلَّمَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرُبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبَ مَتَى هَبَ

۳۱۸۹۔ قبیلہ بنو حنظلہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں شذاد بن اوس کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ فرمانے لگے میں تمہیں ایسی چیز سکھاتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ ”اللہم“ سے ”علام الغیوب“ تک (یعنی اے اللہ میں تجھ سے کام کی مضبوطی، ہدایت کی چنگلی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلب گار ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان اور قلب سلیم مانگتا ہوں۔ اور تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے پھر میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں تو ہی غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے) اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں چنانچہ اسے تکلیف دینے والی کوئی چیز اس کے بیدار ہونے تک اس کے قریب نہیں آتی۔

اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوعلاء کا نام یزید بن عبداللہ بن شخیر ہے۔

باب ۱۶۵۸۔ سوتے وقت سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھنا۔

باب ۱۶۵۸۔ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ الْمَنَامِ

۳۱۹۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ نَا أَزْهَرَ السَّمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَكَتُ إِلَى فَاطِمَةَ مَجَلَّ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ فَقُلْتُ: لَوَأَيْتَ أَبَاكَ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَحَدْتُمْ مَضَجَعَكُمْ تَقُولَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

۳۱۹۰۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ فاطمہؑ نے مجھ سے اپنے ہاتھوں میں چکی پسینے کی وجہ سے گھنے پڑ جانے کی شکایت کی تو میں نے کہا: اگر تم اپنے والد سے کوئی خادم مانگ لیتیں تو اچھا ہوتا (وہ گئیں اور غلام مانگا) آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہے کہ جب تم سونے لگو، تو تینتیس مرتبہ الحمد للہ، تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابن عون کی روایت سے کئی سندوں سے حضرت علیؑ سے منقول ہے۔

۳۱۹۱۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہؑ آنحضرت ﷺ کے پاس آئیں اور اپنے ہاتھوں کے چھل جانے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے انہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑھنے کا حکم دیا۔

۳۱۹۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا أَزْهَرَ السَّمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو مَجَلَّ يَدَيْهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

باب ۱۶۵۹۔ اسی سے متعلق۔

۳۱۹۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان انہیں اختیار کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دونوں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ انہی انگلیوں پر گنا کرتے تھے پھر فرمایا کہ وہ زبان پر ڈیڑھ سوا درمیزان پر ڈیڑھ ہزار ہیں (دوسری خصلت یہ بیان فرمائی) کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ زبان کے لئے سوا درمیزان کے لئے ایک ہزار کلمات ہیں تم میں سے کون ہے جو رات و دن میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہے۔ ① صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ان پر مداومت کیوں

۳۱۹۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَإِنَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ فَتِلْكَ حَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَحَدْتُمْ مَضَجَعَكُمْ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتُحَمِّدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَإِيَّكُمْ يَعْمَلُ فِي

① یعنی اگر اتنی برائیاں بھی ہوں تو بھی وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ (مترجم)

نہیں کر سکتے؟ فرمایا: جب تم نماز میں ہوتے ہو تو شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو فلاں چیز یاد کرو۔ یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اکثر وہ کام نہیں کرتا (جو شیطان نے نماز میں یاد دلایا تھا۔ پھر جب وہ سونے کے لئے بستر کی طرف جاتا ہے تو اسے تھکنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے۔

الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ الْفَيُّ وَ خَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوا كَيْفَ لَانْحُصِيهَا قَالَ يَا بَنِي آدَمَ كُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَوَتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ هُوَ فِي مَضْجِعِهِ فَلَا يَزَالُ يَنْوِمُهُ حَتَّى يَنَامَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے شعبہ اور ثوری، عطاء بن ابی سائب سے مختصراً نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں زید بن ثابت، انس اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

۳۱۹۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سجان اللہ انگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا۔

۳۱۹۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ نَا عَنَامِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ

یہ حدیث اعمش کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۱۹۴۔ حضرت کعب بن عجرہ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائیں تو ان کا پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔

۳۱۹۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ الْكُوفِيُّ نَا إِسْبَاطَ مُحَمَّدَنَا عَمْرٍو بْنِ قَيْسِ الْمَلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَحِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

یہ حدیث حسن ہے اور عمرو بن قیس ملائی ثقہ اور حافظ ہیں۔ شعبہ یہ حدیث حکم سے نقل کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے جب کہ منصور بن معمر اسے حکم سے مرفوع نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۶۰۔ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا اتَّبَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ

۳۱۹۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنِي عَمِيرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ ثَنِي جِنَادَةَ بْنِ أَبِي أَمِيَةَ قَالَ ثَنِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَمَنَ اللَّيْلَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

باب ۱۶۶۰۔ رات کو آنکھ کھل جانے پر پڑھی جانے والی دعا۔

۳۱۹۵۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے ”لا الہ الا باللہ“ سے اب اللہ، تک پھر کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے یا فرمایا کہ کوئی دعا بھی کرے تو قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہمت کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوتی ہے (ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفیں بھی اسی کے لئے ہیں۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بچنے یا نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا أَسْتَجِيبَ لَهُ، فَإِنْ عَزَمَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَبِلَتْ صَلَوَتُهُ؛

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم سے اسے علی بن حجر نے مسلمہ بن عمرو کے حوالے نقل کیا ہے مسلمہ کہتے ہیں کہ عمیر بن ہانی روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے اور ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔

باب ۱۶۶۱۔ مِنْهُ

باب ۱۶۶۱۔ اسی سے متعلق۔

۳۱۹۶۔ حضرت ربیعہ بن کعب سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے دروازے کے پاس سویا کرتا تھا اور آپ ﷺ کو وضو کا پانی دیا کرتا تھا۔ پھر بہت دیر تک سنتا رہتا کہ آپ ﷺ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور الحمد للہ رب العالمین پڑھتے۔

۳۱۹۶۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا النَّضْرَ بْنَ شَمِيلٍ وَوَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَابُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالُوا نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ نَبِيُّ رِبْعَةَ بْنِ كَعْبٍ بِالْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطِيهِ وُضُوءَهُ، فَاسْمَعُهُ الْهُوَيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۶۲۔ مِنْهُ

باب ۱۶۶۲۔ اسی سے متعلق۔

۳۱۹۷۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب سونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتْ وَأَحْيِي" (یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں)۔ پھر جب بیدار ہوتے تو "الحمد للہ" سے آخر تک پڑھتے (یعنی تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں۔ جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۳۱۹۷۔ حَدَّثَنَا عمرو بن اسمعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني نا ابي عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حذيفة بن اليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام قال اللهم باسمك اموت واحيي واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعد ما امانتها واليه النشور

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۶۳۔ تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں۔

۳۱۹۸۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب رات کو تہجد کے لئے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے "اللَّهُمَّ" سے آخر تک۔ (یعنی اے اللہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کا قائم کرنے والا ہے، تمام

باب ۱۶۶۳۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ ۳۱۹۸۔ حَدَّثَنَا الْإِنصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ

تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو ہی آسمان وزمین اور ان میں موجود چیزوں کا رب ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے ہی لئے اسلام لایا، تجھ ہی پر ایمان لایا۔ تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی لئے لڑا اور تجھ کو حاکم تسلیم کیا تو میری مغفرت فرمادے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے میرے اعلانیہ اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرمادے۔ تو ہی میرا معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالْحِجَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَالْيَاكُفُورُ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالْيَاكُفُورُ
حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عباسؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔

باب ۱۶۶۴۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۶۶۴۔ مِنْهُ

۳۱۹۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم ﷺ کو نماز تہجد سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا "اللَّهُمَّ" سے آخر تک۔ (ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ایسی رحمت کا طلبگار ہوں کہ جس سے میرے دل کو ہدایت دے۔ میرے کام کو جامع بنا دے، اس کی برکت سے میری پریشانی کو دور کر دے، میرے غیبی امور کو اس سے سنو اور دے، میرے موجودہ درجات کو بلند کر دے، مجھے اس سے سیدھی راہ سکھا، میرے چہیتوں کو صحیح کر دے، اور مجھے ہر بُرائی سے بچا۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت عطا کر کہ اس سے میں دنیا و آخرت میں تیری کرامت کے شرف کو پہنچوں۔ اے اللہ میں تجھ سے قضا میں کامیابی، شہداء کے مرتبے، نیک لوگوں کی زندگی اور دشمنوں پر تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں اگرچہ میری عقل کم اور عمل ضعیف ہے۔ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے امور کو درست کرنے والے، اے دلوں کو شفا عطا کرنے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے اسی طرح بچا جس طرح تو سمندروں کو آپس میں نلٹے سے بچاتا ہے۔ نیز ہلاک کرنے والی دعا اور قبر کے فتنے سے بھی اسی طرح بچا۔ اے اللہ جو خیر میری عقل

۳۱۹۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ثَنِي أَبِي قَالَ ثَنِي ابْنِ أَبِي
لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةً جِئْتُ فَرَعًا مِنْ
صَلْوَتِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي
بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلْمُ بِهَا شَعْنِي وَتُصَلِّحُ
بِهَا عَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُرَكِّبِي بِهَا عَمَلِي
وَتُلْهَمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْنَى وَتَعْصِمُنِي بِهَا
مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ
كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَا لِبِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنَزَلَ
الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنُّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَائِي وَضَعَفَ
عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاسْئَلُكَ يَا قَاضِيَ
الْأُمُورِ وَيَأْسَفِي الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ
تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ التُّبُورِ وَمِنْ

فِتْنَةَ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نَيْتِي
 وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ
 أَوْ خَيْرِ أُمَّتٍ مُعْطِيَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ
 إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ
 ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ
 الْوَعِيدِ وَالْحَنَةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ
 الرَّكَّحِ السُّجُودِ الْمُؤَفِّينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ
 وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ
 غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلَامًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوِّ
 لِأَعْدَائِكَ نَحْبُ بِحَبِّكَ مِنْ أَحَبِّكَ وَنُعَادِي
 بَعْدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ
 الْإِحَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ
 لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ
 وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي
 وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي
 وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي
 بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي
 عِظَامِي اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْنِي نُورًا وَاجْعَلْ
 لِي نُورًا سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعَرْوَ قَالَ بِهِ سُبْحَانَ
 الَّذِي لَيْسَ الْمَجْدُ وَتَكْرَمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي
 التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ
 ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

میں نہ آئے، میری نیت اور سوال بھی اس وقت تک نہ پہنچا ہو لیکن تو نے
 اس کا اپنی کسی مخلوق سے وعدہ کیا ہو یا اپنے کسی بندے کو دینے والا ہو تو
 میں بھی تجھ سے اس خیر کو طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کے
 وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار! اے اللہ! اے
 سخت قوت والے اور اے تجھے کام والے میں تجھ سے قیامت کے دن
 کے چین اور یومِ غلود کو ان مقربین کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں۔
 جو گواہی دینے والے رکوع و سجود کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے
 والے ہیں۔ بے شک تو بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو جو چاہتا
 ہے وہی کرتا ہے۔ اے اللہ! ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے
 نہ کہ گمراہ اور گمراہ کرنے والوں میں سے، تیرے دوستوں سے صلح رکھنے
 والوں اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کرنے والوں میں سے کر دے۔ ہم
 تیری ہی وجہ سے اسی سے محبت کریں جو تجھ سے محبت کریں اور تیری
 مخالفت کرنے والوں سے تیری دشمنی کی وجہ سے دشمنی رکھیں۔ اے اللہ!
 یہ دعا ہے اب تیرا کام ہے اور یہ تو میری کوشش ہے تو کل تو تجھ ہی پر
 ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں، میری قبر میں، میرے سامنے، میرے
 پیچھے، میرے دائیں بائیں، میرے اوپر نیچے، میری سماعت میں، میری
 نظر میں، میرے بالوں میں، میرے بدن میں، میرے گوشت میں،
 میرے خون میں اور میری ہڈیوں میں میرے لئے نور ڈال دے۔ اے
 اللہ میرا نور بڑھا دے، مجھے نور عطا فرما اور میرے لئے نور کو ظہیرا
 دے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اسے اپنی
 ذات سے مخصوص کر دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا جامہ پہنا
 اور کریم ہوا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی تسبیح کے لائق نہیں،
 پاک ہے وہ فضل اور نعمتوں والا، پاک ہے وہ بزرگی اور کریم والا اور
 پاک ہے وہ جلال اور بزرگی والا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ابن ابی لیلیٰ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ شعبہ اور سفیان ثوری اسے سلمہ بن

کھیل سے وہ کریم سے وہ ابن عباس سے اور وہ رسول اکرم ﷺ سے اس حدیث کا ایک حصہ نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۶۶۵۔ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ اللَّيْلِ

باب ۱۶۶۵۔ تہجد کی نماز شروع کرتے وقت کی دعائیں۔

۳۲۰۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى وَغَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا

۳۲۰۰۔ حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال

کیا کہ رسول اللہ ﷺ تہجد کی نماز پڑھنی شروع کرتے تو کیا پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا: یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”اللہم“ سے) آخر تک (یعنی اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اور اے پوشیدہ اور غیر پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن کے متعلق ان میں اختلاف تھا۔ مجھے اپنے حکم سے وہ راستہ بتادے جس میں حق سے اختلاف کیا گیا ہے تو ہی صراطِ مستقیم پر ہے۔

نا عمر بن یونس نا عکرمة بن عمارنا یحییٰ بن ابی کنیر قال نئی ابو سلمة قال سألت عائشة بآی شیء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفتح صلواتہ إذا قام من اللیل قالت کان إذا قام من اللیل افتتح صلواتہ فقال اللهم رب جبراءیل ومیکائیل و اسرافیل فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لیمّا اختلف فیہ من الحق بإذنک إنک علی صراط مستقیم

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۶۶۶۔ منہ

باب ۱۶۶۶۔ اسی سے متعلق۔

۳۲۰۱۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو فرماتے ”وجہت وجہی“ سے ”اتوب الیک“ تک (یعنی میں نے اپنے چہرے کو اسی کی طرف متوجہ کر لیا جو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے۔ میں کسی کجی کی طرف (مائل) نہیں ہوں اور نہ ہی میں مشرکین میں سے ہوں۔ بالیقین میری نماز، میرے ساری عبادات میرا جینا اور میرا امرنا سب خالصتاً اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں ماننے والوں میں سے پہلے ہوں اے اللہ! تو بادشاہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو میرے تمام گناہ معاف فرمادے اس لئے کہ گناہوں کا بخشنے والا صرف تو ہی ہے اور مجھے بہترین اخلاق عطا فرما تیرے علاوہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں مجھ سے برائیاں دور کر دے کیونکہ یہ بھی صرف تو ہی کر سکتا ہے میں تجھ پر ایمان لایا۔ تو بڑی برکت والا اور بلند ہے۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں) پھر جب رکوع کرتے تو ”اللہم“ سے ”عصی“ تک پڑھتے (یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے

۳۲۰۱۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب نا یوسف بن الماحشون قال اخبرنی ابی عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابی رافع عن علي بن ابی طالب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا قام فی الصلوة قال وجہت وجہی للذی فطر السموات والأرض حنیفاً وما انا من المشرکین ان صلوتی ونسکی ومحبای ومماتئ لله رب العظیمین لا شریک له وبذلک أمرت وانا اول المسلمین اللهم انت الملیک لا اله الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعاً انه لا یغفر الذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سببها لا یصرف عنی سببها الا انت امنت بک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک فاذا رکع قال اللهم لک رکعت ویک امنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخنی وعظمی وعصبی فاذا رفع رأسه قال اللهم

رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرا تابع ہوا۔ میرے کان، میری آنکھ، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے تیرے لئے جھک گئے) پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ”اللہم“ سے ”من شیء“ تک (ترجمہ: اے اللہ! اے ہمارے رب آسمانوں وزمین اور جو کچھ ان میں ہے، کے برابر تو یقیناً تیرے ہی لئے ہیں اور مزید جتنی تو چاہے) پھر سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے ”اللہم“ سے ”الخالقین“ تک (یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے سجدہ کیا تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیرا ہی تابع ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اس کی صورت بنائی اور اس میں کان آنکھ پیدا کئے۔ چنانچہ وہ بڑا برکت والا ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر آخر میں التحیات کے بعد اور سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے ”اللہم اغفر لی“ سے آخر تک۔ (یعنی اے اللہ! میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، نیز اعلانیہ اور پوشیدہ گناہ اور وہ بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی مقدم اور مؤخر کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ
سَجْدَةٌ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ إِجْرَمًا يَقُولُ بَيْنَ
التَّشْهُدِ وَالسَّلَامِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۰۲۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”وجہت وجہی“ سے ”اتوب الیک“ تک ① (ترجمہ: لیکن الخ اے اللہ! میں حاضر ہوں اور تیری ہی اطاعت کرتا ہوں۔ خیر پوری کی پوری تیرے ہاتھ میں ہے جب کہ شر سے تیری قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اے ہمارے رب! میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تو بابرکت اور بہت بلند ہے۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں) پھر رکوع کرتے تو ”اللہم“ سے عصبی تک پڑھتے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہم ربنا سے ”من شیء“ ”بعد“ تک پڑھتے پھر سجدے میں جاتے تو ”اللہم لک سجدت سے احسن الخالقین“ تک پڑھتے پھر تشهد اور سلام کے درمیان اللہم

۳۲۰۲۔ حدثنا الحسن بن الخلال نا ابوالولید الطیالسی نا عبدالعزیز بن ابی سلمة ویوسف بن الماجشون قال عبدالعزیز ثنی عمی وقال یوسف اخبرنی ابی قال ثنی الاعرج عن عبیداللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الی الصلوة قال وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وما انا من المشرکین ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لاشریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم انت المملک لا اله الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی

① باقی دعا کے معنی گذشتہ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ ”لیکن“ سے ”اتوب الیک“ تک معنی یہاں مذکور ہیں۔ اس کے بعد کی دعا کے معنی بھی پیچھے گزر چکے

ہیں۔ یعنی حدیث ۳۲۰۸ میں۔ (مترجم)

سے آخر تک پڑھتے۔

وَاَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ وَاَهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ
لَا يَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا
لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَيْتَكَ وَسَعْدِيكَ
وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنْابِكَ
وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
وَلَكَ أَسَلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَعِظَامِي
وَعَصْبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ
السَّمَاءَ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ شَفْتَ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ
وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلذِّئْبِ
خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَّرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَقُولُ مَا بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ
اللَّهُمَّ اعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۰۳۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب
فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قرأت سے فارغ ہونے کے بعد
رکوع میں جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھاتے اسی طرح
قراہت کے بعد کھڑے ہو کر بھی کرتے اس کے علاوہ تشہد اور سجدوں
وغیرہ کے دوران ہاتھ نہ اٹھاتے (رفع یدین نہ کرتے) پھر دو رکعتیں
پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کرتے۔ اور جب نماز
شروع کرتے تو تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے ”وجہت وجہی“ سے
”ابواب الیک“ (ترجمہ:..... لا منجأ) سے آخر تک۔ یعنی تیرے
عذاب سے صرف تو ہی پناہ دے سکتا ہے اور اس سے بھاگ کر تیرے
علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دے سکتا۔ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ

۳۲۰۳۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال نا سليمان
بن داود الهاشمي نا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن
موسى بن عقبه عن عبدالله بن المفضل عن
عبدالرحمن عن الاعرج عن عبيدالله بن ابي رافع
عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلوة المكتوبة
رفع يديه حدو منكبيه ويصنع ذلك اذا قضى
قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع رأسه من
الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلواته وهو
قاعد فاذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبير

کرتا ہوں) پھر قرأت کرتے اور رکوع میں جا کر یہ دعا پڑھتے ”اللہم لک رکعت“ سے ”رب العالمین“ تک پھر رکوع سے سر اٹھاتے اور ”من شیء“ بعد تک دعا پڑھتے۔ پھر سجدے میں جاتے تو ”اللہم لک سجدت“ سے ”احسن الخالقین“ تک پڑھتے۔ پھر نماز ختم کرنے لگتے تو ”اللہم اغفر لی“ سے آخر تک دعا پڑھتے۔

وَيَقُولُ حِينَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَجْهَتْ
وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ
نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعًا إِنَّهُ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ
لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا
أَنْتَ لِيَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لَا يَصْرِفُ عَنِّي
سَيِّئَهَا لِمَنْجَا مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي
رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ
وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعْتُ سَمْعِي وَبَصَرِي
وَمَخِي وَعَظْمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَتَّبِعُهَا اللَّهُمَّ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا
شَعَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ
اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ
سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَأَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی اور ہمارے بعض ساتھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اہل کوفہ میں سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دعائیں نوافل میں پڑھی جائیں فراغ میں نہیں۔ ابواسامیل ترمذی، سلیمان بن داؤد ہاشمی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک زہری کی سالم سے ان کے والد کے حوالے سے منقول حدیث کے مثل ہے۔

باب ۱۶۶۷۔ سجدہ تلاوت کی دعائیں۔

باب ۱۶۶۷۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

۳۲۰۴- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے بھی سنا۔ ”اللہم“ سے ”عبدک داؤد“ تک (یعنی یا اللہ! میرے لئے اس کا اجر لکھ دے اور اس کی وجہ سے مجھ سے (بوجھ) گناہ ہلکا کر پھر اسے مجھ سے اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا) ابن جریج، عبید اللہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ پھر رسول اکرم ﷺ نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میں نے آپ ﷺ کو وہی دعا پڑھتے ہوئے سنا جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیان کی تھی۔

۳۲۰۴- حدثنا قتيبة نا محمد بن يزيد بن حنيس نا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نايم كائني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال ابن عباس فسمعتها وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۲۰۵- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کلمات کو سجدہ ثلاث کرتے تو یہ دعا پڑھتے ”سجد وجہی“ آخر تک (یعنی میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں اپنی طاقت و قوت سے کان اور آنکھ بنائے۔

۳۲۰۵- حدثنا محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقفي نا خالد الحذاء عن ابي العالية عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۶۸- گھر سے نکلنے وقت پڑھنے کی دعائیں۔

باب ۱۶۶۸- مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

۳۲۰۶- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص گھر سے نکلنے وقت ”بسم اللہ..... الا باللہ“ تک پڑھ لے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو شر سے بچا لیا گیا تیرے لئے یہ کافی ہے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے (ترجمہ: اللہ کے نام سے میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔)

۳۲۰۶- حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي نا ابي نا ابن جريج عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعنى إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفييت ووفيت وتنحى عنه الشيطان

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۶۶۹- اسی کے متعلق۔

باب ۱۶۶۹- مِنْهُ

۳۲۰۷۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب گھر سے نکلنے تو یہ دعا پڑھتے ”بسم اللہ“..... آخر تک۔ (یعنی اللہ کے نام سے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا بھٹک جاؤں یا میں کسی پر یا کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں جہالت میں پڑ جاؤں یا کوئی مجھ پر جہالت کرے)

۳۲۰۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَكَيْعُ بْنُ سَفِيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزَلَ أَوْ نُضَلَّ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۷۰۔ بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا۔

باب ۱۶۷۰۔ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ

۳۲۰۸۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت ”لا الہ الا اللہ“ سے ”قدیر“ تک پڑھ لے اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزار ہزار برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور ہزار ہزار جات بلند کئے جاتے ہیں۔ (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لئے ہیں وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا۔ خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

۳۲۰۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا أَزْهَرُ بْنُ سَنَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِينِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ التَّخِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَهُ لَهُ، أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

یہ حدیث غریب ہے اسے آل زبیر کے خزانچی عمرو بن دینار نے سالم بن عبد اللہ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔ احمد بن عبدہ ضعیف، حماد بن زید اور معتمر بن سلیمان سے وہ دونوں عمرو بن دینار سے وہ سالم سے وہ عبد اللہ بن عمرؓ سے وہ اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جو بازار میں جائے اور یہ دعا پڑھے ”لا الہ الا اللہ“ سے ”قدیر“ تک تو اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزار ہزار برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔

باب ۱۶۷۱۔ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔

باب ۱۶۷۱۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا مَرَضَ

۳۲۰۹۔ حضرت ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ (وہاں) ”میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بہت بڑا ہوں“ اور جو شخص ”لا الہ الا اللہ وحدہ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”(وہاں) میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں“

۳۲۰۹۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانَ بْنُ وَكَيْعٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جِحَادَةُ نَا عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْزَابِيِّ مُسْلِمٌ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا

۸۰ ہزار ہزار کا عدد ان چیزوں کی کثرت کے لئے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے۔ (مترجم)

نیز جو شخص ”لا الہ الا اللہ له الملك وله الحمد“ کہتا ہے تو اللہ جواب میں کہتا ہے ”میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہت اور تمام تعریفیں میرے ہی لئے ہیں“ پھر اگر کوئی ”لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے یا نیکی کرنے کی طاقت صرف میری ہی طرف سے ہے۔“ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بیماری میں یہ کلمات پڑھے اور پھر مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی۔

اللَّهُ وَحْدَهُ، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ، الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَالِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ

یہ حدیث حسن ہے اسے شعبہ بھی ابواسحاق سے وہ ایک اعرابی مسلم سے اور وہ ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ غیر مرفوع ہے اور اس کے ہم معنی ہے۔ محمد بن بشار نے یہ حدیث محمد بن جعفر سے اور انہوں نے شعبہ سے نقل کی ہے۔

باب ۱۶۷۲۔ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو کیا پڑھے؟
۳۲۱۰۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی کو مصیبت و آزمائش میں گرفتار دیکھے ”الحمد لله“ سے ”تفضیلاً“ تک پڑھے گا۔ وہ جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ (ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے گرفتار کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت بخشی۔)

باب ۱۶۷۲۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلَىٰ
۳۲۱۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ نَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى صَاحِبًا بَلَاءً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا غَفَىٰ مِنَ الْبَلَاءِ كَأَنَّمَا كَانَ مَا عَاشَ

یہ حدیث غریب ہے اور اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عمرو بن دینار سے بھی روایت ہے۔ یہ آل زبیر کے خزانچی ہیں، محدثین کے نزدیک قوی نہیں اور سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ سے اکثر ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جن میں وہ منفرد ہیں یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سخت مصیبت یا بدنی تکلیف میں دیکھے تو دل میں اس سے پناہ مانگے اس کے سامنے نہیں۔ ابو جعفر سمنانی اور کئی حضرات مطرف بن عبد اللہ مدینی سے وہ عبد اللہ بن عمر عمری سے وہ ہبل بن ابی صالح سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو یہ دعا پڑھے (جو اوپر مذکور ہے) چنانچہ اسے وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۶۷۳۔ مجلس سے اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا۔

۳۲۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بہت لغو باتیں ہوں اور پھر اٹھنے سے پہلے ”سبحانک“ سے ”اتوب الیک“ تک پڑھے تو

باب ۱۶۷۳۔ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

۳۲۱۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ نَا الْحِجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَحْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ

اس نے جو باتیں اس مجلس میں کی ہوتی ہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔
(ترجمہ: تیری ذات پاک ہے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لئے
ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تجھ سے
مغفرت مانگتا اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔)

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ
فَكَثُرَ فِيهِ لَعَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَكَ مَا كَانَ فِي
مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

اس باب میں ابو ہریرہؓ اور عائشہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے ہم اسے سہیل کی روایت سے
صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۲۱۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر مجلس سے اٹھتے
وقت سومرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ گناجاتا تھا۔ ”رب
اغفر لی“ سے آخر تک (یعنی اے رب مجھے معاف فرمادے تو ہی
معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔)

۳۲۱۲۔ حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي نا
المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوفة
عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الْغَفُورُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۷۴۔ کرب کے وقت پڑھنے کی دعا۔
۳۲۱۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کرب کے
وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”لا الہ الا اللہ“ سے آخر تک (یعنی اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں وہ حلیم (بردبار) اور حکیم ہے اس کے علاوہ کوئی
معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں وہ آسمانوں اور بڑے عرش کا مالک ہے۔)

باب ۱۶۷۴۔ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ

۳۲۱۳۔ حدثنا محمد بن بشارنا معاذ بن هشام
قال ثنی ابی عن قتادة عن أبي العالیة عن ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْعُوا عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

محمد بن بشار بھی ابن عدی سے وہ قتادہ سے وہ ابو عالیہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے مرفوعاً اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس باب
میں علیؓ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی وجہ
سے سخت فکر میں مبتلا ہوتے تو سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ”سبحان
اللہ العظیم“ اور جب دعا کے لئے کوشش کرتے تو کہتے ”یا حی
یا قیوم“

۳۲۱۴۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن المغيرة
المخزومي المدني وغير واحد قالوا انا ابن ابی
فديك عن ابراهيم بن الفضل عن المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ

الْأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۶۷۵۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

۳۲۱۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبٍ عَنْ يَعْقُوْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْحَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

باب ۱۶۷۵۔ کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔

۳۲۱۵۔ حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہؓ، رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ فرمایا: جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور ”اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق“ (یعنی میں مخلوق کے فساد سے اللہ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں) پڑھ لے اسے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ مالک بن انس بھی یعقوب انج سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ ابن عجلان سے بھی یعقوب بن عبد اللہ بن انج کے حوالے سے منقول ہے۔ وہ اسے سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ خولہ سے مذکورہ بالا حدیث ابن عجلان کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۶۷۶۔ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

۳۲۱۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدِسِيُّ نَا ابْنِ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةَ إِصْبَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْآهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَأَقْلِبْنَا بِذِمَّةِ اللَّهِمَّ أَرْوِلْنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

باب ۱۶۷۶۔ سفر کے لئے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا۔

۳۲۱۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کے لئے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے (آسمان کی طرف) اشارہ کرتے۔ (شعبہ نے بھی انگلی دراز کر کے دکھائی) پھر فرماتے ”اللہم“ سے آخر تک۔ (یعنی اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور گھر والوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ اپنی خیر خواہی سے میرے ساتھ رہو اور اپنے ہی ذمے میں لوٹا۔ اے اللہ زمین کی (مسافت کو) ہمارے لئے چھوٹا کر دے اور سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت اور غمگین اور نامراد لوٹنے سے پناہ مانگتا ہوں)

سوید بن نصر بھی عبد اللہ بن مبارک سے اور وہ شعبہ سے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن عدی کی شعبہ کے حوالے سے منقول حدیث سے پہچانتے ہیں۔

۳۲۱۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحَسَ

۳۲۱۷۔ حضرت عبد اللہ بن سرجسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سفر کے لئے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللہم سے آخر تک۔ (یعنی اے اللہ تو ہی سفر

کا ساتھی اور گھر والوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ! سفر میں ہمارے ساتھ رہ اور ہمارے گھر والوں کی نگہبانی کر۔ یا اللہ! میں تجھ سے سفر کی مشقت اور رنجیدہ یا نامراد لوٹنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیز ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے یا اطاعت سے معصیت کی طرف لوٹنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر مظلوم کی بددعا اور اہل و مال میں کوئی برائی دیکھنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاحْلُقْنَا فِي أَهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حور بعد الکور کی جگہ بعد الکون بھی منقول ہے اس سے مراد خیر سے شر کی طرف لوٹنا ہے۔

باب ۱۶۷۷۔ سفر سے لوٹنے پر پڑھنے کی دعائیں۔

باب ۱۶۷۷۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ

۳۲۱۸۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر سے لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے۔ آئینوں سے آخر تک (یعنی ہم سفر سے سلامتی کے ساتھ لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔)

۳۲۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ إِنَّا نَا شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيُّونَ تَأْيُيُونَ عَابِدُونَ لِربِّنَا حَامِدُونَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوری یہی حدیث ابو اسحاق سے اور وہ براء سے نقل کرتے ہوئے ربیع بن براء کا ذکر نہیں کرتے۔ شعبہ کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمرؓ اور جابر بن عبد اللہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۶۷۸۔ اسی سے متعلق۔

باب ۱۶۷۸۔ مِنْهُ

۳۲۱۹۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی سفر سے لوٹتے تو مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑنے پر اپنی اونٹنی کو دوڑاتے۔ اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اسے بھی مدینہ کی محبت کی وجہ سے تیز چلاتے۔

۳۲۱۹۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرَانَ اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنظَرَ إِلَى حُدْرَانَ الْمَدِينَةِ أَوْ ضَعَّ رَاجِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حَيْهَاتَا

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۷۹۔ کسی کو رخصت کرتے وقت کے دعائیہ کلمات۔

باب ۱۶۷۹۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا

۳۲۲۰۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ خود آخضرت ﷺ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ پھر فرماتے ”استودع“ سے آخر تک یعنی میں اللہ تعالیٰ کو تیرے دین و ایمان اور آخری اعمال کا امین بناتا ہوں۔

۳۲۲۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا أَبُو قَتِيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتِيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَحَدَ يَدَيْهِ فَلَا يَدَّ عَهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدُّعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوْدِعُ اللَّهَ

دِينِكَ وَأَمَّا نَتِّكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس کے علاوہ دوسری سند سے بھی حضرت عمرؓ سے منقول ہے۔

۳۲۲۱۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ جب کسی کو رخصت کرتے تو اسے کہتے کہ قریب آؤ تاکہ میں تمہیں اسی طرح رخصت کروں جس طرح رسول اللہ ﷺ کسی کو رخصت کیا کرتے تھے پھر ”استودع“ سے آخر تک کہتے۔

۳۲۲۱۔ حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري نا سعيد بن حثيم عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أن أدن مني أو دعك كما كان رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم يؤدعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك

یہ حدیث سالم بن عبد اللہ کی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۸۰۔ اسی سے متعلق۔

۳۲۲۲۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسوا اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں سفر کے لئے روانہ ہو رہا ہوں مجھے توشہ دیجئے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا توشہ دے۔ عرض کیا اور زیادہ دیجئے۔ فرمایا: اور تیرے گناہ معاف کرے۔ عرض کیا اور زیادہ دیجئے۔ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ فرمایا: اور تیرے لئے تو جہاں کہیں بھی ہو خیر کو آسان کر دے۔

باب ۱۶۸۰۔ منہ

۳۲۲۲۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد نا سيارنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرًا فزوّدني قال زدك الله التقوى قال زدني قال وعفّر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسرّ لك الخير حيث ما كنت

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۶۸۱۔ اسی سے متعلق۔

۳۲۲۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر بلندی پر اللہ اکبر کہنا اور جب وہ چلا تو دعا کی کہ یا اللہ اس کے لئے زمین کی مسافت کو کم کر دے اور اس پر سفر آسان کر۔

باب ۱۶۸۱۔ منہ

۳۲۲۳۔ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي نا زيد بن حباب اخبرني اسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما أن ولى الرجل قال اللهم أطوله البعد وهون عليه السفر

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۶۸۲۔ مسافر کی دعا کی قبولیت۔

۳۲۲۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں مظلوم، مسافر اور باپ کی بیٹے کے لئے۔

باب ۱۶۸۲۔ ما ذكر في دعوة المسافر

۳۲۲۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ دَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

علی نے یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم سے انہوں نے ہشام دستوائی سے اور انہوں نے یحییٰ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں ”مستجابات لا شک فیہن“ (یعنی تین دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں) یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابو جعفر وہی ہیں جن سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کی ہے۔ انہیں ابو جعفر مؤذن کہتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔

باب ۱۶۸۳۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً

باب ۱۶۸۳۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا۔

۳۲۲۵۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس ان کے

سوار ہونے کے لئے سواری لائی گئی۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب

میں رکھا تو کہا ”بسم اللہ“ پھر جب اس پر بیٹھ گئے تو ”سبحان الذی“

سے ”لمنقلبون“ تک پڑھا۔ (یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے

ہمارے لئے مسخر کر دیا۔ ہم تو اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے

تھے اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) پھر تین تین مرتبہ الحمد

للہ اور اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھی ”سبحانک“..... الا انت“

تک (یعنی تیری ذات پاک ہے میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا لہذا تو مجھے

معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخش سکتا) پھر ہنسنے لگے تو

میں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے

کیا۔ پھر آپ ﷺ ہنسے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا: تمہارے رب کو

اپنے بندے کا یہ کہنا بہت پسند ہے کہ اے رب مجھے معاف کر دے

کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

۳۲۲۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُو الْاِحْوَصِ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْتِي

بِدَابَّةٍ لِيُرَكِّبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ الرِّكَابَ قَالَ بِسْمِ

اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا

إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ

ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْ

شَيْءٍ ضَحِجْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِجْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُعَجِّبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرَكَ

اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۲۶۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب کسی سفر کے

لئے جاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر

”سبحان الذی“ سے ”لمنقلبون“ تک دعا پڑھتے۔ پھر یہ دعا

کرتے ”اللہم“ سے ”فی اہل“ تک (اے اللہ مجھے اس سفر میں

نیکی، تقویٰ اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ

ہمارے لئے چلنا آسان کر اور زمین کی مسافت کو چھوٹا کر دے اے

اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور اہل و عیال کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ ہمارے

۳۲۲۶۔ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

الْمُبَارَكِ أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ عَلِيِّ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا

وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

فِي سَفَرِي هَذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ

ساتھ رہ اور اہل و عیال کی نگہبانی فرما۔) پھر جب گھر واپس لوٹتے تو فرماتے ”آئبون..... الخ“ (یعنی انشاء اللہ ہم لوٹنے والے، تو یہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔)

مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوْنًا عَلَيْنَا الْمَسِيرِ وَأَطْوَعْنَا بَعْدَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ آئِبُونَ أَنْشَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۶۸۳۔ آندھی کے وقت پڑھنے کی دعا۔

۳۲۲۷۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب آندھی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللھم سے آخر تک (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے اس آندھی سے خیر اور اس میں موجود خیر کا سوال کرتا ہوں۔ نیز میں اس کے ساتھ بھیجی گئی خیر کا بھی طلبگار ہوں۔ پھر میں اس کے شر، اس میں موجود شر اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔)

باب ۱۶۸۴۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

۱۶۲۷۔ حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو ابصرى نا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال اللهم انى أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں ابی بن کعبؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۶۸۵۔ بادل کی گرج سننے پر پڑھنے کی دعا۔

۳۲۲۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بادل کی گرج اور گڑگڑاہٹ سننے تو یہ دعا پڑھتے۔ ”اللھم“ سے آخر تک (یعنی اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے نکل نہ کر، ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس (عذاب وغیرہ) سے پہلے معاف کر دے۔)

باب ۱۶۸۵۔ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

۳۲۲۸۔ حدثنا قتيبة نا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن ارطاة عن ابى مطر عن سالم بن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۶۸۶۔ چاند دیکھنے کی دعا۔

۳۲۲۹۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ”اللھم“ سے آخر تک (یعنی اے اللہ! ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔)

باب ۱۶۸۷۔ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

۳۲۲۹۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا سليمان بن سفیان المدینى قال ثنى بلال بن يحيى بن طلحة بن عبید الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربى وربك الله

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۶۸۸۔ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْغَضَبِ

۳۲۳۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا سَفِيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فَبِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

باب ۱۶۸۸۔ غصہ کے وقت پڑھنے کی دعا۔
۳۲۳۰۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ دو شخص آحضرت ﷺ کی موجودگی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کہہ لے تو اس کا غصہ زائل ہو جائے گا۔ ”اعوذ باللہ“..... الخ۔

اس باب میں سلیمان بن مرد سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار بھی عبدالرحمن سے اور وہ سفیان سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے اس لئے کہ معاذ سے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا سماع ثابت نہیں کیونکہ معاذ کا انتقال حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوا اور اس وقت عبدالرحمن کی عمر چھ سال تھی۔ شعبہ بھی حکم سے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے اچھی طرح روایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمن نے عمر بن خطابؓ سے روایت بھی کی ہے اور انہیں دیکھا بھی ہے۔ ان کی کثیت۔ ابویسیٰ اور والد کا نام یسا ہے۔ عبدالرحمن سے منقول ہے کہ انہوں نے انصار میں سے ایک سو میں صحابہؓ کی زیارت کی ہے۔

باب ۱۶۸۸۔ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

۳۲۳۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا بَكْرُ بْنُ مِصْرٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَا الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ الرُّؤْيَا يُجِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَارَأَى وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

باب ۱۶۸۸۔ برا خواب دیکھنے پر پڑھنے کی دعا۔
۳۲۳۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اسے چاہئے کہ اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے اور خواب لوگوں کو سنائے اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اسے چاہئے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے تاکہ اسے کوئی ضرر نہ پہنچ سکے۔

اس باب میں ابوقادہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حدیث صحیح غریب ہے۔ ابن الہاد کا نام یزید بن عبد اللہ بن اسامہ بن ہامد بنی ہے یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں ان سے امام مالک اور بہت سے حضرات روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۶۸۹۔ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبُكَوْرَةَ مِنَ النَّمْرِ

۳۲۳۲۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكٍ وَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ سَهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ النَّمْرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ

باب ۱۶۸۹۔ پہلا پھل دیکھنے پر پڑھنے کی دعا۔
۳۲۳۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو رسول خدا ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے اور آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے۔ ”اللہم“ سے ”ومثلہ معہ“ تک (یعنی اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں، ہمارے شہر، ہمارے صاع اور ہمارے مد

میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ابراہیم تیرے دوست، بندے اور نبی تھے انہوں نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں میں تجھ سے مدینہ کے لئے وہی کچھ مانگتا ہوں جو انہوں نے مکہ کے لئے مانگا تھا۔ بلکہ اس سے دوگنا (پھر آپ ﷺ جس چھوٹے بچے کو دیکھتے اسے بلاتے اور وہ پھل عنایت کرتے۔

لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمِدْنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيَّكَ وَآبِي عَبْدُكَ وَنَبِيَّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَآنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوا صَغُرًا وَيُدِيرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۹۰۔ کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا۔

باب ۱۶۹۰۔ مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا

۳۲۳۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولیدؓ اور میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہؓ کے ہاں داخل ہوئے وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں۔ آپ ﷺ نے دودھ پیا۔ میں آپ ﷺ کے دائیں اور خالد بائیں جانب تھے۔ چنانچہ مجھے پینے کے لئے دیا اور فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے لیکن اگر تم چاہو تو خالد کو اپنے اوپر مقدم کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا: میں آپ ﷺ کے جوٹھے پر کسی کو مقدم نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ کھلائیں اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے۔ ”اللہم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا امنه“ (یعنی اے اللہ! ہمارے لئے اس میں برکت پیدا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا) اور اگر کسی کو دودھ پلائیں تو یہ دعا پڑھے ”اللہم بارک لنا فيه وزدنا منه“ (یعنی اے اللہ! ہمارے لئے اس میں برکت پیدا فرما اور یہ (دودھ) مزید عطا فرما۔) پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ کھانے اور پینے دونوں کے لئے کافی ہو۔

۳۲۳۳۔ حدثنا احمد بن منيع بن اسماعيل بن ابراهيم نا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرملة عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بناء من لبن فشرّب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فان شئت اثرت بها خالدا فقلت ما كنت اوتّر على سورك احدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجرى مكان الطعام والشراب غير اللبن

یہ حدیث حسن ہے بعض اسے علی بن زید سے عمر بن حرمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ بعض انہیں عمرو بن حرمہ کہتے ہیں لیکن

یہ صحیح نہیں۔

باب ۱۶۹۱۔ کھانے سے فراغت پر پڑھنے کی دعا۔

باب ۱۶۹۱۔ مَا يَقُولُ إِذَا قَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

۳۲۳۴۔ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”الحمد لله“ سے آخر تک (یعنی تمام تعریفیں، بہت زیادہ تعریف اور پاک تعریف اسی کے لئے ہے۔) (اے اللہ) اس میں برکت پیدا فرما۔ ہم اس سے بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہیں۔)

۳۲۳۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۳۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اگر کوئی چیز کھاتے پیتے تو یہ دعا پڑھتے ”الحمد لله“..... آخر تک یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔

۳۲۳۵۔ حدثنا ابوسعید الاشج نا حفص بن غياث وابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاة عن رباح بن عبدة قال حفص عن ابن اخی ابی سعید وقال ابو خالد عن مولی لابی سعید عن ابی سعید قال كان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اكل وشرب قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

۳۲۳۶۔ حضرت معاذ بن انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا ”الحمد لله“ سے ”ولا قوة“ تک تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے (ترجمہ: تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے میری قدرت و طاقت نہ ہونے کے باوجود یہ عنایت فرمایا۔)

۳۲۳۶۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا عبدالله بن يزيد المقرئ ثنا سعید بن ابی ایوب قال ثنی ابو مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمنى هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غير له ما تقدم من ذنبه

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو مرحوم کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے۔

باب ۱۶۹۲۔ گدھے کی آواز سننے تو یہ دعا پڑھے۔

باب ۱۶۹۲۔ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهْيَ الْحِمَارِ

۳۲۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو ”اعوذ بالله من الشيطان الرجيم“ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔

۳۲۳۷۔ حدثنا قتيبة بن سعید نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ابی هريرة أن النبی صلی الله علیه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسئلو الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۹۳۔ تسبیح بکبیر، تہلیل اور الحمد لله کہنے کی فضیلت۔

باب ۱۶۹۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ

۳۲۳۸۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو ”لا اله الا الله“ سے ”الا بالله“ تک کہے اور اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف نہ کر دیئے جائیں خواہ وہ

۳۲۳۸۔ حدثنا عبدالله بن ابی زياد نا عبدالله بن بكر السهمي عن حاتم بن ابی صغيرة عن ابی بلج عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن عمرو قال قال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيَّ الْأَرْضُ أَحَدٌ
يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے شعبہ یہی حدیث ابولج سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت غیر مرفوع ہے۔
ابولج۔ یحییٰ بن ابی سلیم ہیں۔ بعض انہیں ابن سلیم کہتے ہیں۔ محمد بن بشار بھی بن عدی سے وہ حاتم سے وہ عمرو بن میمون سے وہ
عبداللہ بن عمرو سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر محمد بن بشار محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابولج سے اسی کی
مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی غیر مرفوع ہے۔

۳۲۳۹۔ حدثنا محمد بن بشار نا مرحوم بن
عبدالعزیز العطار نا ابونعامة السعدی عن ابی عثمان
النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ قَلْنَا أَشْرَفْنَا
عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ
بِأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٍ هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُسِ رِحَالِكُمْ ثُمَّ
قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَعْلِمُكَ كَنْزًا مِّنْ كُنُوزِ
الْحَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوعثمان نہدی کا نام عبدالرحمن بن ملک اور ابونعامة کا عمرو بن عیسیٰ ہے۔ تمہارے اور تمہاری ساریوں کے
درمیان ہونے سے مراد اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہے۔

باب ۱۶۹۳۔

باب ۱۶۹۴۔

۳۲۴۰۔ حدثنا عبد الله بن ابی زیاد نا سیارنا
عبدالواحد بن زیاد عن عبدالرحمن بن اسحاق
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ
إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرَأُ أُمَّتِكَ مِنِّي
السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْحَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عُذْبَةُ الْمَاءِ
وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

۳۲۴۰۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: شب
معراج میں میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی
امت کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت
اچھی ہے۔ اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ خالی ہے۔ اور اس کے درخت
سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔

اس باب میں ابویوب سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے ابن مسعود کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۲۴۱۔ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں کمانے سے بھی عاجز ہے؟ کسی شخص نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی سو مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے بدلے ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے ہزار گناہ (صغیرہ) مٹا دیئے جاتے ہیں۔

۳۲۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا مَوْسَى الْجَهَنِّي قَالَ ثَنَى مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُلَسَائِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۹۵۔

باب ۱۶۹۵۔

۳۲۴۲۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

۳۲۴۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا بَارُوحُ بْنُ عِبَادَةَ عَنْ حجاج الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو زبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ جابرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن رافع نے اسے مؤمل کے حوالے سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۲۴۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سو مرتبہ "سبحان اللہ و بحمدہ" کہا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

۳۲۴۳۔ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ نَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۲۴۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے لئے ہلکے، میزان پر بھاری، اور رحمن کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ۔

۳۲۴۴۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۲۴۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص "لا الہ الا اللہ" سے "قدیر" روزانہ سو مرتبہ پڑھے گا۔ اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے لئے سونئیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے سو گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور یہ اس کے لئے اس روز شام تک شیطان سے پناہ کا کام دے گا اور قیامت کے دن اس سے اچھے اعمال صرف وہی شخص پیش کر سکے گا جو اس کو اس سے زیادہ پڑھتا رہا ہوگا اسی سند سے رسول اکرم ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ جس نے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

۳۲۴۵۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا معن نا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان له جزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياهُ وإن كانت أكثر من زبد البحر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۴۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ، رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص صبح و شام "سبحان اللہ و بحمدہ" سو سو مرتبہ پڑھے گا۔ قیامت کے دن اس سے افضل عمل وہی شخص لا سکے گا جس سے زیادہ مرتبہ یا اتنی ہی مرتبہ پڑھے گا۔

۳۲۴۶۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب نا عبدالعزيز بن المختار عن سهيل بن ابى صالح عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۲۴۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا: سو مرتبہ "سبحان اللہ و بحمدہ" پڑھا کرو اس لئے کہ جو شخص اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر جو دس مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے سو اور جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نیز جو اس سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے مزید عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے

۳۲۴۷۔ حدثنا اسمعيل بن موسى ناداود بن الزيرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه قولوا سبحان الله وبحمده مائة مرة من قال مرة كتبت له عشرًا ومن قالها عشرًا كتبت له مائة ومن قالها مائة كتبت له ألفًا ومن زاد زاده الله

مغفرت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔

وَمَنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرْلَهُ،

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۲۳۸۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا گویا کہ اس نے سو حج کئے اور جس نے صبح و شام سو مرتبہ الحمد للہ کہا گویا کہ اس نے سو مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا فرمایا: گویا کہ اس نے سو جہاد کئے۔ اور جس نے صبح و شام سو مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ کہا گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل سے سو غلام آزاد کئے اور جس نے صبح و شام سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ قیامت کے دن اس سے بہتر اعمال وہی پیش کر سکے گا جس نے اس سے زیادہ مرتبہ یا اس کے برابر پڑھا ہوگا۔

۳۲۴۸۔ حدثنا محمد بن وزير الواسطی نا ابو سفیان الحمیری عن الضحاک بن حمزة عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله او قال عزرا مائة غزوة ومن هلك الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن اغتق مائة رقبة من ولد اسنعليل ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يات في ذلك اليوم احد باكثر مما اتى الا من قال مثل مقال اوزاد على مقال

یہ حدیث حسن غریب ہے اسے حسین بن اسود نے یحییٰ بن آدم سے انہوں نے حسن بن صالح سے انہوں نے ابو بشر سے اور انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا رمضان کے علاوہ ہزار مرتبہ کہنے سے افضل ہے۔

باب ۱۶۹۶۔

باب ۱۶۹۶۔

۳۲۳۹۔ حضرت تمیم داریؒ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص دس مرتبہ ”اشہد“ سے ”کفووا احد“ تک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چار کروڑ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔

۳۲۴۹۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن الخليل بن مرة عن ازره بن عبد الله عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واجدا احدا صمدا لم يتجدد صاجبة ولا ولدا ولم يكن له، كفوا احد عشر مرات كتب الله له، اربعين الف الف حسنة

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ غلیل بن مرہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔

۳۲۵۰۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھ کر (جیسے نماز میں تشهد میں بیٹھتا ہے) کسی سے بات کئے بغیر دس مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ سے ”قدیر“ تک پڑھے گا

۳۲۵۰۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا علي بن معبدنا عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن ابى انيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن

اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ نیز اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اسے اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہلاک نہیں کر سکے گا۔

أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي ذُبُرِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِ رَجُلِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَأِلهِ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُجِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كَلَّهُ، فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحَرَسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَنْبَغِ لِدَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللَّهِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۶۹۷۔ متفرق دعاؤں کے متعلق۔

باب ۱۶۹۷۔ مَا جَاءَ فِي جَامِعِ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۲۵۱۔ حضرت بریدہ سلمیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا "اللهم كفوًا احدًا" تک (یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں نے گواہی دی ہے کہ تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو تنہا اور بے نیاز ہے۔ جو نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے) تو فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اللہ سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے اور اگر کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال کے بعد یہ حدیث زہیر بن معاویہ کے سامنے بیان کی تو فرمایا کہ مجھے یہ حدیث ابواسحاق نے مالک بن مغول کے حوالے سے سنائی تھی۔ پھر میں نے سفیان کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بھی مالک سے روایت کی۔

۳۲۵۱۔ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثُّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ نَازِدُ بْنُ حِيَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِرُزْهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنِينَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ قَالَ زَيْدٌ ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ فَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ شریک اسے ابواسحاق سے وہ ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ ابواسحاق نے یہ

حدیث مالک بن مغول سے روایت کی ہے۔

۳۲۵۲۔ حضرت اسماء بنت یزیدؓ بتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا اسم اعظم ان دواؤں میں ہے "واللهم الله واحد لا اله الا هو"

۳۲۵۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ نَاعِيسِيُّ بْنُ يُونُسَ عَنْ عبيد اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَاحِ عَنْ شَهْرِ بْنِ

حَوْشِبَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَإِحْدَ لَأَلَةٍ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةَ آلِ عِمْرَانَ أَلَمْ اللَّهُ لَأَلَةٍ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

الرحمن الرحيم“ اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت ”الم الله لاله الا هو الحي القيوم“

۳۲۵۳۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھی پھر اللہ سے مغفرت مانگنے اور اس کی رحمت کا سوال کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے نمازی تو نے جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چک تو اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اس سے دعا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی پھر اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے نمازی دعا کرو قبول کی جائے گی۔

۳۲۵۳۔ حدثنا قتيبة بن سعد عن ابي هانئ الخولاني عن ابي علي الجنبی عن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلی فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلی اذا صليت ففعدت فاحمد الله بما هو اهله وصلی علي ثم ادعاه قال ثم صل لي رجل اخر بعد ذلك فحمد الله وصلی علي النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايها المصلی ادع تجب

یہ حدیث حسن ہے اسے حیوۃ بن شریح، ابوبہانی سے روایت کرتے ہیں۔ ابوبہانی کا نام حمید بن ہانی اور ابوعلی جنبی کا عمر و بن مالک ہے۔

۳۲۵۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے اس وقت دعا کرو کہ قولیت کا یقین ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور ابولعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔

۳۲۵۴۔ حدثنا عبد الله بن ناوية الجمحي نا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۲۵۵۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے درود شریف نہیں پڑھا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے جلدی کی ہے پھر اسے بلایا اور اسے یا کسی اور کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔

۳۲۵۵۔ حدثنا محمود بن غيلان نا المقرئ نا حيوة قال ثنى ابو هانئ ان عمرو بن مالك الجنبی اخبره انه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوني صلاته فلم يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء

عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
لِيَدْعُ بَعْدَ مَا شَاءَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۶۹۸۔

۳۲۵۶۔ حدثنا ابو كريب نا معاوية بن هشام عن
حمزة الزيات عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول اللهم عافيني في جسدي وعافيني في
بصري واجعله الوارث مني لا اله الا الله الحكيم
الكريم سبحانه الله رب العرش العظيم والحمد لله
رب العالمين

باب ۱۶۹۸۔

۳۲۵۶۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا
کیا کرتے تھے ”اللہم..... آخر تک (یعنی اے اللہ! میرے جسم کو
تندرستی اور میری بصارت کو عافیت عطا فرما اور اسے میرا وارث بنا۔ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں جو حکمت اور کرم والا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے
جو عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے
اللہ ہی کے لئے ہے۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حبيب بن ثابت نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

باب ۱۶۹۹۔

۳۲۵۷۔ حدثنا ابو كريب نا ابواسامة عن الاعمش
عن ابي صالح عن ابي هريرة قال جاءت فاطمة
الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال
لها قولي اللهم رب السموات السبع ورب العرش
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجيل
والقران فاليق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل
شيء وانت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك
شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر
فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء
اقض عني الدين واغنني من الفقر۔

باب ۱۶۹۹۔

۳۲۵۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ ﷺ
کے پاس حاضر ہوئیں اور خادم مانگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہم
رب..... آخر تک پڑھا کرو۔ (یعنی اے اللہ! اے سات آسمانوں اور
عرش عظیم کے مالک! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب۔ اے توریث،
انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، دانے کو اور گٹھلی کو اگانے والے
ہیں ہر اس چیز کے فساد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جس کی
پیشانی (باگ ڈور) تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو ہی اول ہے تجھ
سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے تجھ
سے اوپر کچھ نہیں اور تو ہی باطن ہے تجھ سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں میرا
قرض ادا فرما اور مجھے فقر سے مستغنی کر دے۔)

یہ حدیث حسن غریب ہے اعمش کے بعض ساتھی بھی اسی اعمش سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض حضرات اعمش سے
ابوصالح کے حوالے سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ یعنی اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۱۷۰۰۔

۳۳۵۸۔ حدثنا ابو كريب نا يحيى بن ادم عن ابي
بكر بن عياش عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن

باب ۱۷۰۰۔

۳۳۵۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا کیا
کرتے تھے ”اللہم انی اعوذ بک..... آخر تک (یعنی اے اللہ

میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوف خدا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہے اور ایسا نفس جو سیر نہ ہوتا ہے اور ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

عبد اللہ بن الحارث عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ الْأَرْبَعِ

اس باب میں جاہل، ابو ہریرہ اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۰۱۔

باب ۱۷۰۱۔

۳۲۵۹۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے والد سے پوچھا کہ اے حصین تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ عرض کیا سات کی، چھ زمین پر اور ایک آسمان پر۔ پوچھا: پھر امید و خوف کس سے رکھتے ہو؟ عرض کیا: اس سے جو آسمان میں ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے حصین اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حصین مسلمان ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے وہ دو کلمات سکھائیے جن کا آپ ﷺ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللهم..... آخرتک۔ (یعنی اے اللہ! مجھے ہدایت دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔)

۳۲۵۹۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية عن شعيب بن شيبه عن الحسن البصري عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ابي يا حصين كم تعبد اليوم الها قال ابي سبعة ستة في الارض وواحد في السماء قال فايهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الادي في السماء قال يا حصين اما لو انك اسلمت علمت كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي

یہ حدیث حسن غریب ہے اور عمران بن حصین سے اس سند سے بھی منقول ہے۔

باب ۱۷۰۳۔

باب ۱۷۰۳۔

۳۲۶۰۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اکثر رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ اللهم..... آخرتک (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے فکر، غم، جھکن، سستی، بخل، قرض کی زیادتی اور مردوں کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۲۶۰۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر نا ابو مصعب عن عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك قال كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من الهمة والحزن والعجز والكسل والبخل وصلح الدين وقهر الرجال

یہ حدیث عمرو بن عمرو کی روایت سے اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۲۶۱۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے "اللهم..... آخرتک (یعنی اے اللہ! میں سستی، بڑھاپے، بزدلی،

۳۲۶۱۔ حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى

بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ وَالْهُرْمِ وَالْحُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ
الْمَسِيحِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۰۳۔ انگلیوں پر تسبیح گننے کے متعلق۔

۳۲۶۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
اپنی انگلیوں پر تسبیح گننے ہوئے دیکھا۔

باب ۱۷۰۳۔ مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ
۳۲۶۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِيِّ نَا عَثَمَ بْنَ
عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ

یہ حدیث حسن اس سند سے حسن غریب ہے یعنی اعمش کی عطاء سے روایت سے۔ شعبہ اور ثوری اسے عطاء بن سائب سے طول
کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس باب میں سیرہ بنت یاسر سے بھی روایت ہے۔

۳۲۶۳۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک صحابی کی
عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ وہ پرندے کے بچے کی طرح لاغر
ہو گئے تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ سے عافیت نہیں
مانگتے تھے؟ عرض کیا: میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے تم عذاب
آخرت میں دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
سبحان اللہ۔ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم میں اتنی استطاعت ہی نہیں تم
یہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا
آخِرْتِكُمْ (یعنی اے اللہ! ہمارے ساتھ دنیا و آخرت میں بھلائی کا
معاملہ فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔)

۳۲۶۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا خَالِدُ بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا قَدْ جُهِدَ حَتَّى صَارَ
مِثْلَ فَرْخٍ فَقَالَ لَهُ، أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَاقِبَةَ قَالَ
كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مَعَايِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ
فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُطِيبُهُ، وَلَا تَسْتَطِيعُهُ،
أَفَلَا كُنْتَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے اور کئی سندوں سے حضرت انسؓ ہی سے منقول ہے وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۰۴۔

باب ۱۷۰۴۔

۳۲۶۴۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
حضرت داؤدؑ یہ دعا کیا کرتے تھے "اللَّهُمَّ....." "الماء البارد"
تک۔ (یعنی یا اللہ! میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں
جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہر وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔
اے اللہ! میرے لئے اپنی محبت کو میری جان و مال، اہل و عیال اور
ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز کر دے۔) راوی کہتے ہیں کہ جب

۳۲۶۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ
الدمشقي قال أَبُو ذَرِّيسٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ
دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ
مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

رسول اللہ ﷺ حضرت داؤد کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ وہ بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔

حُبِّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ قَالَ وَكَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۰۵۔

۳۲۶۵۔ حضرت عبداللہ بن یزید خطمی انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے ”اللہم.....“ آخر تک (یعنی اے اللہ! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت بھی عطا فرما جس کی محبت تیری نزدیک فائدہ مند ہو۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے میری پسند کی چیز عطا کی ہے اسے اپنی پسند کی چیز کے لئے میری قوت بنا دے۔ اے اللہ تو نے میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو مجھے عطا نہیں کیا اسے اپنی پسندیدہ چیز کے لئے میری فراغت کا سبب بنا دے۔

۳۲۶۵۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا ابْنَ أَبِي عَدَى عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيَمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا رَزَوْتُ عَيْنِي مِمَّا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيَمَا تُحِبُّ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو جعفر کا نام عمیر بن یزید بن نتماشہ ہے۔

باب ۱۷۰۶۔

۳۲۶۶۔ حضرت شکل بن حمیدؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اسے پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگا کروں۔ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ”اللہم..... منی“ تک پڑھا۔ (یعنی اے اللہ میں اپنے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں) منی سے مراد شرم گاہ ہے۔

۳۲۶۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيْبَرِيُّ قَالَ ثَنِي سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ بَلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّدًا أَعُوذُ بِهِ قَالَ فَاحْذِ بِكَفِّي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِي يَعْنِي فَرْجَهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں یعنی سعد بن اوس، بلال بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۷۰۷۔

۳۲۶۷۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انہیں یہ دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت یاد کراتے ہوں۔ ”اللہم“ سے آخر تک (یعنی یا اللہ میں دوزخ، قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۲۶۷۔ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّيْبَرِ الْمَكِّيِّ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۲۶۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ ”اللہم“ سے آخر تک یعنی اے اللہ! میں تجھ سے دوزخ کے فتنے، دوزخ کے عذاب، قبر کے فتنے، میری کے فتنے، فتنے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری فرما جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کر دی۔ اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، گناہ اور جرمانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

۳۲۶۸۔ حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وانق قلبى من الخطايا كما انقبت الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهزم والمائم والمغرم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۲۶۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو وفات کے وقت یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ ”اللہم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ علیؑ سے ملا۔)

۳۲۶۹۔ حدثنا هارون نا عبدة عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۰۸۔

باب ۱۷۰۸۔

۳۲۷۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ ﷺ کے ساتھ سورہی تھی کہ میں نے آپ ﷺ کو نہ پا کر ہاتھ سے ٹولا تو میرا ہاتھ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک پر پڑا آپ ﷺ سجدے میں تھے۔ اور یہ دعا کر رہے تھے۔ ”عوذ“ آخر تک (یعنی تیرے غصے سے تیری رضا کی

۳۲۷۰۔ حدثنا الانصاري نا معن نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عائشة قالت كنت نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته

① رفیقِ علیؑ انبیاء کی ایک جماعت کو کہتے ہیں جو علیؑ میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کے رفیق ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

فَوَقَعَ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ أَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ
لَأُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

اور تیرے عذاب سے تیر غنوکے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری اس طرح
تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔ قمیمہ بھی اسے یحییٰ بن سعید سے اسی سند سے اسی کی مانند
نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں ”اعوذ بک منک لا احصی“..... (یعنی میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری اس
طرح تعریف نہیں کر سکتا۔)

باب ۱۷۰۹-

باب ۱۷۹۰-

۳۲۷۱- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَامَالِكُ عَنْ أَبِي
الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِعِزِّمِ
الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ

۳۲۷۱- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں
سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری
مغفرت فرما۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ بلکہ اسے چاہئے کہ
سوال کو کسی چیز کے ساتھ متعلق نہ کرے کیونکہ اسے روکنے یا منع کرنے
والا کوئی نہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۱۰-

باب ۱۷۱۰-

۳۲۷۲- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَامَالِكُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى
يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ
مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

۳۲۷۲- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو دنیا کے آسمان پر
آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ
میں اسے قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں
اسے معاف کروں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عبد اللہ الاغر کا نام سلمان ہے اس باب میں علیؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، جبیر بن مطعمؓ، رفاعہ جعفیؓ، ابو درداءؓ اور
عثمان بن ابی العاصؓ سے بھی روایت ہے۔

۲۲۷۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمُرُوزِيُّ
نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ حَوْفُ اللَّيْلِ
الْأَخِيرِ وَذُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

۲۲۷۳- حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا
کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا: رات کے آخری حصے میں
اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی۔

یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ذرؓ اور ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں مانگی جانے والی دعا افضل
ہے اور اس کی قبولیت کی امید ہے اور اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۱۱-

۳۲۷۴- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا حيوة بن شريح الحمصي عن بقيه بن وليد عن مسلم بن زياد قال سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبداً ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱۱-

۳۲۷۳- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح یہ دعا پڑھے گا اس کے اس دن کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اگر شام کو پڑھے گا تو اس رات اس سے سرزد ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔ ”اللہم..... رسولک“ تک (یعنی اے اللہ! ہم نے صبح کی ہم تجھے، تیرے عرش کے اٹھانے والوں، تیرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ تو اللہ ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تمہا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ) تیرے بندے اور رسول ہیں۔

باب ۱۷۱۲-

۲۱۷۵- حدثنا علی بن حجرنا عبد الحمید بن عمر الہلالی عن سعید بن ایاس الجری عن ابی السلیل عن ابی ہریرۃ ان رجلاً قال یارسول اللہ سمعت دعاءک اللیلۃ فکان الذی وصل الی منہ انک تقول اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی قال صلی اللہ علیہ وسلم فهل تراهن ترکن شیفاً

ابو السلیل کا نام ضریب بن نفیر ہے۔ کوئی نفیر بھی کہتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱۳-

باب ۱۷۱۳-

۳۲۷۶- حدثنا علی بن حجر انا ابن المبارک یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زحر عن خالد بن ابی عمران ان ابن عمر قال قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء الکلمات لأصحابہ اللہم اقسیم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک و من طاعتک ما تبلیغنا بہ جنتک و من البقیین ماتھوں بہ

۳۲۷۶- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی مجلس سے یہ دعائے بغیر اٹھے ہوں ”اللہم اقسیم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرمانبرداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچادے۔ نیز اتنا یقین تقسیم کر دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ہماری ساعت، بصر اور قوت سے مستفید کر اور اسے

ہمارا وارث کر دے (اے اللہ) ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، ❶ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما، ❷ نبی ہی کو ہمارا اہل مقصد نہ بنا اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔

عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْبَبْتِنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ نَارَنَا عَلَيَّ مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَمْلِكْ عَلَيْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

یہ حدیث حسن غریب ہے بعض حضرات اسے خالد بن ابی عمران سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمیر سے نقل کرتے ہیں۔

۳۲۷۷- حضرت مسلم بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ دعا کرتے ہوئے سنا "اللہم..... عذاب القبر" تک۔ تو پوچھا کہ بیٹے یہ دعا تم نے کس سے سنی؟ میں نے عرض کیا کہ آپ سے۔ کہنے لگے: تو پھر ہمیشہ اسے پڑھتے رہا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ (ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے غم، سستی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۲۷۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا عِثْمَانَ الشَّحَامُ نَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ يَا بُنَيَّ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ قَالَ الزَّمَهُنَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱۴-

باب ۱۷۱۴-

۳۲۷۸- حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر تم انہیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادیں اور اگر تمہیں بخش دیا ہو تو تمہارے درجات بلند کریں؟ وہ یہ ہیں "لا الہ الا اللہ..... رب العرش العظیم" تک۔ (یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بلند اور عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ حلیم و کریم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔) علی بن خشرم کہتے ہیں کہ علی بن حسین بن واقد بھی اپنے والد سے اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں اس میں آخر میں "الحمد لله رب العظیم" کے الفاظ زیادہ ہیں۔

۳۲۷۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَعْفُورًا لَكَ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ابواسحاق کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل

کرتے ہیں۔

❶ اس سے مراد یہ ہے کہ بے قصور سے انتقام نہ لیا جائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ ایک کے بدلے دس کو قتل کر دیتے تھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

❷ دین میں مصیبت سے مراد یہ ہے کہ مثلاً ہمیں فساق کی صحبت یا گناہوں میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھتا کہ ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ (مترجم)

باب ۱۷۱۵۔

باب ۱۷۱۵۔

۳۲۷۹۔ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا يونس بن ابى اسحق عن ابراهيم بن محمد بن سعد بن سعد عن ابيه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ذى النون اذ دعا وهو فى بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قط الا استجاب الله له

۳۲۷۹۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذوالنون (حضرت یونس) کی مچھلی کے پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کی دعا قبول فرمائیں گے وہ یہ ہے ”لا اله الا انت..... الظالمین“ تک (یعنی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تیری ذات پاک ہے۔ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔)

باب ۱۷۱۶۔

باب ۱۷۱۶۔

۳۲۸۰۔ حدثنا يوسف بن حماد البصرى نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من احصاها دخل الجنة

۳۲۸۰۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سونام ہیں۔ جس نے انہیں یاد کر دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

یوسف، عبدالاعلیٰ سے وہ ہشام سے وہ محمد بن حسان سے وہ محمد بن سیرین سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۷۱۷۔

باب ۱۷۱۷۔

۳۲۸۱۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم نا شعيب ابن ابى حمزة عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة

۳۲۸۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سونام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ① ہواللہ الذی..... آخر تک۔

① اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ واللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها (یعنی اللہ کے لئے بہترین نام ہیں تم انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو) اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کے ناموں سے پکارو۔ انہی کے ذریعے دعا کرو، اس کی تسبیح بھی انہی اسماء کے ذریعے کرو، اس کا ذکر بھی انہی اسماء کے ذریعے کرو اور انہی اسماء گرامی کے ذریعے اس کی اطاعت اور عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسماء کی صفت حسنیٰ بیان فرمائی، جس کے معنی حمد کی اور خوبصورتی کے ہیں۔ یعنی اللہ ہی کے نام ہیں جو حسنیٰ کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کیا ہے جسے خود خدائے بزرگ و برتر نے ان اسماء کی صفت میں بیان کیا ہے۔ امام رازی نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ، بلند، تمام صفات سے موصوف اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لہذا جو ذات ہر وقت موصوف ہو اس کے (بقیہ حاشیہ گلے صفحہ پر)

وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ
الْحَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ
الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ
الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ
الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْحَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ
الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْمُحْصِي الْمُبْدِي
الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ
الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ
التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ
الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ
الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) اسماء بھی انہی صفات سے متصف ہوں گے۔ کیونکہ ذات اسماء ہی کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف اوصاف بیان کئے۔ مثلاً وحدانیت، جلال، عزت، تخلیق وغیرہ اور جب انسان خدا کو ان اسماء کے ساتھ پاتا ہے تو تمام صفات اس کے مجسم ہو کر آجاتے ہیں تو اس کا ہر رنگا شہادت دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو تنہا بھی ہے، رحمن بھی ہے، خالق بھی ہے اور تمام عیوب سے پاک بھی ہے۔

(۳) ان اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا اظہار فرمایا ہے، جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ جن اسماء میں یہ صفات پائی جائیں وہ بدرجہ اولیٰ حسن و جمال سے متصف ہوں گے۔

مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں علماء کا یہ متفقہ موقف ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ظاہری الفاظ نہیں کیونکہ جنت کا دار و مدار تو نیک اعمال پر ہے۔ اگر صرف ان کے یاد کرنے پر ہی جنت کا دار و مدار ہو تو نزول قرآن اور رسالت نبوی کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اس حدیث کے مقصد کے تعین میں مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ اس سے مراد اسماء حسیٰ کو یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا، یعنی جس اسم سے جو حکم ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق عبادت کرنا۔ مثلاً رُحْمَنٌ ورجیم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کیساتھ رحم و کرم اور مہربانی سے پیش آنا۔ اگر بندے میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو اس کے معنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

۲۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر اسم کو قرآن میں تلاش کیا جائے اور اس آیت سے جو مفہوم ظاہر ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔

۳۔ جو صفات خداوندی اسماء کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

۴۔ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیا جائے۔

۵۔ یہ کہ اپنے دل پر ان اسماء کا اثر قبول کیا جائے۔

ان اقوال کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ جن اسماء کا تعلق عمل سے ہے مثلاً حلیم وغیرہ تو بندے کا فرض ہے کہ اپنی ذات میں علم وغیرہ کا مادہ پیدا کرے۔ جبکہ جن اسماء کا تعلق عقیدے سے ہے مثلاً خالق وغیرہ تو اس میں ان اسماء کے مطابق اپنا عقیدہ درست رکھے اور کسی کو خالق تسلیم نہ کرے۔

۳۲۸۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو وہاں چرا کرو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! باغ کیا ہیں؟ فرمایا: مسجدیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں چرنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا: سبحان اللہ سے آخر تک کہنا۔

۳۲۸۲۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا زيد بن حباب ان حميد المكي مولى بن علقمة حدثه ان عطاء بن ابي رباح حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتُم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما ريعاض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۲۸۳۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو وہاں چرا کرو۔ صحابہؓ نے پوچھا: جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا: ذکر کے حلقے۔

۳۲۸۳۔ حدثنا عبدالوارث بن عبد الصمد بن عبدالوارث قال قال ثني ابي قال ثني محمد بن ثابت هو البناي ثني ابي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتُم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما ريعاض الجنة قال حلق الذكر

یہ حدیث ثابت بن انس کی روایت سے اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱۸۔

باب ۱۷۱۸۔

۳۲۸۴۔ حضرت ام سلمہؓ، حضرت ابو سلمہؓ سے نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہئے کہ "اناللہ خیرا" تک پڑھے۔ (یعنی ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اے اللہ میں اپنی مصیبت کا ثواب تجھ سے چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا اجر عطا فرما اور اس کے بدلے بہتر چیز دے۔) پھر جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی کو مجھ سے بہتر شخص عطا فرما۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ام سلمہؓ نے اناللہ آخر تک پڑھا۔

۲۳۸۴۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة عن ثابت بن عمار بن ابي سلمة عن ام سلمة عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب احدكم مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احسب مصيبتى فاجرنى فيها وابديلنى منها خيرا فلما احتضر ابو سلمة قال اللهم اخلف في اهلي خيرا مني فلما قبض قالت ام سلمة انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسب مصيبتى فاجرنى فيها

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی ام سلمہؓ ہی کے واسطے سے منقول ہے ابو سلمہ کا نام عبد اللہ بن عبد الاسد ہے۔

باب ۱۷۱۹۔

باب ۱۷۱۹۔

۳۲۸۵۔ حدثنا يوسف بن عيسى نا الفضل بن موسى نا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يارسول الله أي الدعاء أفضل فقال له مثل ذلك ثم أتاه يوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف سلمہ بن وردان ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۲۸۶۔ حدثنا قتيبة بن سعيد انا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريده عن عائشة قالت قلت يارسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو ترحب العفو فاعف عني

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۲۸۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو کیا دعا کروں؟ فرمایا: ”اللهم انك عفو ترحب العفو فاعف عني“ یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف کر دے۔

۳۲۸۷۔ حدثنا احمد بن منيع نا عبيدة بن حميد عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالله بن الحارث عن العباس بن عبدالمطلب قال قلت يارسول الله علمني شيئاً أسأله الله قال سأل الله العافية فمكثت أياماً ثم جئت فقلت يارسول الله علمني شيئاً أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخرة

یہ حدیث صحیح ہے اور عبد اللہ: عبد اللہ بن حارث بن نوفل ہیں۔ ان کا عباسؓ سے سماع ثابت ہے۔

باب ۱۷۲۰۔

باب ۱۷۲۰۔

۳۲۸۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابراهيم بن عمر ابن ابى الوزير نا زنفل بن عبدالله ابو عبدالله عن ابن ابى مليكة عن عائشة عن ابى بكر الصديق أن

۳۲۸۸۔ حضرت عائشہؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے نقل کرتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے۔ ”اللهم“..... سے آخر تک (یعنی اے اللہ! میرے لئے خیر

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ
اللَّهُمَّ حِرْلِي وَاحْتِرْلِي

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف زُفَل کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ انہیں زُفَل بن عبد اللہ العرفی کہتے ہیں۔ یہ عرفات میں تمہارا ہا کرتے تھے ان کا اس حدیث کے بیان کرنے میں کوئی متابع نہیں۔

باب ۱۷۲۱۔

باب ۱۷۲۱۔

۳۲۸۹۔ حضرت ابوالک اشعریؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
وَصُوْنُفِ اِيْمَانٍ هِيَ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ مِزَانٌ كَوْبُحْرٍ دِيْتَا هِيَ اَوْر "سُبْحَانَ
اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ" آسَانُوْنِ اَوْر زِمِيْنِ كَوْبُحْرٍ دِيْتَا هِيَ، نَمَازُ نُوْرٍ هِيَ،
صَدَقَةٌ (اِيْمَانِ كِي دَلِيْلٌ هِيَ، صَبْرٌ رُوْشِي هِيَ، قُرْآنٌ (تِيْرِي) نِجَاتٌ يَّا
هَلَاكَتِ كِي حِجَّتْ هِيَ اَوْر هِرْشَخْصِ اِسْ حَالِ مِيْلِ صَبْحٍ كَرْتَا هِيَ كِهْ وَهْ اِسْپَنِي
نَفْسِ كُوْبُحْرٍ رَهَا هُوْتَا هِيَ پُحْرٍ يَّا تُوْهْ اِسْ (اِطَاعَتِ وَفَرْمَانِيْرِي) كِي وَبِهْ
سَيَّ اَزَاكِرِ اَلِيْتَا هِيَ يَّا پُحْرٍ (نَا فَرْمَانِي كِرْ كِي) خُوْدُ كُوْبُرَا دَكِرِ اَلِيْتَا هِيَ۔

۳۲۸۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِنَا حِبَانُ بْنُ
هَلَالٍ نَا اِبَانُ هُوَابِنِ يَزِيْدِ الْعَطَارِ نَا يَحْيَى اَنْ زِيْدُ بْنُ
سَلَامٍ حَدَّثَهُ اَنْ اَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ
رَا اَلْاَشْعَرِيَّ قَالِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوُضُوْءُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمَلُّ الْمِيْزَانَ
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَانِ اَوْ تَمَلُّ مَا بَيْنَ
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ
وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ
النَّاسِ يَغْدُوْنَ فَيَاْبِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا اَوْ مَوْبِقُهَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۲۲۔

باب ۱۷۲۲۔

۳۲۹۰۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
سُبْحَانَ اللّٰهِ نِصْفُ مِزَانٍ هِيَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِسْمٌ يُّهْرَدِيْتَا هِيَ اَوْر لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ اَوْر اللّٰهُ كِهْ دَرْمِيَانِ كُوْبِيْ پَرْدِهْ نِيْمِيْسِ وَهْ بَغِيْرِ كِسِيْ شَيْْءِ كِهْ حَاكِلٌ هُوِيْ
اللّٰهُ رَبُّ الْعِزَّتِ كِهْ پَاسِ پَنچْتَا هِيَ۔

۳۲۹۰۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نَا اسْمَعِيْلُ بْنُ
عِيَاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدٍ
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمَلُّ
وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا دُوْنُ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى
تَخْلُصَ اِلَيْهِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور یہ سند قوی نہیں۔

۳۲۹۱۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
اپنے یا میرے ہاتھ پر یہ چیزیں گن کر بتائیں کہ تسبیح (سبحان اللہ)
نصف میزان، الحمد لله کامل میزان اور اللہ اکبر آسمان و زمین
کے مابین خلا کو بھر دیتا ہے نیز روزہ نصف صبر ہے، اور پاکی نصف
ایمان ہے۔

۳۲۹۱۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ نَا اِبُو الْاِحْوَصِ عَنْ اَبِي
اسْحَقٍ عَنْ جُرَيْجِ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ
قَالَ عَدَّهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ
يَدِيْ اَوْ يَدِيْهِ التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمَلُّ
وَالتَّكْبِيْرُ يَمَلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ

نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورِ نِصْفُ الْإِيمَانِ

یہ حدیث حسن ہے اسے شعبہ اور ثوری، ابواسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۲۳۔

باب ۱۷۲۳۔

۳۲۹۲۔ حدثنا محمد بن حاتم لمؤدب نا علی ابن ثابت ثنی قیس بن الربیع وکان من بنی اسد عن الاغر بن الصباح عن خلیفة بن حصین عن علی بن ابی طالب قال اکثر ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما تقول اللهم لك صلوتي ونسكبي ومحياي ومماتي واليك ما بي ولك رب تراني اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم اني اعوذ بك من شر ما تحيي به الريح

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور یہ سند قوی نہیں۔

باب ۱۷۲۴۔

باب ۱۷۲۴۔

۳۲۹۳۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا عمار بن محمد بن اخت سفیان الثوری نا الليث بن ابی سلیم عن عبد الرحمن بن سابط عن ابی امامة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله نقول اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۲۵۔

باب ۱۷۲۵۔

۳۲۹۴۔ حدثنا ابو موسى الانصاری نا معاذ بن معاذ عن ابی کعب صاحب الحریر قال ثنی.....

۳۲۹۲۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ وقوف عرفات کے موقع پر زوال کے بعد اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللهم..... آخر تک (یعنی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں جس طرح تو خود بیان کرے اور ہمارے بیان کرنے سے بہتر۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اور میرا لوٹنا تیری ہی طرف ہے۔ اے اللہ میری میراث بھی تیرے ہی لئے ہے۔ یا الہی میں تجھ سے عذاب قبر، سینے کے دوسے اور (کسی) کام کی پریشانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو ہوا لاتی ہے۔

۳۲۹۳۔ حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے بہت سی دعائیں کیں جو ہمیں یاد نہ ہو سکیں تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے بہت سی دعائیں کیں ہم یاد نہ کر سکے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ وہ تمام دعاؤں کو جمع کر دے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کیا کرو "اللهم..... آخر تک (یعنی اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اکرم ﷺ نے کیا اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد ﷺ نے پناہ مانگی، تو ہی مددگار ہے، تو ہی خیر و شر کا پہنچانے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

۳۲۹۴۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہؓ سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس اکثر کیا دعا کیا

کرتے تھے؟ فرمایا: ”یا مقلب القلوب“ علی دینک“ تک (یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ) پھر کہنے لگیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اکثر یہی دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: ام سلمہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو جسے چاہتا ہے (دین حق پر) قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیزھا کر دیتا ہے۔ پھر حدیث کے راوی معاویہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”ربنا لاتمزغ.....“ الآیة (یعنی اے اللہ! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گم نہ کیجئے۔

اس باب میں عائشہ، نواس بن سمان، انس، جابر عبد اللہ بن عمر و اور نعیم بن تمار سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۲۶-۱۷۰

۳۲۹۵۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید مخزومی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! رات میں کسی دوسرے یا خوف کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ”اللھم.....“ آخر تک۔ (یعنی اے اللہ اے سات آسمانوں اور ان کے سائے میں پلنے والوں کے رب، اے زمین والوں کو پالنے والے، اے شیاطین اور ان کے گمراہ کئے ہوئے لوگوں کے رب میرا اپنی پوری مخلوق کے شر سے ہمسایہ ہو جا، کہ کوئی مجھ پر زیادتی یا دشمنی نہ کر سکے۔ تیری ہمسائیگی زبردست ہے تیری ثابرت رہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود صرف تو ہی ہے۔)

اس حدیث کی سند قوی نہیں کیونکہ حکم بن ظہیر سے بعض محدثین نے احادیث نقل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سند

سے بھی یہ حدیث منقول ہے لیکن وہ مرسل ہے۔

۳۲۹۶۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی نیند میں ڈرجائے تو یہ دعا پڑھے۔ ”اعوذ..... بحضرون“ تک (یعنی میں اللہ کے غضب، عقاب، اس کے بندوں کے فساد، شیطانی وساوس اور ان (شیطانوں) کے ہمارے پاس آنے سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔) (اگر وہ دعا پڑھے گا) تو وہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔

شَهُرُ بْنُ حَوْشِبٍ قَالَ قُلْتُ لِيَا سَلَمَةَ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدِكَ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ بَيِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِأَكْثَرَ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ بَيِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقَالَ يَوْمَ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ أَدْمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَرَاغَ قِتْلًا مُعَادًا رَبَّنَا لِأَتْرُعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا..... الْآيَةَ

باب ۲۶-۱۷۰

۳۲۹۵۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا الحكم بن ظهير نا علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السموات السبع وما أظلت. ورب الأرضين وما أقلت. ورب الشياطين وما أضلت. كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يتبعي عزجارك. وجل ثناءك لا إله غيرك لا إله إلا أنت

۳۲۹۶۔ حدثنا علي بن حجر نا اسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن

تَضْرَهُ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَلْقَاهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ
وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَدِّكَ ثُمَّ عَلَّقَهَا
فِي عُنُقِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۲۷۔

۳۲۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرَ
نَاشِعَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ
سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مَا أَحَدٌ
أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِلذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِلذَلِكَ
مَدَحَ نَفْسَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۲۸۔

۳۲۹۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دَعَاءً
أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۲۹۔

۳۲۹۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا أَبُو بَدْرٍ شِجَاعُ
بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الرَّجُلِ بْنِ مَعَاوِيَةَ أَخِي زَهْرَةَ بْنِ مَعَاوِيَةَ
عَنِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَّبَهُ، أَمَرَ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَيَسْتَأْذِنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَابِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

عبدالرحمن بن عمروؓ یہ دعا اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور نابالغ
بچوں کے لئے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔

باب ۱۷۲۷۔

۳۲۹۷۔ عمرو بن مرہ، ابووائل سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل
کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے پوچھا کہ کیا تم
نے خود ابن مسعود سے سنا؟ فرمایا: (ہاں) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی لئے اس نے ظاہری اور چھپی
ہوئی تمام فواحش کو حرام قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سب سے
زیادہ پسند ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔

باب ۱۷۲۸۔

۳۲۹۸۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت ابوبکرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ
انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا بتائیے جو میں نماز میں
مانگا کروں۔ فرمایا: ”اللہم انی ظلمت“..... آخر تک (یعنی اے
اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور گناہوں کو معاف کرنے
والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھے بھی معاف کر دے اور اپنی طرف سے
مغفرت اور رحم فرما کیونکہ تو غفور اور رحیم ہے۔)

باب ۱۷۲۹۔

۳۲۹۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر کوئی
سخت کام آن پڑتا تو یہ دعا کرتے ”یا حییٰ..... استغیث“ تک
(یعنی اے زندہ اور زمین و آسمان کو) قائم رکھنے والے تیری رحمت
کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں) اسی سند سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ
آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا ذا الجلال والاکرام“ کو لازم پکڑو۔ (یعنی
اے بڑائی اور بزرگی والے)۔

یہ حدیث غریب ہے اور انسؓ سے اور سند سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ محمود بن غیلان اسے مؤمل سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ انس بن مالکؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ 'یا ذوالجلال والاکرام' پڑھتے رہا کرو۔ یہ حدیث غریب اور غیر محفوظ ہے۔ حماد بن سلمہ سے بھی حمید کے حوالے سے حسن بصری سے مرفوعاً منقول ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ مؤمل نے اس میں غلطی کی ہے وہ حمید کے واسطے سے انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی متابع نہیں۔

۳۳۰۰۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا "اللهم انی ... النعمة" تک (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں) تو پوچھا کہ پوری نعمت کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے ایک بہتری کی دعا کی تھی (اس سے وہی مراد ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے مراد دوزخ سے نجات اور جنت میں داخل ہونا ہے پھر آپ ﷺ نے ایک اور شخص کو یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا تو فرمایا: تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے لہذا سوال کرو (مانگو) پھر آپ ﷺ نے ایک اور شخص کو اللہ سے صبر مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا: یہ تو بلا ہے اب اس سے عافیت مانگو۔

۳۳۰۰۔ حدثنا محمود بن غیلان نا وکیع نا سفیان عن الجریری عن ابی الورد اللجلاج عن معاذ بن جبل قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً یدعو یقول اللهم انی اسألك تمام النعمة فقال ائی شیء تمام النعمة قال دعوة دعوت بها ارجو بها الخیر قال فان من تمام النعمة دخول الجنة والפור من النار وسمع رجلاً وهو یقول یا ذوالجلال والاکرام فقال قد استجبت لك فسل وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً وهو یقول اللهم انی اسئلك الصبر قال سألت اللہ البلاء فاسئله العافية

احمد بن منیع بھی اسماعیل سے اور وہ جریری سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

باب ۱۷۳۰۔

باب ۱۷۳۰۔

۳۳۰۱۔ حضرت ابو امامہ باہلیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لئے پاک ہو کر جائے اور نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ رات کے کسی بھی حصے میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا فرمائیں گے۔

۳۳۰۱۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعیل بن عیاش عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین عن شہر بن حوشب عن ابی امامة الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اوی الی فراشه طاهراً یدکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم یتقلب ساعة من اللیل یسأل اللہ شیئاً من خیر الدنیا والآخرۃ الا اعطاه اللہ ایاه

یہ حدیث حسن غریب ہے اور شہر بن حوشب سے منقول ہے وہ ابو بظیف سے وہ عمرو بن عتبہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۳۰۲۔ ابو راشد حمرانیؓ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو خود آنحضرت ﷺ سے سنی ہو۔ انہوں نے مجھے ایک ورقہ دیا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ

۳۳۰۲۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعیل بن عیاش عن محمد بن زیاد عن ابی راشد الحمرانی قال آتیت عبد اللہ بن عمرو بن عاص فقلت له

حَدَّثَنَا مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ هَذَا مَا كَتَبَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ بِالصِّدِّيقِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمَنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَأَنْ أَتَرَفَّ عَلَيَّ نَفْسِي سُوءًا إِذَا أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۳۰۳۔ حدیثنا محمد بن حمید الرازی نا الفضل بن موسیٰ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَلَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتَسَاقُطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقُطُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ هَذِهِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اعمش نے انسؓ سے کوئی حدیث سنی یا نہیں ہاں انہیں دیکھا ضرور ہے۔

۳۳۰۴۔ حدیثنا قتیبہ نا اللیث عن الجلاح ابی کثیر عن ابی عبدالرحمان الحُبَلِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الشَّيْبِ السَّبَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلِحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمُجِيءٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ مُؤَبَّقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ مُؤَمِّنَاتٍ

سے لکھوایا تھا میں نے اسے دیکھا تو اس میں یہ تحریر تھا: ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے صبح و شام پڑھنے کے لئے کوئی دعا بتائیے۔ آپؐ نے فرمایا: یہ پڑھا کرو "اللہم!..... آخر تک (یعنی اے اللہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے عالم الغیب اور عالم الحاضر تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز اس سے بھی تیری پناہ کا طلب گار ہوں کہ خود کوئی برائی کروں یا اسے کسی مسلمان سے کراؤں۔)

۳۳۰۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپؐ نے اس پر اپنی لالچی ماری تو اس کے پتے جھڑے۔ پھر فرمایا: الحمد للہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر! اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے۔

۳۳۰۴۔ حضرت عمارہ بن شیبہ سبائی کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جو شخص "لا الہ الا اللہ..... قدیر" تک مغرب کے بعد دس مرتبہ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ اس کے لئے دس رحمت کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے دس برباد کر دینے والے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اسے دس مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف لیث بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ عمارہ بن شیبہ نے آنحضرتؐ سے کچھ سنایا نہیں۔

باب ۱۷۳۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ
وَمَا ذُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

۳۳۰۵۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو سَفِيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
أَبِي النَّحْوِدِ عَنْ زُرَّيْبِ بْنِ جُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ
عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا زُرَّيْبُ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنَّ
الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا
يَطْلُبُ قُلْتُ إِنَّهُ حَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَايِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتُ أَمْرًا مِّنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ
هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ
يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَانْتَزِعَ حِيفَانَا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةِ لَكِنِّ مِّنْ غَايِطٍ
وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ قَالَ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الْهَوَى
شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ
بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ يَا مُحَمَّدُ فَاجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحْوِ مِنْ صَوْتِهِ هَاءٌ مُّ
فَقُلْنَا لَهُ وَيْحَكَ أَعْضَضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ هَذَا
فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَعْضَضُ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ
الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ
يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ أَبَا بَابَا مِنْ قَبْلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةَ
عَرَضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ سَفِيَانُ قَبْلَ الشَّامِ
خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَفْتُوحًا
يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ لَا يَغْلِقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۳۱۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت اور اللہ کی اپنے بندوں پر
رحمت۔

۳۳۰۵۔ حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے
پاس گیا تاکہ ان سے موزوں کے مسح کے بارے میں پوچھوں۔ کہنے
لگے: زریوں آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لئے: فرمایا:
فرشتے طالب علم کی طلب علم کی وجہ سے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے
ہیں۔ میں نے کہا: میں ایک صحابی ہوں میرے دل میں قضائے حاجت
کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے متعلق تردد ہوا کہ کیا جاتا ہے یا نہیں؟
چنانچہ میں تم سے یہی پوچھنے کے لئے آیا تھا کہ کیا اس کے متعلق کچھ سنا
ہے؟ کہنے لگے: ہاں۔ آپ ﷺ میں سفر کے دوران تین دن ورات
تک موزے نہ اتارنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ البتہ غسل جنابت اس حکم
سے مستثنیٰ تھا۔ لیکن قضائے حاجت یا سونے کے بعد وضو کرنے پر یہی
حکم تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے آنحضرت ﷺ سے محبت کے
متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا: ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں
تھے کہ ایک اعرابی آیا اور زور سے پکارا: یا محمد۔ آنحضرت ﷺ نے بھی
اسے اسی آواز سے حکم دیا کہ آؤ۔ ہم نے اس سے کہا: تیری بربادی
ہو اپنی آواز کو پست کر۔ تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ہے اور تمہیں اس
طرح آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں
آواز دہی نہیں کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ ایک آدمی ایک قوم سے محبت
کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے اب تک ملا بھی نہیں ہے آپ ﷺ نے
فرمایا: قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرنے
گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر صفوان مجھ سے باتیں کرتے رہے اور مجھے
بتایا کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس یا ستر
برس کی مسافت ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ وہ دروازہ شام کی جانب ہے
اللہ تعالیٰ نے اسے اسی دن پیدا کیا تھا جس دن آسمان وزمین بنائے
تھے اور وہ توبہ کے لئے اس وقت تک کھلا رہے گا۔ جب تک سورج
مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔

۳۳۰۶۔ اس کا ترجمہ گزشتہ حدیث میں گزر گیا ہے صرف اس میں اعرابی کو سخت مزاج اور احمق کہا گیا ہے پھر آخر میں یہ ہے کہ (پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ”یوم یاتی بعض.....“ یعنی اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

۳۳۰۶۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبی نا حماد بن زید عن عاصم عن زید بن حنیس قال أتیت صفوان بن عسان المرادی فقال لی ماجاء بك قلت ابتغاء العلم قال بلغنی ان الملائكة تصعج أحنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل قال قلت له انه حاك أو قال حاك فی نفسی شیء من المسح علی الخفین فهل حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم فیہ شیئا قال نعم کنا إذا کنا سفرا أو مسافرین امرنا أن لا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الهوی شیئا قال نعم کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض أسفاره فناداه رجل كان فی احر القوم بصوت جهوری اعرابی جلف جاف فقال یا محمد یا محمد فقال له القوم مه انک قد نهیت عن هذا فاجابه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی نحو من صوته هاؤم فقال الرجل یحب القوم ولما یلحق بهم قال فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب قال زید فلما برح یحدثنی حتی حدثنی ان الله عزوجل جعل بالعرب بابا عرضة مسیره سبعین عاما للتوبة لا یعلق حتی تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله وتبارک وتعالی یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها

باب ۱۷۳۲۔

باب ۱۷۳۲۔

۳۳۰۷۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ (موت کی وجہ سے) اس کا زخروہ بجنے لگے۔

۳۳۰۷۔ حدثنا ابراهیم بن یعقوب نا علی بن عیاش الحمصی نا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابیه عن مکحول عن جبیر بن نفیر عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله یقبل

تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْ

یہ حدیث حسن غریب ہے اسے محمد بن بشار، ابو عامر عقدی سے وہ عبد الرحمن سے وہ اپنے والد ثابت سے وہ کھول سے وہ جبیر بن تفسیر سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔

۱۷۳۳۔

باب ۱۷۳۳۔

۳۳۰۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنا اونٹ کھونے کے بعد پانے پر خوش ہوتا ہے۔

۳۳۰۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا الْمَغِيْرَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِيهِ إِذَا وَجَدَهَا

اس باب میں ابن مسعود، نعمان بن بشیر اور انس سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۳۳۔

باب ۱۷۳۴۔

۳۳۰۹۔ حضرت ابو ایوب سے منقول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو فرمایا: میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپائی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا تاکہ وہ گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔

۳۳۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاسِ عَمِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ جِئْنَا حَضْرَتَهُ الْوَفَاءَةَ قَدْ كَفَّمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْتُمْ تَلْدُنِيُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُدْنِيُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن کعب بھی ابو ایوب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ تہیہ نے یہ حدیث عبد الرحمن سے انہوں نے غضرہ کے مولیٰ عمرو سے انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کے مثل نقل کی ہے۔

باب ۱۷۳۵۔

باب ۱۷۳۵۔

۳۳۱۰۔ حضرت انس بن مالک رسول اکرم ﷺ سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا۔ میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ خواہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک ہی پہنچ جائیں۔ تب بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت (معافی) عنایت کروں گا۔

۳۳۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ نَا ابُو عَاصِمٍ نَا كَثِيْرُ بْنُ فَائِدٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ آتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرُكَ بِي

شَيْئًا لَا تَبْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۷۳۶۔

باب ۱۷۳۶۔

۳۳۱۱۔ حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد نا
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله مائة
رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يترحمون
بها وعند الله تسعة وتسعون رحمة

۳۳۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کیں اور ان میں سے صرف ایک رحمت اپنی مخلوق میں نازل فرمائی جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ باقی ننانوے رحمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔

اس باب میں سلمانؓ اور جناب بن عبد اللہ بن سفیان بجلی سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۳۸۔

باب ۱۷۳۸۔

۳۳۱۲۔ حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن
ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم
الكافر ما عند الله من الرحمة ما فطن من الجنة أحد

۳۳۱۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مؤمن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جنت کی طرح نہ کرے اور اگر کافر اللہ کی رحمت کے متعلق جان لے کہ کتنی ہے تو وہ بھی اس سے ناامید نہ ہو۔

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف علاء بن عبد الرحمن کی روایت سے جانتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

باب ۱۷۳۹۔

باب ۱۷۳۹۔

۳۳۱۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن أبيه
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن
رحمتي تغلب غضبي
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۱۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے متعلق تحریر فرمایا: کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔

۳۳۱۴۔ حدثنا محمد بن ابی ثلج رجل من اهل
بغداد ابو عبد الله صاحب احمد بن حنبل ثنا يونس
بن محمد نا سعيد بن زربي عن عاصم الاحول
وثابت عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه
وسلم ورجل قد صلى وهو يدعوه وهو يقول في

۳۳۱۴۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ (اے اللہ! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہی احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور عظمت و کرم والا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی

دُعَايِهِ اللَّهُمَّ لَأِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللَّهُ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ
الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَحَابَبَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ
ہے؟ اس نے اسمِ اعظم (کے وسیلے) سے دعا کی ہے۔ اگر اس (کے
وسیلے) سے دعا کی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر سوال کیا جاتا
ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔
یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ایک اور سند سے بھی انسؓ سے ہی منقول ہے۔

باب ۱۷۴۰۔

باب ۱۷۴۰۔

۳۳۱۵۔ حدیثنا احمد بن ابراہیم الدورقی نا ربعی
بن ابراہیم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعید
بن ابی سعید الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَعِمَ أَنْفُ رَجُلٍ
ذُكِرَتْ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَعِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ
عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَعِمَ أَنْفُ
رَجُلٍ ادْرَكَ عِنْدَهُ، أَبُوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَظَنُّهُ، قَالَ أَوْ أَحَدَهُمَا
حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص
کی ناک خاک آلود ہو۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ
بیجھے۔ اور اس شخص کے ناک میں خاک جس کی زندگی میں رمضان آیا
اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے گزر گیا اور اس شخص کے ناک میں
بھی خاک جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود
(ان کی خدمت کی وجہ سے) جنت نہیں پائی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ
میرے خیال میں آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: (والدین یا دونوں میں
سے کوئی ایک)۔

اس باب میں جاہر اور انسؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ربیع بن ابراہیم، اسلعیل بن ابراہیم کے
بھائی ہیں۔ یہ ثقہ ہیں ان کی کنیت ابو علیہ ہے۔ ان سے منقول ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا کافی ہے۔

۳۳۱۶۔ حدیثنا یحییٰ بن موسیٰ نا ابو عامر العقدی
عن سلیمان بن بلال عن عمارة بن غزيرة عن عبد الله
بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحِيلُ الَّذِي
مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۴۱۔

باب ۱۷۴۱۔

۳۳۱۷۔ حدیثنا احمد بن ابراہیم الدورقی نا عمر
بن حفص بن غياث نا ابی عن الحسن بن عبيد الله
عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ابي اوفى قال
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا
کیا کرتے تھے۔ ”اللہم..... آخربک (یعنی اے اللہ! میرے دل کو
برف اور ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کر دے، اے اللہ! میرے دل کو گناہوں
سے اس طرح پاک و صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل

سے صاف کر دیتا ہے۔

بَرِّدْ قَلْبِي بِالتَّلَجِّ وَالْبَرِّدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِي
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۴۲۔

باب ۱۷۴۲۔

۳۳۱۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے لئے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نیز فرمایا: دعا اس مصیبت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی ہے اور اس کے لئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی لہذا اے اللہ کے بندو دعا کرنا ضروری سمجھو۔

۳۳۱۸۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ نَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ
ابن عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی عن موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء
فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعنى
أحب إليه من أن يسئل العافية وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما
لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرحمن بن ابی بکر قرشی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ ملکی ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ بعض محدثین ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی بکر سے انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمرؓ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کی ہیں۔ قاسم بن دینار کوئی یہ حدیث اسحاق بن منصور سے اور وہ اسرائیل سے نقل کرتے ہیں۔

۳۳۱۹۔ حضرت بلالؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ راتوں کو نمازیں پڑھنے کی عادت بناؤ کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے دوری پیدا ہوتی ہے، یہ برائیوں کا کفارہ ہے اور بدنی امراض کو دور کرتی ہے۔

۳۳۱۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا أَبُو النَّضْرِ نَا بَكْرُ بْنُ
حنينش عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن ابی
إدريس الخولاني عن بلال أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه داب
الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة
عن الأثم وتكفير للسيئات ومطرودة للداء عن الجسد

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے بلالؓ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند صحیح نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ محمد القرشی محمد بن سعید شامی بن ابوقیس محمد بن حسان ہیں۔ ان سے احادیث روایت کرنا ترک کر دیا گیا۔ معاذ بن صالح یہ حدیث ربیعہ سے وہ ابودریس سے وہ ابوامامہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے محمد بن اسماعیل نے عبداللہ بن صالح کے حوالے سے انہوں نے معاذیہ سے انہوں نے ربیعہ سے انہوں نے ابوامامہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے اس میں جسمانی بیماریوں کا ذکر نہیں۔ یہ حدیث ابودریس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے جو انہوں نے بلالؓ سے نقل کی ہے۔

باب ۱۷۴۳۔

باب ۱۷۴۳۔

۳۳۲۰- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کی عمریں ساتھ سے ستر کے درمیان ہوں گی۔ کم ہی ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔

۳۳۲۰- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمَحَارِبِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن عمرو اسے ابو امامہ سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں لیکن یہ اور سند سے بھی ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

باب ۱۷۴۴-

باب ۱۷۴۴-

۳۳۲۱- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”رب اعنی“..... آخر تک (یعنی اے میرے رب میری مدد کر میرے خلاف دوسروں کی نہیں، میری نصرت فرما، میرے خلاف دوسروں کی نہیں، میرے لئے نکر کر نہ کہ میرے خلاف دوسروں کے لئے) (اے اللہ) مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر چلنا میرے لئے آسان کر دے، مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا ایسا بندہ بنا کہ تیرے ہی شکر کرتا ہوں، تیرا ہی ذکر کروں، تجھ ہی سے ڈروں، تیری ہی اطاعت کروں، تیرے ہی سامنے آہ و زاری کروں اور تیری ہی طرف رجوع کروں۔ اے رب میری توجہ قبول فرما۔ میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری حجت کو ثابت کر، میری زبان کو (برائیوں سے) روک دے۔ میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے سے حسد کو نکال دے۔

۳۳۲۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو دَاوُدَ الْحَضْرِيَّ عَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلْحِقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعِنِّي وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَاَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاْمْكُرْلِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاَهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهَدْيَ وَاَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ يَغِي عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَاعًا مُحِبًّا إِلَيْكَ أَوْهَا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَاَجِبْ دَعْوَتِي وَتَبِّتْ حُجَّتِي وَسِدِّدْ لِسَانِي وَاَهْدِ قَلْبِي وَاَسْأَلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي

محمود بن غیلان، محمد بن بشر عبدی سے اور وہ سفیان سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۴۵-

باب ۱۷۴۵-

۳۳۲۲- حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے ظالم کے لئے بددعا کر دی اس نے بدلہ لے لیا۔

۳۳۲۲- حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا عَلَيَّ مِنْ ظَلَمَةٍ فَقَدْ اَنْتَصَرَ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابو حمزہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض علماء ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بیہوش اور ہیں۔ تفسیر یہ حدیث حمید سے وہ ابو الاحوص سے اور وہ ابو حمزہ سے اسی سند سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۴۶۔

۳۳۲۳۔ حدثنا موسى بن عبدالرحمن الكندي الكوفي نا زيد بن حباب قال واخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبدالرحمن عن الشعبي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الأنصاري قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِمَّنْ وُلِدَ اسْمَعِيلُ

یہ حدیث ابویوب سے موقوفاً منقول ہے۔

باب ۱۷۴۷۔

۳۳۲۳۔ حضرت ابوایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دس مرتبہ ”لا الہ الا اللہ..... قدیر“ تک پڑھا اسے اسمعیل کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔

باب ۱۷۴۷۔

۳۳۲۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالصمد بن عبد الوارث نا هاشم هوا بن سعيد الكوفي ثنا كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا قَالَ لَقَدْ سَبَّحْتَ بِهِدِهِ أَلَا أَعْلَمُكَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَبَّحْتَ بِهِ فَقُلْتُ بَلَى عَلَّمَنِي فَقَالَ قَوْلِي سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ

باب ۱۷۴۷۔

۳۳۲۳۔ حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس چار ہزار کھجور کی گھٹلیاں تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے ان گھٹلیوں پر تسبیح پڑھی ہے کیا میں تمہیں ایسی تسبیح نہ بتا دوں جو ثواب میں اس سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا: ”سبحان اللہ عدد خلقه“ پڑھا کرو (یعنی اللہ کی ذات اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر پاک ہے۔)

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صفیہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی ہاشم بن سعید کوئی کی روایت سے۔ اس کی سند معروف نہیں اور اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۳۲۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ عَلَيَّ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا قَرِيبًا مِمَّنْ نَضِفُ النَّهَارَ فَقَالَ لَهَا مَا زِلْتِ عَلَى خَالِكِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

۳۳۲۵۔ حضرت جویریہ بنت حارثؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے میں اپنی مسجد میں تھی۔ پھر دوپہر کے وقت دوبارہ گزرے تو پوچھا کہ ابھی تک اسی حال میں بیٹھی ہو (تسبیح پڑھ رہی ہو) عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں۔ تم وہ پڑھا کرو۔ ”سبحان اللہ عدد خلقه“ (تین مرتبہ) ”سبحان اللہ رضی نفسہ“ (اس کے نفس کی چاہت کے مطابق) یہ بھی تین مرتبہ فرمایا، ”سبحان للہ ذنۃ عرشہ“ (..... اس کے عرش کے وزن کے برابر) یہ بھی تین مرتبہ اور پھر فرمایا ”سبحان اللہ مداد کلماتہ“

یعنی (..... اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر) اور یہ بھی تین مرتبہ فرمایا۔

عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَضِيَ نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبدالرحمن، آل طلحہ کے مولیٰ ہیں یہ مدنی اور ثقہ ہیں مسعودی اور ثوری نے ان سے یہی حدیث نقل کی ہے۔

باب ۱۷۴۸۔

باب ۱۷۴۸۔

۳۳۲۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا بن ابی عدی قال انبانا جعفر بن میمون صاحب الاعنط عن ابی عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردها صفرا خائبتين

۳۳۲۶۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کامل الہیاء اور کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ انہیں محروم لوٹائے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے بعض حضرات یہ حدیث انہی سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۳۳۲۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا صفوان بن عيسى نا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی هريرة ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد

۳۳۲۷۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی دو انگلیوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک سے دعا کرو ایک سے دعا کرو۔

یہ حدیث غریب ہے اس سے مراد شہد میں انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔

دعاؤں کے متعلق مختلف احادیث

أَحَادِيثُ شَتَّى مِنْ أَبْوَابِ الدَّعَوَاتِ

۳۳۲۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نازهير وهو بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان معاذ بن رفاعه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكأ فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكأ فقال سلوا الله العفو والعافية فان أحدًا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية

۳۳۲۸۔ حضرت رفاعہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے پھر فرمایا: (ہجرت کے) پہلے سال آنحضرت ﷺ بھی جب منبر پر کھڑے ہوئے تو روئے اور فرمایا: اللہ سے عفو اور عافیت مانگا کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز نہیں۔

باب ۱۷۴۹۔

باب ۱۷۴۹۔

۳۳۲۹۔ حدثنا حسين بن يزيد الكوفي نا ابو يحيى الحماني نا عثمان بن واقد عن ابی نصيرة عن مولى لابى

۳۳۲۹۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے گناہ کے بعد استغفار کیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ اس نے

بَكَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرَمَ مِنْ اسْتِغْفَرٍ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً
یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ابو بصیر کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ سند قوی نہیں۔

۳۳۳۰۔ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ نے نئے کپڑے پہن کر یہ دعا پڑھی ”الحمد لله..... حیاتی“ تک (یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے سزا دہانے اور زندگی سنوارنے کے لئے کپڑے پہنائے) اور پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ جس نے نیا کپڑا پہننے پر یہ دعا پڑھی اور پھر پرانا کپڑا صدقے میں دے دیا وہ اللہ کی حفاظت، اس کی پناہ اور پردے میں رہے گا خواہ زندہ رہے یا مر جائے۔

۳۳۳۰۔ حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قالنا يزيد بن هارون انا الاصبغ بن زيد نا ابوالعلاء عن أبي امامة قال ليس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتى واتحمل به فى حياتى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ليس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتى واتحمل به فى حياتى ثم عمد الى الثوب الذي اخلق فتصدق به كان فى كنف الله وفى حفظ الله وفى ستر الله حيا وميتا

یہ حدیث غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب اسے عبید بن زحر سے وہ علی بن یزید سے وہ قاسم سے اور وہ ابوامامہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۳۳۱۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجد کی طرف لشکر بھیجا۔ وہ لوگ بہت مال غنیمت لوٹنے کے بعد جلد واپس آ گئے۔ چنانچہ ایک شخص جوان کے ساتھ نہیں گیا تھا کہنے لگا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لشکر اتنی جلدی واپس آئے اور اتنا مال غنیمت ساتھ لائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ان سے بھی جلد لوٹنے والوں اور ان سے افضل مال غنیمت لانے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر آفتاب کے طلوع ہونے تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وہ لوگ ان سے بھی جلد واپس آنے والے اور افضل مال غنیمت لانے والے ہیں۔

۳۳۳۱۔ حدثنا احمد بن الحسن نا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عليه عن حماد بن ابى حميد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة واسرعوا الى الرجعة فقال رجل ممن لم يخرج مارقينا بعضا اسرع رجعة ولا افضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على قوم افضل غنيمة واسرع رجعة قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يدكرون الله حتى طلعت الشمس فاولئك اسرع رجعة وافضل غنيمة

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حماد بن ابی حمید کا نام محمد اور کنیت ابوابراہیم ہے۔ یہ انصاری مدینی

ہیں اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

۳۳۳۲۔ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عمرے کے لئے جانے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: بھائی

۳۳۳۲۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابى عن سفيان عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن ابن

ہمیں بھی دعا میں شریک کرنا بھولنا نہیں۔

عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ أَيُّ أُخَى أَشْرَكْنَا فِي دُعَاءِكَ وَلَا تَنْسَنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۳۳۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تھا اور عرض کیا کہ میری مدد کیجئے۔ فرمایا: میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے سکھائے تھے اگر تمہارے اوپر کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا فرمادیں گے۔ دعا یہ ہے کہ ”اللہم.....“ آخر تک (یعنی اے اللہ! مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔)

۳۳۳۳۔ حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن انا يحيى بن حسان انا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار عن ابي وايل عن علي ان مكاتبا جاءه فقال اني قد عجزت عن كتابتي فاعني قال الا اعلمك كلمات علمتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبر دينا اذاه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۳۴۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں بیمار ہوا تو آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ! اگر میری موت آگئی ہے تو مجھے راحت دے اور اگر دور ہے تو تندرستی عطا فرما اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: علیؓ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے دوبارہ بتایا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے پیر سے مارا اور دعا کی کہ یا اللہ! اسے عافیت عطا فرمایا فرمایا کہ اسے شفا دے۔ (یہ شعبہ کاشک ہے) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے اس مرض کی شکایت نہیں ہوئی۔

۳۳۳۴۔ حدثنا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر انا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حصر فارحني وان كان متاخرا فارعني وان كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال فاعاد عليه ما قال قال فصر به برجله وقال اللهم عافه او اشفه شعبة الشاك قال فما اشتكيت وجعي بعد

۳۳۳۵۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ”اذھب“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! مرض کو دور کر اے لوگوں کے رب شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے۔ ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی مرض باقی نہ رہے۔)

۳۳۳۵۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا قال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يعادر سقما

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۳۳۶۔ حدثنا احمد بن منيع نايزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۳۳۷۔ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن نا زكريا بن عدی نا عبيدالله هوا بن عمرو عن عبدالملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون قالا كان سعد كان يعلم بينه هولاء الكلمات كما يعلم المكيب العلمان ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن ذبر الصلوة اللهم اني اعوذ بك من الجن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من اذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابواسحاق ہمدانی اس حدیث میں اضطراب کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی کہتے کہ عمرو بن میمون، عمر سے نقل کرتے ہیں اور کبھی کچھ اور کہتے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح ہے۔

۳۳۳۸۔ حدثنا احمد بن الحسن نا اصبع بن الفرج اخبرني عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سعيد بن ابي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة او قال حصاة تسبح بها فقال اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك

یہ حدیث سعد کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۳۳۶۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ وتر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”اللهم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! میں تیرے غصے سے تیری رضا کی اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔)

۳۳۳۷۔ حضرت سعدؓ سے منقول ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ دعا اس طرح یاد کرایا کرتے تھے جس طرح کوئی استاد اپنے شاگردوں کو، اور بتاتے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ کر پناہ مانگا کرتے تھے۔ ”اللهم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! میں بزدلی، بخل، بڑھاپے کی عمر، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۳۳۸۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا اس کے سامنے گھٹلیاں یا کنکر پڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اس سے آسان یا افضل چیز بتاتا ہوں ”سبحان اللہ عدد ما خلق في السماء“..... آخر تک۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے آسان اور زمین کی مخلوقات کے برابر پاکی ہے۔ پھر جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جس جس چیز کو وہ قیامت تک پیدا کرے گا اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی تعریف بھی اتنی ہی تعداد میں اور حول قوت اور اسی کی طرف سے اتنی ہی تعداد میں ہے۔)

۳۳۳۹- حضرت زبیر بن عوامؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی صبح ایسی نہیں کہ اعلان کرنے والا اعلان نہ کرتا ہو کہ ملک قدوس کی تسبیح بیان کرو۔

۳۳۳۹- حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ إِلَّا مُنَادٍ يُنَادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۳۴۰- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ علی بن ابی طالبؓ آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے سینے سے قرآن نکلتا جا رہا ہے۔ میں اس کے حفظ پر قادر نہیں رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوحسنؓ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور جسے بتاؤ گے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہوں گے اور جو کچھ تم سیکھو گے وہ تمہارے سینے میں رہے گا۔ عرض کیا: جی ضرور سکھائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کی شب کو اگر تم رات کے آخری حصے میں اٹھ سکو تو یہ گھڑی ایسی ہے کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائی یعقوبؓ نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا کہ میں عنقریب جمعہ کی رات کو تم لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن اگر اس وقت نہ اٹھ سکو تو درمیانی حصے میں اٹھ جاؤ اور اگر اس وقت بھی نہ اٹھ سکو تو رات کے پہلے تہائی حصے میں ہی چار رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یس، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم جمدہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو۔ پھر جب (قعدہ اخیر میں) التیحات سے فارغ ہونے کے بعد خوب اچھے طریقے سے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرو۔ پھر اسی طرح مجھ پر اور تمام انبیاء پر درود بھیجو، پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت مانگو، پھر ان بھائیوں کے لئے بھی جو تم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ ”اللهم..... العظیم“ تک (یعنی اے اللہ مجھ پر جب تک میں زندہ ہوں اس طرح اپنا رحم فرما کہ میں ہمیشہ کے لئے گناہ ترک کر دوں

۳۳۴۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنَا سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيِّ ابْنَا الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَا ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ وَعِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا بِيَّ وَأُمِّي تَقَلَّتْ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أَعَلِمْتُمْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عََلِمْتَهُ، وَيَبْتِئُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلِمْتَنِي قَالَ إِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالِدُعَاءِ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قَالَ أَحِبُّ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسْطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ يَسٍ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحَمَّ الدُّخَانَ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْم تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ وَفِي الرُّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفْصَلُ فَإِذَا قَرَعْتَ مِنَ التَّشْهُدِ فَأَحْمَدِ اللَّهَ وَأَحْسِنِ التَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ وَصَلِّ عَلَى وَاحِسِينَ وَعَلَى

سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَاسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَلِأَخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ قُلْ فِي مَا خَرَجَ
ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَرْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَيْدًا مَا أَبْقَيْتَنِي
وَأَرْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْزِمُنِي وَأَرْزُقْنِي حُسْنَ
النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِّعِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَأَتْرَامُ
أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِحَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ
تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَأَرْزُقْنِي أَنْ
أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْرِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِّعِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي
لَأَتْرَامُ أَسْئَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِحَلَالِكَ وَنُورِ
وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بَكِتَابِكَ بَصْرِي وَأَنْ تُطَلِّقَ بِهِ
لِسَانِي وَأَنْ تُفْرِحَ بِهِ عَن قَلْبِي وَأَنْ تُشْرَحَ بِهِ صَدْرِي
وَأَنْ تُغْسِلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يَعْزِمُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ
وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ يَا أَبَا الْحَسَنِ تَفَعَّلْ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ أَوْ حُمْسًا
أَوْ سَبْعًا تُحِبُّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا
أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ مَا لَيْتَ عَلَيَّ
إِلَّا حُمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِيمَا نَحَلَا لَا آخِذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ
وَنَحْوَهُنَّ فَإِذَا قَرَأْتَهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَفَلَّتَنَ وَأَنَا أَعْلَمُ
الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً وَنَحْوَهَا فَإِذَا قَرَأْتَهَا عَلَى نَفْسِي
فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنِي وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ
الْحَدِيثَ فَإِذَا أَرَدْتَهُ تَفَلَّتُ وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ
الْأَحَادِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمُ بِهَا حَرْفًا فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ
مُؤْمِنٌ وَرَبُّ الْكُفَّةِ أَبَا الْحَسَنِ-

اور لایحقی باتوں سے پرہیز کروں، مجھے اپنے پسندیدہ امور کے متعلق
خوب غور و فکر کرنا عطا فرما۔ اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا
کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اے ایسی عزت والے
کہ جس کی کوئی اور خواہش نہ کر سکے، اے اللہ! اے رحمن میں تجھ سے
تیرے جلال اور تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ
میرے دل پر اپنی کتاب کا حفظ اس طرح لازم کر دے جس طرح تو نے
مجھے یہ (کتاب) سکھائی ہے۔ اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اسی
طرح تلاوت کروں جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ اے آسمانوں اور
زمین کے خالق، اے ذوالجلال والا کرام، اور اے ایسی عزت والے
جس کی کوئی خواہش بھی نہیں کر سکتا اے اللہ! اے رحمن! تیری عظمت
اور تیرے چہرے کے نور کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ
میری نظر کو اپنی کتاب سے پر نور کر دے اسے میری زبان پر جاری
کر دے، اس سے میرا دل اور سینہ کھول دے اور اس سے میرا بدن
دھو دے اس لئے کہ حق پر میری تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف
تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت یا نیکی
کرنے کی قوت بھی صرف تیری ہی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظیم
ہے) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوحسن تم اسے تین، پانچ یا سات
جمعہ تک پڑھو۔ اللہ کے حکم سے تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اور اس
ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اسے پڑھنے والا کوئی مؤمن
کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پانچ یا سات جمعے
گزرنے کے بعد حضرت علیؓ ویسی ہی مجلس میں دوبارہ خدمت اقدس
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں پہلے چار آیتیں یاد کرتا
جب پڑھنے لگتا بھول جاتا اور اب چالیس آیتیں یاد کرنے کے بعد بھی
پڑھنے لگتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میرے سامنے ہے۔ اس
طرح جب میں کوئی حدیث سنتا تھا تو جب پڑھنے لگتا تو وہ دل سے نکل
جاتی۔ اور اب احادیث سنتا ہوں تو بیان کرتے وقت اس میں سے ایک
حرف بھی نہیں چھوٹتا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رب کعبہ کی
ابوحسن مؤمن ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۳۴۱۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور افضل عبادت دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔

۳۳۴۱۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري نا حماد بن واقد عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن ابى الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسئل وافضل العباد ان يتظار الفرج

احمد بن واقد بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ حماد بن واقد کا حافظہ قوی نہیں۔ ابو نعیم بھی حدیث اسرائیل سے وہ حکیم بن جبیر سے وہ ایک شخص سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ اشبہ ہے۔

۳۳۴۲۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”اللهم..... بخل“ تک (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے سستی، عجز اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں) اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ بڑھاپے اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔

۳۳۴۲۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو معاوية نا عاصم الاحول عن ابى عثمان عن زيد بن ارقم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بك من الكسل والعجز والبخل وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۴۳۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے وہی چیز عطا نہ کریں، یا اس سے اس کے برابر کوئی برائی دور نہ کریں۔ بشرط یہ کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کے لئے دعا نہ کی ہو۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ہم بہت زیادہ دعائیں کرنے لگیں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اس سے بھی زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

۳۳۴۳۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير ابن نفير ان عبادة بن الصامت حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الارض مسلم يدعو بدعوة الا اتاه الله اياها او صرف عنه من الشراء مثلها ما لم يدع بما تم اوقطعة رجم فقال رجل من القوم اذا تكبر قال الله اكثر

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن ثوبان کا نام۔ عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عابد شامی ہے۔

۳۳۴۴۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم سونے کے لئے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرو۔ پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو اور یہ دعا پڑھا کرو ”اللهم..... ارسلت“ تک (یعنی اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا، اپنا کام تجھ کو سونپا اور تجھ ہی کو امید اور خوف کے وقت

۳۳۴۴۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال نبي البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلوة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وقوضت

أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحَاثُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاحًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبَنِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنَّ مُمَّتَ فِي
لِيَلِيكَ مُمَّتٌ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَدْتُهُنَّ لِأَسْتَدْكِرَهُ
فَقُلْتُ أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَقَالَ قُلْ أَمَنْتُ
بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

اپنا پشت پناہ بنایا اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ تجھ سے فرار ہو کر نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ نجات۔ میں تیری نازل کی ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا) پھر اگر تم اس رات مر جاؤ گے تو دین اسلام پر مرو گے۔ براء کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات یاد کرنے کے لئے دہرائے تو ”آمنت برسولک“..... کہہ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو میں تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔ ”آمنت بنیبک“.....

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے براء بن عازبؓ سے منقول ہے لیکن وضو کا ذکر صرف اسی حدیث میں ہے۔

۳۳۴۵۔ حدثنا عبد بن حميدنا محمد بن اسمعيل
بن ابي فديك نا ابن ابي ذئب عن ابي سعيد البراد
عن معاذ بن عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة
مظيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلي لنا قال فادررئته فقال قل فلم اقل
شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا قال قل فقلت ما اقول
قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تُمسي
وتصبح تلك مرات تكفيك من كل شيء

۳۳۴۵۔ حضرت عبد اللہ بن حبیبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شدید تاریک برسات کی رات میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تاکہ آپ ﷺ ہماری امامت کریں۔ چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو تلاش کر لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو۔ میں خاموش رہا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کہو۔ میں اس مرتبہ بھی کچھ نہ بولا تو آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا۔ میں نے عرض کیا: کیا کہوں؟ فرمایا: سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ تمہاری ہر چیز کے لئے کافی ہیں۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ اور ابو سعید براد کا نام ابو سعید بن ابی اسید ہے۔

۳۳۴۶۔ حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى نا
محمد بن جعفر نا شعبة عن يزيد بن حمير عن
عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ابي فقال فقرربنا اليه طعاما فاكل منه ثم
اتي بتمر فكان يأكله ويلقى النوى باصبعيه جمع
السبابة والوسطى قال شعبة وهو ظني فيه ان شاء
الله واللقى النوى بين اصبعين ثم اتى بشراب
فشربه ثم ناولة الذي عن يمينه قال فقال ابي واخذ
بلحام دابته اذع لنا فقال اللهم بارك لهم فيما
رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

۳۳۴۶۔ حضرت عبد اللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے والد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا پھر کھجوریں لائی گئیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کھاتے اور گھٹلی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے رکھ دیتے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ان دو انگلیوں سے گھٹلیاں رکھنا میرا گمان ہے اور انشاء اللہ صحیح ہوگا۔ پھر کوئی پینے کی چیز لائی گئی وہ بھی آپ ﷺ نے پی اور پھر اپنے دائیں طرف والے کو دے دی۔ پھر میرے والد نے آپ ﷺ کی سواری کی لگام پکڑ کر عرض کیا کہ ہمارے لئے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ دعا کی۔ ”اللهم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! انہیں جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما، ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما۔)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۳۷۔ حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص ”استغفر اللہ..... اتوب الیہ“ تک پڑھ کر مغفرت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے خواہ وہ جہاد ہی سے بھاگا ہو۔ (ترجمہ: میں اس اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔)

۳۳۴۷۔ حدثنا محمد بن اسمعيل ناموسى ابن اسمعيل نا حفص بن عمر الشنى ثنى ابى عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فر من الزحف

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۳۳۸۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے عافیت کی دعا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اور اگر چاہو تو اسی (نابینا پن) پر صبر کرو، اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا: آپ ﷺ میرے لئے دعائیہ کیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اس طرح دعا کرو۔ اللھم آخر تک۔ (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نبی محمد ﷺ) کے وسیلے سے سوال کرتا اور متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت کے نبی ہیں۔ میں آپ ﷺ کے وسیلے سے اپنے رب سے اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما۔

۳۳۴۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عثمان بن عمر نا شعبة عن ابى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فامرته ان يتوصا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة انى توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے صرف ابو جعفر کی روایت سے جانتے ہیں یہ خطمی کے علاوہ کوئی اور ہیں۔

۳۳۳۹۔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اگر تم اس وقت ذکرین میں شامل ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔

۳۳۴۹۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا اسحق بن موسى قال ثنى معن ثنى معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت ابا امامة يقول ثنى عمرو بن عبسة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من العبد فى حوف الليل الاجر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۱۔ علماء اس حدیث سے وسیلہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز بلکہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنانا تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا یہ حرام ہے، لیکن اگر محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر بنایا جائے تو جائز ہے۔ واللہ اعلم مترجم۔

۳۳۵۰- حدثنا ابو الوليد الدمشقي نا الوليد بن مسلم ثنا عقير بن معدان انه سمع ابا دوس اليحصبي يحدث عن ابي عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقول ان عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعنى عند القتال

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند قوی نہیں۔

۳۳۵۱- حضرت قیس بن سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں آنحضرت ﷺ کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور مجھے اپنے پاؤں سے مار کر فرمایا: میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔؟ ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "لا حول ولا قوة الا بالله"

۳۳۵۱- حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ناوهب بن جرير ثنى ابى قال سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن ابي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة ان اباة دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يخدومه، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فصرصتني برجله وقال آلا أدلك على باب من ابواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة الا بالله

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۳۳۵۲- حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا نا محمد بن بشر قال سمعت هانئ بن عثمان عن امه حميصه بنت ياسر عن جدتها عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالانامل فانهن مسؤلات مستطقات ولا تغفلن فتتسبن الرحمة

یہ حدیث صرف ہانی بن عثمان نے نقل کی ہے۔ محمد بن ربیعہ بھی ہانی ہی سے نقل کرتے ہیں۔

۳۳۵۳- حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جہاد میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ "اللهم....." آخر تک (یعنی اے اللہ تو ہی میرا قوت بازو اور میرا مددگار ہے۔ میں صرف تیری ہی مدد سے لڑتا ہوں۔

۳۳۵۳- حدثنا نصر بن على الجهضمي قال اخبرني ابى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزى قال

① تقدیس سے مراد یہ پڑھتا ہے "سبحان الملك القدوس" یا پھر "سبح قدوس ربنا ورب الملكة والروح"۔ (مترجم)

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۵۴۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے "لا الہ الا اللہ"..... آخر تک۔

۳۳۵۴۔ حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدیني قال ثنى عبد الله بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبیّ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفه وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له المملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ حماد بن ابی حمید، محمد بن ابوحمید ابوالبراء انصاری ہیں۔ یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

باب ۱۷۵۰۔

۳۳۵۵۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ "اللہم....." آخر تک (یعنی اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر اور میرا ظاہر نیک کر دے اے اللہ تو لوگوں کو جو مال اور اہل و عیال عطا کرتا ہے اس میں سے میں تجھ سے بہترین چیزیں مانگتا ہوں جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ کسی کو گمراہ کریں۔)

باب ۱۷۵۰۔ ۳۳۵۵۔ حدثنا محمد بن حمیدنا علی بن ابی بکر عن الجراح بن الضحاک الکندی عن ابی شیبہ عن عبد الله بن عکیم عن عمر بن الخطاب قال علّمتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قل اللهم اجعل سریرتی خیراً من علایتی واجعل علایتی صالحه اللهم انی اسئلك من صالح ما توتی الناس من المال والاهل والولد غیر الصال ولا المضل

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند قوی نہیں۔

۳۳۵۶۔ حضرت عاصم بن کلیب جری اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ کا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ران پر تھا۔ ٹھنی بند کی ہوئی تھی اور شہادت کی انگلی کو پھیلا کر یہ دعا کر رہے تھے۔ "یا مقلب القلوب....." آخر تک۔

۳۳۵۶۔ حدثنا عقبه بن مکرم نا سعید بن سفیان الجحدري نا عبد الله بن معدان قال أخبرني عاصم بن كليب بالحرمي عن أبيه عن جدّه قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی وقد وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وقبض أصابعه، وبسط السبابة وهو یقول یا مقلب القلوب تبث قلبی علی دینک

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۳۳۵۷۔ حضرت محمد بن سالم، ثابت بنانی سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فرمایا: اے محمد اگر کہیں تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرو ”بِسْمِ اللّٰهِ هَذَا“ تک (یعنی اللہ کے نام سے میں اس درو کے شر سے اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں) پھر ہاتھ ہٹا لو اور یہی عمل طاق تعداد میں کرو اس لئے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ عمل بیان فرمایا تھا۔

۳۳۵۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنِي أَبِي نَامُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ نَنَا ثَابِتُ بْنُ الْبَنَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي بِأَمْرٍ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ حَيْثُ تَشْتَكِي ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ اَعِدْ ذَلِكَ وَتَرَا فَإِنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۳۵۸۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا سکھائی ”اللهم“ آخر تک (یعنی اے اللہ یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا وقت ہے۔ اور تجھے پکارنے والوں کی آواز کا نیز تیری نماز کے حاضر ہونے کا بھی وقت ہے۔ لہذا میں تجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔)

۳۳۵۸۔ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ نَامُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اَبِيهَا اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوْلِي اللّٰهُمَّ هَذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاسْتِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ وَحَضُورُ صَلَوَتِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِي

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حفصہ بنت ابی کثیر یا ان کے والد کو ہم نہیں جانتے۔

۳۳۵۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اخلاص کے ساتھ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ (کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کبار سے بچتا رہے۔

۳۳۵۹۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْيَزِيدِ الصَّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ نَا الْوَلِيدُ بْنُ قَاسِمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالُ عَبْدٌ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُفَضِّيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا احْتَنَبَ الْكِبَارِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۳۶۰۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”اللهم“ آخر تک (یعنی اے اللہ میں تجھ سے بری عادات، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۳۶۰۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ وَاِبُو اسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ

یہ حدیث غریب ہے اور زیادہ بن علاقہ کے چچا کا نام قطبہ بن مالک ہے یہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔

۳۳۶۱۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا اسمعيل بن ابراهيم انا الحجاج بن ابى عثمان عن ابى الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال بينا نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبنا لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر ماتت كنهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

۳۳۶۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے ”اللہ اکبر..... اصیلا“ تک پڑھا۔ (یعنی اللہ بہت بڑا ہے، تمام اور بہت سی تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور اللہ صبح و شام پاکی والا ہے) آپ ﷺ نے (نماز کے بعد) پوچھا کہ کس نے یہ کہا تھا؟ ایک شخص نے عرض کیا: میں نے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑے۔

یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔ حجاج بن ابی عثمان، حجاج بن میسرہ صواف ہیں۔ ان کی کنیت ابو صلت ہے اور یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

۳۳۶۲۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا اسمعيل بن ابراهيم قال اخبرني الحريري عن ابى عبد الله الحمري عن عبد الله بن الصامت عن ابى ذر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته او ان ابا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بى انت وامى يا رسول الله اى الكلام احب الى الله فقال ما اصطفاه الله لِملائكته سبحان ربى وبحمده سبحان ربى وبحمده

۳۳۶۲۔ حضرت ابو ذرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی یا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی عیادت کی تو ابو ذرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ فرمایا: جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند کر رکھا ہے۔ ”سبحان اللہ و بحمده۔“

۳۳۶۳۔ حدثنا ابو هشام الرقاعى محمد بن يزيد الكوفى نا يحيى بن اليمان نا سفيان عن زيد العمى عن ابى اياس معاوية بن قره عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة قالوا فماداً نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية فى الدنيا والاخرة

۳۳۶۳۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔

یہ حدیث حسن ہے۔ یحییٰ ہی نے اس حدیث میں یہ عبارت زیادہ بیان کی ہے کہ لوگوں نے پوچھا: تو پھر ہم اس وقت کیا دعا کیا کریں۔ فرمایا: اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ محمود بن غیلان بھی کعب اور عبدالرزاق سے وہ ابو احمد اور ابو نعیم سے وہ سفیان سے وہ زید سے وہ معاویہ سے وہ انس سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابواسحاق ہمدانی نے بھی یہ حدیث بریدہ بن ابی مریم سے انہوں نے انس سے اور انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے اسی کی مانند نقل کی ہے۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۷۵۱۔

۳۳۶۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا: جو ذکر الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ذکر ان پر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیتا ہے لہذا وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر حاضر ہوں گے۔

۳۳۶۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا "سبحان اللہ..... اللہ اکبر" تک کہنا مجھے ان سب چیزوں سے عزیز ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (یعنی دنیا و ما فیہا سے۔)

۳۳۶۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی دعائیں رزق نہیں کی جاتیں۔ روزے دار کی افطار کے وقت اور عادل حاکم کی نیز اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔

یہ حدیث حسن ہے اور سعدان بنی سعدان بن بشیر ہیں ان سے عیسیٰ بن یونس، ابو عاصم اور کئی بڑے محدثین روایت کرتے ہیں۔ ابو جہاد کا نام سعد طائی اور کنیت ابو مدلہ ہے یہ ام المؤمنین عائشہ کے مولیٰ ہیں۔ ہم انہیں اسی حدیث سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث ان سے طول کے ساتھ منقول ہے۔

باب ۱۷۵۱۔

۳۳۶۴۔ حدثنا ابو کریب محمد بن العلاء نا ابو معاویة عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم انقالهم فياتون يوم القيامة خفافا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۶۵۔ حدثنا ابو کریب نا ابو معاویة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۶۶۔ حدثنا ابو کریب نا عبد الله بن نمير عن سعد ان القمي عن ابي مجاهد عن ابي مدلة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين

۳۳۶۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہم.....“ آخر تک (یعنی اے اللہ! جو کچھ تو نے مجھے سکھایا اس سے مجھے فائدہ عطا فرما اور مجھے مزید علم عطا فرما۔ ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور میں دوزخیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔)

۳۳۶۷۔ حدثنا ابو کریب نا عبد اللہ بن نمیر عن موسیٰ بن عبیدہ عن محمد بن ثابت عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انفعنی بما علمتنی ما ینفعنی وزدنی علما الحمد لله علی کل حال واعوذ باللہ من حال اهل النار یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۳۳۶۸۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نامہ اعمال لکھنے والوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو ذکر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور انہیں دنیا کے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا وہ کہتے ہیں: ہم نے انہیں تیری تعریف بیان کرتے ہوئے، تیری بزرگی بیان کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ فرماتے ہیں: اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ عرض کرتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیں تو اور شدت سے تمہید و بزرگی بیان کرنے لگیں اور اس سے زیادہ شدت سے ذکر کرنے لگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ: تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اور زیادہ شدت اور حرص سے اسے مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ: دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ دوزخ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ بھاگیں، اور زیادہ ڈریں اور پہلے سے بھی زیادہ پناہ مانگیں۔

۳۳۶۸۔ حدثنا ابو کریب نا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ او عن ابی سعید بالخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لله ملائکة سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس فاذا وجدوا اقواما یدکرون اللہ تنادوا هلموا الی بعتکم فیحیون فیحفون بهم الی السماء الدنيا فیقول اللہ ائی شیء ترککم عبادی یصنعون فیقولون ترکناهم یحمدونک ویمجدونک ویدکرونک قال فیقول هل راؤنی قال فیقولون لا قال فیقول فکیف لوراؤنی قال فیقولون لوراؤک لکانوا اشد تمجیدا و اشد تمجیدا و اشدک ذکرًا قال فیقول وائی شیء یطلبون قال فیقولون یطلبون الجنة قال فیقول هل راؤها فیقولون لا قال فیقول فکیف لوراؤها قال فیقولون لوراؤها لکانوا اشد لها طلبا و اشد علیها حرصا قال فیقول فمن ائی شیء یتعودون قالوا یتعودون من النار قال فیقول فهل راؤها فیقولون لا قال فیقول فکیف لوراؤها فیقولون لوراؤها لکانوا اشد منها هربا و اشد منها خوفا و اشد منها تعودا قال فیقول انی اشهدکم انی قد عفرت لهم فیقولون ان فیهم فلانا الخطاء کم یردھم انما جاء ہم لحاجة فیقول هم القوم لا یسقی لهم جلیس

چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ان میں ایسے ہی اپنے کس کام سے آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہریرہؓ سے اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔

۳۳۶۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”لاحول ولا قوة الا باللہ“ زیادہ پڑھا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ مکمل کہتے ہیں کہ جو شخص ”لاحول ولا قوة الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ“ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرر کے ستر دروازے دور کر دیتے ہیں ان میں سے ادنیٰ ترین فقر ہے۔

۳۳۶۹۔ حدثنا ابو کریب نا ابو خالد الاحمر عن هشام بن الغاز عن مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَذْنَاهُ الْفَقْرُ

اس حدیث کی سند متصل نہیں کیونکہ مکحول کا ابو ہریرہؓ سے سماع ثابت نہیں۔

۳۳۷۰۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کی ایک ”اختیاری“ دعا قبول کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔ اور یہ انشاء اللہ ہر اس شخص کو ملنے والی ہے جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا۔

۳۳۷۰۔ حدثنا ابو کریب نا ابو معاویة عن الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَّةٌ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۷۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔

۳۳۷۱۔ حدثنا ابو کریب نا ابو معاویة وابن نمير عن الاعمش عن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شَيْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِحُ أَيْتَهُ هَرُولَةً

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اعمش سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ ”میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں“ سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی رحمت و مغفرت اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ بعض علماء محدثین بھی اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تقرب ڈھونڈتا ہے اور اس کے مامورات اور احکام بجالاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت و مغفرت نازل ہوتی ہے۔

۳۳۷۲- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اسی طرح عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگا کرو۔

۳۳۷۲- حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۳۷۳- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص شام کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گا ”اعوذ..... خلق“ تک تو اسے اس رات کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اسے سکھایا کرتے اور ہر رات پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان میں سے کسی لڑکی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

۳۳۷۳- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مَن قَالَ جِئِنِّي يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تَلُكُ اللَّيْلَةَ قَالَ سَهِيلٌ فَكَانَ أَهْلُنَا تَعْلَمُونَهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلِدَعَتْ جَارِيَةً مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْهَا وَجَعًا

یہ حدیث حسن ہے۔ مالک اسے سہیل بن ابی صالح سے وہ اپنے والد سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر اور کئی راوی یہ حدیث سہیل سے روایت کرتے ہوئے اس میں ابو ہریرہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔

۳۳۷۴- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعا رسول اللہ ﷺ سے سیکھی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ”اللهم..... آخرتک (یعنی اے اللہ! مجھے توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں، تیری نصیحت کی اتباع کروں اور تیری وصیت کو یاد رکھوں۔)

۳۳۷۴- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا وَكَيْعُ نَا أَبُو فُضَالَةَ الْفَرَحِ بْنِ فُضَالَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ دَا الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۳۷۵- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی

۳۳۷۵- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ نَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلِيمٍ عَنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

ہے۔ خواہ دنیا ہی میں اسے وہ چیز عطا کر دی جائے یا اسے اس کے لئے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ بشرط یہ کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحم کے لئے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یعنی یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ رَجُلٍ يَدْعُوا اللَّهَ بَدْعَاءٍ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ، فَمَا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ، فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنْ يُدْخِرَ لَهُ، فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُكْفَرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدَرٍ مَادَعًا مَا لَمْ يَدْعُ بِأَتَمِّ أَوْ قَطِيعَةٍ رَجِمَ أَوْ يَسْتَعْجِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ قَالُوا يَقُولُ دَعْوَتِ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۳۳۷۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھ یہاں تک بلند کرے کہ اس کے بغل کھل جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کریں بشرطیکہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ جلدی کس طرح کرے گا؟ یعنی اس طرح کہنے لگے کہ میں نے بہت مانگا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔

۳۳۷۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ نَاعِلِيُّ بْنُ عَبْدِ قَالَ نَاعِلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ عَبْدٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَبْطُءَ وَيَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يُعَجَّلْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ عَجَلْتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا

یہ حدیث زہری بھی ابو سعید سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کرے یعنی یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔

۳۳۷۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اللہ کی بہترین عبادت ہے۔

۳۳۷۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ نَابِئًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ نَابِئًا عَنْ مَوْسَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ سَمِيرِ بْنِ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۳۳۷۸۔ حضرت ابو سلمہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ دیکھے کہ کیا تمنا کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمناؤں میں سے کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ ①

۳۳۷۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ نَاعِمٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَبِظْرًا أَحَدِكُمْ مَا لَدَىٰ يَتَمَنَّىٰ فَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَكْتُبُ لَهُ مِنْ أَمْرِيَّتِهِ

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۳۷۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کیا کرتے تھے۔ ”اللهم“..... آخر تک (یعنی اے اللہ! مجھے میری ساعت اور بصر سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے) ② اور مجھ پر جو ظلم

۳۳۷۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ نَابِئًا عَنْ جَابِرِ بْنِ نَوْحٍ قَالَ نَابِئًا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

② یعنی انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ نیک چیز کی آرزو کرے تاکہ وبال آخرت کا سبب نہ بن جائے۔ (مترجم)۔ ③ میرا وارث کر دے یعنی انہیں میری زندگی تک باقی رکھ۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)۔

يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي
وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي
وَخُدْمَتُهُ بِنَارِي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۸۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے رب سے اپنی ہر حاجت مانگے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے۔

۳۳۸۰۔ حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السجزي ثنا قطن البصري نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع

یہ حدیث غریب ہے کئی راوی اسے جعفر بن سلیمان سے وہ ثابت بنانی سے اور وہ رسول خدا ﷺ سے نقل کرتے ہیں اس سند میں انہوں نے انسؓ کا ذکر نہیں کیا۔ صالح بن عبد اللہ بن جعفر بن سلیمان سے وہ ثابت بنانی سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ”ہر شخص کو اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہئیں۔ یہاں تک کہ نمک اور جوتے کا تمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی اسی سے مانگے۔“ یہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے جو قطنی نے جعفر بن سلیمان سے نقل کی ہے۔

مناقب وخصائل کے متعلق رسول اکرم ﷺ

أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

سے منقول احادیث کے ابواب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۱۷۵۲۔ آنحضرت ﷺ کی فضیلت۔

باب ۱۷۵۲۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۳۸۱۔ حضرت واہلہ بن اسحقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی اولاد سے اسمعیلؑ کو چنانہ سے بنو کنانہ کو ان میں سے قریش کو ان میں سے بنو ہاشم کو اور ان میں سے مجھے۔

۳۳۸۱۔ حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي نا محمد بن مصعب نا الاوزاعي عن أبي عمارة عن وائل بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم اسمعيل واصطفى من ولد اسمعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۸۲۔ حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ قریش آپس میں بیٹھ کر اپنے حسب کا ذکر کرنے لگے تو آپ ﷺ

۳۳۸۲۔ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي نا عبدة الله بن موسى عن اسمعيل بن ابي خالد عن

کی مثال ایسے درخت سے دی جو کوئی پر ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے بہترین فرماتے میں پیدا کیا۔ پھر دو فرقوں کو پسند کیا۔ پھر قبیلوں میں سے پسند کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں کیا پھر گھروں کو چنا اور مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ چنانچہ میں ان سے ذات میں بھی بہتر ہوں اور گھرانے میں بھی۔

یزید بن ابی زیاد عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تُرَيْسًا جَلَسُوا فَتَدَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا مِثْلَكَ مِثْلَ نَخْلَةٍ فِي كَبُورَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخُلُقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرْقِهِمْ وَخَيْرِ الْفِرْقَيْنِ ثُمَّ خَيْرِ الْقَبَائِلِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ خَيْرِ الْبُيُوتِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا

یہ حدیث حسن ہے اور عبد اللہ: حارث بن نوفل ہیں۔

۳۳۸۳۔ حضرت مطلب بن ابی وداعہ فرماتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب، رسول اللہ (ﷺ) کے پاس حاضر ہوئے گویا کہ وہ (قریش وغیرہ سے) کچھ سن کر آئے تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ﷺ پر سلامتی ہو۔ پھر فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے بہترین لوگوں سے مجھے پیدا کیا۔ پھر دو گروہ کئے اور مجھے ان دونوں میں سے بہتر گروہ میں سے پیدا کیا۔ پھر ان کے کئی قبیلے بنائے اور مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر ان میں سے کئی گھرانے بنائے ان میں سے بھی بہترین گھرانے میں مجھے پیدا کیا اسی طرح بہترین ذات میں بھی۔

۳۳۸۳۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفيان عن يزيد بن ابی زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن المطلب بن ابی وداعة قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه سمع شيئاً فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله عليك السلام قال انا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً

یہ حدیث حسن ہے۔ سفیان ثوری بھی یزید بن ابی زیاد سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یعنی اسماعیل بن ابی خالد کی حدیث جو انہوں نے یزید بن ابی زیاد سے انہوں نے عبد اللہ بن حارث سے اور انہوں نے عباس بن عبدالمطلب سے نقل کی ہے۔

۳۳۸۴۔ حضرت واثلہ بن اسقع کہتے ہیں..... الخ۔ اس کا ترجمہ حدیث نمبر ۳۳۸۸ میں گزر چکا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۳۸۴۔ حدثنا محمد بن اسمعيل نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نا الوليد بن مسلم نا الازاعي نا شداد أبو عمار نبی واثلہ بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى هاشمياً من قريش واصطفاني

مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

۳۳۸۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ (ﷺ) آپ پر نبوت کب واجب ہوئی فرمایا: جب آدم کی روح اور جسم تیار ہو رہا تھا۔

۳۳۸۵۔ حَدَّثَنَا ابُو هَمَامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شِجَاعٍ الْوَلِيدُ الْبَغْدَادِيُّ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنِ اَبِي سَلَمَةَ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ قَالَ وَاَدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۳۸۶۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میں قبر میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے نکلوں گا، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور اگر یہ نا امید ہوں گے تو میں انہیں بشارت دوں گا اور اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اولادِ آدم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہوں اور کوئی فخر نہیں۔

۳۳۸۶۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يسئوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۸۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کی زمین سب سے پہلے پھٹے گی پھر مجھے جنت کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس جگہ تمام مخلوقات میں سے میرے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔

۳۳۸۷۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابى خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسني الحلة من حليل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحدا من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۵۳۔

باب ۱۷۵۳۔

۳۳۸۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگا کرو۔ لوگوں نے پوچھا: وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا: جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ وہ صرف ایک ہی شخص کو عطا کیا جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔

۳۳۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نا ابو عاصم نا سفیان وهو الثوري عن ليث وهو ابن ابى سليم قال ثنى كعب بن نبي ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة قالوا يا رسول الله وما الوسيلة قال اعلى درجة في الجنة لا ينالها

إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَرَجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ

یہ حدیث غریب ہے اس کی سند میں مذکور کعب مشہور شخص نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ لیث بن ابی سلیم کے علاوہ کسی اور نے ان سے

روایت کی ہو۔

۳۳۸۹۔ حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اور تمام انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا۔ اسے مکمل اور خوبصورت کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے اور تعجب کرتے کہ یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی۔ میری مثال بھی انبیاء میں اسی طرح ہے اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن انبیاء کا امام ہوں گا۔ اور (ان کی) شفاعت کروں گا۔ کوئی فخر نہیں۔

۳۳۸۹۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيّل بن أبي بن كعب أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ نَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبْنَةِ وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبْنَةِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۳۹۰۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ میرے ہی ہاتھ میں حمد الہی کا جھنڈا ہوگا کوئی فخر نہیں، اس دن آدم سمیت ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی قبر کی زمین سب سے پہلے پھٹے گی اور کوئی فخر نہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

۳۳۹۰۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن بن جدعان عن أبي نصرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِيَوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِيَوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۳۹۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اس لئے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں پھر میرے لئے وسیلہ مانگو یہ جنت کا ایک درجہ ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ اس کا مستحق ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جو میرے لئے وسیلہ مانگے

۳۳۹۱۔ حدثنا محمد بن اسمعيل اخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة انا كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جُبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

ثُمَّ سَلُّوا لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي
اِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ وَمَنْ
سَاَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبدالرحمن بن جبیر قریشی ہیں اور مصر کے رہنے والے ہیں جب کہ نفیر کے پوتے عبدالرحمن شامی ہیں۔

۳۳۹۲۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ ﷺ کے
انتظار میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ ﷺ تشریف لائے
اور جب ان کے قریب پہنچے تو ان کی باتیں سنیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ابراہیمؑ کو دوست بنا لیا۔ دوسرا
کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ سے کلام کرنا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز
بات ہے۔ تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور کن سے پیدا
ہوئے ہیں۔ چوتھا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا۔ چنانچہ آپ ﷺ
آئے اور سلام کرنے کے بعد فرمایا: میں نے تم لوگوں کی باتیں اور تمہارا
تعجب کرنا سن لیا ہے کہ ابراہیمؑ اللہ کے دوست ہیں اور وہ اسی طرح
ہیں۔ موسیٰ اللہ کے چنے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ عیسیٰ روح
اللہ اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ آدم کو
اللہ نے اختیار کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ ❶ جان لو کہ میں اللہ کا محبوب
ہوں اور یہ فخر یہ نہیں کہہ رہا، میں ہی حمد کے جھنڈے کو قیامت کے
دن اٹھاؤں گا۔ یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں ہی سب سے پہلے
شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے
گی۔ یہ بھی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ میں ہی سب سے پہلے جنت کی
زنجیر کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولیں گے۔ پھر میں
اس میں مومن فقراء کے ساتھ داخل ہوں گا۔ یہ بھی بطور فخر نہیں کہہ رہا
ہوں گزشتہ اور آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوں یہ بھی
بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ (بلکہ بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں۔)

۳۳۹۲۔ حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي
نا عبدة الله بن عبدالمجيد نا زمعة نا صالح بن
سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال
جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى اذا دنا منهم
سمعهم يتذكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم
عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم
خليلا وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى
كلمته تكليما وقال اخر فعيسى كلمة الله وروحه
وقال اخر ادم اضطفاه الله فخرج عليهم فسلم
وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم
خليل الله وهو كذلك وموسى نحيى الله وهو
كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وادم
اضطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا
فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر
وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر
وانا اول من يحرك خلق الجنة فيفتح الله لي
فقد جليتها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم
الاولين والاخرين ولا فخر
یہ حدیث غریب ہے۔

۳۳۹۳۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ توریت میں

۳۳۹۳۔ حدثنا زيد بن احزم الطائي البصري ثنا

❶ یعنی انبیاء کے متعلق مذکور تمام درجات حق ہیں۔ (مترجم)

محمد (ﷺ) کی صفات مذکور ہیں اور یہ کہ عیسیٰ بن مریم ان کے ساتھ دفن ہوں گے ابو مودود کہتے ہیں کہ حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔

ابوقتیبة مسلم بن قتیبة قال ثنی ابو مودود المدنی نا عثمانُ بن الضحاک عن محمد بن یوسف بن عبد اللہ بن سلام قال مکتوبٌ فی التورۃ صفةٌ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو مَوْدُودٍ قَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عثمان بن ضحاک بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ ان کا معروف نام ضحاک بن عثمان مدینی ہیں۔

۳۳۹۳۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ میں داخل ہوئے تھے اس دن ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور جس دن انتقال ہوا اس روز ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ہم نے ابھی آپ ﷺ کو دفن کرنے کے بعد ہاتھوں سے خاک بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دل بدل گئے۔ ❶

۳۳۹۴۔ حدثنا بشر بن هلال الصواف البصرى نا جعفر بن سليمان الضبيعي عن ثابت عن انس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي وانا لفي دفته حتى انكرنا قلوبنا

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۵۲۔ آنحضرت ﷺ کی پیدائش۔

باب ۱۷۵۴۔ ماجاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم

۳۳۹۵۔ حضرت قیس بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے قبیلہ بنو نضیر بن لیث کے ایک شخص قباث بن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ کہنے لگے:

۳۳۹۵۔ حدثنا محمد بن بشار العبدی ناوهب بن جریر نا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخزومة قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل قال وسئل عثمان بن عفان قبات بن اشيم اخا بني يعمر بن ليث انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا اقدم منه في الميلاد قال ورأيت خذق الطير اخضر مجيلا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

❶ یعنی دلوں میں ایمان کا وہ نور نہ رہا جو آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ یہ مقام عبرت ہے کہ آج اتنی مدت گزر جانے کے بعد کتنا فرق آ گیا ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۷۵۵۔ نبوت کی ابتداء کے متعلق۔

۳۳۹۶۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ابوطالب تجارت کے لئے شام کی طرف گئے تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ چل دیئے۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو وہ اپنے صومغہ (معتکف) سے اترے۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹوں سے کجاوے اتار دیئے۔ وہ راہب ان کے پاس آیا۔ یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ نہ کبھی ان لوگوں کی طرف آیا اور نہ ہی کبھی التفات کیا۔ وہ اپنے کجاوے اتار رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان گھس گیا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے مالک کے رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ قریش کے مشائخ کہنے لگے۔ تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا: جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں رہا جو سجدے میں نہ گر گیا ہو۔ اور یہ دونوں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی اوپر والی ہڈی پر سب کی طرح ثبت ہے پھر واپس گیا اور ان کے لئے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ ﷺ اونٹ چرانے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ آپ جب تشریف لائے تو بدلی آپ ﷺ پر سایہ کئے ہوئے ساتھ چل رہی تھی۔ لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ ﷺ پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت بھی ان کی طرف جھک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ وہیں کھڑا نہیں قسم دے کر کہنے لگا کہ انہیں روم نہ لے جاؤ وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات رومی آئے ہیں اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے باہر نکلے گا۔ لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ متعین کئے گئے ہیں جب ہمیں تم لوگوں کا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہیں کہنے لگے ہمیں بتایا گیا کہ وہ (نبی) تمہارے راستے

باب ۱۷۵۵۔ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۳۳۹۶۔ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجِيُّ الْبَغْدَادِيُّ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غِرْوَانَ نَا يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطَ فَحَلَّوْا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمْرُؤُونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهَمْ يَحْكُونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ أَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَلَّمَكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كَتَفِهِ مِثْلُ التَّفَاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا آتَاهُمْ بِهِ فَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الْأَبْلِ فَقَالَ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ تَطْلُهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّحْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءِ الشَّحْرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّحْرَةِ

مَا

عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَدْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا جِئْنَاكَ هَذَا النَّبِيُّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأَنَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبْرَهُ بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا فَقَالَ هَلْ خَلَفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ

میں ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو کیا کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے؟ کہنے لگے: نہیں۔ راہب نے کہا کہ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ پھر وہ اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا ولی کون ہے؟ کہنے لگے: ابوطالب۔ وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ ﷺ کو واپس بھیج دیا اور ابو بکرؓ اور بلالؓ کو آپ ﷺ کے ساتھ بھیجا اور پھر اس راہب نے انہیں کھٹک اور زیتون بطور تحفہ دیا۔ ❶

قَالُوا إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبْرَهُ، بَطْرِيْقَكَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ، قَالُوا لَا قَالَ فَبَا يَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ، قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ أَيُّكُمْ وَوَيْلُهُ، قَالُوا أَبُو طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ، حَتَّى رَدَّهُ، أَبُو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ، أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا وَزَوْدَهُ، الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْبَكِ وَالزَّيْتِ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۷۵۶۔ آپ ﷺ کی عمر کے تھے جب مبعوث ہوئے۔

باب ۱۷۵۶۔ مَا جَاءَ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنُ كَمْ كَانَ حِينَ بُعِثَ

۳۳۹۷۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی چنانچہ آپ ﷺ مکہ میں تیرہ سال اور مدینہ میں دس سال رہے پھر تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

۳۳۹۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَعِيلَ نَا مُحَمَّدَ بْنَ بَشَارِ نَا ابْنِ أَبِي عَدَى عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشَرَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتُوِّفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۹۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات پینتیس برس کی عمر میں ہوئی۔

۳۳۹۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ نَا ابْنِ أَبِي عَدَى عَنِ هِشَامِ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

محمد بن بشار بھی اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری بھی ان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۳۹۹۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نہ بہت لمبے تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ کا رنگ نہ بالکل سفید تھا اور نہ بالکل گندم گوں، آپ ﷺ کے سر کے بال نہ بالکل گھٹھر یا لے تھے نہ بالکل سیدھے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث کیا تو آپ ﷺ کی عمر چالیس برس تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ تیرہ سال مکہ میں رہے، پھر دس برس مدینہ میں اور تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ

۳۳۹۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رِبْعَةَ بِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ وَلَا بِالْمُهَقِّ وَلَا بِالْأَدَمِ وَكَيْسَ بِالْحَجْعِدِ الْقَطِطِ وَلَا

❶ محدثین میں سے بعض اس حدیث کو اس لئے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ بلالؓ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ابو بکرؓ آنحضرت ﷺ سے بھی دو سال چھوٹے تھے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مجال ثقات میں۔ لہذا ممکن ہے کہ کسی راوی کا ادراج ہو۔ (مترجم)

بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بِيضَاءً

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۵۷۔ مَا جَاءَ فِي آيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ

۳۴۰۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا نَا ابوداؤد الطيالسي نا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم على ليالي بعثت اني لأعرفه الآن

۳۴۰۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَدَاوَلُ مِنْ قِصْعَةٍ مِنْ غُدُوَّةٍ حَتَّى اللَّيْلِ تَقُومُ عَشْرَةٌ وَتَقْعُدُ عَشْرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ قَالَ مِنْ آيِ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۳۹۱۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک کونڈے سے صبح سے رات تک (ہم لوگ) کھاتے رہے۔ وہ اس طرح کہ دس آدی اٹھتے اور دس بیٹھ جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سمرہ سے پوچھا کہ کیا اس میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا؟ فرمایا: تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو اس میں اسی طرف سے بڑھایا جا رہا تھا۔ اور ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوعلاء کا نام یزید بن عبداللہ الشخیر ہے۔

باب ۱۷۵۸۔

باب ۱۷۵۸۔

۳۴۰۲۔ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنِ عِبَادِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

۳۳۹۲۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر پتھر اور درخت آپ ﷺ کو سلام کرتا کہ اے رسول اللہ ﷺ آپ پر سلام۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ کئی حضرات اسے والید بن ابی ثور سے اور وہ عباد بن ابی زید سے نقل کرتے ہیں۔ فردہ بھی انہی میں ہیں جن کی کنیت ابو مغراء ہے۔

باب ۱۷۵۹۔

باب ۱۷۵۹۔

۳۴۰۳۔ حدثنا محمود بن غیلان نا عمر بن یونس عن عکرمة بن عمار عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الی یزق جذع واتخذوا له منبراً فخطب علیہ فحن الجذع حنین الناقۃ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسسه فسکت

۳۴۰۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے آپ ﷺ کے لئے منبر بنا دیا جب آپ ﷺ اس پر خطبہ دینے لگے تو وہ تنے اس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی روتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نیچے اترے اور اسے چھوا تو وہ چپ ہو گیا۔

اس باب میں ابی، جابر، ابن عمر، اہل بن سعد، ابن عباس اور ام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

غریب ہے۔

۳۴۰۴۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ میں کس طرح یقین کروں کہ آپ ﷺ نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں اس خوشے سے کھلوادوں کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب تمہیں یقین آجائے گا چنانچہ آپ ﷺ نے حکم دیا تو وہ خوشہ درخت سے ٹوٹ کر آپ ﷺ کے سامنے گر گیا۔ پھر آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا اور وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔

۳۴۰۴۔ حدثنا محمد بن اسماعیل نا محمد بن سعید نا شریک عن سماک عن ابی ظبیان عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما اعرف انک نبی قال ان دعوت هذا العذق من هذه تشهد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ینزل من النخلۃ حتی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابی

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۴۰۵۔ حضرت ابو زید بن اخطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھر اور میرے لئے دعا کی۔ راوی حدیث غزیرہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سو بیس برس تک زندہ رہے اور ان کے سر کے صرف چند بال سفید تھے۔

۳۴۰۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عاصم نا عزرة بن ثابت نا علباء بن احمر نا ابو زید بن اخطب قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی وجہی ودعالی قال عزرة انه عاش مائة وعشرين سنة وکیس فی رأسه الاشعیرات بیض

یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابو زید کا نام عمرو بن اخطب ہے۔

۳۴۰۶۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز میں ضعف محسوس کیا

۳۴۰۶۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری نا معن قال عرضت علی مالک بن انس عن اسحاق

ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو بھوک ہے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لئے ہے؟ کہنے لگیں۔ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جوگی روٹیاں نکالیں اور انہیں اوڑھنی میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور باقی اوڑھنی مجھے اوڑھادی اور مجھے آنحضرت ﷺ کے پاس بھیج دیا۔ میں وہاں پہنچا تو آنحضرت ﷺ کو بہت سے لوگوں کے ساتھ پایا۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کھانا دے کر؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اٹھو۔ وہ لوگ چل پڑے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا اور انہیں ماجرا سنایا۔ ابو طلحہ فرمانے لگے: ام سلیم، رسول اللہ ﷺ صحابہ کے ساتھ تشریف لارہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ ابو طلحہ نکلے اور آپ ﷺ سے ملے پھر دونوں تشریف لائے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کر دیں۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں توڑنے کا حکم دیا اور ام سلیم نے ان پر گھی ڈال دیا۔ اور پھر آنحضرت ﷺ نے اس پر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور حکم دیا کہ دس آدمیوں کو بلائے۔ وہ کھا کر سیر ہوئے اور چلے گئے پھر دس کو بلایا..... اور اس طرح سب لوگ کھا کر سیر ہو گئے اور وہ ستر یا اسی آدمی تھے۔

بن عبد اللہ بن ابی طلحہؓ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ اَبُو طَلْحَةَ لَامٌ سَلِيمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا اَعْرَفَ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلَّ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَابًا مِنْ شَعْبِئِ ثُمَّ اَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ فِي يَدِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلْتَنِي اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ بِهٖ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلْتُكَ اَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَطْعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ فَقَوْمُوا قَالَ فَاَنْطَلَقُوا فَاَنْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ يَا امَّ سَلِيمٍ فَذِجَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَكَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعِمُهُمْ قَالَتْ اُمُّ سَلِيمٍ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاَنْطَلَقَ اَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْمِي يَا امَّ سَلِيمٍ مَا عِنْدَكَ فَاَتَتْهُ بِذَلِكَ الخُبْزِ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَّتْ وَعَصْرَتْ اُمُّ سَلِيمٍ بِعُكَّةٍ لَهَا فَاَدَمَّتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ ذَنْ بَعْشَرَةٍ فَاِذَنْ لَهُمْ فَاَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اِنَّ ذَنْ لِبَعْشَرَةٍ فَاِذَنْ لَهُمْ فَاَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ خَرَجُوا فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ اَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا

باب ۱۷۶۵-

۳۴۱۲- حدثنا سفیان بن وکیع نا حمید بن عبدالرحمن نازہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا مثل القمر
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۶۶-

۳۴۱۳- حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت براءؓ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا: نہیں۔ چاند کی طرح تھا۔

باب ۱۷۶۷-

۳۴۱۳- حدثنا محمد بن اسمعيل نا ابو نعیم نا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن هرمر عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علي رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة اذا مشى تكفا تكفيا كأنما ينحط من صب لم ارقبله ولا بعده مثله
صلى الله عليه وسلم

باب ۱۷۶۸-

۳۴۱۳- حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نہ لمبے تھے نہ چھوٹے قد کے، آپ ﷺ کی ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت ہوئے تھے۔ سر بھی بڑا تھا اور جوڑ (گھٹنے، کہنیاں وغیرہ) بھی۔ سینے سے ناف تک باریک بال تھے۔ جب چلتے تو آگے کی طرف جھکتے۔ گویا کہ کوئی بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو۔ میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور بعد آپ ﷺ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن وکیع اسے ابی سے اور وہ مسعودی سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۶۹-

۳۴۱۴- حدثنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن ابی حلیمه من قصر الاحنف واحمد بن عبدة الضبی وعلی بن حجر قالو انا عیسی بن یونس نا عمر بن عبد الله مولى غفرة ثنی ابراهیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربة من القوم ولم يكن بالجد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكثم وكان في الوجه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاس والكتد اجرد ذو مسربة

باب ۱۷۷۰-

۳۴۱۴- حضرت علیؓ جب نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان کرتے تو کہتے کہ آپ ﷺ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد تھے۔ بلکہ میانہ قد تھے، آپ ﷺ کے بال نہ بہت گھٹکھریا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے۔ بلکہ تھوڑے تھوڑے گھٹکھریا لے تھے۔ بہت موٹے بھی نہیں تھے۔ آپ ﷺ کا چہرہ بالکل گول نہ تھا بلکہ چہرے میں قدرے گولائی تھی۔ رنگ سرخ و سفید، آنکھیں سیاہ، پلکیں لمبی، جوڑ بڑے اور شانہ چوڑا تھا اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا۔ آپ ﷺ کے بدن پر بال نہیں تھے۔ بس سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیری تھی، ہتھیلیاں اور تلوے بھرے بھرے تھے، جب چلتے تو پیر زمین پر گاڑ کر چلتے گویا کہ نیچے اتر رہے ہوں۔ اگر کسی کی طرف دیکھتے تو توپورے گھوم کر دیکھتے آنکھیں پھیر کر نہیں۔ آپ ﷺ کے شانوں کے درمیان نبوت

شَتْنُ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا التَفَّتْ التَّفَّتْ مَعًا بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَحْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَالنَّبِيُّهُمْ عَرِيكَةٌ وَأَكْرَمُهُمْ عَشْرَةٌ مَنْ رَأَى بَدِيهَةَ هَابِهِ، وَمَنْ خَالَطَهُ، مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعَتُهُ لَمْ أَرَقَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ، مِثْلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی مہر تھی، وہ خاتم النبیین اور سب سے اچھے سینے والے (حسد سے پاک)، سب سے بہترین لہجے والے، سب سے نرم طبیعت والے اور بہترین معاشرت والے تھے۔ جو اچانک آپ ﷺ کو دیکھتا وہ ڈر جاتا اور جو ملتا محبت کرنے لگتا۔ آپ ﷺ کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور بعد آپ ﷺ سا کوئی نہیں دیکھا۔

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اصمعی کو آپ کی صفات کی تفسیر کرتے ہوئے سنا کہ ”تمغط“ بہت لمبے کو کہتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ ”تمغط فی نشابته یعنی اپنا تیر بہت کھینچا“ ”مسترد“ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بدن کوتاہ قد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھسا ہوا ہو، ”قطط“ ان بالوں کو کہتے ہیں جو بہت گھنگھریا لے ہوں اور ”رجل“ وہ جن میں تھوڑا سا خم ہو۔ ”مطہم“: یعنی نہایت فریہ اور زیادہ گوشت والا۔ ”مکلثم“ یعنی گول چہرے والا۔ ”مشرب“ جس کی رنگت سرخ و سفید ہو۔ ”ارعج“ جس کی آنکھیں خوب سیاہ ہوں، ”ہدب“ جس کی پلکیں لمبی ہوں، ”کنند“ دونوں شانوں کی درمیانی جگہ۔ اسے کامل بھی کہتے ہیں۔ ”مسرہ“ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر۔ ”شثن“ جس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں، ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ”نقلع“ یعنی پیر گاڑ کر چلنا۔ ”صب“ یعنی بلندی سے اترنا۔ ”جلیل المنشاش“ یعنی بڑے جوڑوں والا، اس سے مراد شانوں کا اوپر کا حصہ ہے کہ وہ بلند تھا۔ ”عشہ“ اس سے مراد صحبت ہے اس لئے کہ ع شیر صاحب کو کہتے ہیں۔ ”بدیہۃ“ یعنی اچانک۔ ”بدھتہ یا مر“ یعنی اسے چونکا دیا۔

باب ۱۷۶۸۔

باب ۱۷۶۸۔

۳۴۱۵۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا حميد بن الاسود عن اسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردا هكذا ولكنه عنك يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه

۳۴۱۵۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح جلدی جلدی بے سرو پابا تیں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ واضح اور الفاظ جدا جدا کر کے بات کیا کرتے تھے تاکہ جو بیٹھا ہو یاد کر لے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں یونس بن یزید سے زہری سے نقل کرتے ہیں۔

۲۴۱۶۔ حدثنا محمد بن يحيى نا ابوقتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المشني عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه

۳۴۱۶۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک کلمے کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ سمجھیں سکیں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبد اللہ بن شئی کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۷۶۹۔

باب ۱۷۶۹۔

۳۴۱۷۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔

۳۴۱۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ ابْنِ لَهْيَعَةَ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث غریب ہے اور یزید بن حبیب سے بھی منقول ہے وہ عبداللہ بن حارث سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں ہم سے اسے احمد بن خالد نے یحییٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ ولید سے وہ یزید بن حبیب سے اور وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ہنسی آپ کی مسکراہٹ تھی۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ہم اسے لیث بن سعد کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۷۷۰۔ ۱۷۷۰۔ مآجاء فی خاتم النبوة

۳۴۱۸۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ میرا بھانجا ہے اور بیمار ہے۔ آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھر اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور میں نے آپ کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جیسے چھپر کھٹ کی گھنٹی ہوتی ہے۔

۳۴۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَاحَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبُرْكَاتِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى النَّحَاتِمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زُرِّ الْحَجَلَةِ

اس باب میں سلمان، قرہ بن ایاس حزئی، جابر بن سمرہ، ابورمضہ، بریدہ سلمیٰ، عبداللہ بن سرجس، عمر بن الخطاب اور ابوسعید سے بھی

روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

۳۴۱۹۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے شانوں کے درمیان والی مہر ایک سرخ غدود تھی جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے۔

۳۴۱۹۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلِقَانِيُّ نَا ابْنَ جَابِرٍ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ غَدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۷۱۔

باب ۱۷۷۱۔

۳۴۲۰۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی پنڈلیاں باریک تھیں آپ ﷺ ہنسنے نہیں تھے بلکہ مسکراتے تھے۔ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ نے آنکھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔

۳۴۲۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا عَبَادَ بْنِ الْعَوَامِ أَنَّ الْحَجَّاجَ هُوَ ابْنُ ارْطَاةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةً وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ

بِأَكْحَلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۷۲۔

باب ۱۷۷۲۔

۳۴۲۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا ابو قطن نا شعبة

۳۴۲۱۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا دہان مبارک

عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كان

کشارہ تھا۔ آنکھیں بڑی اور آپ کی ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ

الْعَيْنَيْنِ مَنهُوسَ الْعَقِبِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو موسیٰ محمد سے وہ جعفر سے وہ شعبہ سے وہ سماک بن حرب سے اور وہ جابر بن سمرہ سے نقل کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ

ضلیع الفم، اشکل العینین، منہوس العقب تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سماک بن حرب سے پوچھا کہ ضلیع الفم کا کیا مطلب ہے؟

فرمایا: کشارہ دہان۔ میں نے پوچھا: ما اشکل العینین: فرمایا: بڑی آنکھ والے۔ میں نے پوچھا: منہوس العقب: فرمایا: کم گوشت والے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۷۳۔

باب ۱۷۷۳۔

۳۴۲۲۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن أبي يونس

۳۴۲۲۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے

عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول

حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ گویا کہ سورج آپ کی شکل میں گھوم رہا ہو۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي

پھر میں نے آپ ﷺ سے تیز چلنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ گویا کہ

وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ

زمین آپ کے لئے لیٹی جا رہی ہو ہم (آپ ﷺ کے ساتھ چلتے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ

ہوئے) اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے اور آپ ﷺ بے پرواہ چلتے

وَأَنَا لَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا وَأَنَّهُ لَغَيْرُ مُكْرَبٍ

جاتے۔

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۷۷۴۔

باب ۱۷۷۴۔

۳۴۲۳۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن

۳۴۲۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (شب

جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

معراج میں) انبیاء میرے سامنے آئے تو (میں نے دیکھا کہ) موسیٰ

وسلم قال عرض على الأنبياء فإذا موسى ضرب

چھریرے بدن کے جوان تھے جیسے قبیلہ شنوہ کے لوگ ہیں۔ عیسیٰ بن

من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى

مریم سے عروہ بن مسعود مشابہت رکھتے ہیں اور ابراہیم تمہارے ساتھی

بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبهة عروة

سے مشابہت رکھتے تھے یعنی آنحضرت ﷺ سے نیز جبرائیل کو دیکھا

بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت

تو وحی کلبی ان سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔

شبهها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبرائيل فإذا

أقرب من رأيت به شبهة دحية

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۷۵-۱۷۷۵۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت عمر۔

باب ۱۷۷۵- مَا جَاءَ فِي سِنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنُ كُمَّ كَانَ حِينَ مَاتَ

۳۴۲۴- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی عمر پینسٹھ سال تھی۔

۳۴۲۴- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَا نَا سَمْعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحِذَاءِ قَالَ ثَنَى عَمَارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ تُوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ

نضر بن علی بھی بشر بن مفضل سے وہ خالد حذاء سے وہ عمار سے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کی وفات پینسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۷۶-۱۷۷۶

باب ۱۷۷۶-۱۷۷۶

۳۴۲۵- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ میں تیرہ سال قیام کیا۔ یعنی جس دوران آپ ﷺ پر وحی آتی رہی اور جب فوت ہوئے تو تریسٹھ سال کے تھے۔

۳۴۲۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا رُوحُ بْنُ عَبَّادَةَ نَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يَوْمًا يُؤَخِّسُ إِلَيْهِ وَتُوَفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

اس باب میں حضرت عائشہؓ، انس بن مالکؓ اور غفل بن حظلہؓ سے بھی روایت ہے۔ دغفل کا آنحضرت ﷺ سے سماع صحیح نہیں۔ یہ حدیث عمرو بن دینار کی روایت سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۷۷-۱۷۷۷

باب ۱۷۷۷-۱۷۷۷

۳۴۲۶- حضرت جریرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیانؓ کو خطاب کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا: آنحضرت ﷺ، ابو بکرؓ، اور عمرؓ کی وفات تریسٹھ برس کی عمر میں ہوئی۔ میں بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔

۳۴۲۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۷۸-۱۷۷۸

باب ۱۷۷۸-۱۷۷۸

۳۴۲۷- حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔

۳۴۲۷- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَا نَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ

اخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے زہری کے پیچھے نے زہری سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ سے اسی کے مثل نقل کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مناقب

مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ان کا نام عبداللہ بن عثمان اور لقب شقیق ہے۔

وَأِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَثْمَانَ وَلَقَبُهُ عَتِيقٌ

۳۴۲۸۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ہر دوست کی دوستی سے بری ہوں۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابن ابی قحافہ (ابوبکرؓ) کو دوست بناتا لیکن تمہارا ساتھی (یعنی رسول اللہ ﷺ) اللہ کے دوست ہیں۔

۳۴۲۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا الثوري عن ابى اسحاق عن ابى الأحرص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبى قحافة خليلاً وإن صابحكُم خليلُ الله

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابوسعیدؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۴۲۹۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار ابو بکرؓ ہم سب میں بہتر اور آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔

۳۴۲۹۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا اسمعيل بن ابى اويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابنه عن عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۴۳۰۔ حضرت عبداللہ بن شقیقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کہنے لگیں ابوبکرؓ سے۔ میں نے پوچھا: ان کے بعد؟ فرمایا: عمرؓ سے۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا: ابوعبیدہ بن جراح

۳۴۳۰۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا اسماعيل بن ابراهيم عن الحريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله

سے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کے بعد؟ لیکن اس مرتبہ وہ خاموش رہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِمَ مَنْ قَالَتْ عُمَرُ
قُلْتُ لِمَ مَنْ قَالَتْ لِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ قُلْتُ
لِمَ مَنْ قَالَ فَسَكَتَتْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۳۱۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو ادنیٰ درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستارے کو آسمان کے افق پر چمکتا ہوا دیکھتے ہو۔ ابو بکرؓ و عمرؓ انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں اور کیا خواب ہیں۔

۳۴۳۱۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا مُحَمَّدَ بْنَ فَضْلِ عَنِ سَالِمِ
بْنِ اَبِي حَفْصَةَ وَالْاَعْمَشِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ صُهَيْبَانَ وَابْنِ
اَبِي لَيْلَى وَكَثِيْرَ النَّوَاءِ كُلُّهُمْ عَنْ عَطِيْبَةَ عَنْ اَبِي
سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ لَيَرَاهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ
النَّجْمَ الطَّالِعَ فِيْ اَفْقِ السَّمَاءِ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
مِنْهُمْ وَاَنْعَمًا

باب ۱۷۷۹۔

باب ۱۷۷۹۔

۳۳۳۲۔ حضرت ابو معلىٰؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ چاہے تو جتنی مدت اس کا دل چاہے دنیا میں رہے اور جو جی چاہے کھائے پئے یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار کر لے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابو بکرؓ رونے لگے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اس شیخ پر تعجب ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک نیک آدمی کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا اور اس نے اس کی ملاقات اختیار کی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ ہم سے زیادہ جانتے تھے اور آپ کے ارشاد کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ اس سے مراد آپ ہی ہیں۔ چنانچہ عرض کیا: یا رسول اللہ! بلکہ ہم آپ ﷺ پر اپنے آباء و اجداد اور اپنے اموال فدا کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابن ابی قحافة سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والا، مال خرچ کرنے والا اور بخوبی دوستی کے حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو اسی کو بناتا۔ لیکن بڑی دوستی اور برادری ایمان کی ہے۔ یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائی۔ پھر فرمایا: جان لو کہ تمہارا دوست (آنحضرت ﷺ) اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔

۳۴۳۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي
الشَّوَارِبِ نَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ
اَبْنِ اَبِي الْمُعَلَّىٰ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ اِنَّ رَجُلًا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ اَنْ يَّعِيْشَ
فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ اَنْ يَّعِيْشَ وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ
اَنْ يَأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَبَكَى
اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَلَا تَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ اِذْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا صَالِحًا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا
وَلِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَكَانَ اَبُو بَكْرٍ اَعْلَمَهُمْ
بِمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
اَبُو بَكْرٍ بَلْ نَفَيْدِيْكَ يَا اَبَانَا وَاَمْوَالِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنِ النَّاسِ اَحَدًا مِّنْ اِيْنَانَا فِيْ
صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ اَبْنِ اَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ
مُتَّخِذًا حَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبْنَ اَبِي قُحَافَةَ حَلِيْلًا وَلَكِنْ
وُدُّوْا اِحَاءُ اِيْمَانٍ مَّرْتَبَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا اِلَّا وَاِنَّ صَاحِبِكُمْ

خَلِيلُ اللَّهِ

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو عوانہ سے بھی منقول ہے وہ عبد الملک بن عمیر سے اسی سند سے منقول ہے ”من الینا“ سے مراد یہ ہے کہ بہت احسان کرنے والے ہیں۔

۳۴۳۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی کی زینت کو اختیار کر لے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والی چیزوں کو اختیار کر لے۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا: ہم اپنے آباء اور امہات کو آپ ﷺ پر قربان کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تعجب کرنے لگے اور لوگ کہنے لگے اس شیخ کو دیکھو۔ رسول اللہ ﷺ ایک آدمی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور اخروی زندگی میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لئے کہا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ چنانچہ (حقیقت یہ تھی کہ) اختیار رسول اللہ ﷺ ہی کو دیا گیا تھا۔ ابو بکرؓ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ دوستی کا حق ادا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے ابو بکرؓ ہیں۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر صدیقؓ اس کے مستحق تھے لیکن اسلام کی اخوت ہی کافی ہے۔ (دیکھو) مسجد میں ابو بکرؓ کی کھڑکی کے علاوہ کوئی کھڑکی نہ رہے۔ ❶

۳۴۳۳۔ حدثنا احمد بن الحسن نا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابي النضر عن عبيد بن حنين عن ابي سعيده بالخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيرة الله بين ان يؤتية من زهرة الدنيا ماشاء وبين ما عنده فقال ابو بكر فدنياك يا رسول الله باياتنا وامهاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرة الله بين ان يؤتية من زهرة الدنيا ماشاء وبين ما عنده الله وهو يقول فدنياك باياتنا وامهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو اعلمنا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس على في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذنا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام لاتبقين في المسجد خوذة الا خوذة ابي بكر رضي الله عنه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۸۰۔

باب ۱۷۸۰۔

۳۴۳۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو بکرؓ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسان کا بدلہ ہم نے نہ چکا دیا ہو۔ ہاں ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن دیں گے۔ مجھے ابو بکرؓ کے مال کے علاوہ کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکرؓ ہی کو بناتا۔ جان لو کہ تمہارا ساتھی

۳۴۳۴۔ حدثنا علي بن الحسن الكوفي نا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد الاودي عن ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا وقد كافينا ما احلا ابا بكر قال له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم

❶ اس سے مراد وہ کھڑکیاں ہیں جو لوگوں نے مسجد میں آنے جانے کے لئے بنائی ہوئی تھیں۔ یہ مسجد میں کھلتی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے سب کے بند کرنے کا حکم دیا، لیکن ابو بکرؓ کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اس میں ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

(آ) آنحضرت ﷺ (اللہ کے دوست ہیں۔
الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعْنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعْنِي مَالُ أَبِي
بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ
خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۴۳۵۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزارنا سفیان بن
عینة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي هو
۳۳۳۵۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے
بعد ابوبکرؓ و عمرؓ کی اقتداء کرنا۔

ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اقتلوا بالذنين من بعدى ابي بكر وعمر

اس باب میں ابن مسعودؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری سے عبد الملک بن عمیر سے وہ ربعی کے مولیٰ
سے وہ حذیفہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر احمد بن منیع اور کئی حضرات بھی سفیان بن عیینہ سے اور وہ عبد الملک بن عمیر
سے یہ حدیث اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اس حدیث میں کبھی تدلیس بھی کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی زائدہ کے واسطے سے
عبد الملک سے اور کبھی بلا واسطہ ان سے نقل کرتے تھے۔ ابراہیم بن سعید بھی سفیان ثوری سے وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ ربعی کے مولیٰ ہلال
سے وہ ربعی سے وہ حذیفہؓ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۳۴۳۶۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى
نا و كيع عن سالم ابى العلاء المرادى عن عمرو بن
هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كنا
جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني
لا ادرى ما بقائى فيكم فاقتلوا بالذنين من بعدى
واشار الى ابي بكر وعمر

۳۳۳۶۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آنحضرت ﷺ
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ کب تک میں تم
لوگوں میں ہوں۔ لہذا میرے بعد ابوبکرؓ و عمرؓ کی اقتداء کرنا۔

۳۴۳۷۔ حدثنا على بن حجرانا الوليد بن محمد
الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن
علي بن ابي طالب قال كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدان كهول أهل
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين
يا علي لا تخبرهما

۳۳۳۷۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول
اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ کہ ابوبکرؓ و عمرؓ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ
دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں پچھلے لوگ ہوں یا آنے
والے۔ (یعنی تمام لوگوں کے) ہاں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ۔ اسے
علیؓ انہیں بتانا نہیں۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ولید بن محمد موقری ضعیف ہیں لیکن یہ حدیث اس سند سے بھی حضرت علیؓ سے منقول ہے۔ اس
باب میں انسؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۴۳۸- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ و عمرؓ کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ جنت کے تمام ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں علیؓ انہیں مت بتانا۔

۳۴۳۸- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبِزْرَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِيْنَ إِلَّا النَّبِيَّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لِأَنَّهُمَا يَأْعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یعقوب بن ابراہیم اسے سفیان سے وہ شعبی سے وہ حارث سے وہ حضرت علیؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوبکرؓ و عمرؓ انبیاء و مرسلین کے علاوہ جنتیوں کے تمام ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہوں گے۔ اے علیؓ انہیں مت بتانا۔

۳۴۳۹- حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا: کیا میں لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق نہیں؟ کیا میں پہلا اسلام لانے والا نہیں۔ کیا مجھے فلاں فلاں فضیلتیں حاصل نہیں۔

۳۴۳۹- حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ نَاعِقِبَةُ بْنُ خَالِدِ النَّاشِبِيِّ عَنِ الْحَجْرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا أَلَسْتُ أَوْلَى مَنْ أَسْلَمَ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا

یہ حدیث بعض حضرات شعبہ سے وہ جریری سے اور وہ ابونضرہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن بشار اسے عبدالرحمن سے وہ شعبہ سے وہ جریری سے اور وہ ابونضرہ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اس میں ابوسعید کا ذکر نہیں۔

۳۴۴۰- حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب انصار و مہاجرین صحابہؓ کی طرف تشریف لاتے اور وہ بشمول ابوبکرؓ و عمرؓ بیٹھے ہوتے تو کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ ہاں البتہ ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں آپ ﷺ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ آپ ﷺ بھی انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔

۲۴۴۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ابُو دَاوُدَ النَّاسِبِيُّ عَنِ عَطِيَّةِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصْرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَتَسَمَّانِ إِلَيْهِ وَيَتَسَمَّمُ إِلَيْهِمَا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکم بن عطیہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ بعض محدثین ان پر اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۱۷۸۱-

باب ۱۷۸۱-

۳۴۴۱- حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ دائیں طرف ابوبکرؓ تھے، اور بائیں طرف عمرؓ۔

۳۴۴۱- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اسْمَعِيلَ بْنِ مَجَالِدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنِ اسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ

• شاید اس سے مراد خلافت ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

آپ ﷺ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا: ہم قیامت کے دن اسی طرح ٹھائے جائیں گے۔

ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ أَحَدٌ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ هَكَذَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے۔ سعید بن مسلمہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ یہ اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔

۳۴۴۲۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ سے فرمایا کہ تم میرے غار میں بھی ساتھی تھے لہذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہی ہو گے۔

۳۴۴۲۔ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي نا مالك بن اسماعيل عن منصور بن ابى الاسود قال ثنى كثير ابو اسمعيل عن جميع ابن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۸۲۔

باب ۱۷۸۲۔

۳۴۴۳۔ حضرت عبداللہ بن حطبؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ابوبکرؓ و عمرؓ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں صحیح و بصیر ہیں۔

۳۴۴۳۔ حدثنا قتيبة نا ابن ابى فديك عن عبدالعزيز بن المطلب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن حنطب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر

اس باب میں عبداللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ عبداللہ بن حطب نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا۔ یعنی

وہ صحابی نہیں ہیں۔

۳۴۴۴۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابوبکرؓ کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز کی امامت کریں۔ چنانچہ عائشہؓ نے عرض کیا ابوبکرؓ جب آپ ﷺ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے جس کی وجہ سے لوگ ان کی قرأت نہیں سن سکیں گے۔ لہذا عمرؓ کو حکم دیجئے کہ امامت کریں۔ لیکن آپ ﷺ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ ابوبکرؓ کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ اس مرتبہ حضرت عائشہؓ نے حصہ سے فرمایا کہ آپ ﷺ سے کہو کہ ابوبکرؓ رو پڑیں گے..... حصہ نے ایسا ہی کیا آپ ﷺ نے فرمایا: تم عورتیں ہی ہو نا جنہوں نے یوسف کو قید خانے جانے پر مجبور

۳۴۴۴۔ حدثنا ابو موسى اسحاق بن موسى الانصاري نا معن هوا بن عيسى نا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصل بالناس قالت فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت عائشة لخصصة قولي له ان ابا بكر اذا

قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأَمْرُ عُمَرَ
فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنَّ لَأَتَنَّ صَوَابُ
يُوسُفَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ
لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا

کر دیا۔ جاؤ اور ابو بکرؓ کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر حفصہؓ، عائشہؓ سے
کہنے لگیں کہ تم سے مجھے کبھی خیر نہیں پہنچی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبداللہ بن مسعودؓ، ابو موسیٰؓ، ابن عباسؓ اور سالم بن عبدیہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۷۸۳۔

باب ۱۷۸۳۔

۳۴۴۵۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي نا
احمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الانصاري
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابوبكر
ان يؤمهم غيره؛

۳۴۴۵۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی قوم
میں ابو بکرؓ ہوں تو ان کے علاوہ امامت کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

یہ حدیث غریب ہے۔

باب ۱۷۸۴۔

باب ۱۷۸۴۔

۳۴۴۶۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري نا
نا مالك بن انس عن الزهري عن حميد بن
عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله
نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من
اهل الصلوة دعى من باب الصلوة ومن كان من
اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من
اهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من
اهل الصيام دعى من باب الريان فقال ابو بكر بابي
انت وامى ماعلى من دعى من هذه الابواب من
ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها
قال نعم وارجو ان تكون منهم

۳۴۴۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص
اللہ کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا (دو روپے یا دو درہم وغیرہ) خرچ
کرے گا تو اس کے لئے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے
بندے یہ جنت تیرے لئے تیار کی گئی ہے چنانچہ جو شخص نماز، محسن، خوبی
خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اسے نماز کے دروازے پر بلایا
جائے گا، جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے، صدقہ و خیرات
دینے والوں کو صدقے کے دروازے سے اور روزے داروں کو باب
ریان ۱ سے بلایا جائے گا۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے
ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ کسی شخص کا تمام دروازوں سے بلایا جانا
ضروری تو نہیں کیونکہ ایک ہی دروازے سے بلایا جانا کافی ہے لیکن کیا
کوئی ایسا بھی ہوگا جسے (بطور اعزاز اور تکریم کے) تمام دروازوں سے
بلایا جائے؟ فرمایا: ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے
ہو گے۔

۱۔ یہ ایک دروازے کا نام ہے۔ روزے داروں کو اس دروازے سے اس لئے گزارا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیاس سے نجات پالیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۴۴۷۔ حدثنا هارون بن عبدالله البزازا البغدادي نا الفضل بن دكين نا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه قالت سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقولُ أمرنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَا لَا فُقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ، يَوْمًا قَالَ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ، وَأَنَّى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ لَا أَسْبِقُهُ، إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۸۵۔

۳۴۴۸۔ حدثنا عبد بن حميد اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي عن ابي عن ابيه قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم أنَّ أباه جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۸۶۔

۳۴۴۹۔ حدثنا محمد بن حميد نا ابراهيم بن المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

اس باب میں ابوسعیدؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

① ان دروازوں سے مراد وہ دروازے ہیں جو مسجد میں کھلتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ۱۷۸۵۔

۳۴۴۸۔ حضرت جبیر بن معظمؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کوئی بات کی۔ آپ ﷺ نے اسے کوئی حکم دیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! اگر میں دوبارہ حاضر ہونے پر آپ ﷺ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا: اگر ایسا ہو تو ابوبکرؓ کے پاس جانا۔

باب ۱۷۸۶۔

۳۴۴۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکرؓ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ ①

باب ۱۷۸۷-

۳۴۵۰۔ حدثنا الانصاری نا معن نا اسحاق بن یحیی بن طلحة عن عمر اسحاق بن طلحة عن عائشة ان ابابکر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت عتيق الله من النار فيومئذ سمى عتيقا

باب ۱۷۸۷-

۳۴۵۰۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ابو بکرؓ حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ سے آزاد کئے ہوئے ہو۔ یعنی (عتیق ہو چنانچہ اس دن سے ان کا نام عتیق پڑ گیا

یہ حدیث غریب ہے بعض حضرات اسے معن سے اور وہ موسیٰ بن طلحہ سے حضرت عائشہؓ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۸۸-

۳۴۵۱۔ حدثنا ابوسعید الاشج نا تلید بن سلیمان عن ابی الحجاج عن عطیة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض فاما وزيراي من اهل السماء فاجبرئيل وميكائيل واما وزيراي من اهل الارض فابوبكر وعمر رضي الله عنهما

باب ۱۷۸۸-

۳۴۵۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے دو اہل آسمان سے اور دو اہل زمین کی طرف سے وزیر ہیں۔ چنانچہ اہل آسمان سے جبرائیل اور میکائیل اور اہل زمین سے ابو بکرؓ اور عمرؓ میرے وزراء ہیں۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو جحاف کا نام داؤد بن ابی عوف ہے سفیان ثوری سے منقول ہے کہ ابو جحاف پسندیدہ شخص ہیں۔

۳۴۵۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ ایک شخص ایک گائے پر سوار ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں سواری کے لئے پیدا نہیں کی گئی مجھے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں، ابو بکرؓ اور عمرؓ اس پر ایمان لائے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اس روز وہاں موجود نہیں تھے۔

۳۴۵۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقره اذ قالت لم اخلق لهذا انما خلقت للحرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بذلك انا وابوبكر وعمر قال ابوسلمة وما هما في القوم يومئذ

محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ کے

مناقب ابی حفص عمر بن

عمدہ خصائل و مناقب

الخطاب رضي الله تعالى عنه

۳۴۵۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر بن خطابؓ میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے

۳۴۵۳۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن رافع قال انا ابو عامر العقدي نا خارجة بن عبد الله

اسلام کو تقویت پہنچا۔ چنانچہ عمرؓ ہی اللہ کے نزدیک محبوب نکلے۔

هو الانصاری عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام يا حب هدبين الرجلين اليك يا بئى جهل او بعمر بن الخطاب قال وكان احبهما اليه عمر رضي الله عنه
یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۸۹۔

باب ۱۷۸۹۔

۳۴۵۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کے دل اور زبان سے حق جاری کر دیا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں عمرؓ اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن عمرؓ کے قول کی موافقت میں نہ اترتا ہو۔ (یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا۔)

۳۴۵۴۔ حدثنا محمد بن بشارنا ابو عامر هو العقدي نا خارجه بن عبدالله هو الانصاري عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر او قال ابن الخطاب فيه شك خارجه الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه

اس باب میں فضل بن عباسؓ، ابو ذرؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۹۰۔

باب ۱۷۹۰۔

۳۴۵۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمرؓ کے اسلام سے تقویت پہنچا۔ چنانچہ صبح عمرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔

۳۴۵۵۔ حدثنا ابو كريب نا يونس بن بكير عن النضر ابى عمر عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام يا بئى جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب قال فاصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بعض محدثین ابو عمر نضر پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۷۹۱۔

باب ۱۷۹۱۔

۳۴۵۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ عمرؓ نے ابو بکرؓ سے کہا کہ: اے رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام لوگوں سے بہتر۔ انہوں نے فرمایا: تم اس طرح کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمرؓ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔

۳۴۵۶۔ حدثنا محمد بن المثنى نا عبدالله بن داود الواسطي ابو محمد ثنى عبدالرحمن اخى محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لابى بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر اما انك ان قلت ذاك فلقد سمعت رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند قوی نہیں۔ اس باب میں ابو درداءؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۴۵۷۔ حدثنا محمد بن المثنى نا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلاً ينتقص أبابكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم

۳۳۵۷۔ حضرت محمد بن سيرین فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے والا شخص ابوبکر و عمرؓ کی شان میں تنقیص نہیں کر سکتا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۹۲۔

باب ۱۷۹۲۔

۳۴۵۸۔ حدثنا سلمة بن شبيب المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن همام عن عتبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدى لكان عمر بن الخطاب

۳۳۵۸۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف مشرح بن ہمام کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۷۹۳۔

باب ۱۷۹۳۔

۳۴۵۹۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كائناً أوتيت بقدرح لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته؛ يارسول الله قال العلم

۳۳۵۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس میں سے پیا اور باقی عمر بن خطابؓ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہوئی۔ فرمایا: اس کی تعبیر علم ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۴۶۰۔ حدثنا علي بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الحنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو فقالوا عمر بن الخطاب

۳۳۶۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سونے کا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لئے ہے؟ کہنے لگے قریش کے ایک جوان کے لئے ہے۔ میں سمجھا کہ وہ میں ہی ہوں چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہنے لگے۔ وہ عمر بن خطابؓ ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۹۴۔

باب ۱۷۹۳۔

۳۴۶۱۔ حدثنا الحسين بن حريث ابوعمار
المروزي نا علي بن الحسين بن واقد قال ثني ابي
قال ثني عبدالله بن يزيدة قال ثني ابي بريدة قال
اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا
فقال يا بلال بيم سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنة
قط الا سمعت خشخشتك امامي دخلت البارحة
الجنة فسمعت خشخشتك امامي فاتيته على
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر
قالوا لرجل من العرب فقلت انا عربي لمن هذا
القصر قالوا لرجل من قريش فقلت انا قريشي لمن
هذا القصر قالوا لرجل من امة محمد صلى الله
عليه وسلم فقلت انا محمد لمن هذا القصر قالوا
لعمربن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما اذننت
قط الا صليت ركعتين وما اصابتني حدث قط الا
توضأت عندها ورايت ان لله علي ركعتين فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما

۳۴۶۱۔ حضرت بريدة کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اکرم
ﷺ نے بلال کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال! کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں
داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ کیونکہ میں جب بھی جنت
میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی آج رات بھی
جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں تمہارے چلنے کی آہٹ پہلے سے
موجود تھی۔ پھر میں ایک سونے سے بنے ہوئے چوکور اور اونچے محل کے
پاس سے گزرا تو پوچھا کہ یہ محل کس کے لئے ہے؟ کہنے لگے ایک عربی
کا۔ میں نے کہا: عربی تو میں بھی ہوں یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے قریش
میں سے ایک شخص کا میں نے کہا: قریشی تو میں بھی ہوں یہ کس کا ہے؟
کہنے لگے محمد (ﷺ) کی امت میں سے ایک شخص کا۔ میں نے کہا: میں
محمد ہوں یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب کا۔ پھر بلال نے
(اپنی آہٹ جنت میں سے جانے کے متعلق جواب دیتے ہوئے)
عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جب بھی اذان دیتا ہوں اس سے پہلے
دورکعت نماز پڑھتا ہوں اور جب بھی مجھے حدیث ہوتا ہے میں دوبارہ
وضو کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لئے دورکعت نماز پڑھنا اس کا
حق ہے۔ لہذا دورکعت ادا کرتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: یہی وجہ ہے
کہ تم جنت میں مجھ سے پہلے ہوتے ہو۔ ❶

اس باب میں جابر، معاذ انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے جنت میں ایک سونے کا محل
دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کے لئے ہے؟ فرشتوں نے کہا: یہ عمر بن خطاب کا ہے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے بعض روایات میں منقول ہے کہ
آج رات میں جنت میں داخل ہوا سے مراد خواب ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی ہے۔

۳۴۶۲۔ حضرت بريدة فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ایک مرتبہ کسی
جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور
عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو
صحیح سالم واپس لے آیا تو میں آپ ﷺ کے سامنے دف بجاؤں گی اور
گاؤں گی۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: اگر تم نے نذرمانی تھی تو بجالو
ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو ابو بکر آ گئے وہ بجاتی رہی پھر

۳۴۶۲۔ حدثنا الحسين بن حريث نا علي بن
الحسين بن واقد ثني ابي قال حدثني عبدالله بن
بريدة قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم في بعض معازيه فلما
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول
الله اني كنت نذرت ان ردك الله سالما ان

❶ اس حدیث میں حضرت بلالؓ کی رسول اللہ ﷺ پر فضیلت ثابت نہیں ہوئی کیونکہ وہ چوہدرائی حیثیت سے آپ ﷺ کے آگے چل رہے تھے واللہ اعلم (مترجم)

علیٰ اور عثمانؓ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد عمرؓ داخل ہوئے تو وہ دف کو اپنے نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکرؓ، علیٰ اور عثمانؓ (یکے بعد دیگرے) آئے تب بھی یہ بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے بھی بجانا بند کر دیا۔ ❶

أَضْرَبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذُّفِّ وَاتَّعْنَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ نَذَرْتِ فَأَضْرِبِي وَالْأَفْلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَقَالَتْ الذُّفُّ تَحْتَ إِسْتِهَاتُ ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الذُّفُّ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس باب میں عمرؓ اور عائشہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۴۶۳۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے شورغل اور بچوں کی آواز سنی۔ آپ ﷺ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جھنسی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! آؤ دیکھو۔ میں گئی اور ٹھوڑی آنحضرت ﷺ کے کندھے پر رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ میری ٹھوڑی آپ ﷺ کے کندھے اور سر کے درمیان تھی۔ فرمانے لگے کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ ابھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ ﷺ کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے۔ لہذا میں نے کہا: نہیں۔ اتنے میں عمرؓ آگئے اور انہیں دیکھتے ہی سب بھاگ گئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمرؓ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے

۳۴۶۳۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا يزيد بن الحبان عن خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال انا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لعتا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حبشية تزفون والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فحئت فوضعت لحيي على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر اليها ما بين المنكب الى راسه فقال لي اما شيعت اما شيعت قال قالت فجعلت اقول لا لانظر منزلي عنده اذ طلع عمر قال فارفض

❶ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ دف بجاتی رہی، جبکہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکرؓ، علیٰ اور عثمانؓ بھی موجود تھے۔ لیکن عمرؓ کے داخل ہونے پر آپ ﷺ نے اسے شیطانی کام قرار دیا۔ بعض علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کا جہاد سے صحیح و سالم لوٹنا چونکہ باعث سرور و فرحت تھا، پھر اس نے نذر بھی مانی ہوئی تھی۔ لہذا اس آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی۔ لیکن چونکہ تھوڑا بجانے سے بھی اس کی زہر پوری ہو جاتی تھی، لہذا زیادہ بجانے سے وہ کراہت کی مرتکب ہوئی اور اسی وقت حضرت عمرؓ بھی آگئے۔ لہذا آپ ﷺ کے اجازت دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام نہیں اور بعد میں اسے شیطانی کام قرار دینے سے اس کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ حکم بھی اسی صورت میں ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو ورنہ حرام ہی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہوئے۔ ❶ پھر میں بھی لوٹ آئی۔

النَّاسُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْحِجْرِ وَالْإِنْسِ قَدَفَرُوا مِنْ عُمَرَ قَالَتْ فَرَجَعْتُ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۹۵۔

باب ۱۷۹۵۔

۳۳۶۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے میری قبر کی زمین چھنے گی پھر ابو بکرؓ کی پھر عمرؓ کی۔ پھر میں بتبع والوں کے پاس آؤں گا اور اس کے بعد اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ یہاں تک کہ حرمین (مکہ اور مدینہ) کے لوگوں کے ساتھ جمع کیا جاؤں گا۔

۳۴۶۴۔ حَدَّثَنَا سَلْمَقِيْبُ شَيْبِیْبٌ نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ الصَّانِعِ نَا عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْعَمْرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ ابْنِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَحْشَرُونَ مَعِيَ ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أَحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عاصم بن عمر عمری محدثین اور میرے نزدیک حافظ نہیں ہیں۔

باب ۱۷۹۶۔

باب ۱۷۹۶۔

۳۳۶۵۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پچھلی امتوں میں بھی محدثون ❷ ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمرؓ ہے۔ ❸

۳۴۶۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَالِيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ فِي الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ

❶ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ شیطان آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر نہیں بھاگا اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ بمنزلہ بادشاہ اور عمرؓ بمنزلہ کوتوال ہیں اور کوتوال ہی کو دیکھ کر لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ پھر عمرؓ کو یہ فضیلت نبی کریم ﷺ کے توسط سے تو حاصل ہوئی۔ واللہ اعلم (مترجم) ❷ محدثون سے مراد وہ لوگ ہیں جو انتہائی فراست اور تخمینہ لگا کر بات کرے۔ یہ بات دولت اللہ ہی کی طرف سے عبادت ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ بعض روایات بھی اس معنی کی تائید کرتی ہیں۔ کیونکہ اس میں مکملوں کا لفظ آیا ہے۔ امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس کی زبان پر حق اور صحیح بات جاری ہو۔ واللہ اعلم (مترجم) ❸ کچھ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مجتہدین امت کی تقلید کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مقلدین کے یہاں تقلید کا مقصد کسی امام کو مستقل بالذات مطاع سمجھنا نہیں بلکہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی اصل دعوت تو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور نبی کریم ﷺ کی اطاعت بھی اسی لئے کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اقوال و افعال سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ترجمانی فرمائی ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں بعض احکامات ایسے ہیں جنہیں ہر معمولی تعلیم یافتہ شخص پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو تفصیل، وضاحت اور بیان کے منتفی ہیں۔ نیز جو قرآن ہی کی کسی دوسری آیت یا آنحضرت ﷺ کی کسی حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس دوسری قسم سے احکام مستطب کرنے میں بہت سی دشواری پیش آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ صرف اپنی بصیرت اور سمجھ بوجھ پر اعتماد کر کے ایسے معاملات میں خود ہی کوئی فیصلہ کر کے اسی پر عمل کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے طویل القدر اسلاف نے ان ارشادات سے کیا مفہوم اخذ کیا ہے۔ چنانچہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلوہنہم کے مصداق ان بزرگوں کے فہم و بصیرت پر اعتماد کیا جائے۔ جنہیں علوم قرآن و سنت کا ماہر قرار دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ کے بعض ساتھی سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں کہ محدثون وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائی ہے۔

باب ۱۷۹۷۔

باب ۱۷۹۷۔

۳۴۶۶۔ حدثنا محمد بن حميد الرازي نا عبد الله بن عبد القدوس نا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فاطلع ابو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فاطلع عمر

۳۴۶۶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: تم پر ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ابو بکر آئے پھر فرمایا: ایک جنتی شخص آنے والا ہے اس مرتبہ عمر آئے۔

یہ حدیث ابن مسعود کی روایت سے غریب ہے اور اس باب میں ابو موسیٰ اور جابر سے بھی روایت ہے۔

۳۴۶۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرضى غنما له، اذ جاء الذئب فاحذشاه فجاء صاحبها فانتزعا منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لاراعى له، غيرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنت بذلك انا وابوبكر وعمر قال ابو سلمة وما هما في القوم يومئذ

۳۴۶۷۔ حضرت ابو ہریرہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی بکری پکڑ لی اس بکری کا مالک آیا اور اسے اس سے چھڑا لیا۔ بھیڑیا کہنے لگا: تم اس دن کیا کرو گے جس دن صرف درندے رہ جائیں گے اور میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لائے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی اس وقت دونوں حضرات مجلس میں موجود نہیں تھے۔ ①

محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ سعد سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۴۶۸۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن ابى عروة عن قتادة ان انس بن مالك

۳۴۶۸۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ لرزنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) اگر انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو آخر الذکر دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت انتہائی خطرناک اور دوسری صورت انتہائی محتاط ہے۔ کیونکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہم اس قدر تہی دست ہیں کہ قرآن اولیٰ کے علماء کے علم و فہم، ذکاوت و حافظہ، دین و دیانت تقویٰ و پرہیز گاری کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہذا اگر اپنی فہم پر اعتماد کرنے کے بجائے اسلاف میں سے کسی کے فہم پر اعتماد کیا جائے تو کہا جائے گا کہ ہم نے فلاں عالم کی تقلید کی ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ تقلید کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے بذات خود واجب اطاعت سمجھ کر اس کی اتباع کی جائے بلکہ اس سے صرف قرآن و سنت کی پیروی مقصود ہے اور قرآن و سنت کی مراد کو سمجھنے کے لئے بحیثیت شارح شرع ان کی بیان کی ہوئی تشریحات پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے قطعی احکام میں کسی امام یا مجتہد کی تقلید ضروری نہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی اطاعت کا اصل مقصد اس کے بغیر ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

① آنحضرت ﷺ کا ان دو حضرات کی عدم موجودگی میں یہ فرمانا ان کے ایمان کی تعریف میں تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

احد شہر جاتھہ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔

حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ
أَحَدًا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ نَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُ أَحَدًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمدہ خصائل

ومناقب ان کی دو کئیتیں ہیں، ابو عمر و اور ابو عبد اللہ

۳۳۶۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ (مکہ کے ایک پہاڑ) حراء پر تھے آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اور زبیر بھی تھے۔ چنانچہ اس ٹیلے پر حرکت ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: رک جاتھہ پر نبی، صدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نہیں۔

مَنَاقِبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَلَهُ كُنْيَتَانِ يُقَالُ أَبُو عُمَرَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ

۳۴۶۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ
وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ
فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِهْدَا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ

اس باب میں عثمانؓ، سعید بن زید، ابن عباسؓ، سہیل بن سعد، انسؓ اور بریدہ سلمیؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۷۹۸۔

۳۳۷۰۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے میرا رفیق عثمان ہے یعنی جنت میں۔

باب ۱۷۹۸۔

۳۴۷۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ نَائِحِيٌّ بِن
الِيْمَانَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ
رَفِيقٌ وَرَفِيقِي يُعْنَى فِي النِّجْنَةِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں انقطاع ہے۔

باب ۱۷۹۹۔

۳۳۷۱۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمیؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ محصور ہوئے تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے فرمایا: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یاد دلاتا ہوں کہ وہ وقت یاد کرو جب پہاڑ حرا ہلا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ تم پر نبی، صدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ پھر فرمایا: میں تمہیں یاد دلاتا ہوں

باب ۱۷۹۹۔

۳۴۷۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ نَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ هَوَابِنِ
أَبِي أَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ
دَارِهِ ثُمَّ قَالَ أَدْكُرُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ

کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا: کون ہے جو اس جنگی اور مشقت کی حالت میں خرچ کرے (جو خرچ کرے گا اس کا صدقہ و خیرات) قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس لشکر کو تیار کر لیا۔ کہنے لگے ہاں۔ پھر فرمایا: اللہ کے لئے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ دو مہ کے کنوئیں سے کوئی شخص بغیر قیمت ادا کئے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اور میں نے اسے خرید کر امیر و غریب اور مسافر کے لئے وقف کر دیا تھا۔ کہنے لگے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سی باتیں گواہیں۔

حِينَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُثْبِتْ جِرَاءُ فَلَيسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَدُكِرْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتُ ذَلِكَ الْجَيْشَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَدُكِرْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ دَوْمَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنِ فَابْتَعْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ أَشْيَاءَ عَدَّهَا

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ابو عبد الرحمن سے عثمان سے نقل کرتے ہیں۔

۳۴۷۲۔ حضرت عبد الرحمن بن خبابؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو غزوہ تبوک کے لئے تیاری کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ عثمان بن عفانؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! سواوٹ پالان اور کجاوے وغیرہ سمیت میرے ذمے ہیں جو اللہ کی راہ کے لئے وقف ہیں۔ آپ ﷺ نے پھر ترغیب دی تو عثمانؓ دوبارہ کھڑے ہوئے میں دو سواوٹ پالان اور کجاوے وغیرہ سمیت اپنے ذمے لیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے پھر ترغیب دی تو عثمانؓ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواوٹ اپنے ذمے لے لئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ منبر سے یہ کہتے ہوئے نیچے تشریف لے آئے کہ آج کے بعد عثمانؓ کچھ بھی کرے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد عثمانؓ کے کسی عمل پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔

۳۴۷۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو داود نا السكن بن المغيرة ويكنى ابا محمد مولى لال عثمان قال انا الوليد بن ابي هشام عن فرقد ابي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله على مائة بغير باحلاسها واقتابها في سبيل الله ثم حصر على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله على مائة بغير باحلاسها واقتابها في سبيل الله ثم حصر على الجيش فقام عثمان فقال على ثلث مائة بغير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ماعلى عثمان ماعمل بعد هذه ماعلى عثمان ماعمل بعد هذه

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اس باب میں عبد الرحمن بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔

۳۴۷۳۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمانؓ ایک ہزار دینار لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے راوی حدیث حسن بن واقع کہتے ہیں کہ میری کتاب میں ایک جگہ اس طرح

۳۴۷۳۔ حدثنا محمد بن اسماعيل نا الحسن بن واقع الرملى نا ضمرة عن بن شاذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمره

مذکور ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی آستین میں ایک ہزار دینار ڈال کر لائے اور آپ ﷺ کی گود میں ڈال دیا۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان دیناروں کو اپنی گود میں ہی الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمانؓ کو کوئی گناہ ضرور نہیں پہنچا سکتا۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْمَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ دِينَارٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَقِيعٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي فِي كُتُبِهِ حِينَ جَهَزَ حَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حَجْرِهِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۲۷۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو عثمان بن عفانؓ آنحضرت ﷺ کے پیغامبر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے بیعت کی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: عثمان، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کام سے گیا ہے اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا ۱ اور آنحضرت ﷺ کا ہاتھ عثمانؓ کے لئے لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

۳۲۷۴۔ حَدَّثَنَا ابوزرعة نا الحسن بن بشر نا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب يأخذ يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۲۷۵۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیریؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے چھت پر چڑھے تو میں بھی موجود تھا فرمایا: اپنے ان دو ساتھیوں کو میرے پاس لاؤ جنہوں نے تمہیں مجھ پر مسلط کیا ہے چنانچہ انہیں لایا گیا۔ گویا کہ وہ دو اونٹ یادو گدھے تھے۔ حضرت عثمانؓ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی اکرم ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بزرگوار کے علاوہ بیٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے گا۔ اس کے لئے جنت کی بشارت ہے چنانچہ میں نے

۳۲۷۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا ثَامَةُ بْنُ حَزْنٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُرَيْرِيُّ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ بِالْقَشِيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارِحِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اتُّونِي بِصَاحِبَيْكُمْ اللَّذَيْنِ الْبَاكُمُ عَلَيَّ قَالَ فَجِئِي بِهِمَا كَانَهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَانَهُمَا جَمَارَانِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ

۱ یعنی آپ ﷺ نے ایک ہاتھ لوگوں کو عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرا کر بیعت کی۔ (مترجم)

وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يَسْتَعْدَبُ غَيْرَ بَيْرُرُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بَيْرُرُومَةَ فَيَجْعَلُ ذَلُوهُ مَعَ دَلَاءِ السُّلَمِيِّنَ بِخَيْرٍ لَهُ، مِنْهَا فِي الْحِنَةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَانْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ الْفَلَانِ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ، مِنْهَا فِي الْحِنَةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي الْيَوْمَ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهَا رَكَعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ إِنِّي جَهَزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى نَبِيرٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْحَبْلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ قَالَ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اسْكُنْ نَبِيرًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لِي شَهِيدًا ثَلَاثًا

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے حضرت عثمانؓ سے منقول ہے۔

اسے خالصتاً اپنے مال سے خرید لیا اور آج تم مجھے اس کو نہیں کاپانی پینے سے روک رہے ہو اور میں کھاری پانی پی رہا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ! ہم جانتے ہیں۔ پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مسجد نبوی ﷺ چھوٹی پڑ گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو فلاں لوگوں سے زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے گا۔ اسے جنت کی بشارت ہے۔ میں نے اسے بھی خالصتاً اپنے مال سے خرید لیا اور آج تم مجھے اس مسجد میں دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ کہنے لگے ہاں یا اللہ ہم جانتے ہیں۔ پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کا پورا الشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا۔ کہنے لگے ہاں معلوم ہے۔ پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ مکہ کے پہاڑ ثبیر پر چڑھے۔ میں ابو بکرؓ اور عمرؓ بھی آپ کے ساتھ تھے اس پر وہ پہاڑ (فخر کی وجہ سے) ہلنے لگا یہاں تک کہ اس کے چند پتھر بھی نیچے گر گئے۔ آپ ﷺ نے اسے اپنی لات ماری اور فرمایا: ثبیر! رک جاتھ پر بی ﷺ، صدیقؓ اور دو شہید ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ اس پر فرمانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے بھی گواہی دے دی۔ اور رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ یہ تین مرتبہ فرمایا۔

۳۴۷۶۔ حضرت ابواشعث صنعانی فرماتے ہیں کہ شام میں بہت سے خطباء کھڑے ہوئے جن میں صحابہ بھی تھے۔ آخر میں مرہ بن کعبؓ کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے اگر نبی کریم ﷺ سے حدیث نہ سنی ہوتی تو کبھی کھڑا نہ ہوتا۔ پھر فتوں کے متعلق بتایا اور کہا کہ یہ عنقریب ظاہر ہوں گے اتنے میں وہاں سے ایک شخص منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے گزرا تو کہنے لگے۔ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا (اور اس شخص کی طرف

۳۴۷۶۔ حدیثنا محمد بن بشارنا عبدالوہاب الثقفی نا ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی الأشعث الصنعانی ان خطباء قامت بالشام و فیہم رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام اخرہم رجل یقال لہ، مرۃ بن کعب فقال لولا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَا قُمْتُ وَذَكَرَ الْفِتْنَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي نَوْبٍ
فَقَالَ هَذَا يَوْمِيذٍ عَلَيَّ الْهُدَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ هَذَا
قَالَ نَعَمْ

اشارہ کیا) میں ان کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ پھر
میں مرہ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ یہ؟ فرمایا: ہاں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمرؓ، عبداللہ بن حوالہؓ اور کعب بن عجرہؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۸۰۰۔

باب ۱۸۰۰۔

۳۴۷۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا حجين بن
المثنى نا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن
ربيعه بن يزيد عن عبدالله ابن عامر عن النعمان بن
بشير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال يا عثماني انه لعل الله يقمصك
قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم وفي
الحديث قصة طويلة

۳۴۷۷۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
اے عثمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص ① پہنائیں۔ اگر لوگ
اسے اتارنا چاہیں تو مت اتارنا۔ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۰۱۔

باب ۱۸۰۱۔

۳۴۷۸۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا العلاء
بن عبد الجبار العطار نا الحارث بن عمير عن
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا
نقول ورسول الله حى ابو بكر وعمر وعثمان

۳۴۷۸۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کی حیات
طیبہ میں ابو بکرؓ، عمرؓ و عثمانؓ کو اسی ترتیب سے ذکر کیا کرتے تھے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی عبید اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے۔ اور کئی سندوں سے ابن عمرؓ سے منقول ہے۔

باب ۱۸۰۲۔

باب ۱۸۰۲۔

۳۴۷۹۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا
شاذان الاسود بن عامر عن سنان بن هارون عن
كليب بن وايل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها
مظلوما لعثمان

۳۴۷۹۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک فتنے کا ذکر
کیا اور فرمایا کہ یہ (عثمانؓ) اس فتنے میں مظلوم قتل کئے جائیں گے۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۰۲۔

باب ۱۸۰۲۔

① قمیص سے مراد خلافت ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

۳۴۸۰۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن مہب کہتے ہیں کہ ایک مصری شخص حج کے لئے آیا تو کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگ کہنے لگے: قریش ہیں۔ پوچھا کہ یہ بوزھے شخص کون ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ابن عمرؓ ہیں کہنے لگا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا عثمانؓ جنگ احد کے موقع پر میدان سے فرار ہوئے تھے؟ فرمایا: ہاں۔ پوچھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہیں تھے؟ فرمایا: ہاں۔ پوچھا: کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ فرمایا: ہاں۔ کہنے لگا اللہ اکبر (پھر تم لوگ ان کی فضیلت کے قائل کیوں ہو؟) پھر ابن عمرؓ نے اس سے فرمایا: آؤ میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دوں جہاں تک احد سے فرار کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ رہ گئی جنگ بدر تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی تھیں۔ اور آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے لئے بدر میں شریک ہونے والے کے برابر اجر ہے اور تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا۔ اب آؤ بیعت رضوان کی طرف تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور مکہ میں ان سے زیادہ عزت رکھتا ہوتا تو آپ ﷺ عثمانؓ کے بجائے اسی کو بھیجتے۔ چونکہ بیعت رضوان ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس لئے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دے کر اسے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: یہ عثمانؓ کی بیعت ہے۔ پھر ابن عمرؓ نے فرمایا: اب یہ چیزیں سننے کے بعد تم جاسکتے ہو۔

باب ۱۸۰۳۔

۳۴۸۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ ﷺ کو اس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا: یہ عثمانؓ سے بغض رکھتا تھا لہذا

۳۴۸۰۔ حدثنا صالح بن عبدالله نا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن رجلاً من أهل مصر حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال من هؤلاء قالوا قریش قال فممن هذا الشيخ قالوا ابن عمر فاتاه فقال اني سألتك عن شيء فحدثني أنشدك بحرمه هذا البيت أتعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال أتعلم أنه نغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدنا قال نعم قال أتعلم أنه نغيب يوم بدر فلم يشهده قال نعم فقال الله أكبر فقال له ابن عمر تعال حتى أبين لك ما سألت عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفأ عنه وغفر له وأما نغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك آخر رجل شهد بدرًا وسهمه وأما نغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان قال له اذهب بهذا الآن معك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۰۳۔

۳۴۸۱۔ حدثنا الفضل بن ابی طالب البغدادی وغير واحد قالوا نا عثمان بن زفرنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن ابی الزبير عن جابر قال اني النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي

قَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَبِلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ تَرَكْتَ
الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ هَذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُبْعِضُ
عُثْمَانَ فَابْعِضَهُ اللَّهُ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور محمد بن زیاد جو میمون بن مہران کے دوست ہیں ضعیف ہیں جب کہ ابو ہریرہ کے دوست محمد بن زیاد ثقہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو حارث ہے۔ نیز ابوامامہ کے ساتھ محمد بن زیاد ہانی شامی بھی ثقہ ہیں ان کی کنیت ابوسفیان ہے۔

باب ۱۸۰۳۔

باب ۱۸۰۴۔

۳۳۸۲۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ چلا اور ہم انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ ﷺ نے وہاں اپنی حاجت پوری کی اور مجھے حکم دیا کہ دروازے پر رہو تاکہ کوئی بغیر اجازت میرے پاس نہ آسکے ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے: ابوبکرؓ۔ میں نے آپ ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ وہ اندر آ گئے پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ: عمر ہوں میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ عمرؓ اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا: ان کے لئے بھی کھول دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آئے اور میں نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ پھر تیسرا شخص آیا: تو میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ عثمانؓ بھی اندر آنے کے اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا: کھول دو اور انہیں بھی ایک بلوے میں شہید ہونے پر جنت کی بشارت دے دو۔

۳۴۸۲۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الأشعري قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطاً للانصار فقصي حاجته فقال لي يا ابا موسى املك على الباب فلا يدخلن علي احد الا باذن فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال ابوبكر فقلت يا رسول الله هذا ابوبكر يستاذن قال اذن له وبشره بالجنة فدخل وجاء رجل اخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر يستاذن قال افتح له وبشره بالجنة ففتح ودخل وبشرته بالجنة فجاء رجل اخر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عثمان قلت يا رسول الله هذا عثمان يستاذن قال افتح له وبشره بالجنة على بلوای نصيبه

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے عثمان نہدی سے منقول ہے اس باب میں جابرؓ اور ابن عمرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۳۸۳۔ حضرت ابوسہلہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ جب گھر میں موجود تھے تو مجھ سے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے۔ چنانچہ میں اسی پر صبر کرنے والا ہوں۔

۳۴۸۳۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس ثبي أبو سهلة قال قال لي عثمان يوم الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهداً فانا صابر عليه

یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف اسماعیل بن خالد کی روایت سے جانتے ہیں۔

مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يُقَالُ وَ لَهُ كُنْيَتَانِ أَبُو تَرَابٍ وَأَبُو الْحَسَنِ

۳۴۸۴۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نا جعفر بن
سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مُطَرِّفِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَمَضَى
فِي السَّرِيَّةِ فَأَصَابَ جَارِيَةً فَانْكُرُوا عَلَيْهِ وَتَعَاقَدَ
أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْبِرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ
إِذَا رَجَعُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَأُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى
رِحَالِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ الثَّلَاثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ
فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ مَا تَرِيدُونَ مِنْ
عَلِيِّ مَا تَرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ
وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي

حضرت علی بن ابی طالبؑ کے عمدہ خصائل و مناقب
ان کی بھی دو کنیتیں ہیں۔ ابو تراب اور ابو حسن

۳۳۸۳۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے
حضرت علیؑ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا: چنانچہ وہ ایک چھوٹا لشکر
لے کر گئے اور مال غنیمت میں سے ایک باندی لے لی۔ لوگوں کو یہ
بات ناگوار گزری اور چار صحابہ نے عہد کیا کہ آنحضرت ﷺ سے
ملاقات ہونے پر بتادیں گے کہ علیؑ نے کیا کیا۔ مسلمانوں کی عادت تھی
کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام
عرض کرتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے تھے۔
چنانچہ جب یہ لشکر سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا تو ان چاروں
میں سے ایک کھڑا ہوا اور آپ ﷺ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا
کہ دیکھئے علیؑ نے کیا کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا
کھڑا ہوا۔ اور اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ آپ ﷺ نے
اس سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ لیکن
جب چوتھے نے اپنی بات پوری کی تو نبی اکرم ﷺ اس کی طرف متوجہ
ہوئے آپ ﷺ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور تین مرتبہ
ارشاد فرمایا کہ علیؑ سے تم کیا چاہتے ہو۔ علیؑ مجھ سے اور میں اس سے ہوں
اور وہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف جعفر بن سلیمان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۳۸۵۔ حضرت ابوسریحہؓ یا زید بن ارقمؓ کہتے ہیں (شعبہ کو شک ہے)
کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علیؑ بھی اس کا

۳۴۸۵۔ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن
جعفرنا شعبه عن سلمة بن كهيل قال سمعت

ابوالطفیل یُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
شَكَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ شعبہ اسے میمون بن عبد اللہ سے وہ زید بن ارقم سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔ ابوسریحہ کا نام حدیفہ بن اسد ہے۔ یہ صحابی ہیں۔

۳۴۸۶۔ حدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى البصرى
نا ابو عتاب سهل بن حماد نا المختار بن نافع نا
ابو حيان التميمي عن ابيه عن علي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر زوجي ابنته
وحملني الى دار الهجرة واعتق بلائاً من ماله رحم
الله عمر يقول الحق وان كان مرا تركه الحق وماله
صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله
علياً اللهم ادر الحق معه حيث دار

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۴۸۷۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن شريك
عن منصور عن ربعي بن حراش قال نا علي بن ابي
طالب بالرحبة فقال لما كان يوم الحديبية خرج
الينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو
واناس من رء وساء المشركين فقالوا يا رسول الله
خرج اليك ناس من ابناءنا واخواننا وارقاتنا وليس
لهم فقه في الدين وانما خرجوا فراراً من اموالنا
وضياعنا فاردوهم الينا فان لم يكن لهم فقه في
الدين سننقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يامعشر قريش لئن اولى بعتن الله عليكم من

① شیعہ حضرات کا حضرت علیؑ کی خلافت بلافضل پر اس حدیث سے استلال قطعاً درست نہیں کیونکہ مولیٰ کے کئی معنی ہیں، کبھی رب، کبھی مالک، کبھی معنی، کبھی دوست اور اس کے علاوہ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اسے ایک معنی کے ساتھ مخصوص کر دینا باطل اور خلاف عقل ہے۔ پھر اگر فرض کر لیا جائے کہ مولیٰ سے مراد خلیفہ ہی ہے تب بھی اس سے ان کی خلافت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن خلافت بلافضل نہیں۔ اور خلافت کے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا اشتقاق ولایت سے کیا جائے۔ جس کے معنی امارت کے ہیں۔ لیکن اگر اس کا اشتقاق ولایت سے کیا جائے جس کے معنی نصرت، عشق اور دوستی کے آتے ہیں تو اس صورت میں اس سے امارت یا خلافت مراد لی نہیں جاسکتی۔ واللہ اعلم (مترجم)

لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: وہ جوتی ٹانگے والا۔ آپ ﷺ نے علیؑ کو اپنی جوتی کا ٹھننے کے لئے دی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر علیؑ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کرے۔

يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ قَدَامَتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ قَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ حَاصِفُ النَّعْلِ وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا قَالَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيُّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلِيًّا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے صرف ربیع کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۸۰۵-

باب ۱۸۰۵-

۳۴۸۸- حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علیؑ سے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔

۳۴۸۸- حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيْمَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

یہ حدیث غریب ہے۔ ابوبارون عبدی کے متعلق شعبہ کلام کرتے ہیں پھر یہ حدیث اعمش سے بھی ابوصالح کے حوالے سے ابوسعیدؓ

سے منقول ہے۔

باب ۱۸۰۵-

باب ۱۸۰۵-

۳۴۸۹- حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ منافقین علیؑ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مؤمن اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔

۳۴۸۹- حَدَّثَنَا وَاصلُ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَسَادِرِ الْحَمِيْدِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلِيَّ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ

اس باب میں علیؑ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۰۶-

باب ۱۸۰۶-

۳۴۹۰- حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ علیؑ بھی انہی میں سے ہیں۔ اور ابوذرؓ، مقدادؓ اور سلمانؓ۔

۳۴۹۰- حَدَّثَنَا اسْمَعِيْلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ بَنْتِ السَّدِيِّ نَا شَرِيْكَ عَنْ أَبِي رَيْبَعَةَ عَنِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِّهُمْ لَنَا قَالَ عَلِيُّ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمَقْدَادُ وَسَلْمَانُ وَأَمْرِنِي بِحُبِّهِمْ

وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجِبُّهُمْ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۰۷۔

باب ۱۸۰۷۔

۳۴۹۱۔ حضرت حبشی بن جنادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علیؑ مجھ سے اور میں اس سے ہیں (عہد و تقض میں) میرے علاوہ علیؑ ہی میری نیابت کر سکتے ہیں۔

۳۴۹۱۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جَنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۴۹۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو علیؑ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے صحابہ میں بھائی چارہ کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔

۳۴۹۲۔ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ نَاعِلِيُّ بْنُ قَادِمِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِيَّتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تَوَآخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں زید بن ابی ادنیٰ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۸۰۹۔

باب ۱۸۰۹۔

۳۴۹۳۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچہ علیؑ آئے اور آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھایا۔

۳۴۹۳۔ حَدَّثَنَا سَفِيانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَاعِلِيُّ بْنُ قَادِمِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ انْتَبِئْ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَا كُلُّ مَعِي هَذَا الطَّيْرُ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صدی کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث انسؓ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔

۳۴۹۴۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بن ہند جملی کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز مانگتا تو مجھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔

۳۴۹۴۔ حَدَّثَنَا خِلَادُ بْنُ اسْلَمِ الْبَغْدَادِيُّ نَاعِلِيُّ بْنُ قَادِمِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ شَمِيلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَنِي

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۱۰۔

باب ۱۸۱۰۔

۳۴۹۵۔ حدثنا اسمعيل بن موسى نا محمد بن عمر الرومي نا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصُّنَابَجِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ذَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

۳۳۹۵۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ۔

یہ حدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض اسے شریک سے روایت کرتے ہوئے ضابطی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اسے شریک کے ثقات کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں جانتے۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۳۹۶۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے سعد سے پوچھا کہ تم ابوتراب کو برا کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا: جب تک مجھے رسول اللہ ﷺ کی یہ تین باتیں یاد ہیں میں انہیں کبھی برا نہیں کہوں گا۔ اور ان تینوں میں سے ایک کا میرے لئے ہونا میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے علیؑ کو کسی جنگ میں جاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ علیؑ کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ (یعنی کیا میں اس جہاد میں شریک ہونے کا بھی اہل نہیں) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس مقام پر فائز نہیں ہونا چاہتے جس پر موسیٰ نے ہارون کو مقرر کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ (وہ نبی تھے) اور میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جنگ خیبر کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: آج میں جہنم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے تھے کہ آج جہنم اسے دیا جائے لیکن آپ ﷺ نے علیؑ کو بلوایا وہ حاضر ہوئے تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں آپ ﷺ نے ان کی آنکھ میں لعاب ڈالا اور جہنم انہیں دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی "ندع ابنائنا وابتنائکم"..... (الآیۃ آت) مباہلہ) تیسری چیز یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے

۳۴۹۶۔ حدثنا قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال مامنك أن تسب ابتراب قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لعلي و خلفه في بعض معاريفه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لأنبؤة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعولي عليا قال فاتاه وبه رمذ فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح الله عليه وأنزلت هذه الآية ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم هذه الآية ندع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

فاطمہؑ علیؑ حسنؑ اور حسینؑ کو بلا کر کہا کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔

یہ حدیث اس سند سے صحیح غریب ہے۔

باب ۱۸۱۱۔

۳۴۹۷۔ حدثنا عبد الله بن ابي زياد نا الاحوص بن حوَاب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ وَأَمَرَ عَلِيَّ أَحَدَهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيَّ الْأَخْرَجِيُّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَالَ إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِيَ خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِيءُ بِهِ قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأْتُ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ

باب ۱۸۱۱۔

۳۳۹۷۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دو لشکر ایک ساتھ روانہ کئے۔ ایک کا امیر حضرت علیؑ کو اور دوسرے کا حضرت خالد بن ولیدؓ کو مقرر کیا اور فرمایا: جب جنگ ہوگی تو پورے لشکر کے امیر علیؑ ہوں گے۔ چنانچہ علیؑ نے ایک قلعہ فتح کیا اور مال غنیمت میں سے ایک باندی لے لی۔ اس پر خالد نے میرے ہاتھ ایک خط خدمت اقدس ﷺ میں روانہ کیا جس میں حضرت علیؑ کی شکایت کی۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خط دے دیا۔ آپ ﷺ نے اسے پڑھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا فرمایا: تم اس شخص سے کیا چاہتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں میں نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تو صرف قاصد ہوں۔ اس پر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۱۲۔

۳۴۹۸۔ حدثنا علي بن المنكدر الكوفي نا محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً يوم الطائف فانتجأه فقال الناس لقد طال نحواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتجئته ولكن الله انتجأه

باب ۱۸۱۲۔

۳۳۹۸۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے طائف کی لڑائی کے موقع پر علیؑ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی لوگ کہنے لگے آج آپ ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ فرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اہل حلیج کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابن فضیل کے علاوہ کئی راوی اہل حلیج سے اسی طرح نقل

کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ان کے کان میں۔ کچھ کہوں۔

باب ۱۸۱۳۔

۳۴۹۹۔ حدثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل عن سالم بن ابي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال

باب ۱۸۱۳۔

۳۳۹۹۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: علیؑ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد

میں رہے۔ علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن مرد سے اس کے
معنی پوچھے تو فرمایا: اس سے مراد مسجد سے گزرتا ہے۔ ❶

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ يَا عَلِيُّ
لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَنَّبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي
وَعَيْرُكَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قُلْتُ لِضَّرَارِ بْنِ مَرْزُوقٍ
مَا مَعْنَى الْحَدِيثِ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطِرُّهُ جُنْبًا
غَيْرِي وَعَيْرُكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری اسے غریب کہتے ہیں۔

باب ۱۸۱۳۔

باب ۱۸۱۴۔

۳۵۰۰۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو پیر کے دن
نبوت عطا کی گئی اور علیؓ نے منگل کو نماز پڑھی۔

۳۵۰۰۔ حدثنا اسطعيل بن موسى نا علي بن
عابس عن مسلم الملائي عن انس بن مالك قال
بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى
علي يوم الثلاثاء

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف مسلم اعمور کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ مسلم اسے حبر سے
اور وہ حضرت علیؓ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۵۰۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے
حضرت علیؓ سے فرمایا: تم میرے لئے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ کے
لئے ہارون تھے۔

۳۵۰۱۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا ابو نعيم
عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعلي انت مني بمنزلة
هارون من موسى

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سعد سے کئی روایتوں سے رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت سے غریب
بھی جاتی ہے۔

۳۵۰۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے علیؓ
سے فرمایا: تم میرے لئے وہی حیثیت رکھتے ہو جو ہارون کی موسیٰ کے
نزدیک تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے اور مجھ پر نبوت ختم ہو چکی
ہے۔

۳۵۰۲۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد
الزبيرى عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقیل
عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه
لاني بعدي

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اس باب میں سعدؓ، زید بن ارقمؓ ابو ہریرہؓ اور ام سلمہؓ سے بھی روایت ہے۔

❶ اس خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں حضرات کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، لہذا وہ ہیں سے گزر سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس مسجد کی قید
لگائی ہے، نہ کہ مطلقاً ہر مسجد کے متعلق فرمایا۔ (مترجم)

۳۵۰۳۔ حدیثنا محمد بن حمید الرازی نا ابراہیم بن المختار عن شعبه عن ابی بلج عن عمرو بن مِیْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ

۳۵۰۳۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کے دروازے کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے شعبہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۵۰۴۔ حدیثنا نصر بن علی الجھضمی نا علی بن جعفر بن محمد قال اخبرنی اخی موسیٰ بن جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ قَالَ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي ذَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۳۵۰۴۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حسنؓ اور حسینؓ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا: جو مجھ سے محبت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں اور ان کے والدین سے بھی محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری جگہ میں ہوگا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے جعفر بن محمد کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۱۵۔

باب ۱۸۱۵۔

۳۵۰۵۔ حدیثنا محمد بن حمید نا ابراہیم بن المختار عن شعبه عن ابی بلج عن عمرو بن مِیْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ

۳۵۰۵۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے علیؓ نے نماز پڑھی۔

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے شعبہ کی روایت سے متعلق نہیں جانتے۔ ابولج کا نام یحییٰ بن سلیم ہے بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکرؓ ہیں اور حضرت علیؓ آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے نیز عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہؓ ایمان لائیں۔

۳۵۰۶۔ حدیثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنیٰ قالنا محمد بن جعفر نا شعبه عن عمرو بن مرة عن ابی حمزة عن رجل من الأنصار عن زید بن أرقم قال أول من أسلم علي قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق

۳۵۰۶۔ حضرت زید بن أرقم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علیؓ ایمان لائے۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا: نہیں سب سے پہلے ابوبکر صدیقؓ ایمان لائے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوجزہ کا نام طلحہ بن زید ہے۔

باب ۱۸۱۶۔

باب ۱۸۱۶۔

۳۵۰۷۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جو نبی امی تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ عدی بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ میں اس قرن میں سے ہوں جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے دعا کی ہے۔

۳۵۰۷۔ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عَثْمَانَ بْنِ أَحْيَى يَحْيَى ابْنِ عَيْسَى الرَّمْلِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ أَنَّهُ لَا يُجِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۰۸۔ حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اس میں علیؓ بھی تھے۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ! مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علیؓ کو زندہ دیکھ لوں۔

۳۵۰۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ الْجِرَاحِ قَالَ ثَنِي جَابِرُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي امُّ شَرَا حَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتَّنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے

عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۰۹۔ حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے جسم پر دو زریں تھیں۔ آپ ﷺ ایک پتھر پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے چنانچہ طلحہ کو بٹھایا اور (ان پر پاؤں رکھ کر) چڑھ گئے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ کے لئے جنت واجب ہوگی۔

مَنَاقِبُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۰۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ نَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَيْنِ فَفَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةَ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۵۱۰۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں میرے کانوں نے

۳۵۱۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

آنحضرت ﷺ کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ طلحہ اور زبیرؓ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔

بن منصور العنزى عن عقبة بن علقمة الیشکری قال سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۵۱۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔

۳۵۱۱۔ حدثنا قتيبة ناصالح بن موسى عن الصلت بن دينار عن ابي نصرَةَ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف صلت بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں اور ان کے متعلق بعض اہل علم کلام کرتے ہیں بعض محدثین صالح بن موسیٰ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔

۳۵۱۲۔ حضرت موسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں معاویہؓ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک بشارت نہ دوں؟ میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہؓ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔

۳۵۱۲۔ حدثنا عبدالقدوس بن محمد العطار نا عمرو بن اعاصم عن اسحاق بن يحيى بن طلحة عن عَمِيهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ أَلَا أَبَشِّرُكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے معاویہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۱۷۔

باب ۱۸۱۷۔

۳۵۱۳۔ حضرت طلحہؓ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک جاہل اعرابی سے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھو کہ وہ کون ہیں جو اپنا کام پورا کر چکے ہیں؟ صحابہ یہ سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ آپ ﷺ کی توقیر کرتے اور ڈرتے تھے۔ چنانچہ اس اعرابی نے پوچھا تو آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا اس مرتبہ بھی آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اتنے میں میں بھی سبز کپڑے پہنے ہوئے مسجد کے دروازے میں پہنچا اور آنحضرت ﷺ کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اعرابی نے کہا: میں ہوں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شخص ان میں سے

۳۵۱۳۔ حدثنا محمد بن العلاء نا يونس بن بكير نا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للأعرابي جاهل سلته عن قضي نحبته من هو وكانوا لا يجترءون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم أتني أطلعت من باب المسجد وعلى ثياب خضر فلما رأني النبي صلى الله عليه وسلم قال آين

السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ

ہے جنہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابو کریب کی روایت سے جانتے ہیں وہ یونس بن بکیر سے روایت کرتے ہیں۔ کئی کبار محدثین اسے ابو کریب سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا وہ بھی یہ حدیث ابو کریب ہی سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے اسے کتاب الفوائد میں بیان کیا ہے۔

زبیر بن عوامؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۱۳۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ سے لڑائی میں میرے لئے اپنے والدین کو جمع کیا اور فرمایا: میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔

باب ۱۸۱۸۔

۳۵۱۵۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں میرا حواری زبیر بن عوامؓ ہے۔

باب ۱۸۱۹۔

۳۵۱۶۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں۔ میرا مددگار زبیرؓ ہے۔ ابونعیم اس حدیث میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات جنگ خندق کے موقع پر فرمائی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے پاس کفار کے متعلق خبر لے کر آئے کہ وہ بھاگ گئے ہیں یا نہیں؟ زبیرؓ نے عرض کیا: میں۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ پوچھا اور زبیرؓ نے تینوں مرتبہ یہی کہا کہ: میں لاتا ہوں۔

۱۸۲۰۔

۳۵۱۷۔ حضرت ہشام بن عروہؓ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر

مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۱۴۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ عَبْدِ عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ يَا بِي وَأُمِّي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۱۸۔

۳۵۱۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا مَعَاوِيَةَ بْنَ عَمْرٍو نَا زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ زُرِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حواری کے معنی مددگار کے ہیں۔

باب ۱۸۱۹۔

۳۵۱۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو داوُدَ الْحَفْرِيُّ وَابُونَعِيمِ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ وَزَادَ ابُونَعِيمِ فِيهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۲۰۔

۳۵۱۷۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَخْرَةَ بْنِ

زبیرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میرا کوئی عضو ایسا نہیں کہ جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو یہاں تک کہ میری شرم گاہ تک زخمی ہوگئی تھی۔

جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ صَبِيحَةَ الْحَمَلِ فَقَالَ مَا مَنِي عَضْوُ إِلَّا جُرِحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى فَرْجِهِ

یہ حدیث حماد بن زید کی روایت سے حسن غریب ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بن عبدعوف زہری کے عمدہ خصائل و مناقب

مَنَاقِبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۱۸۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابو بکرؓ جنتی ہیں۔ عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، سعید بن زیدؓ اور ابو عبیدہؓ بن جراحؓ سب کے سب جنت میں ہیں۔ ابو مصعبؓ، عبدالعزیز بن محمدؓ سے وہ عبدالرحمن بن حمید سے وہ اپنے والد سے وہ سعید بن زیدؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عبدالرحمن بن عوفؓ کا ذکر نہیں۔ نیز یہ حدیث عبدالرحمن بن عبید بھی اپنے والد سے وہ سعید بن زیدؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۵۱۸۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْحَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْحَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْحَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْحَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْحَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْحَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْحَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْحَنَّةِ وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْحَنَّةِ

یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔

۳۵۱۹۔ حضرت سعید بن زیدؓ نے چند لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دس آدمی جنتی ہیں، ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، عثمانؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، عبدالرحمنؓ، ابو عبیدہؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ۔ انہوں نے ان نو اشخاص کا ذکر کیا۔ دسویں کا ذکر نہیں کیا۔ لوگ کہنے لگے اے ابو اعرور ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ دسویں شخص کے متعلق بھی بتائیے کہ وہ کون ہے؟ فرمانے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دے دی ہے۔ (لہذا سنو!) کہ ابو اعرور بھی جنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے۔

۳۵۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبٍ قَرَأَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشْرَةٌ فِي الْحَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْحَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْحَنَّةِ وَعُثْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَبِيدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مِنَ الْعَاشِرِ قَالَ نَشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْحَنَّةِ قَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث پچھلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

باب ۱۸۲۱-

۳۵۲۰- حدثنا قتيبة نايكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن مما يهمنى بعدى ولكن يصبر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت باربعين ألفاً
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۸۲۱-

۳۵۲۰- حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تمہارے حقوق ادا کرنے پر صبر کرنے والے ہی صبر کر سکیں گے۔ ابوسلمہؓ کہتے ہیں کہ پھر عائشہؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے باپ یعنی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ازواج مطہرات کو ایسا مال (بطور ہدیہ) دیا تھا جو چالیس ہزار میں فروخت ہوا۔

۳۵۲۱- حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد البصرى واحمد بن عثمان قالا ناقريش بن انس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديفة لأمهات المؤمنين بيعت بأربع مائة ألف
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۲۱- حضرت ابوسلمہؓ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ازواج مطہرات کے لئے ایک باغ کی وصیت کی جو چار لاکھ میں فروخت ہوا۔ ❶

ابو اسحاق سعد بن ابی وقاصؓ کے عمدہ خصائل۔

ان کا نام مالک بن وہیب ہے

مَنَاقِبُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْمُ أَبِي وَقَاصٍ مَالِكِ بْنِ وَهَيْبٍ

۳۵۲۲- حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ! سعد جب تجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول فرما۔

۳۵۲۲- حدثنا رجاء بن محمد العدوى نا جعفر بن عون عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك

یہ حدیث اسماعیل سے بھی منقول ہے وہ قیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔

باب ۱۸۲۲-

باب ۱۸۲۲-

۳۵۲۳- حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ سعد تشریف لائے تو

۳۵۲۳- حدثنا ابو كريب و ابو سعيد الاشج قالانا

❶ گزشتہ حدیث میں چالیس ہزار کا اور اس میں چار لاکھ کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ چالیس ہزار دینار اور چار لاکھ درہم مراد ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

ابواسامة عن مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَالِي فَلْيَرِنِي أَمْرًا خَالَهٗ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں اگر کسی کا ان جیسا ماموں ہوتو مجھے دکھائے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف مجالد کی روایت سے جانتے ہیں۔ سعد قبیلہ بنو زہرہ کے تھے اور آنحضرت ﷺ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اسی لئے آپ ﷺ نے انہیں اپنا ماموں کہا۔

باب ۱۸۲۳۔

باب ۱۸۲۳۔

۳۵۲۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارِيُّ نَا سَفِيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ إِرْمُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِرْمُ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزْوَرِيُّ

۳۵۲۳۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے والدین کو ایک ساتھ کسی پر فدا نہیں کیا۔ لیکن غزوہ احد میں سعد سے فرمایا کہ اے طاقتور پہلوان تیر چلاؤ۔ میرے والدین تجھ پر فدا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں سعدؓ سے بھی روایت ہے۔ کئی حضرات یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں۔ قبیلہ اسے لیث بن سعد سے وہ عبدالعزیز بن محمد سے وہ یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعد بن ابی وقاصؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے میرے لئے اپنے والدین کو غزوہ احد کے موقع پر جمع کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور عبداللہ بن شدادؓ ہاد سے بھی منقول ہے وہ علیؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ہم سے محمود بن غیلان نے کعب کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ سفیان سے اور وہ سعید بن ابراہیم سے وہ عبداللہ بن شداد سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو غزوہ احد میں سعد سے فرماتے ہوئے سنا کہ اے سعد تیر مار۔ میرے والدین تجھ پر فدا ہوں۔ ان کے علاوہ میں نے نبی ﷺ کو کسی کے لئے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۵۲۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَلَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا حَشْخَشَةَ السَّلَاحِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ

۳۵۲۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کسی جنگ سے واپس آئے تو رات کو آنکھ نہ لگی۔ کہنے لگے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا۔ کہتی ہیں کہ ہم ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کسی کے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا: سعد بن ابی وقاصؓ۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا: مجھے خوف لاحق ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو کوئی ضرر نہ پہنچائے لہذا میں حفاظت کرنے کے لئے چلا آیا۔ آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا کی اور پھر سو گئے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ابو اعمور کے عمدہ خصائل و مناقب، ان کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے

۳۵۲۶۔ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ فرماتے ہیں کہ میں نو شخصوں کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں۔ اور اگر میں دسویں کے متعلق بھی یہی گواہی دوں تو بھی گناہ گار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا: ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ حراء پر تھے کہ آپ ﷺ نے حراء کو مخاطب کر کے فرمایا رک جا تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ سب کون کون تھے؟ فرمایا ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ۔ پوچھا گیا کہ دسواں کون ہے؟ فرمایا: میں۔

مَنَاقِبُ أَبِي الْأَعْمُورِ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۲۶۔ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم انا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني عن سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ أَتَمِّ قَيْلٌ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاءَ فَقَالَ أَتَيْتُ حِرَاءَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَيْلٌ وَمَنْ هُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَيْلٌ فَمَنْ الْعَاشِرُ قَالَ أَنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے سعید بن زیدؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے منقول ہے۔ احمد بن منیع نے اسے جہان بن محمد سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے جریر بن صباح سے انہوں نے عبدالرحمن بن اغضس سے انہوں نے سعید بن زید سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کی ہے۔

ابو عبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۲۷۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا سردار اور اس کا نائب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اپنے ایک امین کو بھیج دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو حقیقت میں امین ہوگا۔ چنانچہ لوگ اس منصب پر فائز ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے ابو عبیدہؓ کو بھیجا۔ ابواسحاق جب یہ حدیث صلہ سے روایت کرتے تو فرماتے کہ میں نے یہ حدیث ان سے ساٹھ سال پہلے سنی تھی۔

مَنَاقِبُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۲۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن ابي اسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا بعتنا معنا امينك قال فاني سابعك معكم امينا حق امين فاشرف لها الناس فبعت ابا عبيدة قال وكان ابواسحاق اذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ ستين سنة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمرؓ اور انسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے مسلم بن قتیبہ اور ابوداؤد کے حوالے سے شعبہ سے اور انہوں نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ حذیفہ نے فرمایا: صلہ بن زفر سونے جیسے ہیں۔ (یعنی بہت اچھے ہیں۔)

۳۵۲۸- حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس سے پیارتھا؟ فرمایا: ابوبکرؓ سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا: عمرؓ سے۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا: ابوعبیدہ بن جراح سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ اس مرتبہ وہ خاموش رہیں۔

۳۵۲۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابوعبیدہ بن جراحؓ کتنے بہترین آدمی ہیں۔

۳۵۲۸- حدثنا احمد الدورقي نا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم من قالت ثم عمر قلت ثم من قالت ثم أبو عبیده بن الجراح قلت ثم من فسكت

۳۵۲۹- حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبیده بن الجراح

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف سہیل کی روایت سے جانتے ہیں۔

ابو فضل عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے عمدہ خصائل و مناقب

مَنَاقِبُ أَبِي الْفَضْلِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۳۰- حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ عباسؓ، آنحضرت ﷺ کے پاس غضبناک حالت میں آئے میں بھی وہیں موجود تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (کیا بات ہے؟) کیوں غصے میں ہیں؟ فرمایا: یا رسول اللہ! قریش کو ہم سے کیا دشمنی ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو خوش ہو کر ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں اور طرح ملتے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ کو بھی غصہ آ گیا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے محبوب نہ رکھے۔ پھر فرمایا: اے لوگو جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی کیونکہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔

۳۵۳۰- حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً وانا عنده فقال ما اغضبك قال يا رسول الله مالنا ولقریش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة واذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فعضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذی نفسی بيده لا يدخل قلب رجل ايماناً حتى يحبكم لله ورسوله ثم قال يا ايها الناس من اذى عمي فقد اذاني فانما عم الرجل صنو ابيه

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۲۴۔

باب ۱۸۲۳۔

۳۵۳۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عباس اللہ کے رسول کے بچا ہیں۔ اور بچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔

۳۵۳۱۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا شبابة نا ورقاء عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عم الرجل صنو ابيه او من صنو ابيه

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابو زناد کے روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۲۵۔

باب ۱۸۲۵۔

۳۵۳۲۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عمرؓ سے حضرت عباسؓ کے بارے میں فرمایا کہ بچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ عمرؓ نے ان سے صدقے کے متعلق کوئی بات کی تھی۔

۳۵۳۲۔ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا وهب بن جرير نا ابى قال سمعت الاعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى عن علي ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر فى العباس ان عم الرجل صنو ابيه وكان عمر كلمه فى صدقته

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۵۳۳۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عباسؓ سے فرمایا: کہ پیر کے دن صبح آپ اپنے بیٹوں کو لے کر میرے پاس آئیں۔ تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسی دعا کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو نفع پہنچائے چنانچہ ہم ان کے ساتھ گئے۔ آپ ﷺ نے ہمیں ایک چادر اوڑھادی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ عباس اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ ظاہری بھی اور باطنی بھی (ایسی مغفرت کہ) کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ انہیں اپنے بیٹوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔

۳۵۳۳۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا عبد الوهاب بن عطاء عن نور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس اذا كان غداة الاثنين فاتيني انت ولدك حتى ادعولهم بدعوة تفعلك الله بها وولدك فعدا وعدونا معه قال بسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولديه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

جعفر بن ابی طالبؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۳۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے جعفرؓ کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔

مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۳۴۔ حدثنا علي بن حجرنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرًا يطير في الجنة مع الملائكة

یہ حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے غریب ہے۔ عبداللہ بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں۔ یحییٰ بن معین وغیرہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ یہ علی بن مدینی کے والد ہیں۔ اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب ۱۸۲۶۔

باب ۱۸۲۶۔

۳۵۳۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی شخص نے یہ کام جعفر سے بہتر نہیں کئے۔ جوئی پہننا، سواری پر سوار ہونا اور اونٹ کی کاٹھی پر چڑھنا۔

۳۵۳۵۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الوهاب الثقفي نا خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال ما احتدى البعالم ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۵۳۶۔ حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جعفر بن ابی طالبؓ سے فرمایا: تم صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

۳۵۳۶۔ حدثنا محمد بن اسماعيل نا عبيد الله بن موسى نا اسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعقوب بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقى وفي الحديث قصة

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۳۷۔ حدثنا ابو سعيد الاشج نا اسماعيل بن ابراهيم ابو يحيى التيمي نا ابراهيم ابو اسحق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما سأله إلا ليطعمني شيئاً فكننت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يحبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لإمرأته يا أسماء اطعمينا فإذا اطعمتنا أجابني وكان جعفر يحب المساكين ويحلس إليهم ويحدّثهم ويحدّثونهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبه بابي المساكين

بابی المساکین

یہ حدیث غریب ہے۔ ابواسحاق کا نام ابراہیم بن فضل مدینی ہے۔ بعض محدثین ان کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

۳۵۳۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ صحابہؓ سے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر پوچھا کرتا تھا۔ اگرچہ میں خود اس سے زیادہ بھی جانتا ہوتا۔ صرف اس لئے کہ وہ مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ اگر میں جعفر سے کوئی چیز پوچھتا تو وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا کر ہی جواب دیتے۔ اور اپنی بیوی سے کہتے اسماء ہمیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھلا دیتیں تو جواب دیتے وہ مساکین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے وہ ان سے اور وہ ان سے باتیں کرتے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ انہیں ابومساکین کہا کرتے تھے۔

ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالبؑ اور حسین بن علی
ابن ابی طالبؑ کے عمدہ خصائل و مناقب

مَنَاقِبُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

۳۵۳۸- حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسنؑ اور حسینؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

۳۵۳۸- حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود الحفري عن سفين بن يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة

سفيان بھی جریر اور ابن فضیل سے اور وہ یزید سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابن ابی نعم کا نام عبدالرحمن بن ابی نعم بجلی کوئی ہیں۔

۳۵۳۹- حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے آنحضرت ﷺ کے پاس گیا آپ ﷺ اپنے اوپر کچھ لپیٹے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے کھولا تو آپ کے کولہے پر حسنؑ اور حسینؑ تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرکتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔

۳۵۳۹- حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قالا نا خالد بن مخلد نا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن المهاجر قال اخبرني مسلم بن ابي سهل النبال قال اخبرني الحسين بن اسامة بن زيد قال اخبرني ابي اسامة بن زيد قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ماهو فلما فرغت من حاجتي قلت ماهذا الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين علي ورقيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۴۰- حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم فرماتے ہیں کہ ایک عراقی نے ابن عمرؓ سے چھم کے خون کے متعلق پوچھا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے دیکھو یہ چھم کے خون کا حکم پوچھ رہا ہے۔ اور انہی لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے فرزند کو قتل کیا ہے ❶ میں نے

۳۵۴۰- حدثنا عقبه بن مكرم البصري العمي نا وهب بن جرير بن حازم نا ابي عن محمد بن ابي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي نعم ان رجلا من اهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب

❶ اس سے مراد حضرت امام حسینؑ ہیں۔ (مترجم)

آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔

التَّوْبَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ انظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

یہ حدیث صحیح ہے شعبہ سے محمد بن ابی یعقوب سے نقل کرتے ہیں اور ابو ہریرہؓ بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی نعم وہی عبدالرحمن بن ابی نعم بجلی ہیں۔

۳۵۴۱- حضرت سلمیٰ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہؓ کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا: آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا: میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ کے سر مبارک اور داڑھی پر خاک تھی میں نے پوچھا تو فرمایا: میں ابھی حسینؑ کا قتل دیکھ کر آیا ہوں۔

۳۵۴۱- حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدِ الْأَشْجِ نَا ابُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ نَا رَزِينُ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِي قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ انْفَا
یہ حدیث غریب ہے۔

۳۵۴۲- حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا: حسنؑ اور حسینؑ سے۔ نیز آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہؓ سے کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ اور پھر انہیں سو گھنٹے اور کلچے سے لگا لیتے۔

۳۵۴۲- ابُو سَعِيدِ الْأَشْجِ نَا عَقِبَةُ بْنُ خَالِدِ ثَنِي يَوْسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ أَدْعِي لِي ابْنِي فَيَضُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ
یہ حدیث انسؓ کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۸۲۷-

باب ۱۸۲۷-

۳۵۴۳- حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ منبر پر چڑھے اور فرمایا: میرا یہ بیٹا سید ہے یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

۳۵۴۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نَا الْأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس سے مراد حسنؑ ہیں۔

باب ۱۸۲۸-

باب ۱۸۲۸-

۳۵۴۴- حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ خطبہ

۳۵۴۴- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيثٍ نَا عَلِيُّ بْنُ

دے رہے تھے کہ اچانک حسنؑ اور حسینؑ آگئے۔ دونوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھیں۔ چلتے تھے تو (چھوٹے ہونے کی وجہ سے) گر جاتے تھے۔ آپ ﷺ منبر پر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھالیا پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ لہذا دیکھو کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ گر کر چل رہے ہیں تو صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھالیا۔

الحسین بن واقد ثنی ابی ثنی عبد اللہ بن بریدۃ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمَشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فَانظُرُوا إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمَشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۵۴۵۔ حضرت یعلیٰ بن مرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حسینؑ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو حسینؑ سے محبت کرتا ہے۔ حسینؑ بھی نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔

۳۵۴۵۔ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرّة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۵۴۶۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حسینؑ سے زیادہ کوئی آنحضرت ﷺ سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔

۳۵۴۶۔ حدثنا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق عن معمر بن الزهرري عن أنس بن مالك قال لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسين بن علي

۳۵۴۷۔ حضرت ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے۔ حسن بن علیؑ آپ ﷺ سے مشابہ تھے۔

۳۵۴۷۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا اسمعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت صلى الله عليه وسلم فكان الحسن بن علي يشبهه

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو بکر صدیقؓ، ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۵۴۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا۔ جب حضرت امام حسینؑ کا سر مبارک لایا گیا۔ وہ اپنی چھڑی ان کی ناک میں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ کہ میں نے اس طرح کا حسین نہیں دیکھا تو اس کا کیوں تذکرہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں

۳۵۴۸۔ حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي نا النضر بن شميل نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت ثنی أنس بن مالك قال كنت عند ابن زياد فحیی برأس الحسين فحعل يقول بقضيب في

نے کہا: یہ آنحضرت ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔

أَنفِهِ وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا لِمَ يُدَكَّرُ قَالَ
قُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۵۴۹۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حسنؓ سینے سے سر تک آنحضرت ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور حسینؓ سینے سے نیچے۔

۳۵۴۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُوسَى عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ
بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ
وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۵۰۔ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر وجہ کی مسجد میں ڈال دیئے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگ کہنے لگے وہ آ گیا وہ آ گیا۔ دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا جو آیا اور سروں میں سے ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکلا اور چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے وہ آ گیا وہ آ گیا۔ اس نے دو یا تین مرتبہ اسی طرح کیا۔

۳۵۵۰۔ حَدَّثَنَا واصل بن عبد الأعلى نا ابو معاوية
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِئْتُ بِرَأْسِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِفَتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي
الرَّهْبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ جَاءَتْ قَدْ
جَاءَتْ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَدْخُلُ الرَّؤْسَ حَتَّى
دَخَلَتْ فِي مَنْحَرِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَّنَتْ هُنَيْهَةً
ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ
قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلْتَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۲۹۔

۳۵۵۱۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کتنے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتنے دنوں سے میرا آنا جانا چھوٹا ہوا ہے اس پر وہ بہت ناراض ہوئیں میں نے کہا: اچھا اب جانے دیجئے میں آج ہی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا اور پھر آنحضرت ﷺ سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لئے کہوں گا۔ میں گیا اور آپ ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ ﷺ

باب ۱۸۲۹۔

۳۵۵۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْحَاقُ
بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا نَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اسْرَائِيلَ
عَنْ مَيْسِرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمَنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَّ
بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتَنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ
تَعْنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَالِي بِهِ
عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَتَأَلَّتْ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي
إِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْلَبِي مَعَهُ الْمَغْرِبَ

عشاء تک نماز میں مشغول رہے اور پھر عشاء پڑھ کر لوٹے۔ میں آپ ﷺ کے پیچھے ہولیا۔ آپ ﷺ نے میری آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ حدیفہ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا: یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ آج اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کے لئے آنے کی اجازت چاہی کہ فاطمہؓ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسنؓ و حسینؓ جنت کے جوانوں کی سردار ہوں گے۔

وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلِكَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّيْتُ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُدَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأَمِّكَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسرائیل کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۵۵۲- حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حسنؓ و حسینؓ کو دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

۳۵۵۲- حدثنا محمود بن غيلان نا ابو اسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدی بن ثابت عن البراء أنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُمَا فَاجِبْهُمَا
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۵۳- حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ حسن بن علیؓ کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا: اے لڑکے تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سواری بھی تو بہترین ہے۔

۳۵۵۳- حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا ز معة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الركب هو

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور زمرہ بن صالح کو بعض علماء سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

۳۵۵۴- حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آنحضرت ﷺ کو حسن بن علیؓ کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔

۳۵۵۴- حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عدی بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم اني احبه فاجبه
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مَنَاقِبُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آنحضرت ﷺ کے اہل بیت کے عمدہ خصائل

۳۵۵۵۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي نازيد بن الحسن بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةِ الْفُصُوءَاءِ يَخْطُبُ فَمَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَنْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي

۳۵۵۵۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کوچ کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔

اس باب میں ابو سعید، زید بن ارقم اور حدیفہ بن اسید سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ زید بن حسن سے سعید بن سلیمان اور کئی حضرات روایت کرتے ہیں۔

۳۵۵۶۔ حدثنا قتيبة بن سعيد نامحمد بن سليمان الاصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا وَجَلَّلَهُمْ هَوْلًا أَهْلَ بَيْتِي فَأَذْهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتِ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ

۳۵۵۶۔ رسول اللہ ﷺ کے پروردہ عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ”انما يريد الله ليذهب“..... الآية (یعنی اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری ناپاکی کو دور کر دے) ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ، حسین اور حسن کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال دی۔ علی آپ ﷺ کے پیچھے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان سب پر چادر ڈالنے کے بعد عرض کیا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اس پر ام سلمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں بھی انہی میں ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: تم اپنی جگہ ہو اور بھلائی پر ہو۔

اس باب میں ام سلمہ، معقل بن یسار، ابو حمراء اور انس سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

۳۵۵۷۔ حدثنا علي بن المنذر الكوفي نا محمد بن فضيل نا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد الاعمش عن حبيب بن ابي بابت عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا

۳۵۵۷۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے اور دوسری میرے اہل بیت۔ یہ دونوں حوض (کوثر)

پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا دیکھیں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔

أَعْظَمُ مِنَ الْآخِرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا
یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۵۸۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے سات نجاہ یا فرمایا: نقباء عطا فرمائے ہیں جو اس کے رفقاء ہوتے ہیں لیکن مجھے چودہ عطا کئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ فرمایا: میں، میرے دونوں بیٹے، جعفرؓ، حمزہؓ، ابوبکرؓ، مصعبؓ، ابن عمیرؓ، بلالؓ، سلمانؓ، عمارؓ، مقدادؓ، حدیفہؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ۔

۳۵۵۸۔ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن كثير النواء عن ابی ادريس عن المسيب بن نحبه قال قال علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل نبي اعطيت سبعة نجاها ورفقاء او قال رقباء واعطيت انا اربعة عشر قلنا من هم قال انا وابناي وجعفر وحمزة وابوبكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار والمقداد وحديفة وعبدالله بن مسعود

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور حضرت علیؓ سے موقوفاً منقول ہے۔

۳۵۵۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے محبت کرو اس لئے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں میں سے کھلاتا ہے اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو اور اسی طرح میرے اہل بیت سے میری وجہ سے۔

۳۵۵۹۔ حدثنا ابوداؤد سليمان بن الاشعث نا يحيى بن معين نا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبوا الله لما يغذوكم من نعمه واحبوني بحب الله واحبوا اهل بيتي يحيى

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابی بن کعبؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ کے عمدہ خصائل

مَنَاقِبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

۳۵۶۰۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکرؓ ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سب سے زیادہ سخت عمرؓ، سب سے زیادہ باحیاء عثمان بن عفانؓ، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبلؓ، سب سے زیادہ علم میراث جاننے والے زید بن ثابتؓ اور سب

۳۵۶۰۔ حدثنا سفیان بن وكيع نا حميد بن عبد الرحمن عن داؤد العطار عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتني ابوبكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان بن عفان

وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بَنِي جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَاهُمْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

سے زیادہ قرأت جاننے والے ابی بن کعب ہیں۔ پھر ہر امت کا امین ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے قنادہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابو قلابہ بھی انسؓ سے اسی کی مانند مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔

۳۵۶۱۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَنِي كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى

۳۵۶۱۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابی سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ الہینہ پڑھ کر سناؤں انہوں نے پوچھا کیا میرا نام لے کر؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس پر وہ رونے لگے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابی بن کعبؓ بھی یہی حدیث آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۵۶۲۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عہد نبوی (ﷺ) میں انصار میں سے چار آدمیوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: ابو زید کون ہیں؟ فرمایا: میرے ایک بچا ہیں۔

۳۵۶۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد ناشعة عن قتادة عن أنس بن مالك قال جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بَنِي كَعْبٍ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عَمُومَتِي

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۶۳۔ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الرَّجُلِ عُمَرُ نِعَمَ الرَّجُلِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعَمَ الرَّجُلِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعَمَ الرَّجُلِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ نِعَمَ الرَّجُلِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعَمَ الرَّجُلِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْحَمُوحِ

یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۵۶۴۔ حضرت حدیثہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا سردار اور اس کا نائب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ

۳۵۶۴۔ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفين عن ابى اسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة

ہمارے ساتھ کسی امین کو بھیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا امین بھیجوں گا جو فی الحقیقت امین ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر لوگ اس خدمت کے انجام دینے کی تمنا کرنے لگے۔ پھر آپ ﷺ نے ابو عبیدہ کو بھیجا۔ ابواسحاق (راوی حدیث) جب یہ حدیث صلہ سے بیان کرتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ساٹھ سال پہلے سنی تھی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عمرو ابن انسؓ سے بھی رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے کہ فرمایا: ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اس امت کا

بْنِ الْيَمَانِ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا ابْعَثْ مَعَنَا امِينًا قَالَ فَاِنِّي سَابَعْتُ مَعَكُمْ امِينًا حَقَّ امِينٍ فَاشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَا عَبِيْدَةَ قَالَ وَكَانَ اَبُو اسْحَاقَ اِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ صِلَةٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً

امین ابو عبیدہ ہے۔

سلمان فارسیؓ کے عمدہ خصائل

۳۵۶۵۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے۔ علیؓ، عمارؓ اور سلمانؓ۔

مَنَاقِبُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۶۵۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا اَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِي رِبِيْعَةَ الْاِيَادِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اِلَى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف حسن بن صالح کی روایت سے جانتے ہیں۔

عمار بن یاسرؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

ان کی کنیت ابو یقظان ہے

۳۵۶۶۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسرؓ حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے اجازت چاہی تو فرمایا: ابے آ نے دو مرحبا لے پاک ذات اور پاک خصلت والے۔

مَنَاقِبُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَكُنِيَّتُهُ

أَبُو الْيَقْظَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَاسِفِيْنَ عَنِ اَبِي اسْحَاقَ عَنِ هَانِئِ بْنِ هَانِيٍّ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَسْتَاذِنُ عَلِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِنُوْا لَهٗ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطْيَبِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۶۷۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمار کو جن دو کاموں میں بھی اختیار دیا گیا انہوں نے ان میں سے بہتر ہی کو اختیار کیا۔

۳۵۶۷۔ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے اس سند سے صرف عبد العزیز سیاه کی روایت سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی شیخ ہیں۔ محدثین ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام یزید بن عبد العزیز ہے۔ یہ بھی ثقہ ہیں ان سے یحییٰ بن آدم نے احادیث نقل کی ہیں۔

۳۵۶۸- حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں میں ہوں لہذا میرے بعد آنے والے ابو بکرؓ و عمرؓ کی اقتداء کرنا، عمارؓ کی راہ پر چلنا اور ابن مسعودؓ کی بات کی تصدیق کرنا۔

۳۵۶۸- حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع ناسفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربيعي عن ربيعة بن جراش عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذيين من بعدي وأشار الى ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا

یہ حدیث حسن ہے۔ ابراہیم بن سعد اسے سفیان ثوری سے وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ ہلال سے (ربیع کے مولیٰ) سے وہ حذیفہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۵۶۹- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمار تمہیں بشارت ہو کہ تمہیں باغی لوگ شہید کریں گے۔

۳۵۶۹- حدثنا ابو مصعب المدني ناعبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا عمار تقتلك الفئة الباغية

اس باب میں ام سلمہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور حذیفہؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

ابو ذر غفاریؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

مَنَاقِبُ أَبُو ذَرِّهِ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۷۰- حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آسمان نے کسی ابو ذر سے زیادہ سچے پر سائیہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے ان سے زیادہ سچے کو اٹھایا۔

۳۵۷۰- حدثنا محمود بن غيلان ابن نمير عن الاغمش عن عثمان بن عمير هو ابو اليقظان عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اظلت الحضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابي ذر

اس باب میں ابو ذرؓ اور ابو ذرؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔

۳۵۷۱- حدثنا العباس العنبري نا النضر بن محمد ناعكرمة بن عمارثني ابو زميل عن مالك بن مرثد عن ابيه عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظلت الحضراء ولا اقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق ولا اوفى من ابي ذر شبه عيسى

۳۵۷۱- حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے متعلق فرمایا: آسمان نے کسی ابو ذر سے زیادہ زبان کے سچے اور وعدے کو پورا کرنے والے پر سائیہ نہیں کیا اور نہ ہی اس سے زیادہ سچے اور وفا شعار شخص کو زمین نے اٹھایا۔ وہ عیسیٰ بن مریم سے مشابہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح پوچھا گویا کہ رشک کر رہے ہوں کہ کیا

ابن مریم فقال عمر بن الخطاب كالحاسد
يا رسول الله افتعرت ذلك له قال نعم فاعرفوه

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے بعض اسے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوذر زین پر عیسیٰ بن مریم کی طرح زہد کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔

عبداللہ بن سلامؓ کے عمدہ خصائل اور مناقب

۳۵۷۲۔ حضرت عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا: کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آپ کی مدد کے لئے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: تم باہر رہ کر لوگوں کو مجھ سے دور رکھو تو یہ میرے لئے تمہارے اندر رہنے سے بہتر ہے۔ وہ باہر آئے اور لوگوں سے کہا: اے لوگوں! زمانہ جاہلیت میں میرا یہ نام تھا۔ آنحضرت ﷺ نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ میرے متعلق قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل..... الایة۔ اور ”قل کفی باللہ شہدا بینی و بینکم“..... الایة میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ (جان لو کہ) اللہ کی تلوار میان میں ہے۔ اور فرشتے تمہارے اس شہر میں تمہارے ہمسائے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ رہے تھے۔ لہذا تم لوگ اس شخص کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو تمہارے ہمسائے فرشتے تم سے دور ہو جائیں گے اور تم پر اللہ کی تلوار میان سے نکل آئے گی جو پھر قیامت تک بھی میان میں واپس نہیں جائے گی۔ لوگ کہنے لگے اس یہودی کو بھی عثمانؓ کے ساتھ قتل کر دو۔

مناقب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

۳۵۷۲۔ حدثنا علی بن سعید الکندی نا ابو محیة یحیی بن یعلی عن عبدالمملک بن عمیر عن ابن اخی عبد اللہ بن سلام قال لما ارید قتل عثمان جاء عبد اللہ بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت فی نصرک قال اخرج الی الناس فاطردوهم عنی فانک خارجا خیر الی منک داخلا فخرج عبد اللہ الی الناس فقال ایہا الناس انه کان اسمی فی الجاہلیة فلان فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ونزلت فی آیات من کتاب اللہ نزلت فی وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فامن واستکبرتم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین ونزل قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب ان للہ سیفا معمودا عنکم وان الملائکة قد جاورتکم فی بلدکم هذا الذی نزل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاللہ اللہ فی هذا الرجل ان تقتلوه فواللہ لئن قتلتموه لتطرذن جیرانکم الملائکة ولتسلن سیف اللہ المعمود عنکم فلا یعمد الی یوم القیامة قالوا اقتلوا الیہودی واقتلوا عثمانؓ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالملک بن عمیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعیب بن صفوان بھی اسے عبدالملک بن عمیر سے وہ عمر بن محمد بن عبداللہ بن سلام سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن سلام سے نقل کرتے ہیں۔

۳۵۷۳۔ حضرت یزید بن عمیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبلؓ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے درخواست کی گئی کہ اے

۳۵۷۳۔ حدثنا قتیبة نا الليث عن معوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابی ادريس الخولانی عن

ابو عبد الرحمن ہمیں وصیت کیجئے۔ فرمایا: مجھے بٹھاؤ۔ پھر فرمایا: ایمان اور علم اپنی جگہ موجود ہیں جو انہیں تلاش کرے گا وہ یقیناً پالے گا۔ تین مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا: علم کو چار شخصوں کے پاس تلاش کرو۔ ایک ابو درداءؓ، دوسرے سلمان فارسیؓ، تیسرے عبد اللہ بن مسعودؓ اور چوتھے عبد اللہ بن سلامؓ۔ جو یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو ان کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ان دس میں سے ہیں جو جنتی ہیں۔

يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ مَعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ نَالَمُوتَ قِيلَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَوْصِنَا قَالَ اجْلِسُونِي فَقَالَ اِنَّ الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ مَكَاتُهُمَا مِنْ ابْتِغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ وَالتَّمَسُّوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةٍ رَهْطٍ عِنْدَ عُوَيْمِرِ ابْنِ الدَّرَدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ هَذَا الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَّةِ

اس باب میں سعدؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۷۴۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابو بکرؓ و عمرؓ کی اقتداء کرنا، عمار کے راستے پر چلنا اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی نصیحت پر عمل کرنا۔

۳۵۷۴۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلِ ثَنِي ابْنِ اَبِي عَنِ ابِيهِ عَنِ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلِ عَنْ أَبِي الزَّرْعَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي مِنْ اَصْحَابِي ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِي عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ بْنِ مَسْعُودٍ

یہ حدیث اس سند سے عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت سے غریب ہے۔ ہم اسے صرف یحییٰ بن سلمہ بن کہیل کی روایت سے جانتے ہیں۔ اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ ابو زعراء کا نام عبد اللہ بن ہانی ہے لیکن ابو زعراء جن سے شعبہ، ثوری اور ابن عیینہ روایت کرتے ہیں۔ وہ عمرو بن عمرو ہیں وہ ابو احوص کے بھتیجے اور ابن مسعودؓ کے دوست ہیں۔

۳۵۷۵۔ حضرت ابواسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور میرا بھائی جب یمن سے آئے تو صرف عبد اللہ بن مسعودؓ ہی کے متعلق معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیونکہ وہ اور ان کی والدہ اکثر آپ ﷺ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔

۳۵۷۵۔ حَدَّثَنَا اَبُو كَرِيْبٍ نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ يُوْسُفَ بْنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ ابِيهِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُوسَى يَقُوْلُ لَقَدْ قَدِمْتُ اَنَا وَاَجِيْءُ مِنَ الْيَمَنِ وَمَا نَرَى جِيْنًا اِلَّا اَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَرَى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ اُمِّهِ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری اسے ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔

۳۵۷۶۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حدیفہؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں وہ شخص بتائیے جو آنحضرت ﷺ سے دوسرے لوگوں کی نسبت چال و چلن میں زیادہ قریب تھا۔ تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں اور احادیث سنیں۔ فرمایا: ایسے شخص عبد اللہ بن مسعودؓ ہی ہیں۔ وہ آپ ﷺ کے پوشیدہ خانگی حالات سے بھی واقف ہوتے تھے۔ جن کا ہمیں علم تک نہ ہوتا آنحضرت ﷺ کے جھوٹ سے محفوظ صحابہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب میں ام عبد کے بیٹے عبد اللہ بن مسعود کے علاوہ کوئی اللہ سے اتنا قریب نہیں جتنے وہ ہیں۔

۳۵۷۶۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الرحمن بن مهدی ناسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال آتینا حدیفة فقلنا حدینا باقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فناخذ عنه وتسمع منه قال كان اقرب الناس هديا ودلا وسمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتواری منا فی بینه فقد علم المحفوظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد هو من اقربهم الى الله زلفا .

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۷۷۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں بغیر مشورے کے کسی لشکر کا امیر مقرر کرتا تو ابن مسعودؓ کو کرتا۔

۳۵۷۷۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ناصع الحرائی نازھیر نامنصور عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا احدا منهم من غیر مشورة لامرت ابن ام عبد .

اس حدیث کو ہم صرف حارث کی علیؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان بن کعب اپنے والد سے وہ سفیان ثوری سے وہ ابواسحاق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر مقرر کرتا تو ام عبد (ابن مسعودؓ) کو کرتا۔

۳۵۷۸۔ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن چار آدمیوں سے سیکھو۔ ابن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ اور ابو حدیفہؓ کے مولیٰ سالم سے۔

۳۵۷۸۔ حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من اربعة من ابن مسعود و ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم بن مولى ابي حذيفة .

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۷۹۔ حضرت خثیمہ بن ابی بصرہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ہریرہؓ سے ملوایا میں ان کے پاس بیٹھا اور اپنی دعا کے متعلق بتایا: انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کوفہ کا

۳۵۷۹۔ حدثنا الجراح بن مخلد البصری نا معاذ ابن هشام ثنی ابی عن قتادة عن خثيمة بن ابي سبرة قال آتيت المدينة فسألت الله ان يسير لي جليسا صالحا فيسري لي ابا هريرة فجلست اليه فقلت له اني

رہنے والا ہوں اور خیر کا طلب مجھے یہاں لائی ہے۔ فرمایا: کیا وہاں مستجاب الدعوات ❶ سعید بن مالک نہیں ہیں؟ کیا آنحضرت ﷺ کے لئے وضو کا پانی رکھنے اور جو تیاں سیدھی کرنے والے ابن مسعود نہیں ہیں؟ کیا آنحضرت ﷺ کے رازدار حذیفہ نہیں ہیں؟ کیا وہ عمار نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی دعا کے مطابق شیطان سے دور کر دیا ہے؟ اور کیا دو کتابوں والے مسلمان نہیں ہیں قتادہ کہتے ہیں۔ دو کتابوں سے مراد انجیل اور قرآن ہیں۔ ❷

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسِّرَ لِي حَلِيسًا صَالِحًا فَوَقَفْتُ لِي فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جِئْتُ التَّمِسُّ الْخَيْرِ وَأَطْلُبُهُ فَقَالَ الْكَيْسَ فَيُكْمِ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُحَابَبِ الدَّعْوَةِ وَابْنِ مَسْعُودٍ صَاحِبِ طَهْوَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْلِيهِ وَحَدِيثُهُ صَاحِبِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَارِ الذِّي أَحَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَسَلْمَاءُ صَاحِبَةُ الْكِتَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةُ وَالْكِتَابَانِ الْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور خثیمہ: عبدالرحمن بن سبرہ کے بیٹے ہیں سند میں وہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔

حذیفہ بن الیمان کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۸۰۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش آپ ﷺ کسی کو خلیفہ مقرر فرمادیتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن جو چیز تم سے حذیفہ بیان کرے اس کی تصدیق کرنا اور جو عبداللہ بن مسعود پڑھے وہی پڑھنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عیسیٰ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابوداؤد کے منقول ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ انشاء اللہ زاذان سے۔

مَنَاقِبُ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۸۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا اسْحَقُ بْنُ عَيْسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ عَنْ زَادَانَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُدْبْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدَّثْتُكُمْ حُدَيْفَةَ نَسَدِ قُوَّةٍ وَمَا أَقْرَأْتُكُمْ عَبْدَ اللَّهِ فَاقْرَأُوهُ وَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ لِاسْحَاقَ ابْنِ عَيْسَى يَقُولُونَ هَذَا عَنْ أَبِي وَإِلِيَّ قَالَ لِأَعْنِ زَادَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

یہ حدیث حسن ہے اور شریک سے منقول ہے۔

زید بن حارثہ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۸۱۔ اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسامہ کو بیت المال سے ساڑھے تین ہزار اور عبداللہ بن عمر کو تین ہزار دیئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ اللہ کی قسم انہوں نے کسی غزوہ میں مجھ پر سبقت حاصل نہیں کی۔ فرمایا: اس لئے کہ اسامہ کے والد زید رسول اللہ ﷺ کو تمہارے باپ سے زیادہ عزیز اور اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے۔ لہذا میں نے آنحضرت ﷺ کے

مَنَاقِبُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۸۱۔ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرِ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِأَسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَبِيَّهُ لِمَ فَضَلْتَ أَسَامَةَ عَلَيَّ قَوْلَ اللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ قَالَ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ

❶ یعنی ان لوگوں میں سے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ (مترجم) ❷ حضرت سلمان پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہوئے، لہذا انہیں دو کتابوں والا کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

محبوب شخص کو اپنے محبوب پر مقدم کیا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةَ أَحَبَّ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فَأَثَرْتُ
حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِبِّي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۸۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید
بن محمد ہی کہا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”ادعوہم
لأبائہم ہوا قسط عند اللہ“ (یعنی انہیں ان کے اصل باپ ہی کی
طرف منسوب کیا کرو۔)

۳۵۸۲۔ حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبدالرحمن عن
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال
ما كنا ندعو زيدا بن حارثة إلا زيدا بن محمد حتى
نزلت أدعوهم لأبائهم هو أوسط عند الله

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۵۸۳۔ حضرت جلدہ بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ساتھ میرے
بھائی زید کو بھیج دیجئے۔ فرمایا: وہ یہ ہے اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو
میں نہیں روکتا۔ زید نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں آپ کی
صحبت چھوڑ کر کسی کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جلدہ فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا
کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے افضل تھی۔

۳۵۸۳۔ حدثنا الجراح بن مخلد وغير واحد
قالوا نا محمد بن عمر بن الرومي نا علي بن مسهر
عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عمرو الشيباني
قال اخبرني جبلة بن حارثة قال قدمت على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله
ابعث معي اخي زيدا قال هوذا فان انطلق معك لم
امنعه قال زيد يا رسول الله والله لا اختار عليك
احدا قال فرأيت رأيي افضل من رأيي

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابن رومی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ علی بن مسہر سے روایت کرتے ہیں۔

۳۵۸۴۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایک
لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو مقرر کر دیا۔ لوگ ان کی امارت پر
طعن کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کی امارت میں طعن
کرتے ہو تو کیا ہوا تم تو اس کے باپ کی امارت پر پر بھی طعن کرتے
تھے۔ اللہ کی قسم وہ امارت کا مستحق اور میرے نزدیک سب سے زیادہ
عزیز تھا۔ اور اس کے بعد یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب
ہے۔

۳۵۸۴۔ حدثنا احمد بن الحسن نا عبد الله بن
مسلمة عن مالك انس عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا
وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن الناس في امارته
فقال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في
امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للإمارة
وان كان من احب الناس إلي وان لهذا من احب
الناس إلي بعده

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن حجر اسے اسماعیل بن جعفر سے وہ عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی

کی مانند نقل کرتے ہیں۔

اسامہ بن زید کے عمدہ خصائل

۳۵۸۵۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا مرض بڑھا تو میں اور کچھ لوگ مدینہ واپس آئے۔ جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل ہوا تو آپ ﷺ کی زبان بند ہو چکی تھی۔ لہذا آپ ﷺ نے کوئی بات نہیں کی لیکن اپنے ہاتھ مجھ پر رکھتے اور انہیں اٹھاتے۔ میں جانتا تھا کہ آپ ﷺ میرے لئے دعا کر رہے ہیں۔

مَنَاقِبُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۸۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ نَا يُونُسَ بْنَ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصِمَّتْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدِيهِ عَلَيَّ وَيَرْفَعُهُمَا فَأَعْرَفَ أَنَّهُ يَدْعُو لِي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۸۶۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اسامہ کی ناک پونچھنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا: آپ چھوڑ دیئے میں پونچھ دیتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔

۳۵۸۶۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرِيثَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْجِحِي مَخَاطِئَ أُسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَعْنِي أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِيه فإني أحبه

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۵۸۷۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا کہ علیؓ اور عباسؓ آئے۔ اور مجھ سے کہا کہ اے اسامہ آنحضرت ﷺ سے ہمارے لئے اجازت مانگو۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: لیکن میں جانتا ہوں انہیں اجازت دے دو۔ وہ اندر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! (ﷺ) ہم آپ ﷺ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ ﷺ کے نزدیک آپ کے اہل میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا: فاطمہ بنت محمد سے۔ عرض کیا: ہم آپ کی اولاد کے متعلق نہیں پوچھ رہے بلکہ گھر والوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا: ان میں سے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر اللہ نے اور میں نے انعام کیا اور وہ اسامہ بن زید ہے۔ پوچھا: ان کے بعد؟ فرمایا: علی بن ابی طالبؓ۔ حضرت

۳۵۸۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ إِسْمَاعِيلَ نَا ابُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِذْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ يَا أُسَامَةَ اسْتَأْذِنَا لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ أَتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لَا فَقَالَ لِكَيْنِي أَتَدْرِي إِذْ ذُنُ لُهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ قَالَا مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا لَمْ نَمَنْ قَالَ لَمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ إِخْرَهُمْ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهَجْرَةِ

عباسؓ فرمانے لگے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اپنے چچا کو آخر میں کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: علیؓ نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ، عمر بن ابی سلمہ کو ضعیف کہتے ہیں۔

جریر بن عبد اللہ بجلي کے عمدہ خصائل

مَنَاقِبُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۸۸۔ حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا آنحضرت ﷺ نے مجھے کسی عطا سے محروم نہیں کیا اور مجھے جب بھی دیکھتے ہنستے تھے۔

۳۵۸۸۔ حدثنا احمد بن منيع نا مغوية بن عمرو الازدى نازقة عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأيتني إلا ضحك

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن مئج سے معاویہ بن عمرو سے وہ زائدہ سے وہ اسماعیل بن ابی خالد سے وہ قیس سے اور وہ جریر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جب سے میں مسلمان ہوا آنحضرت ﷺ نے مجھے کسی عطا سے محروم نہیں کیا اور جب بھی مجھے دیکھا مسکرائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

عبد اللہ بن عباسؓ کے عمدہ خصائل

مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۸۹۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو مرتبہ جبرائیلؑ کو دیکھا اور آنحضرت ﷺ نے دو ہی مرتبہ ان کے لئے دعا کی۔

۳۵۸۹۔ حدثنا بندار و محمود بن غيلان قالنا ابو احمد عن سفیان عن ليث عن أبي جهضم عن ابن عباس أنه رأى جبرئيل مرتين ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين

یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ ابو جهضم نے ابن عباسؓ کو نہیں پایا ان کا نام موسیٰ بن سالم ہے۔

۳۵۹۰۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے دو مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ مجھے حکمت عطا فرمائے۔

۳۵۹۰۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا قاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكيم مرتين

یہ حدیث اس سند سے عطا کی روایت سے حسن غریب ہے۔ عطا سے ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار نے اسے عبد الوہاب ثقفی سے انہوں نے خالد حذاء سے انہوں نے مکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی کہ یا اللہ اسے حکمت عطا فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۹۱۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأنما بيدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه فقصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۹۲۔ حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري نا ابو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحاً فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه فسماه عبد الله وحنكه بتمرّة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

مَنَاقِبُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۹۳۔ حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بابي وأمي يا رسول الله أنيس قال فدعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منهن أنتن في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے انس بن مالک کے واسطے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔

عبد اللہ بن عمر کے عمدہ خصائل

۳۵۹۱۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشمی نعل کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اس سے جنت کی جس جانب بھی اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے یہ خواب حفصہ کو سنایا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا بھائی نیک شخص ہے یا فرمایا: عبد اللہ نیک آدمی ہے۔

عبد اللہ بن زبیر کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۹۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے زبیر کے گھر میں چراغ (کی روشنی) دیکھی تو فرمایا: عائشہ مجھے یقین ہے کہ اسماء کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ تم لوگ اس کا نام نہیں رکھنا میں خود اس کا نام رکھوں گا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کا نام عبد اللہ رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی۔

انس بن مالک کے عمدہ خصائل

۳۵۹۳۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گزرے تو میری والدہ ام سلیم نے آپ ﷺ کی آوازن کر عرض کیا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان یا رسول اللہ! یہ انیس ہے۔ پھر آپ ﷺ نے میرے لئے تین دعائیں کی ان میں سے دو تو میں نے دنیا میں دیکھ لیں اور تیسری کی آخرت میں امید رکھتا ہوں۔

۳۵۹۴۔ حضرت ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! انس بن مالک آپ ﷺ کا خادم ہے اس کے لئے دعا کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ اس کا مال واولاد زیادہ کر اور جو کچھ اسے دیا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔

۳۵۹۴۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن ام سليم انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك خادمتك ادع الله له قال اللهم اكثبر ماله، وولده، وبارك له، فيما اعطيتہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۵۹۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ایک سبزی توڑتے ہوئے دیکھا تو اسی کے نام پر میری کنیت رکھ دی۔

۳۵۹۵۔ حدثنا زيد بن اخزم الطائي نا ابو داود عن شعبة عن جابر عن ابي نصر عن انس قال كنا نرى رسول الله ﷺ يبغلة كنت اجتنبها

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جابر جعفی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ ابونضر سے روایت کرتے ہیں۔ ابونضر: خیمہ بن ابی خیمہ بصری ہیں یہ انس سے بہت احادیث روایت کرتے ہیں۔

۳۵۹۶۔ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالکؓ نے فرمایا: اے ثابت مجھ سے علم حاصل کر لو کیونکہ مجھ سے معتبر آدمی نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ میں نے اسے آنحضرت ﷺ سے سیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے اللہ رب العزت سے۔

۲۵۹۶۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا زيد بن الحباب نا ميمون ابو عبد الله نا ثابت البناني قال قال لي انس بن مالك يا ثابت خذ عني فانك لن تأخذ عن احد اوثق مني اني اخذته عن رسول الله ﷺ واخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرئيل واخذه جبرئيل عن الله عز وجل

ابو کریب بھی زید بن حباب سے وہ میمون ابو عبد اللہ سے وہ ثابت سے اور وہ انس سے ابراہیم بن یعقوب کی حدیث کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ علوم جبرائیل سے حاصل کئے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۵۹۷۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اکثر مجھے اے دو کان والے کہا کرتے تھے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں: یعنی مذاق کے طور پر۔

۳۵۹۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة عاصم الاحول عن انس قال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الازنين قال ابوسلمة يعني يمازحه، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۵۹۸۔ حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عالیہ سے پوچھا کہ کیا انس نے آنحضرت ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا: آپ ﷺ کی دس سال خدمت کی ہے اور آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا بھی کی۔ ان کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اور اس میں ایک درخت تھا

۳۵۹۸۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو داود عن ابي خلدة قال قلت لابي العالية سمع انس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه عشر سنين ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان

يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رِيحًا
يَجِدُ مِنْهُ رِيحَ الْمُسْلِكِ
جس سے منک کی خوشبو آتی تھی۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوخلدہ کا نام خالد بن دینار ہے یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔

ابو ہریرہ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۵۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ ﷺ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں۔ لیکن یاد نہیں کر سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلائی اور پھر آپ ﷺ نے بہت سی باتیں کیں ان میں سے میں کچھ نہیں بھولا۔

مَنَاقِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۵۹۹۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثلی نا عثمان بن عمر نا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرۃ قال قلت یا رسول اللہ اسمع منک اشیاء فلا أحفظها قال أبسط رداءک فبسطه فحدثت حدیثا کثیرا مما نسیت شیئا حدثنی به

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

۳۶۰۰۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس ﷺ میں حاضر ہو کر چادر بچھا دی۔ پھر آپ ﷺ نے اسے اکٹھا کر کے میرے دل پر رکھ دیا اور اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔

۳۶۰۰۔ حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی نا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سماک عن ابی الربیع عن ابی ہریرۃ قال أتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسطت ثوبی عنده ثم أخذہ فجمعه علی قلبی قال فما نسیت بعده

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۶۰۱۔ حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا: آپ ﷺ ہم سب سے زیادہ خدمت اقدس ﷺ میں حاضر رہے تھے اور سب سے زیادہ احادیث حفظ کی ہوئی تھیں۔

۳۶۰۱۔ حدثنا احمد بن منیع نا ہشیم نا یعلی بن عطاء عن الولید بن عبد الرحمن عن ابن عمر انه قال لابی ہریرۃ یا ابا ہریرۃ انت کنت الزمانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأحفظنا لحدیثہ

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۶۰۲۔ مالک بن عامر کہتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا: اے ابو محمد آپ ﷺ نے اس یمنی (ابو ہریرہ) کو دیکھا ہے کیا وہ تم سے زیادہ احادیث جانتا ہے؟ کیونکہ ہم اس سے وہ احادیث سنتے ہیں جو تم لوگوں سے نہیں سنتے یا پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے؟ فرمایا: صحیح ہے کہ اس نے ہم سے زیادہ

۳۶۰۲۔ حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن نا احمد بن سعید الحرانی نا محمد بن سلمۃ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهیم عن مالک بن ابی عامر قال جاء رجل الى طلحة بن عبید اللہ فقال یا ابا محمد ارایت هذا الیمانی یعنی ابا ہریرۃ اهو اعلم

احادیث سنی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ ﷺ کا مہمان رہتا تھا اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا۔ جب کہ ہم لوگ گھبرا والے مالدار لوگ تھے۔ ہم صبح و شام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے آنحضرت ﷺ سے وہ احادیث سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنیں اور تم کسی نیک شخص کو کبھی آنحضرت ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔

يَحْدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَمِعُ مِنْهُ مَا لَا نَسَمِعُ مِنْكُمْ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ قَالَ أَمَا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسَمِعْ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِينًا لِأَشْيَاءَ لَهُ ضَيْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتَاتٍ وَعَيْتٍ وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفِي النَّهَارِ لَا أَشْكُ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسَمِعْ وَلَا تَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں یونس بن کبیر وغیرہ یہ حدیث محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

۳۶۰۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا دوس سے۔ فرمایا: میرا خیال تھا کہ اس قبیلے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس میں خیر ہو۔

۳۶۰۳۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَانِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ أَبِي خَلْدَةَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ابوخلدہ کا نام خالد بن دینار اور ابوعالیہ کا رفیع ہے۔

۳۶۰۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ کھجوریں لایا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں برکت کی دعا کیجئے۔ آپ ﷺ نے انہیں جمع کر کے میرے لئے دعا کی اور فرمایا: لو پکڑو اور اسے اپنے توشہ دان میں رکھ دو۔ جب تم لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لینا اور اسے جھاڑنا نہیں۔ میں نے اس میں سے کتنے ہی ٹوکڑے اللہ کی راہ میں خرچ کئے پھر خود بھی اس سے کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے۔ اور وہ تھیلی کبھی میری کمر سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس روز حضرت عثمانؓ قتل کیا گیا اس روز وہ گر گئی۔

۳۶۰۴۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَائِنِيُّ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَهَاجِرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرَّيَّاحِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهُ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَصَمَّهِنَّ ثُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِي خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِرْوَدِكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمِرْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخِلِي يَدَكَ فِيهِ فَخُذْهُ وَلَا تَنْشُرْهُ نَشْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنَطْعِمُ وَكَانَ لَا يَفَارِقُ

حَقْوَى حَتَّى كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے اس سند کے علاوہ بھی منقول ہے۔

۳۶۰۵- حدثنا احمد بن سعيد المرابطي نا روح بن عباد نا اسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال قلت لابي هريرة لم كنت ابا هريرة قال اما تفرق مني قلت بلى والله اني لا هابك قال كنت ارعى غنم اهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكننت اضعها بالليل في شجرة فاذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني ابا هريرة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۶۰۶- حدثنا قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه همام بن منبه عن ابي هريرة قال ليس احد اكثر حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الا عبد الله ابن عمر فإنه كان يكتب وكننت لا اكتب

مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۰۷- حدثنا محمد بن يحيى ابو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۳۶۰۸- حدثنا محمد بن يحيى نا عبد الله بن محمد النفيلي نا عمرو بن واقد عن يونس بن حليس عن ابي ادريس الخولاني قال لما عزل عمر

۳۶۰۵- حضرت عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا: کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ رات کو میں اسے ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا رہتا۔ اس طرح لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے۔

۳۶۰۶- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ کے علاوہ مجھ سے زیادہ احادیث کسی کو یاد نہیں وہ بھی اس لئے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

معاویہ بن ابی سفیانؓ کے عمدہ خصائل

۳۶۰۷- حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معاویہؓ کے لئے دعا کی کہ یا اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

۳۶۰۸- حضرت ابودریس خولانیؓ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطابؓ نے عمیر بن سعد کو محض کی حکمرانی سے معزول کر کے معاویہؓ کو وہاں کا حکم مقرر کیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمیر کو معزول کر کے معاویہؓ کو مقرر کر دیا

عمیر کہنے لگے۔ معاویہ کے متعلق اچھی بات ہی سوچو کیونکہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ان کے متعلق یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

بُنِ الْحَطَّابِ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حِمَصِ وَوَلِيِّ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلِيَّ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُمَيْرٌ لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ

عمر و بن عاصؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۶۰۹۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اسلام لائے اور عمرو بن عاص مؤمن ہوا۔ ①

مَنَاقِبُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۰۹۔ حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن مشرح بن همام عن عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَأَمَّنْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ شرح سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کی سند قوی نہیں۔

۳۶۱۰۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمرو بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔

۳۶۱۰۔ حدثنا اسحاق بن منصور نا ابواسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة عن طلحة ابن عبيدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان عمرو بن العاص من صالحى قريش

اس حدیث کو ہم صرف نافع بن عمرو الجمحی کی روایت سے جانتے ہیں۔ نافع ثقہ ہیں لیکن اس کی سند متصل نہیں کیونکہ ابن ابی ملیکہ نے طلحہ کو نہیں پایا۔

خالد بن ولیدؓ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۶۱۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے دوران آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی جگہ ٹھہرے۔ تو لوگ ہمارے سامنے سے گزرنے لگے آپ ﷺ مجھ سے پوچھتے کہ ابو ہریرہؓ یہ کون ہے؟ میں بتاتا تو کسی کے متعلق فرماتے کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے اور کسی کے متعلق فرماتے یہ کتنا برا بندہ ہے یہاں تک کہ خالد بن ولیدؓ گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے بتایا: خالد بن ولیدؓ آپ ﷺ نے فرمایا: خالد بن ولیدؓ کتنا اچھا آدمی ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

مَنَاقِبُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۱۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً فجعل الناس يمرؤن فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة فاقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فاقول فلان فيقول بنفس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا قلت خالد بن الوليد قال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله

① یعنی انہیں ایمان قلبی عطا کیا گیا۔ (مترجم)

یہ حدیث غریب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ زید بن اسلم نے ابو ہریرہ سے احادیث سنی ہیں یا نہیں۔ میرے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے۔ اور اس باب میں ابو بکر صدیق سے بھی روایت ہے۔

سعد بن معاذ کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۶۱۲۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ ریشی کپڑا بھیجا گیا۔ لوگ اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اس پر تعجب میں پڑ گئے ہو۔ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال بھی اس سے اچھے ہیں۔

مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا وَكَيْعُ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْحِنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۶۱۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کی وفات پر رحمن کا عرش بھی ہل گیا۔

۳۶۱۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جَرِيحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنَازَةٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اهْتَزَلَتْ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

اس باب میں اسید بن حفیر، ابوسعید اور رمیثہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۶۱۴۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے کہ اس کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ کیونکہ اس نے بنو قریظہ کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ خبر جب رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچی تو فرمایا: فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے۔

۳۶۱۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ حَمِيدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ

یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

قیس بن سعد بن عبادہ کے

عمدہ خصائل و مناقب

۳۶۱۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ قیس بن سعد کا مرتبہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک امیر کے کووال کا تھا۔ راوی کہتے ہیں: یعنی آپ ﷺ کے امور انجام دیا کرتے تھے۔

مَنَاقِبُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِنصَارِيُّ ثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ قَالَ
الْأَنْصَارِيُّ يُعْنَى مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ بھی انصاری سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں انصاری کا قول مذکور نہیں ہے۔

جابر بن عبد اللہ کے عمدہ خصائل

۳۶۱۶۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو نہ خچر پر سوار تھے اور نہ کسی ترکی گھوڑے پر، بلکہ پیدل تشریف لائے۔

مَنَاقِبُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَعْلٍ وَلَا بِرِزْوَانٍ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۱۷۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اونٹ کی رات میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔

۳۶۱۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا بَشْرُ بْنُ السَّدِيِّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اسْتَغْفِرُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور اونٹ کی رات سے مراد وہ رات ہے جس کے متعلق کئی سندوں سے منقول ہے کہ جابر نے فرمایا: میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور اپنا اونٹ آپ ﷺ کو اس شرط پر فروخت کر دیا کہ مدینہ تک اس پر سواری کروں گا۔ جابر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس رات آپ ﷺ نے میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔ ان کے والد کا نام عبد اللہ بن عمرو بن حزام ہے۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور کئی بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ جابر ان کی پرورش کرتے اور انہیں خرچ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان پر رحم فرماتے تھے جابر سے ایک روایت میں یہی منقول ہے۔

معصب بن عمیر کے عمدہ خصائل

۳۶۱۸۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لئے ہجرت کی۔ لہذا ہمارا اجر اللہ ہی پر ہے۔ ہم میں سے کئی اس حالت میں فوت ہو گئے کہ دنیاوی اجر میں سے کچھ بھی نہ حاصل کر سکے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کی امیدیں بار آور ثابت ہوئیں۔ اور وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ معصب بن عمیر اس حال میں فوت ہوئے کہ ایک کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا وہ بھی ایسا کہ اگر ان کا سر ڈھکتے تو پیر ننگے ہو جاتے اور پیر ڈھکتے تو سر ننگا

مَنَاقِبُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو أَحْمَدَ نَا سَفِيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ثَوْبًا كَانُوا إِذَا غَطُّوا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطُّوا بِهِ

رَجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَيَّ رَجُلَيْهِ الْإِذْخِرَ
ہو جاتا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کا سر ڈھک دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم سے اسے ہناد نے ابن اور لس کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ ابو وائل سے اور وہ خباب بن ارت سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

براء بن مالک کے عمدہ خصائل و مناقب

۳۶۱۹۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہت سے غبار آلود بالوں والے، پریشان اور پرانے کپڑوں والے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ کسی چیز پر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دے انہی لوگوں میں سے براء بن مالک بھی ہیں۔

مَنَاقِبُ الْبِرَاءِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۱۹۔ حدثنا عبد الله بن أبي زياد نا سيارنا جعفر بن سليمان نا ثابت وعلی بن زید عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اشعث اعبر ذی طمرین لا یؤبه له لو اقسام على الله لا برة منهم البراء بن مالک یہ حدیث حسن غریب ہے۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کے عمدہ خصائل

۳۶۲۰۔ حضرت ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوموسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کی سریلی آوازوں میں سے آواز عطا کی ہے۔

مَنَاقِبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۲۰۔ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي نا ابو يحيى الحماني عن بريدة بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابا موسى لقد اعطيت مزارا من مزابير آل داؤد۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور اس باب میں بريدة، ابو ہریرہ اور انس سے بھی روایت ہے۔

سہل بن سعد کے عمدہ خصائل

۳۶۲۱۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ خندق کھدوا رہے تھے تو ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے ہم مٹی نکال رہے تھے۔ جب آپ ﷺ ہمارے پاس سے گزرتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں لہذا انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمادے۔

مَنَاقِبُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۲۱۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع نا الفضيل بن سليمان نا ابو حازم عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب فيمر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرة

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابو حازم سلمہ بن دینار اعرج زاہد ہیں۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ قتادہ سے اور وہ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ لہذا انصار و مہاجرین کی مکرم کر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے انس سے منقول ہے۔

۱۸۳۰۔ صحابی ہونے کی فضیلت۔

باب ۱۸۳۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۶۲۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایسے مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جس نے مجھے دیکھا ہو یا اسے دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو۔ طلحہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ کو دیکھا ہے اور موسیٰ کہنے لگے میں نے طلحہ کو دیکھا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ موسیٰ نے مجھ سے فرمایا: تم نے مجھے دیکھا ہے اور ہم سب نجات کی امید رکھتے ہیں۔

۳۶۲۲۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيِّ نَامُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْإِنصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَأَى أَوْ رَأَى مِنْ رَأْيِي قَالَ طَلْحَةُ فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةَ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ لِي مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ نَرْجُوا اللَّهَ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ علی بن مدینی اور کئی حضرات یہ حدیث موسیٰ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۶۲۳۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کے بعد ان کے بعد والے اور ان کے بعد ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قوموں سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی دینے سے پہلے قسمیں کھائیں گے۔

۳۶۲۳۔ حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ أَبِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ هُوَ السَّلْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْبِقُ أَيْمَانَهُمْ شَهَادَاتِهِمْ أَوْ شَهَادَاتِهِمْ أَيْمَانَهُمْ

اس باب میں عمرؓ، عمران بن حصینؓ اور بریدہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۳۱۔ بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت۔

۳۶۲۳۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن لوگوں نے درخت کے نیچے۔ بیعت (رضوان) کی ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔

باب ۱۸۳۱۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۳۶۲۴۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَالِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۳۲۔ جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہے۔

باب ۱۸۳۲۔ فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۶۲۵۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اس لئے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ

۳۶۲۵۔ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ نَابُودَاوُدَ أَنْبَانَ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكَوَانَ أَبَا صَالِحٍ

قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی
سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے بھی برابر نہیں
ہوگا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا آذَرَكَ مَدًّا
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ”نصیفہ“ سے نصف مد مراد ہے۔ حسن بن علی بھی ابو معاویہ سے وہ اعمش سے وہ ابوصالح سے وہ ابوسعید

خدری سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۶۲۶۔ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور انہیں ہدف
ملامت نہ بنانا۔ اس لئے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری
محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے
مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ اور جس نے انہیں ایذا
پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت دی گویا
کہ اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ عنقریب
اسے (اپنے عذاب میں) گرفتار کر دیں گے۔

۳۶۲۶۔ حدثنا محمد بن يحيى نا يعقوب بن
ابراهيم بن سعد نا عبيدة بن ابى رائلة عن
عبدالرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في
اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن احبهم
فحببني احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن
اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى
الله يوشك ان ياخذَه

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۶۲۷۔ حضرت جابر بن عبداللہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ
جس جس نے بیعت رضوان میں بیعت کی وہ سب جنت میں داخل
ہوں گے سوائے سرخ اونٹ ۱ والے کے۔

۳۶۲۷۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ازهر السمان
عن سليمان التيمي عن خدّاش عن ابي الزبير عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب
الجمال الاحمر

یہ حدیث غریب ہے۔

۳۶۲۸۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حاطب کا ایک غلام ان کی
شکایت لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
یا رسول اللہ! حاطب دوزخ میں جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم
جھوٹ بولتے ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صلح
حدیبیہ میں موجود تھا۔

۳۶۲۸۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابي الزبير عن
جابر ان عبدا لحاطب جاء الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله
ليدخلن حاطب النار فقال كذبت لا يدخلها فانه
شهد بدرًا والحديبية

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱ سرخ اونٹ والے سے مراد جد بن قیس منافق ہے جو بیعت میں شریک نہیں ہوا، اپنا اونٹ تلاش کرتا رہا۔ (مترجم)

۳۶۲۹۔ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے جو جس زمین پر فوت ہوگا۔ قیامت کے دن وہاں کے لوگوں کا قائد اور ان کے لئے نور ہو کر اٹھے گا۔

۳۶۲۹۔ حدثنا ابو كريب نا عثمان بن نا جية عن عبد الله بن مسلم ابى طيبة عن عبد الله بن بريدة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بَارِضٍ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے۔ عبد اللہ بن مسلم بھی اسے ابو طیبہ سے وہ بریدہؓ اور وہ آنحضرت ﷺ سے مسلاً نقل کرتے ہیں۔

۳۶۳۰۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہؓ کو برا کہتے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔

۳۶۳۰۔ حدثنا ابو بكر بن نافع نا النضر بن حماد نا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ

یہ حدیث منکر ہے۔ ہم اسے عبد اللہ بن عمر کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۳۳۔ حضرت فاطمہؓ کی فضیلت۔

۳۶۳۱۔ حضرت مسور بن مخزومؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح علیؓ سے کر دیں۔ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تین مرتبہ اسی طرح کہنے کے بعد فرمایا: ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علی بن ابی طالبؓ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہے تو دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے جو اسے برا لگتا ہے وہ مجھے بھی برا لگتا ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے۔

باب ۱۸۳۳۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

۳۶۳۱۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْحَنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَدْنُ ثُمَّ لَا أَدْنُ ثُمَّ لَا أَدْنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا رَأَيْتُمْ مَا آذَاهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۳۲۔ حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہؓ سے اور مردوں میں سے علیؓ سے تھی ابراہیم کہتے ہیں: یعنی آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے۔

۳۶۳۲۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا الاسود بن عامر عن جعفر الاحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قَالَ كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يُعْنَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۶۳۳۔ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن علي
عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير
ان عليا ذكر بنت ابي جهل فبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال انما فاطمة بضعة مني يؤذيني
ما اذاهَا وَيُنصِبُنِي مَا نَصَبَهَا

۳۶۳۳۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو یہ بات آنحضرت ﷺ تک پہنچی آپ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے جو چیز اسے لعوب دیتی ہے وہ مجھے بھی لعوب دیتی ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایوب بھی ابن ابی ملیکہ سے وہ ابو زبیر اور کئی حضرات سے روایت کرتے ہیں جب کہ بعض حضرات ابن ابی ملیکہ سے مسور کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے روایت کی ہو۔ چنانچہ عمرو بن دینار بھی ابن ابی ملیکہ سے اور وہ مسور سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

۳۶۳۴۔ حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي
نا علي بن قادم نا اسباط بن نصر الهمداني عن
السدي بن صبيح مولى ابي سلمة عن زيد بن ارقم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي
وقاطمة والحسين والحسين انا حرب لمن حاربتم
وسلم لمن سالمتم

۳۶۳۴۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ سے فرمایا: میں بھی اس سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے اور جن سے تم صلح کرو گے ان سے میں بھی صلح کروں گا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ام سلمہؓ کے مولیٰ معروف نہیں ہیں۔

۳۶۳۵۔ حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد
الزبيري ناسفيان عن زيد عن شهر بن حوشب عن
ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلل علي
الحسين والحسين وعلي وقاطمة كساء ثم قال
اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم
الرجس و طهرهم تطهيرا فقالت ام سلمة وانا معهم
يا رسول الله قال انك على خير

۳۶۳۵۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حسنؑ و حسینؑ علیؑ اور فاطمہؑ کو ایک چادر اور ہوائی اور دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت اور خاص لوگ ہیں ان سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ ام سلمہؓ نے عرض کیا: میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ تم خیر ہی پر ہو۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب کی سب سے بہتر روایت ہے۔ اس باب میں انسؓ، عمرو بن ابی سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے۔

۳۶۳۶۔ حدثنا محمد بن بطارنا عثمان بن عمر نا
اسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن
عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام
المؤمنين قالت ما رأيت احدا أشبه سمنا ودلا
وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها

۳۶۳۶۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات، چال چلن، خصلتوں اور اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہؓ بنت محمد ﷺ سے زیادہ آپ ﷺ سے مشابہہ نہیں دیکھا۔ جب وہ آتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آنحضرت ﷺ بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتیں۔ آپ ﷺ کا

بوسہ لیتیں اور آپ ﷺ کو اپنی جگہ بٹھائیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو فاطمہ آئیں اور آپ ﷺ پر گر پڑیں۔ آپ ﷺ کا بوسہ لیا۔ پھر سر اٹھا کر رونے لگیں۔ پھر دوبارہ آپ ﷺ پر گر گریں اور سر اٹھا کر ہنسنے لگیں۔ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ وہ عورتوں میں سب سے زیادہ عقلمند ہیں لیکن بہر حال عورت تھیں۔ پھر جب آپ ﷺ فوت ہو گئے تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں گر کر سر اٹھا کر روئیں اور دوسری مرتبہ نہیں؟ انہوں نے کہا۔ آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں، میں نے یہ راز چھپایا۔ بات یہ ہے کہ پہلے آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ آپ ﷺ اس مرض میں وفات پا جائیں گے اس پر میں رونے لگیں اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اس پر میں ہنسنے لگی۔

وَقُعُودَهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَلَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكْبَتَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَكْبَتَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكْتُ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَاءٍ نَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تَوَقَّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَيْتِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعْتَ رَأْسَكَ فَبَكَتِ ثُمَّ أَكْبَيْتِ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ فَضَحِكْتُ مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ قَالَتْ إِنِّي إِذْ لَبِذْرَةٌ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجْهِهِ هَذَا فَبَكَتِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي إِنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لِحُوقًا بِهِ فَذَلِكَ حِينَ ضَحِكْتُ

یہ حدیث حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔

۳۶۳۷۔ جمع بن عمیر تمیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کس سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ فرمایا: فاطمہؓ سے۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے شوہر سے اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بکثرت روزے رکھتے اور اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

۳۶۳۷۔ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ نَا عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الْحَجَّافِ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ أَيْ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَمِلْتُ صَوَّامًا قَوْمًا

یہ حدیث غریب ہے۔

باب حضرت عائشہؓ کی فضیلت۔

باب۔ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

۳۶۳۸۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آئے تو آنحضرت ﷺ کو ہدایا بھیجیں۔ میری سونئیں سب حضرت ام سلمہؓ کے ہاں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں: اے ام سلمہؓ لوگ ہدایا

۳۶۳۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرَيْسٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ فَاجْتَمَعَ

بھیجنے کے لئے عائشہؓ کی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم بھی اسی طرح خیر چاہتی ہیں جس طرح عائشہؓ لہذا رسول اللہ ﷺ سے کہو کہ لوگوں کو حکم دیں کہ آپ ﷺ جہاں بھی ہوں وہیں ہدایا بھیجا کریں۔ ام سلمہؓ نے آنحضرت ﷺ سے کہا تو آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا آپ ﷺ نے اس مرتبہ بھی دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ام سلمہ! تم مجھے عائشہ کے متعلق تنگ نہ کیا کرو۔ اس لئے کہ اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ بعض حضرات یہ حدیث حماد بن زید سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

صَوَاحِبَاتِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَذَا يَأْتُهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةَ فَقَوْلِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرَأَةَ النَّاسِ يَهْدُونَ إِلَيْهِ أَيْنَ مَا كَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَأَعَادَتْ الْكَلَامَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدْ ذَكَرْنَ أَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَذَا يَأْتُهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَمْرًا لِلنَّاسِ يَهْدُونَ أَيْنَمَا كُنْتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةَ قَالَتْ ذَلِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤَدِّبْنِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيَ وَإِنَّا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا وَقَدَّرَوِي بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

یہ حدیث غریب ہے اور ہشام بن عروہ سے عوف کے حوالے سے بھی منقول ہے وہ ہمیشہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی قسم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں روایات مختلف ہیں۔ چنانچہ سلیمان بن ہلال، ہشام بن عروہ سے حماد بن زید بھی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ۳۶۳۹۔ حدیثنا عبد بن حمیدنا عبدالرزاق عن عبد اللہ بن عمرو بن علقمة المکی عن ابن ابی حسین عن ابن ابی ملیکة عن عائشة أن جبرائیل جاء بصورتها فی حرقفة حریر خضراء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبد اللہ بن عمرو بن علقمة کی روایت سے جانتے ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی اسے عبد اللہ بن دینار سے اسی سند سے مرسل نقل کرتے ہوئے حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں کرتے۔ ابواسامہ بھی ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

۳۶۴۰۔ حدیثنا سوید بن نصرنا عبد اللہ بن المبارک نا معمر عن الزهری عن ابی سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرَائِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَأَنْزَى

۳۶۳۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہؓ یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ آپ ﷺ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۶۴۱۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے کہا علیہ السلام ورحمة اللہ۔

۳۶۴۱۔ حدثنا سويد انا عبد الله بن المبارك نا زكريا عن الشعبي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرئيل يقرأ عليك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله

یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۶۴۲۔ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں (صحابہ) کو کسی حدیث کے بارے میں اشکال ہوتا اور اس کے بارے میں عائشہؓ سے پوچھتے تو ان کے پاس اس کا علم ہوتا۔

۳۶۴۲۔ حدثنا حميد بن مسعدة نا زياد بن الربيع نا خالد بن سلمة المحزومي عن ابي بردة عن ابي موسى قال ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۶۴۳۔ حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں ذات سلاسل کے لشکر کا امیر مقرر کیا۔ جب میں آیا تو آپ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا: عائشہؓ سے۔ میں نے پوچھا: آدمیوں میں سے؟ فرمایا: اس کے والد سے۔

۳۶۴۳۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب وبنار قالا يحيى بن حماد نا عبد العزيز بن المختار نا خالد الحذاء عن ابي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل قال فاتيته فقلت يا رسول الله ابي الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۴۴۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ آپ ﷺ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا: عائشہؓ سے۔ میں نے پوچھا: مردوں میں سے؟ فرمایا: اس کے والد سے۔

۳۶۴۴۔ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا يحيى بن سعيد الاموي عن اسمعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عمرو بن العاص انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشة قال من الرجال قال ابوها

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اسماعیل اسے قیس سے روایت کرتے ہیں۔

۳۶۴۵۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۳۶۴۵۔ حدثنا علي بن حجر نا اسمعيل بن جعفر

عائشہ کی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح
ثرید (گوشت اور روٹی) کی تمام کھانوں پر۔

عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر عن الأنصاری
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد
على سائر الطعام

اس باب میں عائشہ اور ابو موسیٰ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر کی کنیت ابو طوالہ
النصاری مدنی ہے وہ ثقہ ہیں۔

۳۶۴۶۔ عمرو بن غالب کہتے ہیں کہ عمار بن یاسرؓ کی موجودگی میں کسی
شخص نے حضرت عائشہؓ کو کچھ کہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مردود
اور بدترین آدمی دفع ہو جا! تو آنحضرت ﷺ کی لاڈلی رفیقہ حیات کو
اذیت پہنچاتا ہے۔

۳۶۴۶۔ حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن
مهدى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن
غالب أن رجلاً نال من عائشة عند عمار بن ياسر
قال اعزب مقبوحا منبوحا أتوذى حبيبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۴۷۔ حضرت عبد اللہ بن زیادؓ اسدی کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن
یاسرؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہؓ دنیا و آخرت (دونوں میں) آنحضرت
ﷺ کی بیوی ہیں۔

۳۶۴۷۔ حدثنا بندار نا عبد الرحمن بن مهدى نا
ابوبكر بن عياش عن أبي حصين عن عبد الله بن
زياد الأسدي قال سمعت عمار بن ياسر يقول هي
زوجه في الدنيا والآخرة يعني عائشة
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۴۸۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے ان کے محبوب
ترین شخص کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: عائشہ۔ پوچھا کہ مردوں میں
سے کون ہیں؟ فرمایا: ان کے والد۔

۳۶۴۸۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا المعتمر
بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول
الله من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من
الرجال قال أبوها

یہ حدیث اس سند سے انسؓ کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۸۳۵۔ خدیجہؓ کی فضیلت۔

باب ۱۸۳۵۔ فی فضل خدیجۃ رضی اللہ عنہا

۳۶۴۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ خدیجہؓ کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی
کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ اگر وہ ہوتیں تو میرا کیا حال ہوتا۔ اس کی
وجہ صرف اتنی تھی کہ آنحضرت ﷺ بکثرت انہیں یاد کرتے اور اگر کوئی
بکری ذبح کرتے تو تلاش کر کے حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں کو بھیجا
کرتے تھے۔

۳۶۴۹۔ حدثنا ابو هشام الرفاعي نا حفص بن
غيث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
ما عرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم ما عرت على خديجة وما يبى أن تكون
أدر كنتها وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَّبِعُ بِهَا
صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۵۰۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہؓ کے علاوہ کسی پر اتنا
رشتہ نہیں کیا۔ میرا تو آپ ﷺ سے نکاح ہی ان کی وفات کے بعد ہوا
لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی تھی جو
موتی سے بنا ہوا ہے نہ اس میں شور وغل ہے نہ ایذا و تکلیف ہے۔

۳۶۵۰۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ
مَوْسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
مَا حَسَدْتُ امْرَأَةً مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ وَمَا تَزَوَّجْتِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ مَامَاتٍ
وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهَا
بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۵۱۔ حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ خدیجہؓ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے
بہتر اور مریم بنت عمرانؓ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے بہتر
تھیں۔

۳۶۵۱۔ حَدَّثَنَا هِرُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا
عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ
نِسَاءٍ هَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَخَيْرُ نِسَاءٍ هَا مَرْيَمُ
بِنْتُ عِمْرَانَ

اس باب میں انسؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۵۲۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عام لوگوں کو
مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لئے چار عورتیں
ہی کافی ہیں۔ مریم بنت عمرانؓ خدیجہ بنت خویلدؓ، فاطمہ بنت محمدؓ اور
آسیہ (فرعون کی بیوی)

۳۶۵۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوِيَةَ ثَنَا عَبْدِ الرَّزَاقِ نَا
مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ
عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ خُوَيْلِدٍ وَقَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ
وَأَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۳۶۔ ازواج مطہرات کی فضیلت۔

۳۶۵۳۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ سے فجر کی نماز کے
بعد کہا گیا کہ آنحضرت ﷺ کی فلاں بیوی فوت ہو گئی ہیں۔ وہ فوراً
سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس وقت سجدہ کر رہے
ہیں؟ فرمایا: کیا آنحضرت ﷺ نے نہیں فرمایا کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو

باب ۱۸۳۶۔ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
۳۶۵۳۔ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ
الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ نَاسِلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ وَكَانَ ثَقَفًا عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَتْ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ
بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

تو سجدہ کیا کرو۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی وفات سے زیادہ بڑی کیا نشانی ہوگی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ قَبْلَ لَهُ، اتَّسَجَدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۶۵۴۔ حضرت صفیہ بنت جحیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے عائشہ اور حفصہؓ سے یہ بات پہنچی تھی کہ انہوں نے کہا: ہم آنحضرت ﷺ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والیاں ہیں اس لئے کہ ہم آپ ﷺ کی بیویاں بھی ہیں اور ان کے چچا کی بیٹیاں بھی۔ میں نے یہ بات آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کی تو فرمایا: تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر محمد (ﷺ) ہیں۔ میرے والد ہارون ہیں اور میرے چچا موسیٰ ہیں۔ ❶

۳۶۵۴۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ نَا عَبْدِ الصَّمَدِ نَا هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ الْكُوفِيِّ نَا كِنَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَلَا قُلْتِ وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَرُونَ وَعَمِّي مُوسَى وَكَانَ الَّذِي بَلَغَهَا إِنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَقَالُوا نَحْنُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتُ عَمِّهِ

اس باب میں انسؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ہاشم کوفی کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۶۵۵۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ کو پتہ چلا کہ حفصہؓ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے۔ اس پر وہ رونے لگیں۔ جب آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں آپ ﷺ نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ حفصہؓ مجھے یہودی کی بیٹی کہتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو بیٹی بھی نبی کی ہے تیرا چچا بھی نبی ہے اور تو نبی ہی کے نکاح میں ہے پھر حفصہؓ تجھ پر کس چیز پر فخر کرتی ہے؟ پھر فرمایا: حفصہؓ اللہ سے ڈرو۔

۳۶۵۵۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا أَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ نَائِبٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةُ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ قَالَتْ لِي حَفْصَةُ ابْنَةُ ابْنَةِ يَهُودِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتِ لِأَبْنَةِ نَبِيِّ وَإِنَّ عَمَلَكِ لِنَبِيِّ وَأَنْتِ لَتَحْتِ نَبِيِّ فَفِيمَ تَفَخَّرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

۳۶۵۶۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے فاطمہؓ کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ رونے

۳۶۵۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ثَنِيٍّ مَوْسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيَّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ

❶ حضرت صفیہؓ یہودی قبیلے کے سردار جحیٰ بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ یہ لوگ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہارونؓ کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت موسیٰؑ کے بھائی تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے انہیں چچا اور انہیں والد فرمایا۔ (مترجم)

لگیں۔ پھر دوبارہ سرگوشی کی تو ہنسنے لگیں۔ کہتی ہیں جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو میں نے ان سے ان کے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگیں پہلے آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی جسے سن کر میں رونے لگی پھر بتایا کہ تم جنت میں مریم بنت عمران کے علاوہ تمام عورتوں کی سردار ہو گی یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔

هاشم ان عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فاجأها فبكت ثم حدثها فضحك قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكت ثم أخبرني أنها سيده نساء أهل الجنة إلا مریم بنت عمران فضحك

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

۳۶۵۷۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں۔ نیز جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے برائی سے یاد نہ کیا کرو۔

۳۶۵۷۔ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا سفيان عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہشام بن عروہ سے بھی ان کے والد کے حوالے سے آنحضرت ﷺ سے مرسل منقول ہے۔

۳۶۵۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص میرے صحابہ کے متعلق میرے سامنے برائی بیان نہ کرے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب ان کی طرف جاؤں تو میرا دل صاف ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ مال لایا گیا تو آپ ﷺ نے اسے تقسیم کیا میں دو شخصوں کے پاس پہنچا تو وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم محمد (ﷺ) کو اس تقسیم سے نہ رضائے الہی مقصود ہے اور نہ دار آخرت۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت بری لگی۔ لہذا میں نے آ کر آنحضرت ﷺ سے بیان کر دی۔ آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا: جانے دو موسیٰ کو اس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی انہوں نے بھی صبر کیا۔

۳۶۵۸۔ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أحد من أصحابي شيئاً أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر قال عبد الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال فقسمه النبي ﷺ فأنتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما رأيت محمد يقسمه التي قسما وجهه الله ولا الدار الآخرة ففتيت حين سمعتها فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته فأحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أودى موسى بأكثر من هذا فصبر

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس سند میں ایک شخص زیادہ ہے۔ محمد بن اسماعیل، عبید اللہ بن موسیٰ سے وہ حسین بن محمد سے وہ اسرائیل سے وہ سدی سے وہ ولید بن ابی ہشام سے وہ زائد بن زائدہ سے وہ ابن مسعود سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی قسم کی حدیث نقل کرتے ہیں یعنی اس سند کے علاوہ اور سند سے۔

باب ۱۸۳۷۔ فَضْلُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۳۶۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ زُرَيْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَرَأَ فِيهَا إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا يَهُودِيَّةٌ وَلَا نَصْرَانِيَّةٌ وَلَا الْمُحَوِّسِيَّةُ وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ؛ وَقَرَأَ عَلَيْهِ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَأَتَّبَعِيَ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَأَتَّبَعِيَ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

باب ۱۸۳۷۔ ابی بن کعبؓ کی فضیلت۔

۳۶۵۹۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھوں۔ پھر آپ ﷺ نے سورۃ البینہ پڑھی اور اس میں اس طرح پڑھا "ان الدین عند اللہ..... یکفروہ" تک (یعنی اللہ کے نزدیک دین ایک ہی طرف کی ملت ہے نہ کہ یہودیت، نہ نصرانیت اور نہ مجوسیت، اور جو شخص نیکی کرنے لگا اسے ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا) پھر آپ ﷺ نے "لو ان"..... آخراً تک پڑھا۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال کی بھری ہوئی ایک وادی بھی ہو تو بھی اس کی خواہش ہوگی کہ اسے دوسری بھی مل جائے اور اگر وہوں تو تیسری کی خواہش ہوگی۔ اور یہ کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور دوسری سند سے بھی منقول ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمن ابزی اسے اپنے والد سے اور وہ ابی بن کعبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ قنادہ بھی انسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔

باب ۱۸۳۸۔ فَضْلُ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ

۳۶۶۰۔ حَدَّثَنَا بِنْدَارُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ زَهْرِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ

باب ۱۸۳۸۔ انصار اور قریش کی فضیلت۔

۳۶۶۰۔ حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں بھی چلنے لگیں۔ تب بھی میں ان کا ساتھ دوں گا۔

یہ حدیث حسن ہے۔

۳۶۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

نَاشِعَةُ عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُجِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحْبَبَهُمْ فَاحْبَبَهُ اللَّهُ

۳۶۶۱۔ حضرت عدی بن ثابتؓ حضرت براء بن عازبؓ سے نقل کرتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے متعلق فرمایا کہ ان سے وہی محبت کرتا ہے جو مؤمن ہے اور صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم نے عدی سے پوچھا کہ کیا آپ

نے خود یہ حدیث براء سے سنی۔ فرمایا: بلکہ انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی۔

وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ فَقُلْنَا لَهُ، أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ
الْبَرَاءِ فَقَالَ إِيَّاي حَدَّثَ
یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۶۶۲۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار میں سے چند لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی غیر تو نہیں؟ لوگوں نے کہا ہمارے ایک بھانجے کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: قریش نئے نئے جاہلیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں اور نئی نئی مصیبت سے بھی دوچار ہوئے ہیں (قتل و قید وغیرہ) میں چاہتا ہوں کہ ان کی دل شکنی کا کوئی علاج کروں اور ان سے الفت کروں۔ ❶ کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ دنیا لے کر گھروں کو لوٹ جائیں اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ ﷺ کو لے کر جاؤ۔ عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری میں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔

۳۶۶۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ
نَا شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ
فَقَالَ هَلُمَّ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِّنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا
ابْنُ أُخْتٍ لَّنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي
أَرَدْتُ أَنْ أَجْبِرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرَضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ
النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكْتُ النَّاسَ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا
وَسَلَكْتُ الْأَنْصَارَ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي
الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ
یہ حدیث صحیح ہے۔

۳۶۶۳۔ حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ حرہ کے موقع پر انسؓ کے چند اقرباء اور ان کے کچھ پیچازاد بھائی شہید ہوئے تو میں نے انہیں تعزیت کا خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بشارت دیتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ انصار کو، ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولادوں کی مغفرت فرما۔

۳۶۶۳۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا هَشِيمُ نَا عَلِيُّ بْنُ
زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ نَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعْزِيهِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ
أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَا أَبِشْرِكَ
بِبُشْرَى مِنَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِذُرَارِي
الْأَنْصَارِ وَلِذُرَارِي ذُرَارِيهِمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتادہ سے نصر بن انسؓ سے اور وہ زید بن ارقمؓ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۶۶۴۔ حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابو طلحہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی قوم کو میرا سلام کہنا۔ میں انہیں پرہیزگار اور صابر جانتا ہوں۔

۳۶۶۴۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْبَصْرِيُّ
نَا ابُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ
الْبَنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ

❶ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے انہیں مالِ غنیمت میں سے کچھ مال دے دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأْ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعَفَّةَ صَبْرٍ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۶۵- حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن زكريا بن ابي زائدة عن عطيبة عن ابي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ عَيْبَتِي الَّتِي أُوِيَ إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ كَرَشِي الْأَنْصَارُ فَأَغْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ

یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

۳۶۶۶- حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارُ كَرَشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْفُرُونَ وَيَقْلُونَ فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۶۷- حدثنا احمد بن الحسن نا سليمان بن داود الهاشمي نا ابراهيم بن سعد نا صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن ابي سفيان عن يوسف بن الحكم عن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرْدِهَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ

یہ حدیث غریب ہے۔ عبد بن حمید بھی یعقوب بن ابراہیم سے وہ اپنے والد سے وہ صالح بن کیسان سے اور وہ ابن شہاب سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۶۶۸- حدثنا ابو كريب نا ابو يحيى الحماني عن الاعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي لَا يُغْضُ الْأَنْصَارُ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۶۵- حضرت ابو سعیدؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میرے خاص اور رازدار لوگ جن کے پاس میں لوٹ کر جاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں۔ اور میں جن لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں وہ انصار ہیں لہذا ان میں سے بروں کو معاف کر دو اور نیکوں کو قبول کر لو۔

۳۶۶۶- حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انصار میرے اعتماد والے اور رازدار لوگ ہیں۔ لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے لہذا ان کے نیکوں کو قبول کر دو اور ان کے بروں کو معاف کر دو۔

۳۶۶۷- حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو قریش کی ذلت چاہتا ہے اللہ سے ذلیل کر دیتے ہیں۔

۳۶۶۸- حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔

۳۶۶۹۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ تو نے قریش کو پہلے (قتل و اسر) کے عذاب کا مزہ چکھایا اب آخر میں انہیں عنایت اور رحمتوں کا مزہ چکھا۔

۳۶۶۹۔ حدثنا ابو كريب نا ابو يحيى الحماني عن الاعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اذقت اول قریش نكالا فاذا ذق اخرهم نوالا

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے عبد الوہاب دراق بھی یحییٰ سے اور وہ اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۶۷۰۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ انصار، انصار کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد اور ان کی عورتوں کی مغفرت فرما۔

۳۶۷۰۔ حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا اسحاق بن منصور عن جعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار ولانبياء ولانبياء ابناؤ الانصار ولينساء الانصار

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۳۹۔ انصار کے گھروں کی فضیلت۔

باب ۱۸۳۹۔ ماجاء فی آی دور الانصار خیر

۳۶۷۱۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں انصار میں سے بہتر لوگوں یا فرمایا بہتر انصار کے تعلق نہ بتاؤں؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ فرمایا: قبیلہ بنو نجار اور پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی بنو عبد الأشہل پھر ان کے قریب والے بنو حارث بن خزرج پھر ان کے قریب والے بنو ساعدہ۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو بند کر کے کھولا جیسے کوئی کچھ پھینکتا ہے اور فرمایا: انصار کے سب گھروں میں ہی خیر ہے۔

۳۶۷۱۔ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار او بخير الانصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيديه فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه قال وفي دور الانصار كلها خير

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انسؓ اسے ابو اسید ساعدی سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۶۷۲۔ حضرت ابو اسید ساعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انصار کے گھلوں میں سے سب سے بہتر بنو نجار کا محلہ ہے پھر بنو عبد الأشہل کا، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو ساعدہ کا اور انصار کے تمام گھلوں میں خیر ہے۔ سعد کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں ہم پر فضیلت دے دی ہے۔ چنانچہ کہا گیا: تمہیں بھی تو بہت سوں

۳۶۷۲۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن

الخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ
فَقَالَ سَعْدٌ مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابواسید ساعدی کا نام مالک بن ربیعہ ہے۔

۳۶۷۳۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
انصار کے گھروں میں سے بہترین گھر بنو نجار کے ہیں۔

۳۶۷۳۔ حَدَّثَنَا ابُو سَائِبِ سَلَمِ بْنِ حَنَادَةَ بْنِ سَلَمِ
نَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ مَجَالِدِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرُ دِيَارِ الْأَنْصَارِ هُنُو النَّجَارِ
یہ حدیث غریب ہے۔

۳۶۷۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
انصار میں سے بہترین لوگ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے لوگ ہیں۔

۳۶۷۴۔ حَدَّثَنَا ابُو السَّائِبِ نَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ
مَجَالِدِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو
عَبْدِ الْأَشْهَلِ

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

باب ۱۸۴۰۔ مدینہ منورہ کی فضیلت۔

باب ۱۸۴۰۔ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ

۳۶۷۵۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول
اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے اور جب سعد بن ابی وقاص کے محلے میں حرہ سقیاء
کے مقام پر پہنچے تو آپ ﷺ نے وضو کا پانی منگوا کر وضو کیا اور قبلہ رخ ہو
کر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ ابراہیم تیرے بندے اور دوست
تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا
بندہ اور رسول ہوں اور تجھ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان
کے مد اور صاع میں اس سے دگنی برکت فرما جنتی اہل مکہ کے لئے کج
تھی۔ اور ہر برکت کے ساتھ دو برکتیں۔

۳۶۷۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ السَّعِيدِ بْنِ اللَّيْثِ عَنِ سَعِيدِ
ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنِ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ عَنِ
عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ
بِحَرَّةِ السُّقْيَا الَّتِي كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْتُونِي بِوَضُوءٍ
فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَدَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تَبَارِكُ لَهُمْ
فِي مَدِيْنِهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ
الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عائشہ عبد اللہ بن زید اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

۳۶۷۶۔ حضرت علی بن ابی طالب اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

۳۶۷۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ نَا ابُو نُبَاتَةَ

ﷺ نے فرمایا: میرے منبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یونس بن یحییٰ بن نباتة سلمة بن وردان عن ابی سعید بن ابی المعلی عن علی بن ابی طالب و ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن کامل مروزی بھی عبدالعزیز بن ابی حازم سے وہ کثیر بن زید سے وہ ولید بن رباح سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میری مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری کسی مسجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز مسجد نبوی کی ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ اسے عبدالملک نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور آنحضرت ﷺ سے اور سند سے بھی منقول ہے

۳۶۷۷۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو وہیں مرنے کی کوشش کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔

۳۶۷۷۔ حدثنا بندار نا معاذ بن هشام ثنی ابی عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان یموت بالمدينة فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا

اس باب میں سیحہ بنت حارث اسلمیہ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث اس سند سے ایوب سختیانی کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

۳۶۷۸۔ حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ ان کی ایک مولاہ آئیں اور کہنے لگیں مجھ پر زمانے کی گردش ہے لہذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ فرمایا: شام کیوں نہیں چلی جاتیں وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ پھر اے نادان صبر کیوں نہیں کرتی اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس نے مدینہ کی تختیوں اور بھوک پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔

۳۶۷۸۔ حدثنا محمد بن عبدالاعلیٰ نا المعتمر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان مولاہ لہ اتتہ فقالت اشدت علی الزمان وانی ارید ان اخرج الی العراق قال فہلا الی الشام ارض المنشر واصبری ککاع فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صبر علی شدتها ولا وایتھا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ

اس باب میں ابوسعیدؓ، سفیان بن ابی زہیرؓ اور سیحہ اسلمیہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۶۷۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ مسلمانوں کے شہروں میں سے سب سے آخر میں ویران ہوگا۔

۳۶۷۹۔ حدثنا ابوالسائب ثنا ابو جنادہ بن سلم عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر قریة من قری الاسلام خرابا بالمدينة

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف جنادہ کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں۔

۳۶۸۰۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی پھر مدینہ ہی میں اسے بخار ہو گیا۔ چنانچہ وہ آیا اور عرض کیا کہ اپنی بیعت واپس لے لیں۔ آپ ﷺ نے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اسی طرح عرض کیا: آپ ﷺ اس مرتبہ بھی نہ مانے۔ وہ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا لیکن آپ ﷺ نے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ جب وہ نکلا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مدینہ بھٹی کی طرح ہے یہ بھی اپنا میل کچیل دور کر کے اپنے پاکیزہ (شے) کو چکادیتا ہے۔ ❶

۳۶۸۰۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَامِعُنَ نَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَنَاقِثِيَّةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَهُ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْلِنِي بِيْعَتِي فَاِنِّي فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ ثُمَّ جَاءَ هُ فَقَالَ اَقْلِنِي بِيْعَتِي فَاِنِّي فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكَبِيْرِ تَنْفِي حَبِثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا

اس باب میں ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۸۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی ہرن کو بھی مدینہ میں چرتا ہوا دیکھ لوں تو نہ ڈراؤں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان دو پتھر ملی زمینوں کے درمیان حرم ہے۔

۳۶۸۱۔ حَدَّثَنَا الْانصَارِيُّ نَامِعُنَ نَا مَالِكُ وَ نَاقِثِيَّةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمَّكَ يَقُوْلُ لَوْ رَاَيْتُ الطَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ مَا زَعَرْتُهُا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَا بَيْتِيهَا حَرَامٌ

اس باب میں سعدؓ، عبداللہ بن زیدؓ، انسؓ، ابویوبؓ، زید بن زیدؓ، رافع بن خدیجؓ، جابر بن عبداللہؓ اور سمیل بن حنیفؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۸۲۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا: یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم ٹھہرایا اور میں بھی مدینہ کو حرم ٹھہراتا ہوں۔

۳۶۷۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ وَثَنَا الْانصَارِيُّ نَامِعُنَ نَا مَالِكُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي عَمْرٍو عَنْ اَبِي عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ اُحْدًا فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّي اُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَا بَيْتِيهَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۶۸۳۔ حضرت جریر بن عبداللہؓ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ ان تین جگہوں میں سے جہاں بھی آپ جا کر ٹھہریں گے وہی دارالبحرہ ہوگا۔ مدینہ، بحرین اور قسریں۔

۳۶۸۳۔ حَدَّثَنَا الْحَمِيْدُ بْنُ حَرْيْثٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمِيْسِيِّ بْنِ عَبِيْدِ بْنِ غِيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِيِّ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيْرِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ

❶ یعنی جیسے بھٹی میل کو دور کر دیتی اسی طرح مدینہ بھی برے لوگوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ (مترجم)

اللَّهُ أَوْحَى إِلَيَّ أَيُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ فَهِيَ
دَارُ هَجْرَتِكَ الْمَدِينَةَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَنْسَرِينَ

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف فضل بن موسیٰ کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابو عامر نے اسے اکیلے روایت کیا ہے۔

۳۶۸۴۔ حدثنا محمد بن غيلان نا الفضل بن
موسى نا هشام بن عروة عن صالح بن ابى صالح
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ
إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور صالح بن ابی صالح، سہیل بن ابی صالح کے بھائی ہیں۔

باب مکہ کی فضیلت۔

باب۔ فِي فَضْلِ مَكَّةَ

۳۶۸۵۔ حضرت عبد اللہ بن عدی بن حمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ ﷺ کو حرورہ کے مقام پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم
اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر اور اللہ کے نزدیک پوری زمین
سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو ہرگز نہ جاتا۔

۳۶۸۵۔ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفًا عَلَى
الْحُرُورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ
اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجُكَ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یونس بھی زہری سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو اسے ابوسلمہ سے وہ ابو ہریرہؓ
سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ زہری کی ابوسلمہ سے عبد اللہ بن عدی بن حمرہ کے حوالے سے منقول حدیث میرے نزدیک
زیادہ صحیح ہے۔

۳۶۸۶۔ حدثنا محمد بن موسى البصرى نا
الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان خثيم نا
سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس قال قال
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبُكَ مِنْ
بَلَدٍ وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ
مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ

۳۶۸۶۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے
فرمایا: تم کتنے اچھے شہر ہو اور مجھے کتنے عزیز ہو۔ اگر میری قوم مجھے
یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تیرے علاوہ کہیں نہیں رہتا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۸۴۲۔ عرب کی فضیلت۔

باب ۱۸۴۲۔ فِي فَضْلِ الْعَرَبِ

۳۶۸۷۔ حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے
سلمان مجھ سے بغض نہ رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ

۳۶۸۷۔ حدثنا محمد بن يحيى الازدى واحمد بن
منيع وغيروا حد قالوا نا ابو بدر شجاع بن الوليد عن

قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَلْمَانُ لَا تَبْغِضْنِي فُتْفَارِقَ دِينَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانِي اللَّهُ قَالَ تَبْغِضُ الْعَرَبَ فَتَبْغِضْنِي

سے جاتا رہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں آپ ﷺ سے کیسے بغض کر سکتا ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ﷺ کے ذریعے ہدایت دی۔ فرمایا: اگر تم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا کہ مجھ سے بغض رکھو گے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو بدر بن شجاع بن ولید کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۶۸۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيِّ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ حَصِينِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْرَاقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنْلَهُ مَوَدَّتِي

۳۶۸۸۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عرب سے خیانت کرے گا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن عمر حمسی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ مخارق سے روایت کرتے ہیں۔ حصین محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں۔

۳۶۸۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى نَا سَلِيمَانَ بْنِ حَرْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ اِسْتَدَّتْ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهَا إِنَّا نَرَاكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اِسْتَدَّتْ عَلَيْكَ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَكَ الْعَرَبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ وَمَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ

۳۶۸۹۔ حضرت محمد بن ابی زین اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ام حریہ کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی عربی فوت ہو جاتا تو وہ نہایت غمگین ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے جب کوئی عرب فوت ہوتا ہے تو آپ اتنی غمگین کیوں ہو جاتی ہیں فرمانے لگیں: میں نے اپنے مولیٰ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرب کا ہلاک ہونا قیامت کی قربت کی نشانیوں میں سے ہے۔ محمد بن ابی زین کہتے ہیں کہ ان کے مولیٰ طلحہ بن مالکؓ تھے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف سلیمان بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۶۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ نَا حِجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَفْرَقَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ

۳۶۹۰۔ حضرت ام شریکؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں میں جا کر رہنے لگیں گے۔ ام شریکؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اس دن عرب کہاں ہو گے؟ فرمایا: وہ تھوڑے ہوں گے۔

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۶۹۱۔ حضرت سرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سام عرب کے باپ، یافث رومیوں کے باپ اور حام حبشیوں کے باپ ہیں۔

۳۶۹۱۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن بن سمره بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام ابوالعرب ويافث ابوالروم وحام ابوالحبش
یہ حدیث حسن ہے اور یافث کو یافث اور یافث بھی کہتے ہیں۔

باب ۱۸۴۳۔ عجم کی فضیلت۔

۳۶۹۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے عجم کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: مجھے ان میں سے بعض پر تم لوگوں میں سے بعض سے زیادہ اعتماد ہے۔ یا ان پر تمہاری نسبت زیادہ اعتماد ہے۔

باب ۱۸۴۳۔ فی فضل العجم
۳۶۹۲۔ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم عن ابى بكر بن عياش نا صالح بن ابى صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت ابي هريرة يقول ذكرت الاعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانا بهم او ببعضهم اوثق منى بكم او ببعضكم
یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابو بکر بن عیاش کی روایت سے جانتے ہیں۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابو بکر بن عیاش کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۶۹۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب سورہ جعد نازل ہوئی تو ہم آنحضرت ﷺ کے پاس تھے آپ ﷺ نے یہ سورت پڑھی اور جب ”وآخرین منہم“..... الایۃ پہم پہنچے تو ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ وہ کون ہیں جو ہم سے ابھی نہیں ملے؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ سلمان فارسی بھی ہم میں موجود تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو بھی اس کی قوم میں سے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے۔

۳۶۹۳۔ حدثنا علی بن حجرنا عبد الله بن جعفر ثنی ثور بن زید الدیلی عن ابی العیث عن ابی هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ واخرين منهم لما يلحقوهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمهم قال وسلمان الفارسي فبنا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثرى لتنا وله رجال من هؤلاء
یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ۱۸۴۴۔ یمن کی فضیلت۔

۳۶۹۴۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے یمن کی طرف نظر ڈالی اور دعا کی کہ یا اللہ ان کے دل ہماری طرف پھیر دے اور ہمارے صاع اور مد میں برکت دے۔

باب ۱۸۴۴۔ فی فضل الیمن
۳۶۹۴۔ حدثنا عبد الله بن ابی زیاد وغير واحد قالوا نا ابوداود الطینالی نا عمران القطان عن قتادة عن انس عن زید بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل الیمن فقال اللهم اقبل بقلوبهم
یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً منقول ہے۔

وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدِينَا

یہ حدیث زید بن ثابت کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۳۶۹۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو نہایت نرم دل اور رقیق القلب ہیں۔ ایمان بھی وہیں سے نکلا ہے اور حکمت بھی یمن ہی سے نکلی ہے۔

۳۶۹۵۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ نَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا كُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَضْعَفُ قُلُوْبًا وَاَرَقُّ اَفْئِدَةً الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۶۹۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بادشاہت قریش میں، قضا انصار میں، اذان حبشہ میں اور امانت ازد کے لوگوں میں ہے یعنی یمن کے۔ ①

۳۶۹۶۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَازِيْدُ بْنُ حَبَابٍ نَامِعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ نَا ابُو مَرْيَمَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْاَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْاَمَانَةُ فِي الْاَزْدِ يَعْنِي الْيَمَنَ

محمد بن بشار، عبد الرحمن سے وہ معاویہ سے وہ ابومریم سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہوئے اسے پرفوع نہیں کرتے یہ زید بن حباب کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

۳۶۹۷۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ازد کے رہنے والے اللہ کی زمین پر اس کے دین کے مددگار ہیں۔ لوگ چاہیں گے کہ انہیں زیر کریں لیکن اللہ ان کی ایک نہ مانے گا بلکہ انہیں اور بلند کرے گا۔ اور لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کاش میرا باپ یا ماں ازدی ہوتے۔

۳۶۹۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْقَدُوْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَارُ ثَنِيَّ عَمِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيْرِ بْنِ شَعِيْبِ ثَنِيَّ عَمِي عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَعِيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَزْدُ اَزْدُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ يُرِيْدُ النَّاسُ اَنْ يَضَعُوْهُمْ وَيَاْبِي اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَرْفَعَهُمْ وَلِيَاْتِيْنَ عَلَيَّ النَّاسُ زَمَانًا يَقُوْلُ الرَّجُلُ يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ اَزْدِيًّا يَا لَيْتَ اُمِّيْ كَانَتْ اَزْدِيَّةً

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ انسؓ سے موقوفاً بھی منقول ہے اور میرے نزدیک وہی زیادہ صحیح ہے۔

۳۶۹۸۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ازدی نہ ہوتے تو کابل لوگوں میں سے نہ ہوتے۔

۳۶۹۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْقَدُوْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَارُ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِيْ مَهْدِيُّ بْنُ مِيْمُوْنَ ثَنِيَّ غِيْلَانُ بْنُ جَرِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ

① ایمان و حکمت مکہ سے نکلے ہیں اور مکہ چونکہ تہامہ میں اور تہامہ یمن میں داخل ہے اس لئے آپ ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ یمن سے نکلے ہیں۔ (مترجم) ② حضرت انس بن مالکؓ انصاری ہیں جو عامر ازدی کی اولاد میں سے ہیں۔ (مترجم)

مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْأَزْدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ
یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۶۹۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا میرا خیال ہے کہ وہ بنو قیس کے قبیلے سے تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ قبیلہ حمیر پر لعنت بھیجے۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب سے آیا تو آپ ﷺ نے ادھر سے بھی منہ پھیر لیا وہ تیسری جانب سے آیا اس مرتبہ بھی آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ان کے منہ میں سلام اور ان کے ہاتھوں میں طعام ہے پھر وہ لوگ امن اور ایمان والے ہیں۔

۳۶۹۹۔ حدثنا ابو بکر بن زنجویة نا عبد الرزاق اخبرنی ابی عن دینار مولى عبد الرحمن بن عوف قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ اَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَنُ حَمِيْرًا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الشَّقِيْقِ الْاٰخَرَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِّنَ الشَّقِيْقِ الْاٰخَرَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ حَمِيْرًا اَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ اَيْدِيَهُمْ طَعَامٌ وَهُمْ اَهْلٌ اٰمِنٌ وَاِيْمَانٍ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے عبد الرزاق کی روایت سے جانتے ہیں میناء سے اکثر منکر احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۸۴۵۔ بنو غفار، السلم، جبینہ اور مزینہ کی فضیلت۔

باب ۱۸۴۵۔ فِیْ غَفَارٍ وَاَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَمَزِيْنَةَ

۳۷۰۰۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انصار، مزنیہ، جبینہ، اشجع، غفار اور قبیلہ عبدالدار کے لوگ میرے رفیق ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی رفیق نہیں۔ لہذا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ان کے رفیق ہیں۔

۳۷۰۰۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا ابومالك الاشجعي عن موسى بن طلحة عن ابي ابيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة واشجع وغفار ومن كان من عبدالدار موالى لیس لهم مولى دون الله والله ورسوله مولا لهم
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

باب ۱۸۴۶۔ بنو ثقیف اور بنو حنیفہ کے متعلق۔

باب ۱۸۴۶۔ فِیْ ثَقِيْفٍ وَبَنِي حَنِيفَةَ

۳۷۰۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: ہمیں بنو ثقیف کے تیروں نے جلادیا لہذا ان کے لئے بددعا کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔

۳۷۰۱۔ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلب نا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن حشيم عن ابي الزبير عن جابر قال قالوا يا رسول الله احرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم فقال اللهم اهد ثقيفاً

یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۳۷۰۲۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فوت

۳۷۰۲۔ حدثنا زيد بن احزم الطائي نا عبد القاهر

ہوئے تو تین قبیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ۔

بن شعیب نا ہشام عن الحسن عن عمران بن
حصین قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو
يكره ثلاثة أحياء ثقيفا وبنی حنیفة وبنی امیة

یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

۳۷۰۳۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قبیلہ
ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ہلاک کرنے والا ہے۔ ①

۳۷۰۳۔ حدثنا علی بن حجر انا الفضل بن موسی
عن شريك عن عبد الله بن عاصم عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف
كذاب ومبیز

عبدالرحمن بن واقد بھی شریک سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عاصم کی کنیت ابوعلوان ہے اور وہ کوفی ہیں۔
یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں وہ عبداللہ بن عاصم سے روایت کرتے ہیں۔ اسرائیل ان سے روایت
کرتے ہوئے انہیں عبداللہ بن عاصم کہتے ہیں۔ اس باب میں اسماء بنت ابی بکرؓ سے بھی حدیث منقول ہے۔

۳۷۰۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت
ﷺ کو ایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی۔ آپ ﷺ نے اس کے
بدلے چھ جوان اونٹنیاں عنایت فرمائیں۔ اس پر بھی وہ بخار ہا اور یہ
بات آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان
کرنے کے بعد فرمایا: فلاں شخص نے مجھے بطور ہدیہ ایک اونٹنی دی جس
کے بدلے میں، میں نے اسے چھ اونٹنیاں دیں لیکن وہ اس کے باوجود
ناراض ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی
کے علاوہ کسی سے ہدیہ قبول نہیں کروں گا اس حدیث میں اور چیزوں کا
بھی تذکرہ ہے۔

۳۷۰۴۔ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا
ايوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن أعرابياً
أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة
فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ
قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ
بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَأَأَقْبَلَ هَدِيَّةً
إِلَّا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ وَفِي
الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا

یہ حدیث ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ یزید بن ہارون، ایوب ابی العلاء سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ ایوب بن
مسکین ہیں۔ انہیں ابن ابی مسکین بھی کہتے ہیں۔ شاید یہ وہی حدیث ہے جو ایوب سے سعید مقبری کے حوالے سے منقول ہے۔ ایوب ابوعلواء
اور ایوب بن مسکین ایک ہی شخص ہیں۔ ابن ابی مسکین بھی انہی کو کہتے ہیں۔

۳۷۰۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو فزارہ کے ایک شخص
نے آنحضرت ﷺ کو اپنے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی دی جو اسے
غابہ کے مقام سے ملے تھے۔ آپ ﷺ نے اس کے بدلے میں
کچھ دیا تو وہ غما ہو گیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر یہ فرماتے

۳۷۰۵۔ حدثنا محمد بن اسماعيل نا احمد بن
خالد الحمصي نا محمد بن اسحاق عن سعيد
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال أهدى رجل من
بنی فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من

① کذاب سے مراد مختار بن ابو عبید اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ (مترجم)

ہوئے سنا کہ عرب کے لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اور میں بھی جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے انہیں دے دیتا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے خفا رہتے اور خنگی ہی جتاتے ہیں اللہ کی قسم میں آج کے بعد قریشی، انصاری ثقفی اور دوسی کے علاوہ کسی عرب سے ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔

إِبْلِهِ الَّذِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ الْعَوَاضِ فَتَسَخَّطَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنِيرِ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ يُهْدِي أَحَدَهُمُ الْهَدِيَّةَ فَأَعْوَضَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيهِ عَلَيَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَيْشِي أَوْ أَنْصَارِي أَوْ ثَقَفِي أَوْ دَوْسِي

یہ حدیث یزید بن ہارون کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

۳۷۰۶۔ حضرت عامر بن ابی عامر اشعریؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنو اسد اور بنو اشعر بھی کتنے اچھے قبیلے ہیں یہ لوگ جنگ میں فرار نہیں ہوتے اور مال غنیمت سے چراتے نہیں۔ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث معاویہؓ کو سنائی تو فرمایا: آنحضرت ﷺ نے اس طرح نہیں فرمایا: بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ سے اور میرے ہی ہیں۔ میں نے کہا: میرے والد نے اس طرح بیان کیا۔ اور میں ان سے اور وہ مجھ سے ہیں تو فرمانے لگے تو پھر تم اپنے والد کی روایت کو زیادہ بہتر جانتے ہو گے۔

۳۷۰۶۔ حدثنا ابراهيم بن يعقوب بن ناوہب بن جرير انا ابى قال سمعت عبد الله بن خلاد يحدث عن نمير بن اوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن ابي عامر الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحى الاسد والاشعرون لا يفررون في القتال ولا يعلون هم منى وانا منهم قال فحدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم منى والى فقلت ليس هكذا نبي ابي ولكنه نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم منى وانا منهم قال فانت اعلم بحديث ابيك

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف وہب بن جریر کی روایت سے جانتے ہیں۔ اسد اور ازد دونوں ایک ہی قبیلہ ہیں۔

۳۷۰۷۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: اسلم کو اللہ صحیح و سلامت رکھے اور غفار کی مغفرت فرمائے۔

۳۷۰۷۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدى نا شعبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سألها الله وغفار غفر الله لها

اس باب میں ابو ذرؓ، ابو بزرہؓ سلمیؓ، بریدہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

۳۷۰۸۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلم کو اللہ سلامت رکھے، غفار کی مغفرت فرمائے اور عصبہ نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

۳۷۰۸۔ حدثنا علي بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سألها الله

وَعَفَّارٌ غَفَّرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصِيَّةٌ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار سے مؤول سے وہ سفیان سے اور وہ عبد اللہ سے شعبہ کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۳۷۰۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ غفار، اسلم، مزینہ اور جہینہ کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اسد، طی اور غطفان کے لوگوں سے بہتر ہوں گے۔

۳۷۰۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ نَا الْمَغِيرَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِعِفَّارٍ وَأَسْلَمٍ وَمُزَيْنَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ جُهَيْنَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيٍّ وَغُطْفَانَ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۱۰۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے بنو تمیم تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے: آپ ہمیں بشارت دے رہے ہیں تو کچھ عنایت بھی کیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ پھر اہل یمن میں سے چند لوگ حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم لوگ بشارت قبول کر لو اس لئے کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا: ہم نے قبول کی۔

۳۷۱۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ نَا سَفِيَانَ عَنِ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبَشِّرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالَ بَشَّرْنَا فَأَعْطَانَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَقْبَلُوا الْبَشْرَى فَلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۱۱۔ حضرت ابو بکرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلم، غفار اور مزینہ کے لوگ، تمیم، اسد، غطفان اور بنو عامر بن صعصعہ کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ ﷺ آواز کو بلند کرتے تھے۔ چنانچہ لوگ کہنے لگے یہ لوگ محروم ہو گئے اور خبارے میں رہ گئے آپ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔

۳۷۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ نَا ابُو أَحْمَدَ سَفِيَانَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمٌ وَعِفَّارٌ وَمُزَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَغُطْفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۳۷۱۲۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں۔ لیکن آپ ﷺ نے اس مرتبہ بھی شام اور

۳۷۱۲۔ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ بْنِ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَانِ حَلْثِي جَدِي أَزْهَرَ السَّمَانِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

یعنی ہی کے لئے برکت کی دعا کی لوگوں نے دوبارہ عرض کیا تو فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہیں۔ شیطان کا سینگ (یعنی اس کے مددگار بھی) وہیں سے نکلیں گے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَالِكَ الرَّزَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا أَوْقَالَ مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی ابن عون کی روایت سے اور سالم بن عبداللہ کی روایت سے بھی منقول ہے وہ اپنے

والد سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۷۱۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں۔ (جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے) وہ جہنم کا کونکہ ہیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا جو اپنے ناک سے گوبر کی گولیاں بناتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے جاہلیت کے تکبر اور آباء و اجداد کے فخر کو دور کر دیا ہے۔ اب تو لوگ یا تو مؤمن متقی ہیں یا فاجر، بد بخت اور نسیب کی حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔

۳۷۱۳۔ حدثنا محمد بن بشار نا ابو عامر العقدي نا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا انما هم فحوم جهنم اولئك كونن اهل على الله من الجعل الذي يهذه الحزاء بانفه ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء انما هو مؤمن تقى وفاجر شقى الناس بنوادم وادم خلق من التراب

اس باب میں ابن عمر اور ابن عباسؓ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

۳۷۱۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کرنا دور کر دیا ہے اب دو قسم کے لوگ ہیں۔ متقی، مومن یا بدکار اور بد بخت۔ پھر سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے پیدا کئے گئے۔

۳۷۱۴۔ حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمة الفروي للدينى قال ثنى ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء مؤمن تقى وفاجر شقى والناس بنوادم وادم من تراب

یہ حدیث حسن ہے۔ سعید مقرئ نے ابو ہریرہؓ سے احادیث سنی ہیں وہ اپنے والد سے بہت سی ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو انہوں

نے ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہیں۔ سفیان ثوری اور کئی حضرات یہ حدیث ہشام بن سعد سے وہ سعید مقبری سے وہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے ابو عامر ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں جو ہشام بن سعد سے منقول ہے۔

☆.....☆.....☆.....

یہاں مستحکم ہوگی۔ والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي الامى وعلى اله الطاهرين

کِتَابُ الْعِلَلِ

حدیث کی علتوں اور راویوں کی جرح و تعدیل کے متعلق کتاب

کرنی، قاضی ابوعامر ازدی، شیخ غوری اور ابو مظفر دھان سے اور یہ تینوں ابو محمد جراحی سے وہ ابوعباس مجوبی سے اور وہ امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں کہ اس کتاب میں مذکورہ تمام احادیث پر علماء نے عمل کیا ہے۔ صرف دو حدیثیں ایسی ہیں جو معمولی نہیں۔ ۱: حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کی آنحضرت ﷺ نے بغیر کسی خوف، سفر یا بارش کے مدینہ میں ظہر، عصر اور مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھیں۔ ۲: آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ فرمایا: شراب پینے والے کو کوڑے مارو..... اور چوتھی مرتبہ بھی اگر پئے تو اسے قتل کر دو۔ ان دونوں حدیثوں کی علتیں بھی مذکور ہیں۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں فقہاء کے مذاہب نقل کئے ہیں۔ ان میں سفیان ثوری کے اقوال میں سے اکثر اقوال ہم نے محمد بن عثمان کوفی سے انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ سے اور انہوں نے سفیان ثوری سے نقل کئے ہیں۔ جبکہ بعض اقوال ابوالفضل مکتوم بن عباس ترمذی سے وہ محمد بن یوسف فریابی سے اور وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں۔

امام مالک بن انس کے اکثر اقوال اسحاق بن موسیٰ انصاری سے انہوں نے معن بن عیسیٰ فزاری سے اور انہوں نے امام مالک سے نقل کئے ہیں۔ پھر روزوں کے ابواب میں مذکور اشیاء ہم نے ابو مصعب مدینی کے واسطے سے امام مالک سے نقل کی ہیں جب کہ بعض اقوال مالک ہم سے موسیٰ بن حزام نے عبداللہ بن مسلمہ قعنی کے واسطے سے امام مالک سے نقل کئے ہیں۔

ابن مبارک کے اقوال احمد بن عبدہ آملی سے انہوں نے ابن مبارک کے اصحاب سے اور انہوں نے ابن مبارک سے نقل کئے ہیں۔ پھر ان کی بعض روایات ہمیں ابو وہب کے واسطے سے، بعض علی بن حسن کے واسطے سے بعض عبدان سے سفیان بن عبد الملک کے حوالے سے بعض ابن حبان کے واسطے سے اور بعض وہب بن زمعہ سے فضالہ کے واسطے سے امام ابن مبارک سے پہنچی ہیں۔ پھر ان سے روایت کرنے والے ان کے علاوہ اور بھی اصحاب ہیں۔

امام شافعی کے اکثر اقوال حسن بن محمد زعفرانی کے واسطے سے امام شافعی سے منقول ہیں۔ وضوء اور نماز کے ابواب میں مذکور امام شافعی کے اقوال میں سے بعض ابو ولید کی کے واسطے سے اور بعض ابواسماعیل سے یوسف بن یحییٰ قرظی بویطی کے حوالے سے امام شافعی سے نقل کئے ہیں۔ ابواسماعیل اکثر ربیع کے واسطے سے امام شافعی کے اقوال نقل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے ربیع نے ہمیں یہ چیزیں بیان کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم کے اقوال اسحاق بن منصور نے امام احمد اور اسحاق سے نقل کئے ہیں۔ لیکن ابواب حج، دیات اور حدود کے متعلق روایات محمد بن موسیٰ اسم نے اسحاق بن منصور کے حوالے سے ان دونوں سے نقل کی ہیں۔ اسحاق کے بعض اقوال محمد بن فلح بھی بیان کرتے ہیں۔

ہم نے اس کتاب میں سندیں اچھی طرح بیان کر دی ہیں کہ یہ روایات مقوف ہیں، اسی طرح احادیث کی علتیں، راویوں کے احوال اور تاریخ وغیرہ بھی مذکور ہیں۔ تاریخ میں نے کتاب التاریخ سے نقل کی ہے پھر اکثر علتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں نے خود امام بخاری سے گفتگو کی ہے جب کہ بعض کے متعلق عبداللہ بن عبد الرحمن ابو زرعد سے مناظرہ کیا ہے۔ چنانچہ اکثر امام بخاری سے اور بعض ابو زرعد سے نقل کی ہیں۔

ہماری اس کتاب میں فقہاء کے اقوال اور احادیث کی علتیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود اس کی فرمائش کی تھی۔ چنانچہ

ایک مدت تک یہ چیزیں اس میں نہیں تھیں لیکن جب یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں فائدہ ہے تو انہیں بھی شامل کر دیا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ائمہ نے سخت مشقت اٹھانے کے بعد ایسی تصانیف کیں جو ان سے پہلے نہیں تھیں۔ ان میں ہشام بن حسان، عبدالملک بن عبدالعزیز بن جرجج، سعد بن ابی عروبہ، مالک بن انس، حماد بن سلمہ، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، وکیع بن جراح اور عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام حضرات اہل علم ہیں ان کی تصانیف سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم ثواب کے مستحق ہیں۔ پھر یہ لوگ تصنیف کے میدان میں اقتداء کے قابل ہیں۔

بعض حضرات رجال میں کلام کرنے کو برا سمجھتے ہیں حالانکہ بہت سے تابعین نے بھی لوگوں کے احوال بیان کئے ہیں۔ جن میں حسن بصری، اور طاؤس بھی شامل ہیں ان دونوں نے معبد جہنی پر اعتراضات کئے ہیں۔ سعید بن جبیر، طلق بن حبیب پر اور ابراہیم نخعی اور عامر شعبی، حارث اعور پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ایوب سختیانی، عبداللہ بن عوف، سلمان تیمی، شعبہ بن ججاج، سفیان ثوری، مالک بن انس، اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید قطان، وکیع بن جراح اور عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ سے بھی راویوں کے متعلق کلام مذکور ہے۔ چنانچہ یہ حضرات بھی بعض راویوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہی ہے کیونکہ ان کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ ان لوگوں نے لوگوں کی غیبت یا ان پر طعن کرنا چاہا ہو۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہی تھی کہ ضعیفوں کے ضعف کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں اور گمراہی سے بچیں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کا ضعف بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی صاحب بدعت تھا کوئی مہتمم تھا کوئی اکثر غلطیوں کا مرتکب ہوتا تھا کوئی غفلت برتتا تھا اور کوئی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اپنی حدیث بھول جایا کرتا تھا۔ پھر اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کی گواہی تحقیقات کی زیادہ محتاج ہے بہ نسبت حقوق و اموال کے۔ لہذا اگر ان میں بھی گواہوں کا تزکیہ ضروری ہے تو اس میں تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

محمد بن اسماعیل، محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک بن انس اور سفیان بن عیینہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص میں ضعف ہو یا وہ کسی چیز میں مہتمم ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا: بیان کیا جائے۔ پھر محمد بن رافع نیشاپوری بھی یحییٰ بن آدم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے کہا کہ ایسے لوگ حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگے: لوگوں کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بیٹھے اسی کے گرد بیٹھنے لگتے ہیں۔ لیکن صاحب سنت کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر لوگوں میں باقی رکھتے ہیں جبکہ مبتدع کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔

محمد بن علی بن حسن بن شقیق، نصر بن عبداللہ بن اصم سے وہ اسماعیل بن زکریا سے وہ عاصم سے وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں چونکہ لوگ سچے اور عادل ہوتے تھے اس لئے سندوں کے متعلق نہیں پوچھا جاتا تھا۔ لیکن جب فتنوں کا دور آیا۔ تو محدثین نے اسناد کا اہتمام شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اہل سنت کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں اہل بدعت کی احادیث ان کے نزدیک غیر مقبول ہیں۔ محمد بن علی بن حسن، عبدان سے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں کہ اسناد دین میں داخل ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتیں تو جس کا جوہی چاہتا کہہ دیتا۔ چنانچہ اسناد کی وجہ سے اگر راوی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو پوچھنے پر مہموت رہ جاتا ہے۔

محمد بن علی، حبان بن موسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک کے سامنے جب ایک حدیث بیان کی گئی تو فرمایا: اس کے لئے عمودوں (ستونوں) کی مضبوطی درکار ہے۔ یعنی یہ ضعیف ہے۔ احمد بن عبدہ وہب سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک نے ان حضرات سے احادیث روایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حسن بن دینار، ابراہیم بن محمد اسلمی، مقاتل بن سلمان، عثمان بری، روح بن مسافر، ابوشیبہ واسطی، عمرو بن ثابت، ایوب بن خوط، ایوب سوید، نصر بن طریف ابوجزء حکم اور حبیب حکم، عبداللہ بن مبارک نے حبیب حکم سے کتاب الرقاق میں ایک

حدیث نقل کرنے کے بعد ترک کر دی۔ میں حسیب کو نہیں جانتا۔ احمد بن عبدہ اور عبدان کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک نے پہلے بکر بن حنیس کی احادیث پڑھیں۔ لیکن آخر عمر میں جب ان کے سامنے بکر کی احادیث بیان کی جاتیں تو وہ ان سے اعراض کر لیتے۔ احمد، ابو وہب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ابن مبارک کے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا کہ وہ احادیث میں وہم کیا کرتا تھا تو انہوں نے فرمایا: اس سے حدیث نقل کرنے سے بہتر ہے کہ میں رہزنی کرنے لگوں۔ موسیٰ بن حزام، یزید بن ہارون کا قول نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ سلمان بن عمر نخعی کوئی سے احادیث نقل کرے۔ احمد بن حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے تھے کہ ان سے پوچھا گیا: جمعہ کس پر واجب ہے؟ لوگوں نے اس مسئلے میں تابعین کے اقوال نقل کئے تو میں نے آنحضرت ﷺ سے منقول ایک حدیث بیان کر دی۔ احمد کہنے لگے آنحضرت ﷺ کی حدیث؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں پھر میں نے بیان کیا کہ حجاج بن نصیر، معاذ بن عباد سے وہ عبد اللہ بن سعید مقبری سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ اس پر واجب ہے جو رات تک اپنے گھر لوٹ سکتا ہو۔ احمد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل یہ حدیث سن کر غصے میں آ گئے اور فرمایا: اپنے رب سے استغفار کر، اپنے رب سے استغفار کر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس حدیث کی سند کو ضعیف سمجھتے تھے۔ چنانچہ حجاج بن نصیر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جب کہ عبد اللہ بن سعید مقبری کو یحییٰ بن سعید بہت ضعیف قرار دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر کوئی حدیث کسی ایسے شخص سے منقول ہو کہ وہ جھوٹ، وضع یا ضعف وغیرہ میں مہتمم ہو تو ایسے شخص کی بیان کردہ حدیث قابل استدلال نہیں بشرط یہ کہ اس حدیث کو کسی اور ثقہ راوی نے بیان نہ کیا ہو۔ پھر بہت سے ائمہ نے ضعیف راویوں سے احادیث نقل کر کے ان حضرات کے احوال بیان کر دیئے ہیں۔

ابراہیم بن عبد اللہ، یعلیٰ بن عبید سے سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ کلبی سے بچو۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ بھی تو ان سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: میں ان کے جھوٹ اور سچ کو پہچانتا ہوں۔ محمد بن اسماعیل، یحییٰ بن معین سے وہ عفان سے اور وہ ابو عوانہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حسن بصری کا انتقال ہوا تو میں نے ان کا کلام تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ میں ان کے اصحاب سے ملا۔ پھر ابان بن عیاش کے پاس آیا تو اس سے جو چیز بھی پوچھی جاتی وہ حسن ہی سے روایت کر دیتا حالانکہ وہ محض جھوٹا تھا۔ لہذا اس کے بعد میں اس سے روایت کرنا حلال نہیں سمجھتا۔ ابان بن عیاش سے کئی ائمہ نے روایت کی ہے اگرچہ اس میں ضعف اور غفلت ہے۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ ثقہ لوگ اس سے روایت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ بعض ائمہ تنقید یا بیان کرنے کے لئے بھی بعض ضعفاء سے احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بعض ایسے لوگوں سے احادیث سنتا ہوں جنہیں میں مہتمم نہیں سمجھتا لیکن ان سے اوپر کا راوی مہتمم ہوتا ہے۔

کئی راوی ابراہیم نخعی سے وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سفیان ثوری اور بعض راوی بھی ابان بن عیاش سے اسی اسناد سے اسی طرح نقل کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا: میری والدہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ہاں رات رہیں تو مجھے بتایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابان بن عیاش اگرچہ عبادت و ریاضت سے متصف تھا لیکن اس کے باوجود اس کا یہ حال ہے پھر بعض لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں صالح بھی لیکن شہادت دینے یا اسے یاد رکھنے کے اہل نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ جھوٹ میں مہتمم اور کثیر الخطا یا غافل شخص کی احادیث قابل قبول نہیں ہیں۔ اکثر ائمہ حدیث یہی مسلک اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ عبد اللہ بن مبارک اہل علم کی ایک جماعت سے روایت کیا کرتے تھے لیکن جب ان پر ان حضرات کا حال منکشف ہوا تو ترک کر دیا۔ بعض محدثین بڑے بڑے اہل علم کو بھی سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں حالانکہ بعض ائمہ ان کی عظمت شان اور صدق کی وجہ سے ان کی توثیق کرتے ہیں گو کہ بعض روایات میں ان سے وہم ہو گیا ہے۔ چنانچہ یحییٰ بن سعید قطان، محمد بن عمرو پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور ان سے روایت بھی۔

ابوبکر عبدالقدوس بن محمد عطار کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن عمرو کے متعلق پوچھا تو یحییٰ نے پوچھا کہ کیا تم درگزر والا معاملہ چاہتے ہو یا تشدید کا۔ عرض کیا: تشدید فرمانے لگے پھر وہ تمہاری مرضی کے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ محمد بن عمرو، ابوسلمہ اور یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب کو اپنے اساتذہ بتایا کرتے تھے۔ پھر یحییٰ بن سعید نے امام مالک بن انس سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ علی، اسحاق بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو، سہیل بن ابی صالح سے بہتر ہیں بلکہ عبدالرحمن بن حرمہ سے بھی بہتر ہیں۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا کہ کیا آپ نے عبدالرحمن بن حرمہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا اگر میں ان کی تلقین کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ علی نے پوچھا کیا ان کی تلقین کی جاتی تھی؟ فرمایا: ہاں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ نے شریک، ابوبکر بن عیاش، ربیع بن صبیح اور مبارک بن فضالہ سے روایت نہیں کی۔ امام ترمذی اس کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحییٰ نے ان سے روایت کرنا اس لئے نہیں چھوڑا کہ کذب کے ساتھ متہم تھے بلکہ سوء حفظ کی وجہ سے ترک کیا۔ ان سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ایک طرح اور دوسری مرتبہ کسی اور طرح حدیث بیان کرتا تو اس سے روایت کرنا ترک کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جن حضرات سے وہ روایت نہیں کرتے ان سے عبداللہ بن مبارک، وکعب بن جراح، عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ اور کئی امام روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض محدثین سہیل بن ابی صالح، محمد بن اسحاق، حماد بن سلمہ، محمد بن عجلان اور انہی کی طرح اور حضرات پر بھی قلت حفظ کی وجہ سے ان کی بعض روایات پر اعتراض کرتے ہوئے ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے احوال معلوم ہو جائیں۔

حسن بن علی حلوانی بھی علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا: ہم سہیل بن صالح کو حدیث میں ثابت سمجھتے تھے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ہم محمد بن عجلان کو ثقہ اور مامون سمجھتے تھے۔ لیکن یحییٰ بن سعید ان کی سعید مقبری سے روایت پر اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوبکر بن علی بن عبداللہ، یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عجلان کی بعض روایات تو ایسی ہیں جو وہ سعید مقبری سے اور وہ ایک شخص کے واسطے سے ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض سعید سے بلا واسطہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ مجھ سے دونوں قسم کی حدیثیں مخلط ہو گئیں۔ لہذا میں نے دونوں کو سعید سے ایک ہی سند سے روایت کر دیا۔ یحییٰ بن سعید کے محمد بن عجلان پر اعتراض کی میرے نزدیک یہی وجہ ہے اس کے باوجود وہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

اسی طرح جنہوں نے ابن ابی لیلیٰ پر اعتراض کیا ہے وہ بھی صرف سوء حفظ کی وجہ سے ہے۔ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید سے وہ ابن ابی لیلیٰ سے وہ اپنے بھائی عیسیٰ سے وہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے وہ ابویوب سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے چھینک کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں پھر میں نے ابن ابی لیلیٰ سے ملاقات کی تو انہوں نے عیسیٰ سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے انہوں نے علی سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابن ابی لیلیٰ کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح روایت کرتے ہیں۔ اور یہ قلت حافظہ ہی کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء ان کی احادیث نقل نہیں کیا کرتے تھے اور جو حضرات کرتے تھے وہ بھی کسی اور سے سننے کے بعد۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حسن کو احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن ابی لیلیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی روایات قابل استدلال نہیں۔ اسی طرح کئی حضرات جہاں بن سعید اور عبداللہ بن لہیعہ وغیرہ پر سوء حفظ اور کثرت خطا کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں لیکن کئی ائمہ ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ ایسے راوی اگر مغفروں تو وہ قابل احتجاج نہیں ہوتے۔ یعنی احمد بن حنبل کے ابن ابی لیلیٰ کے متعلق قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کی مفرد روایات قبول نہ کی جائیں۔ سب سے زیادہ شدت ان کے متعلق برتی جاتی ہے جو سندیں یا دندر کھے یا ان میں کمی یا زیادتی کر دے یا احادیث کی سندیں تبدیل کر دے۔ اگر متن میں ایسا تغیر کر دے

جس سے معنی تبدیل ہو جائیں تو اس میں بھی تشدید کی جائے گی۔ لیکن جو حضرات سندیں اچھی طرح یاد رکھتے اور کسی ایسے لفظ میں تغیر کرتے ہوں جس سے معنی میں فرق نہ آئے تو اہل علم کے نزدیک ایسے حضرات کی روایات میں کوئی مضائقہ نہیں۔

محمد بن بشر، عبدالرحمن بن مہدی سے وہ معاویہ بن صالح سے وہ علاء بن حارث سے وہ کھول سے اور وہ وائلہ بن اسقع سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر ہم روایت بالمعنی بیان کریں تو اسے قبول کر لو۔ یحییٰ بن موسیٰ، عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ ایوب سے اور وہ محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں دس اشخاص سے احادیث سنا کرتا تھا ان کے الفاظ مختلف اور معنی ایک ہی ہوتے تھے۔ احمد بن منیع، محمد بن عبداللہ انصاری سے اور وہ ابن عون سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی، شععی اور حسن روایات بالمعنی بیان کیا کرتے تھے۔ قاسم بن محمد، محمد بن سیرین اور رجا بن حیوۃ انہی الفاظ سے دوبارہ حدیث بیان کیا کرتے تھے جن سے پہلی مرتبہ بیان کی ہوئی۔ علی بن خشرم، حفص بن غیاث سے وہ عاصم احول سے اور وہ عاصم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں نے ابو عثمان نہدی سے عرض کیا کہ آپ ایک مرتبہ ایک حدیث کو ایک طرح بیان کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اور طرح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا: تم پہلی مرتبہ جو سنو اس کو اختیار کر لو۔ جارد، وکعج سے وہ ربیع بن صبیح سے اور وہ حسن سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہو تو یہی کافی ہے۔ علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک سے وہ سیف بن سلیمان سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا: اگر تم حدیث میں کمی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن بڑھانا نہیں۔ ابوعمار حسین بن حریث، زید بن خباب سے اور وہ ایک شخص سے اس کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفیان ثوری ہمارے پاس آئے اور فرمایا: اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے بالکل بعینہ وہی الفاظ بیان کئے ہیں جو سنے تھے تب بھی میری بات کی تصدیق نہ کرو اور روایت بالمعنی ہی سمجھو۔ حسین بن حریث، وکعج سے نقل کرتے ہیں کہ اگر معنی میں وسعت نہ ہوتی تو لوگ برباد ہو جاتے۔ چنانچہ علماء کے درمیان تقاضل حفظ، اتقان اور سماع کے وقت مثبت کی قبیل سے ہے۔ اگرچہ اکثر ائمہ قوت حافظہ کے باوجود خطا اور غلطی سے نہ بچ سکے۔

محمد بن حمید رازی، جریر سے وہ عمارہ بن قحطاع سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مجھ سے کہا: اگر تم روایت کرو تو ابو زرعد بن عمرو بن جریر سے روایت کیا کرو اس لئے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی جس کے متعلق میں نے ان سے دو سال بعد پوچھا تو بالکل بعینہ بیان کر دی، نہ کوئی حرف زیادہ کیا اور نہ کم۔ ابو حفص عمرو بن علی، یحییٰ بن سعید قطان سے وہ سفیان سے اور وہ منصور سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا: کیا بات ہے سالم بن ابی جعد کی حدیث آپ سے زیادہ مکمل ہوتی ہے فرمایا: اس لئے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ عبدالجبار، سفیان سے عبدالملک بن عمیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں جب حدیث بیان کرتا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا۔ حسین بن مہدی، عبدالرزاق سے وہ معمر سے اور وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میرے کانوں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے میرے دل نے محفوظ نہ کر لیا ہو۔ سعید بن عبدالرحمن مخزومی، سفیان بن عیینہ سے اور وہ عمرو بن دینار سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے بہتر بیان کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن سعید جوہری، سفیان بن عیینہ سے ایوب سختیانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے زہری کے بعد یحییٰ بن کثیر سے بڑا کوئی عالم حدیث نہیں دیکھا۔ محمد بن اسماعیل، سلیمان بن حرب سے اور وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عون حدیث بیان کرتے اور جب میں ایوب سے اس کے خلاف حدیث بیان کرتا تو وہ اپنی حدیث کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ ایوب، محمد بن سیرین کی حدیث کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ابو بکر، علی بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا کہ ہشام دستوائی اور مسعر میں کون زیادہ ثبت ہے تو فرمایا: مسعر سب سے زیادہ ثبت ہیں۔

ابوبکر عبدالقدوس بن محمد اور ابو ولید، حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: شعبہ نے جس حدیث میں بھی مجھ سے اختلاف کیا میں نے (ان کے اعتماد پر) اسے چھوڑ دیا۔ ابوبکر، ابو ولید سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: حماد بن سلمہ نے مجھ سے کہا کہ اگر حدیث کا علم حاصل کرنا

چاہتے ہو تو شعبہ کی صحبت اختیار کرنا ضروری سمجھو۔ عبد بن حمید، ابوداؤد سے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک حدیث نقل کی ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور اسی طرح اگر دس حدیثیں نقل کی ہیں تو دس سے زیادہ مرتبہ اور اگر پچاس نقل کی ہیں تو پچاس سے زیادہ مرتبہ اور اگر سو احادیث نقل کی ہیں تو سو سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ لیکن جہاں کوئی باریقی سے میں نے احادیث سنیں اور جب دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے گیا تو وہ فوت ہو چکے تھے۔

محمد بن اسماعیل، عبد اللہ بن اسود سے وہ ابن مہدی سے اور وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان نے فرمایا: شعبہ حدیث کے امیر المؤمنین ہیں۔

ابوبکر، علی بن عبد اللہ سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے شعبہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے برابر ہے۔ ہاں اگر سفیان ان سے اختلاف کریں تو میں ان کے قول پر اعتماد کرتا ہوں۔ علی کہتے ہیں: میں نے یحییٰ سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون ایسا ہے جو طویل حدیث کو بہتر یاد کر سکتا ہے؟ فرمایا: اس میں شعبہ زیادہ قوی تھے۔ مزید کہتے ہیں کہ شعبہ احوال رجال سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ فلاں حدیث فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے۔ جب کہ سفیان صاحب الایواب نے۔ ابومکار حسین بن حرث، وکیع سے نقل کرتے ہیں۔ کہ شعبہ کہا کرتے تھے کہ سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ میں نے جب بھی ان سے کوئی حدیث پوچھی انہوں نے ویسے ہی بیان کی جیسے ان کے شیخ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن بن موسیٰ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ مالک بن انس حدیث میں ”ی، ت“ کے متعلق بھی تشدید برتتے تھے۔ ابوموسیٰ، ابراہیم بن عبد اللہ قدیم انصاری قاضی مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مالک بن انس ایک مرتبہ ابو حازم کی مجلس پر سے گزرے وہ احادیث بیان کر رہے تھے۔ لیکن وہ ٹھہرے نہیں، چلے گئے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور کھڑے ہو کر حدیث اخذ کرنا میرے نزدیک مکروہ ہے۔

ابوبکر، علی بن عبد اللہ سے اور وہ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا: میرے نزدیک مالک کی سعید بن مسیب سے منقول احادیث سفیان ثوری کے واسطے سے ابراہیم نخعی سے منقول احادیث سے زیادہ عزیز ہیں نیز حدیث میں مالک بن انس سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت نہیں۔ وہ حدیث میں امام ہیں۔ میں نے احمد بن حسن سے احمد بن حنبل کا یہ قول سنا کہ میں نے یحییٰ بن سعید جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ان سے وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی کے متعلق پوچھا تو فرمایا: وکیع دل کے معاملے میں بڑے ہیں جب کہ عبد الرحمن امام ہیں۔ میں نے صفوان بن بہان بن صفوان ثقفی بصری کو علی بن مدینی سے کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے رکن اور مقام کے درمیان قسم اٹھا کر کہنے کے لئے کہا جائے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع کو بیان کرنے میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے تاکہ اس سے تفاضل علماء پر استدلال کیا جاسکے کہ بعض بعض سے حفظ و اتقان میں افضل ہیں اور جن پر علماء نے اعتراضات کئے ہیں وہ بھی کسی وجہ سے ہیں۔

اگر کوئی کسی عالم کے سامنے ایسی احادیث پڑھے جو اسے یاد ہوں یا پھر وہ ان احادیث کی اصل کا پانی کو دیکھ رہا ہو تو صحیح ہے۔ چنانچہ حسین بن مہدی بصری، عبد الرزاق سے اور وہ ابن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح کے سامنے احادیث پڑھیں اور پھر ان سے پوچھا کہ نہیں کس طرح بیان کروں؟ فرمایا: ہم سے عطاء بن ابی رباح نے روایت کی ہے۔ سوید بن نصر، علی بن حسین سے وہ ابو مصعب سے وہ یزید شحوی سے اور وہ عکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ اہل طائف میں سے چند لوگ ابن عباسؓ کے پاس ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب لے کر حاضر ہوئے تو ابن عباسؓ نے اس میں سے پڑھنا شروع کیا۔ چنانچہ وہ اس میں تقدیم و تاخیر کرنے لگے۔ پھر فرمایا: ابھی میں تو اس

مصیبت سے عاجز آ گیا ہوں لہذا تم لوگ خود میرے سامنے پڑھو کیونکہ تمہارے پڑھنے پر میرا اقرار اسی طرح ہے جیسے میں نے پڑھ کر سنایا۔ سوید بھی علی بن حصین بن واقد سے وہ اپنے والد سے اور وہ منصور بن معتمر سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنی کتاب دے کر اسے روایت کرنے کی اجازت دے دے تو اس کے لئے روایت کرنا جائز ہے۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے ابو عاصم ثمال سے ایک حدیث پوچھی تو فرمایا: تم پڑھ لو۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ وہی پڑھیں چنانچہ فرمایا: کیا تم شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا جائز نہیں سمجھتے؟ حالانکہ سفیان ثوری اور مالک بن انس اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ احمد بن حسن، یحییٰ بن سلیمان مصری، جعفری سے عبد اللہ بن وہب کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں جس روایت میں ”حدثنا“ کہوں تو سمجھ لو کہ میں نے اور لوگوں کے ساتھ سنی ہے۔ اگر ”حدثنی“ کہوں تو صرف میں نے سنی ہے، اگر ”اخبرنا“ کہوں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے یہ استاد کے سامنے پڑھی ہے اور میں بھی وہاں حاضر تھا۔ اور اگر ”خبرنی“ کہوں تو میں نے اکیلے استاد کے سامنے پڑھی ہے ابو موسیٰ محمد بن شعیب، یحییٰ بن سعید قطان کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”حدثنا“ اور ”خبرنا“ ایک ہی چیز ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم ابو مصعب مدینی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کے سامنے ان کی بعض احادیث پڑھی گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم یہ احادیث کس طرح روایت کریں۔ فرمایا: کہو کہ ہم سے ابو مصعب نے بیان کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کسی دوسرے کو اپنے سے منقول احادیث روایت کرنے کی اجازت دے تو یہ جائز ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع سے وہ عمران بن حدیر سے وہ ابو بکر سے اور وہ بشیر بن نہیک سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں نے ابو ہریرہ کی روایات ایک کاپی میں لکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں یہ احادیث آپ سے روایت کر سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ محمد بن اسماعیل واسطی بھی محمد بن حسن سے اور وہ عوف اعرابی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی وہ احادیث بیان کر سکتا ہوں جو میرے پاس ہیں تو فرمایا: ہاں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ محمد بن حسن، محبوب بن حسن کے نام سے معروف ہیں۔ ان سے کئی ائمہ احادیث نقل کرتے ہیں۔ پھر جارد بن معاذ بن انس سے اور وہ عبید اللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک کتاب لے کر زہری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ آپ کی روایت کردہ احادیث ہیں۔ مجھے انہیں بیان کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا: ہاں۔ ابو بکر علی بن عبد اللہ سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ ابن جریج، ہشام بن عروہ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور پوچھا کہ کیا مجھے یہ احادیث جو آپ نے بیان کی ہیں، نقل کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا: ہاں۔ یحییٰ بن سعید سے ابن جریج کی عطاء خراسانی سے منقول احادیث کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ضعیف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ احادیث انہوں نے مجھے سنائی ہیں فرمایا: ان کا خبرنی کہنا صحیح نہیں اس لئے کہ انہوں نے انہیں کتاب دے دی تھی۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ مرسل احادیث اکثر محدثین کے نزدیک صحیح نہیں کیونکہ کئی حضرات انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علی بن حجر، یقینہ بن ولید سے اور وہ عتبہ بن ابی حکیم سے نقل کرتے ہیں کہ عتبہ نے زہری کے سامنے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ سے کہتے ہوئے سنا: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس پر زہری کہنے لگے۔ اللہ کی تم پر مارت ایسی احادیث بیان کرتے ہو جن کی کوئی مہاریا لگام نہیں۔ ابو بکر علی بن عبد اللہ سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجاہد کی مرسل روایات میرے نزدیک عطاء بن ابی رباح سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس لئے کہ عطاء ہر قسم کی احادیث نقل کرتے تھے مزید کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کی مرسل احادیث بھی میرے نزدیک عطاء سے بہتر ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک طاؤس اور مجاہد کی مرسل روایات میں سے کس کی زیادہ بہتر ہیں؟ فرمایا: دونوں قریب قریب ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ ابو اسحاق کی مرسل روایات میرے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ اسی طرح اعمش، یحییٰ بن ابی کثیر اور ابن عیینہ کی مرسل روایات کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ پھر فرمایا: سفیان بن سعد کی مرسل روایات کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے ان سے امام مالک کے مراسلات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: یہ بہتر ہیں۔ پھر فرمایا: لوگوں کے

زردیک کسی کی حدیث امام مالک کی روایت کردہ حدیث سے زیادہ بہتر نہیں۔ سوار بن عبداللہ غزیری کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جن احادیث میں حسن بصری نے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کہا ان میں سے ایک یا دو حدیثوں کے علاوہ تمام احادیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو حضرات مرسل احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ائمہ ثقافت نے یہ حدیث غیر ثقہ شخص سے روایت کی ہو جیسے کہ حسن بصری، معبد جہنی، پراعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے روایت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بشر بن معاذ بصری، مرحوم بن عبدالعزیز عطاء سے وہ اپنے والد اور چچا سے اور وہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ معبد جہنی سے دور رہو یہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ نیز شعیبی سے منقول ہے کہ انہوں نے حارث اعمور سے نقل کرنے کے بعد فرمایا: یہ کذاب تھا۔ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میں نے جابر جہنی سے ان کے ایک قول کی وجہ سے ایک ہزار احادیث روایت کرنا ترک کر دی ہیں اور سفیان بن عیینہ اس کے باوجود ان سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن مہدی نے جابر جہنی سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض علماء مرسل احادیث کو حجت تسلیم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن ابی سفیر، سعید بن عامر سے وہ شعبہ سے اور وہ سلیمان اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم نخعی سے کہا کہ آپ کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو عبداللہ بن مسعود سے متصل الاسناد ہو۔ وہ فرمانے لگے۔ اگر میں "عن عبداللہ" کہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ حدیث میں نے خود ان سے سنی ہے۔ لیکن اگر کہوں "قال عبداللہ" تو اس میں میرے اور ان کے درمیان کئی واسطے ہیں۔

تضعیف رجال میں بھی علماء کا اسی طرح اختلاف ہے جس طرح اور چیزوں میں ہے۔ چنانچہ شعبہ نے ابو زبیر کئی، عبدالملک بن ابی سلیمان اور حکیم بن جبیر کو ضعیف قرار دیتے ہوئے ان سے روایت کرنا ترک کر دیا ہے لیکن وہ حفظ و عدالت میں ان سے بھی کم درجے کے رواۃ سے احادیث نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے جابر جہنی، ابراہیم بن مسلم، جہری، محمد بن عبید اللہ عزمی اور کئی ایسے حضرات سے روایت کی ہے جو نہایت ضعیف ہیں۔ محمد بن عمرو بن بہمان نے امیہ بن خالد سے کہا کہ آپ عبدالملک بن ابی سلیمان کی روایت کر دیتے۔ اور محمد بن عبید اللہ عزمی سے روایت کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ شعبہ بھی پہلے عبدالملک بن ابی سلیمان سے روایت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ وہ حدیث ہے جس کی روایت میں وہ منفرد ہیں۔ اسے عبدالملک، عطاء بن ابی رباح سے وہ جابر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ہر آدمی اپنے شفعے کا مستحق ہے لہذا اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے۔ بشرطیکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔ انہیں کئی ائمہ ثابت قرار دیتے ہیں اور ابو زبیر، عبدالملک بن ابی سلیمان اور حکیم بن جبیر تینوں سے روایت کرتے ہیں۔ احمد بن منیع، ہشیم سے وہ حجاج اور ابن ابی لیلیٰ سے اور وہ عطاء بن ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم جابر بن عبداللہ کے پاس جاتے آپس میں ان احادیث کا مذاکرہ کرتے اور ہم سب میں ابو زبیر زیادہ حافظ تھے۔

محمد بن یحییٰ بن عمرو، سفیان بن عیینہ سے ابو زبیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ عطاء مجھے جابر بن عبداللہ سے احادیث سننے وقت آگے کر دیا کرتے تھے تاکہ میں حفظ کروں۔ ابن ابی عمر بھی سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبختیانی نے ابو زبیر سے روایت کی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے سفیان نے اپنی مٹھی بند کی کہ وہ حفظ و اتقان میں قوی تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے سفیان ثوری کا قول مروی ہے کہ عبدالملک بن ابی سلیمان علم کے میزان تھے۔ ابو بکر، علی بن عبید اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ بن سعید سے حکیم بن جبیر کے متعلق پوچھا تو فرمایا: شعبہ نے ان سے اس حدیث کی وجہ سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے جو انہوں نے صدقے کے باب میں بیان کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود سے منقول آنحضرت ﷺ کا قول کہ "جو شخص اتنا مال ہونے کے باوجود کہ اس سے کام نکل سکتا ہو لوگوں سے سوال کرے گا وہ قیامت کے دن ان حالت میں آئے گا کہ اس کا منہ چھلا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کام نکلنے سے مراد کتنا مال ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی

قیمت کا سونا۔“ علی، یحییٰ سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ثوری اور زائدہ، حکیم بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ کے نزدیک ان کی حدیث میں کوئی مضاقتہ نہیں۔ محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم سے وہ سفیان ثوری سے اور وہ حکیم بن جبیر سے صدقہ کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ پھر شعبہ کے دوست عبد اللہ نے سفیان ثوری سے کہا: کاش کہ حکیم کے علاوہ بھی کوئی شخص یہ حدیث بیان کرتا۔ اس پر سفیان کہنے لگے: کیا شعبہ ان سے روایت نہیں کرتے۔ فرمایا: نہیں۔ کہنے لگے میں نے زہید کو محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے یہی حدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث حسن سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی کذب سے متہم نہ ہو۔ وہ حدیث شاذ نہ ہو اور اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہو۔ پھر حدیث غریب کی محدثین کے نزدیک کئی وجوہ ہیں۔ بہت سی احادیث اس لئے غریب ہوتی ہیں کہ صرف ایک سند سے منقول ہوتی ہیں۔ جیسے حماد بن سلمہ کی ابو عشاء سے منقول حدیث وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا حلق اور لبہ کے علاوہ ذبح جائز نہیں؟ فرمایا: اگر تم اس کی ران میں بھی جھونک دو تو بھی کافی ہے۔ اس حدیث کو صرف حماد نے ابو عشاء سے نقل کیا ہے اور ان کی اس کے علاوہ کوئی حدیث معروف نہیں۔ چنانچہ یہ حدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے مشہور ہے ہم اسے صرف انہی کی سند سے پہچانتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام اکیلا کوئی حدیث روایت کرتا ہے پھر اس سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں اور اس طرح وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے عبد اللہ بن دینار کی ابن عمرؓ سے منقول حدیث کہ آنحضرت ﷺ نے ولاء کی فروخت اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث صرف وہی روایت کرتے ہیں گو کہ ان سے کئی حضرات نے نقل کی ہے۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمرو، شعبہ، سفیان ثوری، مالک بن انس اور ابن عیینہ انہی سے اسے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی ائمہ حدیث بھی اسے انہی سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن سلیم یہ حدیث عبید اللہ بن عمرو سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں انہیں وہم ہوا ہے کیونکہ صحیح یہی ہے کہ عبید اللہ بن عمرو، عبد اللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں اس لئے کہ عبد الوہاب ثقفی اور عبد اللہ بن نمیر بھی اسے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ مؤمل نے یہ حدیث شعبہ سے نقل کرنے کے بعد ان کا یہ قول بھی نقل کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے عبد اللہ بن دینار مجھے اجازت دیں اور میں کھڑا ہو کر ان کی پیشانی چوم لوں۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث کے غریب ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ایسا اضافہ ہو جو ثقافت سے نہ منقول ہو۔ یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص سے منقول ہو جس کے حافظے پر اعتماد کیا جاسکتا ہو۔ جیسے مالک بن انس، نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کا صدقہ فطر ہر مرد و عورت، آزاد و غلام مسلمان پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مقرر کیا۔ مالک نے اس حدیث میں ”من المسلمین“ کا لفظ زیادہ نقل کیا ہے۔ ایوب سختیانی، عبد اللہ بن عمر اور کئی ائمہ حدیث اس حدیث کو نافع سے اور وہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل نہیں کرتے۔ جب کہ بعض مالک کی طرح بھی روایت کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے حافظے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ بعض ائمہ امام مالک کی اس حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہوئے اسی پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس غیر مسلم غلام ہوں تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ غرض یہ کہ اگر اضافی ایسے راوی کی طرف سے ہو جس کے حافظے پر اعتماد کیا جاسکتا ہو تو وہ اضافہ مقبول ہے یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سی احادیث کئی سندوں سے منقول ہوتی ہیں لیکن ایک سند سے غریب سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابو کریب، ہشام، ابو سائب اور حسین بن اسود، ابو اسامہ سے وہ بریدہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ سے وہ اپنے دادا ابو بردہ سے وہ ابو موسیٰ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کافر سات آنتوں میں اور مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ حالانکہ کئی سندوں سے منقول ہے۔ میں نے محمود بن غیلان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو

فرمایا: یہ ابو کریم کی ابو موسیٰ سے روایت ہے۔ پھر امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور فرمایا ہم اسے صرف ابو کریم کی روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے تو اسے کئی شخصوں نے؛ ابواسامہ ہی سے روایت کیا ہے۔ وہ تعجب کرنے لگے اور فرمایا: میں اسے ابو کریم کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں جانتا۔ پھر فرمایا: میرا خیال ہے کہ ابو کریم نے یہ حدیث ابواسامہ سے کسی مباحثے میں سنی ہوگی۔ پھر عبداللہ بن ابی زیا اور کئی راوی شبابہ بن سوار سے۔ وہ شعبہ سے وہ بکیر بن عطاء سے اور وہ عبدالرحمن بن یسر سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دباہ اور حضرت (کے برتنوں میں) ننیز بنا نے سے منع فرمایا: یہ حدیث اس لئے غریب ہے کہ اسے صرف انہوں نے شعبہ سے نقل کیا ہے۔ پھر شعبہ اور سفیان ثوری دونوں اسی سند سے بکیر بن عطاء سے وہ عبدالرحمن بن یسر سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حج و قوف عرفات کا نام ہے۔ یہ حدیث محدثین کے نزدیک اس سند سے صحیح ترین ہے۔ محمد بن ایشار، معاذ بن ہشام سے وہ اپنے والد سے اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنازے کے ساتھ جائے اور نماز پڑھے اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) اور جو اس کے ذن سے فراغت تک ساتھ رہے اس کے لئے دو قیراط (ثواب) ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دو قیراط کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا: ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن، مروان بن محمد سے وہ معاویہ بن سلام سے وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے وہ ابو مزاحم سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے اسی کی مانند مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں جو اسی کے ہم معنی ہے۔ عبداللہ، مروان سے وہ معاویہ بن سلام سے وہ یحییٰ ابو سعید مولیٰ مہری سے وہ حمزہ بن سفینہ سے وہ سائبؓ سے وہ حضرت عائشہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔ میں نے ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ آپ کی وہ کون سی حدیث ہے جسے آپ نے سائب کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور محدثین اسے غریب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی حدیث بیان کی پھر میں نے امام بخاری کو بھی یہ حدیث ان سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی سندوں سے حضرت عائشہؓ سے منقول ہے لیکن صرف سائب کی روایت سے غریب ہے۔ ابو حفص عمرو بن علی بھی یحییٰ بن سعید قطان سے وہ مغیرہ بن ابی قرہ السدوسی سے اور وہ انس بن مالکؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے ہی اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ فرمایا: باندھو اور بھروسہ کرو۔ عمرو بن علی کہتے ہیں کہ یہ حدیث یحییٰ بن سعید کے نزدیک منکر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے انس بن مالکؓ کی روایت سے جانتے ہیں۔ پھر یہ عمرو بن امیہ ضمیری سے بھی آنحضرت ﷺ سے اسی کی مانند منقول ہے۔

ہم نے اس کتاب میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہوگی نیز اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے نفع پہنچائے اور اپنی رحمت سے فلاح و نجات کا باعث بنائے نہ کہ وبال کا۔ یہاں کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔

والحمد لله وحده على انعامه وافضاله وصلاته وسلامه على سيد المرسلين الامى وصحبه وآله
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ وله الحمد على التمام وعلى النبى وآله
وصحبه افضل الصلاة وأزكى السلام والحمد لله رب العلمين۔

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر

دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| تفسیر عثمانی بدر تفسیر معونات ہدایت ۲ جلد | مولانا عبدالرحمن اعجازی |
| تفسیر مظہری اردو | ۱۲ جلدیں |
| قصص القرآن | ۳۳ حصے اور ۲ جلدیں |
| تاریخ ارض القرآن | علاء الدین عثمان ندوی |
| قرآن اور سائنس | انجینئر شفیق حسین شاہ |
| قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن | ڈاکٹر طاہر القادری |
| نفاث القرآن | مولانا عبدالرشید نعمانی |
| قاموس القرآن | قاضی امین العسکری |
| قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی انگریزی) | ڈاکٹر عبدالرحمن عباس ندوی |
| مکمل البیان فی مناقب القرآن (عربی انگریزی) | سب ان پبلسر |
| اسماء قرآنی | مولانا شرف علی تھانوی |
| قرآن کی آیتیں | ۱۵۷۷ احکامات و حواشی |

حدیث

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| تفسیر البخاری مع ترجمہ و شرح اردو | ۲ جلد | مولانا عبدالرشید اعظمی، فاضل دیوبند |
| تفسیر المسلم | ۲ جلد | مولانا زکریا آقبیل، فاضل دارالعلوم کراچی |
| پانچ ترمذی | ۲ جلد | مولانا افضل احمد صاحب |
| سنن ابوداؤد شریف | ۳ جلد | مولانا سرور احمد صاحب، مولانا اختر شہید عالم کامیاب، فاضل دیوبند |
| سنن نسائی | ۳ جلد | مولانا افضل احمد صاحب |
| مصارف الحدیث ترجمہ و شرح | ۳ جلد، ۷ حصے | مولانا محمد منظور نعمانی صاحب |
| مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات | ۲ جلد | مولانا عبدالرحمن کارملی، مولانا عبدالغفور اویس |
| ریاض الصالحین مترجم | ۲ جلد | مولانا فیصل الرحمن صاحب، فاضل دیوبند |
| الادب المفرد کامل مع ترجمہ و شرح | از امام بخاری | |
| مطالعہ قرآن ہدیہ شرح مشکوٰۃ شریف | ۵ جلدیں | مولانا عبدالغفور نعمانی صاحب، فاضل دیوبند |
| تقریر بخاری شریف | ۳ حصے | مولانا شریف الحدیث صاحب، مولانا محمد زکریا صاحب |
| تعمیر بخاری شریف | ۱ حصہ | مولانا حسین بن مبارک بن سیدی |
| تنظیم الاشیات | شرح مشکوٰۃ اردو | مولانا ابو الحسن صاحب |
| شرح البیہقن نووی | ترجمہ و شرح | مولانا اشفاق عاشق امینی البرقی |
| قصص انجلیت | | مولانا محمد زکریا آقبیل، فاضل دارالعلوم کراچی |

ناشر: دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ، لاہور۔ (۲۱) ۲۳۱۸۴۱۱ فون و فیکس، کراچی، پاکستان۔

دیگر اداروں کی کتب دستیاب ہیں لیکن ان کے کتب خانوں کا انتظام ہے / فزٹ کتب گھر ڈاک ٹیکٹوں کے ذریعے۔